قرآنی سورتوں کا نظمِ جلی

- زمانۂ نزول
- کتابی ربط
- کلیدی الفاظ اور مضامین
- نظمِ جلی
- سورۃ کا خلاصہ
- مرکزی مضمون

خلیل الرحمٰن چشتی

الاحسان

www.KitaboSunnat.com

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بخدمت عزیزی حافظ محمد زبیر صاحب سلمہ

برائے اصلاح

آپ اُن نوجوانوں میں سے ایک ہیں
جن میں محبت بھی ہے اور بہت سی
امیدیں بھی وابستہ ہیں۔
علمی تسامحات کی نشاندہی فرمائیے
تاکہ اگلے ایڈیشن میں اصلاح
کی جا سکے۔

طالب دعائے خیر

خلیل الرحمن چشتی

www.KitaboSunnat.com

یکم رمضان المبارک ۱۴۳۲ھ
۲ / اگست ۲۰۱۱
اسلام آباد

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

قرآنی سورتوں کا نظمِ جلی

فہم قرآن میں معاون ایک اہم کتاب

خلیل الرحمٰن چشتی

www.KitaboSunnat.com
House # 1, Street # 15A,
E-11/4, Golra, Islamabad
Tel: 0300-55-60-900, 051-22 22 455
051-22 22 466

Email:khaleelchishti@yahoo.com

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جملہ حقوق بحق خلیل الرحمن چشتی محفوظ ہیں

نام کتاب : قرآنی سورتوں کا نظمِ جلی

مرتب : خلیل الرحمٰن چشتی

کمپوزر : حافظ افضال احمد

پہلا ایڈیشن : جولائی 2011ء

صفحات : 768

قیمت : -/700 روپے

طابع : دار الکتب السّلفیۃ اقراء سنٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

ملنے کا پتہ

1- خلیل الرحمٰن چشتی E-11/4، اسلام آباد فون نمبر:0300-55-60-900

2- ادارۂ منشوراتِ اسلامی، بالمقابل منصورہ، ملتان روڈ، لاہور۔
فون نمبر: 042-378 40 584

www.KitaboSunnat.com

3- دار الکتب السّلفیۃ اقراء سنٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
042-37244404, 37361506, 0333-4334804, 0324-4336126

4- ادارۂ معارف اسلامی، D-35، Block 5، فیڈرل B ایریا، کراچی۔
فون نمبر: 021-3634-9840 , 0307-2358829

5- مکتبہ تحریک محنت، جی ٹی روڈ، واہ کینٹ، پاکستان۔
فون نمبر: 051-453 5334

6- النور، لینڈمارک پلازہ، LGF، شاپ نمبر 40، جیل روڈ، لاہور۔
فون نمبر: 042- 587 96 56

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

فہرست مضامین

عنوان		صفحہ نمبر	عنوان		صفحہ نمبر
ابتدائیہ		6	بنی اسرائیل ۱۷		225
مختصر اُصول تفسیر		15	الکهف ۱۸		236
الفاتحہ ۱		47	مریم ۱۹		247
البقرة ۲	مدنی سورت	52	طه ۲۰		254
آل عمران ۳	مدنی سورت	74	انبیاء ۲۱		260
النساء ۴	مدنی سورت	91	الحج ۲۲	مدنی سورت	269
المائدة ۵	مدنی سورت	101	المومنون ۲۳		279
الانعام ۶		110	النور ۲۴	مدنی سورت	287
الاعراف ۷		121	الفرقان ۲۵		295
الانفال ۸	مدنی سورت	136	الشعراء ۲۶		304
التوبة ۹	مدنی سورت	144	النمل ۲۷		314
یونس ۱۰		155	القصص ۲۸		324
هود ۱۱		164	العنکبوت ۲۹		336
یوسف ۱۲		175	الروم ۳۰		344
الرعد ۱۳		183	لقمان ۳۱		352
ابراهیم ۱۴		193	السجدہ ۳۲		359
الحجر ۱۵		202	الاحزاب ۳۳	مدنی سورت	364
النحل ۱۶		209	سبا ۳۴		371

www.KitaboSunnat.com

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

عنوان		صفحہ نمبر	عنوان		صفحہ نمبر
فاطر ۳۵		379	الواقعہ ۵٦		509
یس ۳٦		387	الحدید ۵۷	مدنی سورت	513
الصافات ۳۷		395	المجادلہ ۵۸	مدنی سورت	519
ص ۳۸		402	الحشر ۵۹	مدنی سورت	524
الزمر ۳۹		409	الممتحنۃ ٦۰	مدنی سورت	529
المومن ۴۰		421	الصف ٦۱	مدنی سورت	533
حم السجدۃ ۴۱		427	الجمعۃ ٦۲	مدنی سورت	537
الشوری ۴۲		432	المنافقون ٦۳	مدنی سورت	540
الزخرف ۴۳		439	التغابن ٦۴	مدنی سورت	543
الدخان ۴۴		445	الطلاق ٦۵	مدنی سورت	548
الجاثیۃ ۴۵		450	التحریم ٦٦	مدنی سورت	552
الاحقاف ۴٦		455	الملک ٦۷		555
محمد ۴۷	مدنی سورت	461	القلم ٦۸		561
الفتح ۴۸	مدنی سورت	467	الحاقہ ٦۹		565
الحجرات ۴۹	مدنی سورت	475	المعارج ۷۰		568
ق ۵۰		479	نوح ۷۱		573
الذاریات ۵۱		486	الجن ۷۲		577
الطور ۵۲		492	المزمل ۷۳		580
النجم ۵۳		496	المدثر ۷۴		586
القمر ۵۴		501	القیامہ ۷۵		591
الرحمن ۵۵		505	الدھر ۷٦		597

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
المرسلات ۷۷	603	العلق ۹۶	696
النبأ ۷۸	608	القدر ۹۷	701
النازعات ۷۹	614	البینه ۹۸ مدنی سورت	704
عبس ۸۰	620	الزلزال ۹۹	710
التکویر ۸۱	625	العادیات ۱۰۰	713
الانفطار ۸۲	630	القارعه ۱۰۱	717
المطففین ۸۳	635	التکاثر ۱۰۲	720
الانشقاق ۸۴	641	العصر ۱۰۳	723
البروج ۸۵	646	الهمزه ۱۰۴	727
الطارق ۸۶	651	الفیل ۱۰۵	730
الاعلی ۸۷	655	قریش ۱۰۶	733
الغاشیه ۸۸	660	الماعون ۱۰۷	736
الفجر ۸۹	665	الکوثر ۱۰۸	739
البلد ۹۰	672	الکافرون ۱۰۹	742
الشمس ۹۱	677	النصر ۱۱۰ مدنی سورت	745
اللیل ۹۲	681	اللهب ۱۱۱	748
الضحی ۹۳	686	الاخلاص ۱۱۲	751
الم نشرح ۹۴	689	الفلق ۱۱۳	754
التین ۹۵	692	الناس ۱۱۴	758

www.KitaboSunnat.com

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ابتدائیہ

www.KitaboSunnat.com

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ اَحْمَدُهٗ وَاَسْتَعِينُهٗ وَاَسْتَغْفِرُهٗ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا . اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ ، وَخَيْرَ الْهُدٰى هُدٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ" وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

قرآن مجید کی ایک سو چودہ (114) سورتوں کا نظمِ جلی حاضرِ خدمت ہے۔ یہ کئی سالوں پر محیط کام ہے، جسے بہت پہلے شائع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مختلف داخلی اور خارجی اسباب کے سبب ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ میں صمیمِ قلب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمد للہ اس کام کی تکمیل ہوگئی، اگرچہ یہ سال میری زندگی کے سخت ترین سالوں میں سے ہے۔ نیک لوگوں کے درجات بلند کرنے کے لیے اُنہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ہم جیسے گنہگار اور خطا کار معمولی انسانوں پر آزمائشوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

وقت کو اے صفی برا نہ کہو　　　وقت پیغمبروں پہ آیا ہے

میں اللہ تعالیٰ سے قوی اُمید اور توقع رکھتا ہوں اور پختہ ایمان بھی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور اذیت رسانیوں کا صلہ عطا فرمائے گا۔

اس کتاب میں ہر سورت کے حوالے سے پہلے زمانہ نزول کی بحث ہے، پھر سورۃ کی بعض خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس سورت کی فضیلت میں صحیح احادیث مل سکی ہیں، اُنہیں درج کر دیا گیا ہے۔ ہر سورت کا اگلی اور پچھلی سورت سے ربط تلاش کیا گیا ہے۔ سورت کے اہم اور کلیدی مضامین کا خلاصہ درج کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورت کا نظم بتایا گیا ہے کہ یہ کتنے پیراگرافوں پر مشتمل ہے اور ہر پیراگراف کا ذیلی موضوع کیا ہے۔ آخر میں تمام پیراگرافوں کو جوڑتے ہوئے سورت کا مرکزی مضمون بیان کیا گیا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس طرزِ تفہیم بنیادی مقصد:

اس کتاب کی مربوط تفہیم کا بنیادی مقصد، جدید تعلیم یافتہ طلبہ کو قرآن کے نظمِ جلی (Macro-Structure) کو تفصیل سے اور نظمِ خفیف (Micro-Structure) کو اختصار سے متعارف کرانا ہے، تاکہ وہ لفظ کو لفظ سے، جملے کو جملے سے اور پیراگراف کو پیراگراف سے جوڑنے کا فن سیکھ سکیں اور ربطِ کلام اور وحدت کو دریافت کر سکیں، ورنہ عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ طلبہ عربی زبان پر معمولی دسترس کے بعد بہت حد تک صحیح ترجمہ کرنے کی استعداد تو پیدا کر لیتے ہیں، لیکن فہمِ قرآن سے بہت حد تک محروم رہتے ہیں اور سیاق وسباق (Context) پر گہری توجہ نہیں کرتے۔ وہ عمارت کے لیے درکار تمام خام اشیاء کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ اینٹ ہے، یہ لوہا اور یہ سیمنٹ ہے، لیکن عمارت کے مخصوص مقصد کو سمجھے سے قاصر رہتے ہیں۔ شہتیروں (Beams) کا مقصد، عمارت کا استحکام اور ٹرانسفر (Load Transfer) ہوتا ہے۔ ایک مضبوط اور مربوط کلام میں بھی، ابتدائی بات کو کسی اور مناسب جگہ مناسب انداز میں دہرایا جاتا ہے۔ اسے آپ رجوع طلب حوالوں (Cross References) کا نام دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ چیز بہت عام ہے۔ جیسے سورۃ الرحمٰن میں ﴿ذو الجلال والاکرام﴾ کا لفظ دو (2) مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔

قرآن اللہ کا کلام ہے۔ زندہ معجزہ ہے۔ اس کی تاثیر دراصل اُس کی زبان، اُس کی بلاغت، اُس کے اسالیب، اُس کے مضامین، اُس کی تصریف اور اُس کے خاص کلیدی الفاظ اور خاص اصطلاحات میں پوشیدہ ہے۔ محض ترجموں کی مدد سے قرآن کو گہرائی اور گیرائی کے ساتھ سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ بالخصوص کی سورتوں کی جامعیت اور پختگی، جسے خود قرآن نے ﴿اِحکام﴾ کا نام دیا، اس کا بین ثبوت ہے۔

نظمِ قرآنی کے سلسلے میں افراط وتفریط:

افراط وتفریط کہاں نہیں؟ نظمِ قرآنی کا معاملہ بھی یہی ہے۔ بعض علماء نے نظم کا سرے سے انکار کیا ہے۔ دوسرے وہ ہیں، جنہوں نے بے جا تکلف اور تصنع سے کام لیا اور یہاں تک آگے بڑھے کہ بعض ثابت شدہ صحیح احادیث کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں افراط وتفریط سے بچائے۔ میں قرآنِ مجید کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں۔ اس موضوع پر جنہوں نے لکھا، وہ ہم سے بہت بڑے تھے، ہم اُن کی خاکِ پا بھی نہیں،

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لیکن ایک سیدھے سادھے مسلمان کی حیثیت سے میں نہ تو کسی آیت کا انکار کرتا ہوں اور نہ کسی صحیح حدیث کا نہ تو میں نظم کا منکر ہوں اور نہ منہجِ سلف کا۔ قرآن میں تدبر، تفکر اور تعقل کو ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے عجائب واسرار کبھی ختم نہ ہوں گے۔ لوگ قیامت تک نئے نئے موتی چنتے رہیں گے۔ البتہ اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی تاویل وتفسیر ایسی نہ ہو، جو وحیِ جلی اور وحیِ خفی سے یا اجماع سے متصادم ہو۔

اس کتاب کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟

اس کتاب کے قاری سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنا ذاتی قرآنی نسخہ لے کر ہر سورت کو میری تقسیم کے مطابق سرخ قلم کی لکیر سے بڑے بڑے اجزاء میں تقسیم کر لے۔ میں نے اس کتاب میں جن اہم الفاظ کی نشاندہی کی ہے، انہیں اپنے ذاتی قرآنی نسخے میں پیلے قلم (Yellow high Lighter) کی مدد سے نشان زد کر لے۔ حاشیہ میں ہر پیراگراف کا ذیلی عنوان اور موضوع لکھ لے۔ پھر بار بار ایک ہی سورت کا مطالعہ کرتا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ چند سالوں میں وہ ہر سورت کو ابتداء تا انتہاء جوڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ اُن گوشوں کو دریافت کر لے اور اُن مناظر کو دیکھ لے، جو مجھ سے اوجھل رہے۔

ہر اچھی صورت لیکن جانی پہچانی ہوتی ہے   کبھی نئی بھی ہوتی ہے، اور کبھی پرانی ہوتی ہے
سفر مزے سے کٹتا ہے، ہر دم حیرانی ہوتی ہے   نئے مناظر کی دھن میں، آگے بڑھتا جاتا ہوں

اس کتاب میں نظمِ خفیف سے زیادہ بحث نہیں کی گئی۔ یہ مفسرین کا کام ہے اور تمام بڑی بڑی تفسیروں میں اس موضوع پر اچھا خاصہ مواد موجود ہے۔ وہ مشکل الفاظ کی تشریح کرتے ہیں۔ ایک بڑی آیت میں جو چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، اُن کے باہمی ربط کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے کچھ اشارے میں نے سورت ﴿العٰدیٰت﴾ کے نظم کے سلسلے میں کر دیے ہیں، قاری وہاں اُسے دیکھ لے۔

نمازِ تراویح سے پہلے یا بعد خلاصہ:

رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہمارے علماء، خطیب اور معلمینِ قرآن اگر اس خلاصے کی مدد سے قرآنی سورتوں کا جامع تعارف پیش کر سکیں تو اس امت کے ذہین افراد کو قرآن فہمی کے سلسلے میں بہت مدد مل سکتی ہے اور وہ مضامینِ قرآن سے مناسبت پیدا کر سکتے ہیں۔ ان شاء اللہ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس طرح کے کام میں غلطیوں کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ جو حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں راسخ کردے، جو غلط ہے، وہ دلوں اور دماغوں سے محو کردے۔ لیکن الحمدللہ میں نے کوئی غلطی جان بوجھ کر نہیں کی ہے۔ بشری تقاضوں کے تحت نادانستہ غلطی ہو سکتی ہے۔ فہم کا قصور ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنی کسی غلطی پر اصرار کرنا نہیں چاہتا۔ اہلِ علم سے درخواست ہے کہ وہ غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اصلاح فرمائیں، تاکہ فوراً اگلے ایڈیشن میں تبدیلی کی جاسکے۔

میں اُن تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور اُن کے لیے دعا گو بھی ہوں، جنہوں نے کسی نہ کسی طرح میرے کام میں معاونت کی، میرا حوصلہ بڑھایا، مشکل ایام میں ڈھارس بندھائی اور میرے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ بالخصوص استاذی مولانا ڈاکٹر سہیل حسن صاحب مدظلہ العالی، مخدومی حافظ محمد ادریس صاحب مدظلہ العالی، بیوی ہما چشتی، بیٹی حسین چشتی، حافظ افضال احمد صاحب، محمد وقاص صاحب، میجر طارق محمود خان صاحب واہلیہ بہن یاسمین صاحبہ، ڈاکٹر منور اقبال صاحب واہلیہ، ڈاکٹر توصیف الرحمٰن صاحب، عمران ہادی صاحب، عمران انور چوہدری صاحب، ضیاء اللہ شاہ صاحب، خالد بخاری صاحب، خالد مرزا صاحب، ڈاکٹر سعید خواجہ صاحب، میری بہن ڈاکٹر ریحانہ سعید صاحبہ (جنہیں خود قرآن وسنت سے گہرا شغف ہے) ڈاکٹر شاہد ہاشمی صاحب واہلیہ، ڈاکٹر سعید اختر صاحب اور اُن کی اہلیہ ڈاکٹر معصومہ، ڈاکٹر نیر، عالم میاں صاحب، محمود احمد شیخ صاحب، ڈاکٹر اعجاز، غلام قادر عباسی صاحب، زاہد اقبال صاحب، ڈاکٹر آصف جعفری، ڈاکٹر وقاص احمد صاحب، ڈاکٹر مہتاب دین صاحب اور اُن کی اہلیہ محترمہ بہن منور مہتاب دین صاحبہ، ڈاکٹر انیس احمد صاحب اور اُن کی اہلیہ بہن انیسہ صاحبہ، ڈاکٹر احمد خان صاحب (مردان) فیض اللہ خان صاحب (جدہ) وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو میرے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بنادے اور اسے مزید بہتر اور نافع بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

www.KitaboSunnat.com

طالب دعائے خیر

خلیل الرحمٰن چشتی

اسلام آباد

4 شعبان 1432ھ

7 جولائی 2011ء

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حافظ محمد ادریس صاحب مدظلہ
ڈائریکٹر ادارۂ معارفِ اسلامی
منصورہ، ملتان روڈ، لاہور

تقریظ

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين

اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے دین کا فہم عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائی خلیل الرحمٰن چشتی بھی اِنہی لوگوں میں سے ہیں۔ فہمِ دین میں فہمِ قرآن کو اولیت حاصل ہے۔ یہ اسلامی علوم اور اپنے قرآنی فہم کو عام کرنے میں عرصۂ دراز سے مشغول ومنہمک ہیں۔

چشتی صاحب کا اُسلوب جدید ہے، مگر اس کی حدود قرآن وسنت کے بحرِ ذخار سے باہر جاتی کہیں نظر نہیں آتیں۔ قرآن مجید کی سورتوں کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ہر سورت کو مختلف پیراگرافوں میں تقسیم کر کے ہر پیراگراف کو ایک عنوان دینے کی کوشش کی ہے اور ہر سورت کے نظم کی وضاحت کی ہے۔ ہر سورت کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

خلاصۃ القرآن پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن بعض علماء کی یہ رائے غالباً زیادہ صحیح ہے کہ قرآن کا خلاصہ نہیں لکھا جا سکتا، البتہ قرآن کے مضامین کا خلاصہ ممکن ہے۔ قرآن خود جامع اور بلیغ کلام ہے۔

چشتی صاحب نے سورتوں کے فضائل بھی درج کر دیے ہیں، جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ یہ اُن لوگوں میں سے ہیں، جو موضوع احادیث سے بچتے ہیں اور کسی صحیح اور ثابت شدہ حدیث کا انکار نہیں کرتے۔

13 جون 2011ء

حافظ محمد ادریس

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ڈاکٹر سہیل حسن
صدر شعبۂ قرآن وسنت، ادارۂ تحقیقاتِ اسلامی
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد

تقریظ

www.KitaboSunnat.com

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين

ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے قرآنِ کریم کے حوالے سے دو اہم چیزوں کا آغاز کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پہلی چیز رمضان المبارک میں دورۂ قرآن کی ابتداء ہے، جس میں قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم مختصر طور پر بتا دیے جاتے ہیں، تا کہ نمازیوں کے ذہن میں قرآن کے الفاظ سننے کے ساتھ ساتھ معانی کا استحضار بھی ہوتا رہے۔ دوسری چیز تراویح کے دوران سورتوں کے خلاصے کا اہتمام ہے۔ یہ بھی نہایت مفید اور کارآمد نسخہ ہے، جس کے ذریعے سے کم سے کم وقت میں نمازیوں کو تلاوت کردہ آیات کے خلاصے سے متعارف کرا دیا جاتا ہے۔

درحقیقت یہ دونوں اُمور ﴿افلا يتدبرون القرآن﴾ کے تقاضوں کی تکمیل ہے۔ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ نمازِ تراویح بطورِ رسم ادا کرنے کے لیے ہی مسجد آتے ہیں۔ بیس ہوں یا آٹھ رکعتیں، اصل مقصد تراویح میں شرکت ہوتا ہے۔ تراویح جتنی جلدی ختم ہو جائے، اتنا ہی زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم کے جاری کردہ دونوں اُمور نے عام مسلمانوں کو قرآن سے قریب کرنے اور قرآن میں تدبر کرنے کی طرف مائل کیا ہے۔

جناب خلیل الرحمٰن چشتی صاحب کی یہ کتاب بھی اس سلسلے میں بہت معاون ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس خلاصۂ قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر نہیں، بلکہ قرآن کے مفاہیم کو نئے انداز سے ذہنوں میں بٹھانے کا تجربہ کیا ہے۔

اس خلاصے میں سورت کے زمانۂ نزول، کتابی ربط، اہم کلیدی الفاظ اور مضامین کو بنیاد بنا کر، جو اس سورت میں تکرار سے آئے ہیں، یا اس سورت میں نمایاں انداز میں پیش کیے گئے ہیں، ان کے تمام

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

معانی اور مفاہیم کو انہوں نے عام فہم کر دیا ہے۔

سورتوں کے مضامین کو واضح کرنے کے لیے خاکوں اور نقشوں سے مدد لی ہے، تا کہ اس سورت کا بنیادی ہیکل سمجھ میں آجائے۔ مرکزی مضمون کی روشنی میں سورت کا بنیادی محور سمجھ میں آجاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب عمومی طور پر درسِ قرآن دینے والے حضرات کے لیے نہایت مفید ثابت ہوسکتی ہے، بشرطیکہ وہ درسِ قرآن سے پہلے یہ خلاصہ پڑھ لیں اور اس کی روشنی میں اپنا درس ترتیب دیں۔ یہ کتاب اُن حضرات کے لیے بھی بہت مفید اور معاون ہے، جو رمضان المبارک میں دورۂ قرآن کرتے ہیں یا کراتے ہیں۔ وہ اپنے درس کو ان خطوط پر تیار کریں اور اس نہج پر پیش کریں اور حاضرین بھی ساتھ ساتھ یہ نکات نوٹ کرتے جائیں تو یقیناً یہ طریقۂ کار تدبر قرآن کے سلسلے میں ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوسکتا ہے۔

اللہ تعالی ہمیں قرآنِ مجید، پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآنِ کریم کو صحیح معنی میں اپنی زندگیوں میں جاری وساری رکھنے کی ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین

www.KitaboSunnat.com

۸ رجب ۱۴۳۲ھ　　　　(ڈاکٹر) سہیل حسن

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ڈاکٹر توصیف الرحمٰن
پرسٹن یونیورسٹی اسلام آباد

تقریظ

www.KitaboSunnat.com

الحمد لله رب العالمین ، والصلوٰة والسلام علی سید المرسلین وعلی آله وصحبه اجمعین

کسی شاگرد کے لیے اپنے اُستاد کے متعلق کچھ لکھنا باعثِ فخر بھی ہے اور کارِ دشوار بھی۔ استادی ومربی جناب خلیل الرحمٰن چشتی صاحب ایک بلند پایہ علمی شخصیت ہیں۔ اِن کی یہ کتاب اِن کی کئی سالوں کی ان تھک اور مسلسل جدوجہد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارے اس برق رفتار دور میں وقت کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ایسے میں ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی، جو قرآنِ مجید کی تمام سورتوں کو محدود وقت میں ایسے سمجھا دے کہ اُس کے تمام بڑے حصوں کا مفہوم بھی سمجھ میں آجائے اور اُن کا آپسی ربط بھی واضح ہو جائے۔ قرآنِ مجید میں کہیں کسی چیز کا ذکر اجمالاً ہے اور کہیں تفصیلاً۔ سورت کے بڑے اجزاء اور اُس کے عمود کا فہم، قرآن کے مطالب پر تدبر کو آسان کر دیتا ہے۔ سونے پر سہاگہ یہ کہ چشتی صاحب نے اپنے وسیع تجربات ومشاہدات اور عمیق مطالعہ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قرآن فہمی کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ تمام سورتوں کا خلاصہ ایک چارٹ کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ سورت کو اجزاء میں تقسیم کرنے کا مقصد کسی حد تک ﴿رکوع﴾ بھی پورا کرتے ہیں، لیکن یہ کتاب ہر بڑے حصے کے بنیادی تصور کو اجاگر کرتی ہے۔ میرے ناقص علم کی حد تک یہ اس سلسلے کی پہلی کاوش ہے اس جدید طرز کو اپنانے کے بہت سے فوائد ہیں۔

1۔ ایک تصویر ہزار لفظوں پر بھاری ہوتی ہے۔ قرآنی سورتوں کا یہ امیج ایک دیرپا نقش ہے۔ مغربی دنیا میں اسی طریقے اور اسی پیرائے سے بنیادی تصورات کو اُجاگر کیا جاتا ہے۔

2۔ یہاں ٹھیٹ اور خالص اسلامی تعلیمات بھی ہیں، اور تدریسی طریقۂ کار میں قدیم وجدید کا امتزاج بھی ہے۔ اسلامی ذوق رکھنے والے اُردو دان طبقے کو قرآن کی عربی اور قرآنی اصطلاحات سے مانوس کرنے کی ایک کامیاب کوشش بھی۔

3۔ رمضان کریم کے بابرکت مہینے میں اس کتاب کا مطالعہ کر کے انسان تھوڑے وقت میں پوری سورت کا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نقشہ ذہن میں بٹھا کر نمازِ تراویح میں شرکت کر سکتا ہے اور قرآن کے اصل متن کی سماعت سے مضامین کے اعادے کو دل و دماغ میں پختہ کر سکتا ہے۔

دروسِ قرآن دینے والے حضرات کے لیے بھی یہ کتاب نہایت مفید ہے۔

میری دعا ہے کہ اس کتاب کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو جائے، بالخصوص عربی، انگریزی اور فرانسیسی وغیرہ میں، تاکہ یہ خیر دنیا میں پھیلے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو اپنی بے پایاں رحمتوں میں ڈھانپ لے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔

﴿وصل الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وازواجه واهلِ بيته اجمعين﴾

۸ رجب ۱۴۳۲ھ — (ڈاکٹر) توصیف الرحمٰن

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مختصر اُصولِ تفسیر

www.KitaboSunnat.com

قرآن مجید کے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اُصولِ تفسیر سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لے۔ کسی بھی فن کے بنیادی اُصولوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی فاش غلطیوں سے محفوظ رہ سکے۔ تفسیر کا مطلب وضاحت ہے، قرآن ایک جامع اور بلیغ کلام ہے، جس میں ایجاز ہے اور بے شمار محذوفات ہیں۔ مفسرین پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور کر دے، جنھوں نے اللہ کے کلام کو سمجھانے کے لیے تفسیریں لکھیں۔ امام طبریؒ اور امام قرطبیؒ کے علاوہ بے شمار بڑے نام ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک ان شاء اللہ جاری و ساری رہے گا۔

اُصولِ تفسیر کے سلسلے میں چار کتابیں بڑی اہم ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ کا مقدمہ فی اُصول التفسیر، شاہ ولی اللہ صاحبؒ محدث دہلوی کی الفوز الکبیر، مولانا حمید الدین فراہیؒ کے رسائل اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی کتاب قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں۔ تفہیم القرآن کے مقدمے میں بھی بعض اہم باتیں ہیں۔ علومِ قرآن پر بہت لوگوں نے لکھا ہے۔ ابوحیان اندلسیؒ (م 754ھ)، بدر الدین زرکشیؒ (م 794ھ) اور جلال الدین سیوطیؒ (م 911ھ) کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں چند بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو مندرجہ بالا علماء کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔

1- تفسیر القرآن بالقرآن:

تفسیر کا پہلا اُصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ (مقدمہ فی اصول التفسیر للامام ابن تیمیہؒ (م 728ھ)

(a) کیونکہ متکلم خود اپنے کلام کی بہترین وضاحت کر سکتا ہے۔

(b) کیونکہ قرآن میں کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل۔

(c) کیونکہ قرآن تناقض سے پاک ہے۔

قرآن کریم کلام اللہ ہے، اس لیے اس کی آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کی تصدیق و تائید اور تفسیر و تشریح کرتی ہیں، اِلَّا یہ کہ ایک آیت کا دوسری آیت کے لیے ناسخ ہونا ثابت ہو جائے اور نسخ کی صورت میں بھی حقیقی تضاد نہیں ہوتا، کیونکہ ناسخ دراصل منسوخ کی مدتِ عمل کے اختتام کا بیان اور اعلان ہوتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مثال: اس کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ایک مضمون کئی جگہ آیا ہے کہ انسان کو اُس کی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ اگر وہ دنیا چاہتا ہے تو اُسے دنیا مل جاتی ہے، اور اگر وہ آخرت چاہتا ہے تو اسے آخرت ملے گی۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ اللہ سے دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی۔ جو صرف دنیا مانگے گا، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ دنیا ہو یا آخرت ہر ایک کے لیے محنت ضروری ہے، چنانچہ اس کے لیے کھیتی ﴿حرث﴾ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ان سب چیزوں کا جامع اور صحیح مفہوم صرف اسی وقت معلوم ہو سکے گا جب سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر 20، سورۂ نساء کی آیت نمبر 134 اور سورۃ شوریٰ کی آیت نمبر 20 کو ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔

2- صحیح احادیث سے قرآن کی تفسیر:

تفسیر کا دوسرا اُصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر احادیث صحیحہ سے کی جائے۔ یہ قرآنِ کریم کے فہم و تفہیم اور تفسیر و تاویل کا دوسرا آسمانی ماخذ ہے، جو وحی پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے جو اَقوال و اَفعال ثقہ و معتمد راویوں کے ذریعے سندِ متصل کے ساتھ ہم تک پہنچے ہوں، وہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا دوسرا معتمد ذریعہ ہیں۔

اہل سنت والجماعت کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی ثابت شدہ صحیح احادیث اور غیر منسوخ سنتوں کے خلاف تفسیر کرنا ﴿تحریف﴾ ہے۔

صحیح اور ثابت شدہ احادیث کی روشنی میں تفسیر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ

(a) آپ ﷺ پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ اُس کی تبیین، تشریح اور وضاحت کریں ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ (النحل:44)

(b) آپ ﷺ کو ﴿بِمَآ اَرٰكَ اللّٰهُ﴾ کی روشنی میں قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا گیا ہے (النساء:105)

(c) قرآن نبی اکرم ﷺ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔

(d) قرآن کے اَحکام اجمالی ہیں اور حدیث میں تفصیل۔ جیسے: اقامتِ صلوٰۃ، ایتائے زکوٰۃ، قطع ید وغیرہ۔

احادیث کے سلسلے میں ایک اہم اُصول:

قرآن کی تفسیر میں ضعیف اور موضوع (جھوٹی، گھڑی ہوئی) روایات سے بچنا چاہیے۔ تفسیر ثعلبی، تفسیر واحدی اور زمخشری کی تفسیر میں ہر ایک سورۃ کے فضائل کی اکثر حدیثیں موضوع (Fabricated) ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دو مثالیں:

(a) ظلم کا مشہور و معروف مطلب ناانصافی ہے، لیکن قرآن میں ظلم کا لفظ کئی معانی میں استعمال ہوا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث:32 سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الانعام کی درج ذیل آیت میں ظلم کا مطلب شرک ہے۔

﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ﴾(الانعام:82)

"حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہِ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ﴿ظلم﴾ کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔"

رسول اللہ ﷺ نے اس آیت میں ظلم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مُراد شرک ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں ہے:﴿يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾ (لقمان:13)

اے میرے بیٹے ! اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے"

(b) اسی طرح سورۃ الحجر کی مندرجہ ذیل آیت میں ﴿سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ﴾ کا مطلب سورۃ الفاتحہ ہے۔

﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ﴾ (الحجر:87)

صحیح البخاری میں حضرت ابوسعیدؓ بن المعلی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا:

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ، وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ﴾

(صحيح بخاری، كتاب التفسير، سورة فاتحة الكتاب، حديث:4,204)

3- اَقوالِ صحابہ سے قرآن کی تفسیر:

تفسیرِ قرآن کا تیسرا اُصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اقوالِ صحابہؓ سے کی جائے۔ بالخصوص حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (م 32 ھ) اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ (م 68 ھ) کے اقوال سے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے قرآن کو دیکھا جائے گا۔ پھر صحیح احادیث کو دیکھا جائے گا اور پھر اُس کے بعد رسول اللہ ﷺ سے کوئی مستند تفسیر بھی ثابت نہ ہو تو پھر صحابہؓ کے آثار کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی جائے گی۔

صحابہؓ کے اقوال سے تفسیر میں اس لیے مدد لی جاتی ہے کیونکہ

(a) وہ اہلِ زبان تھے۔ (b) ان ہی کے محاورے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ (c) وہ اُس کے پس منظر کو سمجھتے تھے۔ (d) انہوں نے خود رسول ﷺ کی زبان سے قرآن اور اس کا مطلب سیکھا تھا۔ (e) وہ تفسیر میں احتیاط سے کام

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لیتے تھے۔قرآن کی تفسیر میں بعض اوقات صحابہؓ کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے،لیکن یہ اختلاف لفظی زیادہ اور معنوی کم ہوتا ہے۔(f) صحابہ کے درمیان اگر قرآن کی تفسیر میں اختلاف نظر آئے تو ان میں سے اقویٰ قول کی پیروی کی جائے گی،البتہ اجماع صحابہؓ حجت ہے۔(مقدمہ ابن تیمیہؒ)۔اقویٰ قول سے مراد،وہ قول ہے جو قرآن اور صحیح احادیث سے قریب تر ہو اور جو قول زیادہ صحیح سند کے ساتھ منقول ہوا ہو۔

صحابہ کرامؓ میں مندرجہ ذیل دس افراد تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں۔

(1) حضرت ابوبکر صدیقؓ (2) حضرت عمر فاروقؓ (3) حضرت عثمان بن عفانؓ

(4) حضرت علی بن ابی طالبؓ (5) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (6) حضرت عبداللہ بن عباسؓ

(7) حضرت اُبی بن کعبؓ (8) حضرت زید بن ثابتؓ (9) حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ

(10) حضرت عبداللہ بن زبیرؓ

مثال:

سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 میں ﴿ لَهْوَ الْحَدِيْثِ ﴾ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (م 32ھ) نے اس لفظ کے بارے میں تین مرتبہ زور دے کر فرمایا :

﴿ هُوَ وَاللّٰهِ الْغِنَاءُ ﴾ ''خدا کی قسم! اس سے مراد گانا (موسیقی) ہے'' (ابن جریر،ابن ابی شیبہ،حاکم،بیہقی)

4- تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر:

قرآن کی تفسیر کا چوتھا ماٰخذ تابعین کے اقوال و آثار ہیں،بشرطیکہ سند صحیح کے ساتھ منقول ہوں،بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے مکی شاگردوں کے اقوال سے جیسے : مجاہدؒ،عکرمہؒ،قتادہؒ،حسن بصریؒ،ابن سیرینؒ وغیرھم۔

تابعین،صحابہ کرامؓ کے تلامذہ تھے اور انہوں نے صحابہؓ سے علم حاصل کیا تھا۔وہ اصحاب رسول ﷺ کی سیرت اور سنت کے تابعین باحسان تھے،اس لیے ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔

جلیل القدر تابعین نے چونکہ تفسیر کے بعض ماہر صحابہؓ سے علم حاصل کیا تھا،اس لیے اُن کے اقوال کو بھی پیشِ نظر رکھا جائے گا،لیکن اس سلسلے میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

(a) تابعین کا اختلاف حجت نہیں ہے، البتہ تابعین کا اجماع حجت ہوتا ہے۔

(b) تفسیری منقولات دو قسم کی ہوتی ہیں۔اسنادی اور غیر اسنادی۔صحابہؓ اور تابعینؒ کے تفسیری اقوال میں مضبوط سند

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

والی روایات ہی قبول کیں جائیں گی۔ (مقدمہ ابن تیمیہ)

(c) ملاحم اور مغازی کی کتابوں میں درج واقعات سے تفسیر مناسب نہیں، اگر وہ صحیح سند کے ساتھ نقل نہ کی گئی ہوں۔

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں "تین چیزیں ایسی ہیں، جس میں اسناد نہیں ہوتی۔ تفسیر، ملاحم اور مغازی"۔ اس طرح کی اکثر روایات منقطع یا ﴿مُرْسَل﴾ ہوتی ہیں۔

مثال:

سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں ﴿التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

مشہور تابعی حضرت قتادہ (م 118ھ) فرماتے ہیں: ایسا دست نگر آدمی، جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے۔

مشہور تابعی حضرت مجاہد (م 107ھ) فرماتے ہیں: اِبلہ، جو روٹی چاہتا ہے اور عورتوں کا طالب نہیں ہے۔

5- عربی زبان کے معروف اُصول وقواعد کے مطابق قرآن کی تفسیر:

قرآن مجید کی تفسیر کا پانچواں اور اہم اُصول یہ ہے کہ عربی زبان کے معروف قواعد کے مطابق کی جائے۔

مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان پر مہارت رکھتا ہو۔ علمِ نحو پر قدرت ہو۔ اسم کی اعرابی حالتوں کی صحیح توجیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ علمِ صرف سے شغف ہو۔ افعال واسماء کے تصرفات سے واقف ہو۔ علمِ اشتقاق پر مہارت ہو، ہر لفظ کے مادّوں کا علم رکھتا ہو۔ اور سب سے زیادہ اہم چیز یہ کہ بلاغتِ کلام کا اعلیٰ ذوق رکھتا ہو۔ بلاغت میں علمِ معانی، علمِ بیان اور علمِ بدیع بھی شامل ہے۔ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تشبیہات، استعارے، کنائے وغیرہ سے واقف ہو۔ ایجاز اور اطناب کی وجوہات کو جان سکتا ہو۔ محذوف چیزوں کا سراغ لگا سکتا ہو۔

قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے عربی زبان کے علم کے بغیر فہم قرآن ممکن ہی نہیں ہے۔ احادیث کی زبان بھی عربی ہے اور رسول اللہ ﷺ افصح العرب تھے۔ عربی فصاحت وبلاغت اور عربوں کے محاوروں کا علم رکھنا بھی لازمی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اپنے دیوانوں سے مدد لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے دیوان کیا ہیں؟ تو آپ نے وضاحت کی کہ جاہلیت کے اشعار۔

دو مثالیں:

(a) بعض منکرینِ حدیث نے جو عربی زبان سے ناواقف ہیں ﴿اضرب بعصاك الحجر﴾ کا ترجمہ اپنی لاٹھی سے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

چٹان پر مارو کے بجائے اپنی جماعت کو پہاڑ کی سیر کراؤ سے کیا ہے۔وہ بے چارے یہ بھی نہیں جانتے کہ صرف ﴿ضرب﴾ کا مطلب مارنا ہے اور ﴿ضرب فی﴾ کا مطلب باہر نکلنا ہے۔

(b) اسی طرح ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ کا ترجمہ ایک گمراہ صوفی نے یہ کیا ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے صوفیاء کو چمکا دیا۔اس نادان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ﴿إِنَّ﴾ کے جواب میں ﴿ لَ ﴾ آتا ہے۔جیسے ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾

علم بلاغت کے سلسلے میں مزید گفتگو سیاق وسباق کے باب میں کی جائے گی۔

6- تفسیر بالرائے اور اُس کی دو قسمیں:

تفسیرِ قرآن کا چھٹا اُصول یہ ہے کہ قرآن میں تدبر اور تفکر سے کام لے کر مندرجہ بالا قواعد کی روشنی میں رائے اور اجتہاد کا اظہار کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔خود قرآن نے عقل سے کام لینے کی ہدایت کی ہے۔اس لیے ایک مفسرِ قرآن اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن میں غور وفکر سے کام لیتا ہے۔اسی کے نتیجے میں ﴿تَفَقُّهٌ فِي الدِّينِ﴾ حاصل ہوتا ہے۔صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ! انہیں دین کا فہم عطا فرما اور انہیں تفسیر وتاویل کے علم سے بہرہ ور کردے۔

﴿اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ﴾ (مسند احمد:2397، صحیح)

"یا اللہ! عبداللہ ابن عباسؓ کو دین میں گہرا علم عطا فرما اور اسے قرآن کی تفسیر وتاویل کا فہم عنایت فرما۔"

حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں:

"ہمارے پاس کوئی خصوصی علم اور راز کی باتیں موجود نہیں ہیں ﴿إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللّٰهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ﴾ سوائے فہمِ قرآن کے جو کسی شخص کو دیا گیا ہو" (صحیح بخاری:2882)۔حضرت علیؓ کے قول سے باطنیت کی بھی تردید ہوگئی اور قرآن میں غور وفکر اور تدبر وتفکر کے بعد اپنی آراء کے اظہار کی اہمیت بھی اجاگر ہوگئی۔ یہ فہمِ قرآن ہے۔یہی تفسیر بالرائے ہے۔

تنبیہ: تفسیر بالرائے کے صحیح مطلب کو سمجھنا ضروری ہے،بعض لوگ ہر چیز کو تفسیر بالرائے کہہ کر اُسے حرام قرار دیتے ہیں اور بعض گمراہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر من مانی تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔اس سلسلے میں امام ابن تیمیہؒ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نے اپنے مقدمے میں چند اہم باتیں لکھی ہیں۔ ان کا خلاصہ ہم آسان الفاظ میں درج کرتے ہیں۔ تفسیر بالرائے کی دو (2) قسمیں ہیں۔ تفسیر بالرائی محمود اور تفسیر بالرائی مذموم۔

(a) **تفسیر بالرائی محمود:**

محمود کا مطلب قابلِ تعریف ہے۔ تفسیر بالرائے قابلِ تعریف ہے، اگر مفسر نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں دیگر کئی آیتیں پیش کی ہوں، آیت کی تفسیر میں تمام صحیح احادیث نقل کر کے ضعیف اور جھوٹی احادیث کا ابطال کیا ہو۔ صحابہ کرامؓ کے اجماع کا ذکر کیا ہو اور اُن کے اقوال درج کر کے راجح قول کی طرف نشاندہی کی ہو۔ تابعین کے اقوال سے استدلال کیا ہو۔ عربی زبان کے محاوروں اور روزمرہ سے بحث کی ہو اور اس کے بعد محکم اور مضبوط دلائل کے ساتھ اپنی ترجیحی رائے درج کی ہو۔ یہ ترجیحی رائے تفسیر بالرائے محمود ہے۔ قابلِ تعریف ہے۔ اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام کی ضامن ہے۔

(b) **تفسیر بالرائی مذموم:**

تفسیر بالرائے کی دوسری قسم قابلِ مذمت ہے۔ یہ وہ تفسیر ہے، جس میں ایک آدمی قرآن، صحیح احادیث، صحابہؓ اور تابعین کے اقوال سے استشہاد کے بغیر صرف اور صرف اپنی ذاتی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اور اپنے ذہن میں پہلے سے قائم شدہ نظریات کی دلیلیں قرآن سے تلاش کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے۔ صحیح احادیث کا انکار کرتا ہے۔ اپنی عقل کو صحیح احادیث پر فوقیت دیتا ہے۔ معجزات کا انکار کرتا ہے۔ عربی زبان کے معروف قواعد کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایسا مفسر قابلِ مذمت ہے اور اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق ہے، کیونکہ اُس نے نہ صرف خود کو گمراہ کیا ہے، بلکہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف اپنی ذاتی رائے سے مجرد تفسیر کرنا حرام ہے ﴿وَأَمَّا تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ فَحَرَامٌ﴾ (مقدمہ ابن تیمیہؒ)

www.KitaboSunnat.com

بہت سے مستند اقوالِ صحابہؓ اور اقوالِ تابعین کو نقل کرنے کے بعد تفسیر بالرائے محمود کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بھلا دنیا میں کوئی ایسا مفسر گزرا ہے، جس نے اپنی رائے کا اظہار نہ کیا ہو؟ چنانچہ فرماتے ہیں: ﴿فَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ بِمَا يَعْلَمُ مِنْ ذٰلِكَ لُغَةً وَ شَرْعًا ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

”جہاں تک اُس شخص کا تعلق ہے، جو لغت پر مہارت رکھتا ہے اور جو رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کے احکام سے مکمل واقفیت رکھتا ہے، اگر وہ اپنی رائے کا اظہار کرے تو کوئی حرج نہیں۔“ (مقدمہ ابن تیمیہؒ)

علمائے سلف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جب علم ہوتا تو گفتگو کرتے۔ لاعلمی کی صورت میں سکوت اختیار کرتے۔ علم رکھنے کے باوجود خاموشی اور سکوت اختیار کرنا عالم کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کتمانِ علم کی تعریف میں آتا ہے۔

مفسر کی اجتہادی غلطیاں:

مفسر ایک امتی ہے۔ رسول نہیں ہے۔ معصوم نہیں ہے۔ بہت بڑا عالمِ دین ہے، لیکن بہر حال ایک انسان ہے۔ علم اور حسنِ نیت کے باوجود اس سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہؒ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ کتنی متوازن گفتگو کرتے ہیں! بدعتی مفسر کی غلطیوں اور اہلِ سنت والجماعت کے نیک نیت مفسر کی اجتہادی غلطیاں کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں:

﴿ وَفِي الْجُمْلَةِ مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ اِلَى مَا يُخَالِفُ ذٰلِكَ، كَانَ مُخْطِئًا فِي ذٰلِكَ، بَلْ مُبْتَدِعًا وَاِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهٗ خَطَؤُهٗ ﴾ (مقدمہ ابن تیمیہؒ)

”مختصر یہ کہ تفسیر میں جو شخص صحابہؓ اور تابعینؒ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور اس کے خلاف موقف اختیار کرتا ہے، وہ اس معاملے میں نہ صرف غلطی کرتا ہے، بلکہ بدعتی ہو جاتا ہے۔ ہاں! اگر مفسر نے اجتہاد کیا ہے (اور اس نے اپنے تفسیری اجتہاد میں ٹھوکر کھائی ہے، جب کہ اس کی نیت اور طریقہ کار صحیح ہے) تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دے گا۔“

تفاسیر میں بے فائدہ تفصیلات:

قرآن کے طالبِ علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض تفسیروں میں نہ صرف غیر مستند واقعات ہوتے ہیں بلکہ بے فائدہ اور بے اصل تفصیلات بھی ہوتی ہیں۔ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تفسیر کو فضول اور بے فائدہ تفصیلات سے پاک رکھے، جن کی کوئی دلیل اور سند نہ ہو۔

مثالیں:

اصحابِ کہف کے بارے میں بحث کرنا کہ اُن کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت نوحؑ کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

قرآنِ مجید میں بھی بے فائدہ تفصیلات سے گریز کیا گیا ہے۔قرآن مقاصد پر نگاہ رکھتا ہے۔قرآن کے طالب علم کو بھی قصے کے مقصد پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ اصحاب کہف کیوں غار میں جانے پر مجبور ہوئے؟ حضرت نوحؑ کو کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا گیا؟

بلاغت اور سیاق وسباق

بلاغت ایک وسیع چیز ہے۔یہاں صرف چند چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(a) ایک ہی لفظ کے مختلف معانی:

قرآن کے طالب علم کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر زبان کی طرح عربی زبان میں بھی ایک ہی لفظ ، مختلف مطالب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔جیسے: ﴿رب ، اِلٰـه ، عبادت ، دين ، طاغوت ، ذكر ، امة ، روح ، صلوة ﴾ وغیرہ کے مختلف معانی ہیں اور ہر جگہ ان کا الگ مفہوم ہوتا ہے۔

سارے معانی ذہن میں ہوں تو سیاق وسباق سے قرآن کے اِس مخصوص مقام پر، مخصوص معنیٰ کا تعین دشوار نہیں ہوتا۔

(b) ایک ہی مضمون کے لیے مختلف الفاظ:

بعض اوقات ایک ہی مضمون کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔

جیسے: روزِ قیامت انسانوں کو اُن کے اعمال دکھائے جائیں گے۔یہ ایک مضمون ہے۔اس مضمون کے اظہار کے لیے ﴿ يَـنْـظُـرُ، يَـرَهٗ ، يُـنَـبِّـئُـكُـمْ ، عَلِـمَتْ نَفْس"، مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ ، اِقْرَءُ وْا كِتَابِيَهْ وغیرہ ﴾ وغیرہ جیسے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

اسی طرح خود ساختہ باطل تصورِ شفاعت ایک مضمون ہے۔اس کی تردید کے لیے قرآن میں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔جیسے: ﴿لَا يَـتَـكَـلَّـمُوْنَ ، لَا يَـمْلِكُوْنَ ، فَلَا تُـخَاطِبْنِی ، مَنْ ذَا الَّذِیْ يَشْفَعُ عِـنْـدَهٗ ﴾ وغیرہ وغیرہ۔

(c) ایک ہی جملے کے دو مختلف مطلب:

بعض اوقات ایک ہی جملہ سلسلۂ کلام میں مختلف مفہوم دیتا ہے۔جیسے سورة ق میں ﴿ قَـالَ قَـرِيْـنُـهٗ ﴾ آیت 23 اور 27 میں۔ایک جگہ ﴿قَـرِيْـن﴾ کا مطلب فرشتہ ہے اور دوسری جگہ شیطان۔اور سورة البقرة میں

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

آیت 215 اور آیت 219 میں ﴿ يَسْئَلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ﴾ میں ایک جگہ اس کا مطلب ہے کیا اور کتنا خرچ کیا جائے اور دوسری جگہ اس کا مطلب ہے کس پر خرچ کیا جائے؟ اس کا تعین بھی سیاق وسباق سے ہوتا ہے۔ آگے تفصیل آرہی ہے۔

7- سیاق وسباق کے مطابق قرآن کی تفسیر:

قرآن مجید کی تفسیر کا ساتواں اہم اُصول یہ ہے کہ زیرِ بحث آیت سے پہلے کی آیات کو پیش نظر رکھا جائے۔ اسے سباق کہتے ہیں۔ اور زیرِ بحث آیت کے بعد والی آیات کو بھی پیشِ نظر رکھا جائے۔ اسے سیاق کہتے ہیں۔ یہی نظمِ کلام ہے۔ اسے ربطِ کلام بھی کہتے ہیں۔ اسے تناسبِ آیات کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں چند باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

سیاق وسباق میں لفظ کا مخصوص مطلب:

ہر لفظ کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے، بعض اوقات ایک اصطلاحی اور شرعی مفہوم بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ہر کتاب رکھنے والے کو ﴿اهل الكتاب﴾ نہیں کہا جاسکتا۔ بعض اوقات سیاق وسباق سے لفظ کا ایک نیا مخصوص مطلب سامنے آتا ہے۔ اس پر نگاہ ہونی چاہیے۔ مثلاً ﴿الحكمة﴾ کا معروف ومشہور مفہوم دانائی ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے 274 کا مطالعہ کیجیے۔ یہ انفاق ﴿في سبيل الله﴾ کے موضوع پر 14 آیات ہیں۔ اس کے آخر میں فرمایا گیا ﴿وَمَن يُّؤتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيراً كَثِيراً﴾۔ یہاں عمومی مطلب کے علاوہ ایک خصوصی مطلب بھی ہے۔ سلسلۂ کلام اور سیاق وسباق کو پیشِ نظر رکھیے تو ﴿الحكمة﴾ کا خصوصی مطلب فیاضی، سخاوت اور دریادلی معلوم ہوتا ہے۔

الفاظ کے بارے میں تین (3) باتیں یاد رکھیے۔ (a) ہر لفظ گونگا ہوتا ہے۔ (b) لغت اور قاموس میں آکر یہی لفظ تتلانے لگتا ہے۔

(c) البتہ سیاق وسباق میں بولنے لگتا ہے اور اپنے صحیح مفہوم ومدعا کو بے نقاب کردیتا ہے۔

چند مثالیں ملاحظہ فرمایئے:

(a) ﴿مُتَّقِين﴾ کا لفظ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ ہر جگہ اس کا ایک مخصوص مطلب ہوگا۔

سورۃ التوبہ میں ﴿مُتَّقِين﴾ کا لفظ عہد اور معاہدوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ خارجہ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پالیسی کے ﴿متقی﴾ ہیں۔(التوبہ:4، 7)سورۃ القصص میں یہی لفظ، حدود و قیود میں رہ کر اپنے اختیارات کا استعمال کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔یہ عسکری قوت رکھنے والے صاحبِ اقتدار ﴿متقی﴾ ہیں۔ (القصص:83)سورۃ النبأ میں ﴿مُتَّقِين﴾ کا لفظ، احساسِ قیامت اور احساسِ جزاء وسزاء کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے ﴿طاغین﴾ کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ (النباء:31)

(b) ﴿طَاغين﴾ کا لفظ اسی سورت میں ایک مخصوص مطلب رکھتا ہے۔وہ لوگ جو قیامت کے احساس سے بے نیاز ہو کر بے لگام زندگی گزارتے ہیں۔ (النباء:22)

(c) ﴿مُسْرِفين﴾ کا لفظ، جائز معاملات میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والوں کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک مخصوص مطلب بھی ہے۔(الانعام:141)﴿مُسْرِفين﴾ کا یہی لفظ، فرعون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔فرعون اپنے اقتدار واختیار میں ﴿اِسراف﴾ کے جرم کا مرتکب تھا۔(یونس:83)

قرآن فہمی کے دو طریقے

8- نزولی ترتیب کے مطابق قرآن کو سمجھنا:

قرآنِ مجید کی تفسیر کا آٹھواں اُصول یہ ہے کہ قرآنِ مجید کو اُس کی نزولی ترتیب کے مطابق سمجھا جائے اور سورتوں اور آیتوں کے شانِ نزول کو سمجھنے کی بھر پور کوشش کی جائے۔قرآن فہمی کے دو طریقے ہیں۔نزولی ترتیب کے مطابق قرآن کو سمجھنا اور کتابی ترتیب کے مطابق قرآن کو سمجھنا۔شانِ نزول کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کی سیرت مبارکہ پر مہارت ضروری ہے۔مکی دور کے مستند واقعات اور مدنی دور کے مستند واقعات۔معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں پہلے قرآن نہیں آیا، بلکہ پہلے محمد ﷺ آئے ہیں اور چالیس سال کی عمر میں آپ پر قرآنِ مجید کے بتدریج نزول کا آغاز ہوا۔قرآن سیرت النبی ﷺ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔جو نادان سیرت النبی ﷺ کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ ٹھوکر کھائے گا اور نہ صرف خود گمراہ ہوگا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔منکرینِ حدیث کا یہی معاملہ ہے۔سورتوں اور آیتوں کے نزول کے بارے میں وارد صحیح اور مستند روایات کو پیشِ نظر رکھنے سے قرآن فہمی کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔

(a) مکی اور مدنی سورتیں: طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے مکی سورتوں کی ترتیب کو سمجھے اور پھر مدنی سورتوں کی ترتیب کو سمجھے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مکی سورتوں سے مراد وہ سورتیں ہیں، جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی سورتوں سے مراد وہ سورتیں ہیں، جو ہجرتِ مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، قطعِ نظر اس سے کہ وہ کہاں نازل ہوئیں۔ سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورت ﴿النصر﴾ ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر 10ھ میں منیٰ کے مقام پر نازل ہوئی، لیکن یہ اصطلاحاً مدنی کہلاتی ہے۔

یہاں ایک اہم نکتے کی وضاحت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منسوب ایک روایت ابن ضریس کی ہے۔ یہ روایت منقطع ہے اس پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ امام سیوطیؒ نے بھی جو ترتیب بیان کی ہے، وہ بھی اسنادی اعتبار سے محلِ نظر ہے۔

(b) مکی سورتیں نوے (90) ہیں اور مدنی سورتیں چوبیس (24) ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سورۃ الرعد، سورۃ الرحمٰن، سورۃ الدھر اور سورۃ الزلزال مدنی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ چاروں مکی ہیں۔ مکی اور مدنی سورتوں کو زمانی ترتیب کے لحاظ سے ابتدائی، وسطی اور آخری دور کی سورتوں میں مزید تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

نزولی ترتیب کو سمجھنے کے لیے چند اہم واقعاتِ سیرت اور اُن کی تاریخیں

مکی دور کی سورتوں کی نزولی ترتیب کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس میں ہمیں خارجی شواہد سے بھی کام لینا پڑتا ہے اور داخلی شواہد سے بھی۔ خارجی شواہد کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے، جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، دوسری وہ ہے جن کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ سورۃ کے اندر کا مواد خود رہنمائی کرتا ہے کہ یہ سورت کس دور میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ کی مکی زندگی کو چار (4) بڑے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اِن میں کل نوے (90) سورتیں نازل ہوئیں۔ تفصیل یہ ہے:

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

چار بڑے مکی اَدوار:

پہلا دور	آغاز نبوت سے 3 نبوی تک	تین سال	13 سورتیں
دوسرا دور	4 سے 5 نبوی تک	دو سال	42 سورتیں
تیسرا دور	6 سے 10 نبوی تک	پانچ سال	22 سورتیں
چوتھا دور	11 نبوی سے ہجرتِ مدینہ تک	تین سال	13 سورتیں
		کل 13 سال	کل مکی سورتیں 90

1۔ ابتدائی خفیہ دور میں نازل ہونے والی سورتیں

پہلی وحی: سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات سے وحی کا آغاز ہوا۔ یہ رمضان مطابق 10 اگست 610ء کا واقعہ ہے۔

ابتدائی تین سال کے پہلے دور میں غالباً کُل اکیس (13) سورتیں نازل ہوئیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

96۔ العلق	وحی کا آغاز ابتدائی پانچ آیات سے ہوا
74۔ المدثر	ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں
73۔ المزمل	ابتدائی آٹھ آیات نازل ہوئیں
1۔ سورۃ الفاتحۃ	سات آیات پر مشتمل مکمل سورت نازل ہوئی
93۔ الضحیٰ	فترۃ الوحی کے بعد تسلی کے لیے نازل ہوئی
94۔ الم نشرح	فترۃ الوحی کے بعد تسلی کے لیے نازل ہوئی
81۔ التکویر	مناظر و احوال قیامت سے آگاہ کیا گیا
82۔ الانفطار	مناظر و احوال قیامت سے آگاہ کیا گیا
97۔ القدر	وحی کی قدر و قیمت بتائی گئی
99۔ الزلزال	مناظر و احوال قیامت سے آگاہ کیا گیا
100۔ العادیات	مناظر و احوال قیامت سے آگاہ کیا گیا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

101۔القارعۃ	مناظر واحوال قیامت سے آگاہ کیا گیا
103۔العصر	خسارے سے بچنے کا نسخہ بتایا گیا

2۔اعلان عام کے بعد نازل ہونے والی سورتیں

دوسرے دور میں غالباً کُل (42) سورتیں نازل ہوئیں۔اعلان کے بعد (23)،ہجرتِ حبشہ سے پہلے سات (7) اور ہجرتِ حبشہ کے بعد (12) سورتیں۔جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اعلانِ عام : اعلان عام 4 نبوی مطابق 613ء میں ہوا۔

112۔الاخلاص	توحیدِ ذات کے اعلان کا حکم دیا گیا
95۔التین	دورِ تکذیب میں نازل ہوئی
55۔الرحمٰن	دورِ تکذیب میں نازل ہوئی
77۔المرسلات	دورِ تکذیب میں نازل ہوئی
75۔القیامۃ	منکرِ آخرت قیادت کی پیروی سے بچنے کا حکم
76۔الدھر	﴿السبیل﴾ دکھا دیا گیا۔ناشکری نہ کرو
78۔النبا	متقین اور منکرینِ آخرت طاغین کا تقابل
79۔النازعات	خاشعین اور منکرینِ آخرت طاغین کا تقابل
83۔المطففین	توہین واستہزاء کے ماحول میں مالی رویوں پر گرفت
84۔الانشقاق	توہین واستہزاء کے ماحول میں نازل ہوئی
80۔عبس	توہین واستہزاء کے ماحول میں آدابِ دعوت کی تربیت
87۔الاعلیٰ	دورِ تذکیر میں نازل ہوئی
88۔الغاشیہ	دورِ تذکیر میں نازل ہوئی
102۔التکاثر	قریشی قیادت کی مادہ پرستی پر گرفت

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

104۔الھمزہ	قریشی قیادت کی بخیلی اور بداخلاقی پر گرفت
105۔الفیل	قریشی قیادت کو انتباہ کہ اللہ کعبہ کی حفاظت کرے رہے گا
106۔قریش	قریشی قیادت کو بیت اللہ کے رب کی عبادت کا حکم
107۔الماعون	قریشی قیادت کی تکذیب آخرت کے اثرات پر گرفت
108۔الکوثر	قریشی قیادت کی ہلاکت کی پیش گوئی
109۔الکافرون	قریشی قیادت سے صاف صاف گفتگو
111۔ابولھب	قریشی قائد اور اُس کی بیوی کی ہلاکت کی پیش گوئی
113۔الفلق	توحید ربوبیت کی دعوت کے اعلان کا حکم
114۔الناس	توحید اُلوہیت وملوکیت کی دعوت کے اعلان کا بھی حکم

دورِ تکذیب میں سورۃ العلق، سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی بقیہ آیات نازل ہوئیں۔

ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہونے والی سورتیں:

اس کے بعد دورِ مخالفت شروع ہوتا ہے اور اس میں شدت بڑھتی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہجرتِ حبشہ ہوتی ہے۔

ہجرتِ حبشہ سے پہلے مندرجہ ذیل سات (7) سورتیں نازل ہوئیں۔

29. العنکبوت	ہجرتِ حبشہ کا اشارہ
30. الروم	مسلمانوں کو آزمائشوں کے بعد کامیابی کی بشارت
31۔سورۃ لقمان	عقیدے میں مشرک والدین کی بات نہ ماننے کا حکم
39. الزمر	ہجرتِ حبشہ کا اشارہ
18. سورۃ الکھف	حبشہ کے عیسائیوں میں آدابِ تبلیغ کی تعلیم
19. مریم	عیسائیوں میں توحید کی دعوت۔ تثلیث کی تردید
20. طٰہٰ	عیسائیوں میں توحید کی دعوت

پہلی ہجرتِ حبشہ: پہلی ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی مطابق 614ء ہوئی۔ 12 نومسلم مردوں اور 4 عورتوں کا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حضرت عثمانؓ کی قیادت میں حبشہ کی طرف سفر ہوا۔

دوسری ہجرتِ حبشہ: 82 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل 100 افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔

ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہونے والی سورتیں:

ہجرتِ حبشہ کے بعد غالباً مندرجہ ذیل بارہ (12) سورتیں نازل ہوئیں۔ یہ دور رسول اللہ ﷺ پر بے سروپا الزامات کا دور تھا اور ﴿تکذیب﴾ کا۔ ﴿تکذیب﴾ سے مراد رسول اللہ ﷺ اور آپ کی دعوت کو جھٹلانا ہے۔

32۔سورۃ السجدہ	رسولؐ پر مفتری ہونے کا الزام
56۔سورۃ الواقعہ	دورِ تکذیب میں نازل ہوئی
50۔ق	دورِ تکذیب میں تذکیر کا حکم
51۔الذاریات	رسولؐ پر ساحر و مجنون ہونے کا الزام
52۔الطور	رسولؐ پر شاعر مجنون کاہن اور متقول ہونے کا الزام۔
67۔الملک	رسولؐ پر گمراہ ہو جانے کا الزام
68۔قلم	رسولؐ پر مجنون اور مفتون ہونے کا الزام
69۔الحاقۃ	رسولؐ پر کاہن، شاعر اور متقول ہونے کا الزام
70۔المعارج	زر پرست قریشی قیادت کو ہلاکت کی دھمکی
71۔نوح	آدابِ دعوت اور قومِ نوح کی طرح ہلاکت کی دھمکی
91۔سورۃ الشمس	دورِ تکذیب میں نازل ہوئی۔ تکذیبِ ثمود سے انذار
92۔سورۃ اللیل	دورِ تکذیب میں نازل ہوئی

سورۃ النجم کی آخری آیات نازل ہوئیں، جبکہ ابتدائی آیات بارہ نبوی میں معراج کے موقع پر نازل ہوئیں۔

3۔ چھ سے دس نبوی میں نازل ہونے والی سورتیں

تیسرے دور میں غالباً کُل بائیس (22) سورتیں نازل ہوئیں۔ ابتداء میں قحط کے بعد نو (9) سورتیں اور شدت

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ظلم کے بعد تیرا(13) سورتیں نازل ہوئیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ اس دور کے آغاز میں حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، ان کے تین دن بعد حضرت عمرؓ اسلام لے آئے۔ یہ واقعہ غالباً ذوالحجہ چھ نبوی مطابق 615ء کا ہے۔

سات نبوی کے قحط کے بعد نازل ہونے والی سورتیں:

سات نبوی (616ء) میں مکے میں قحط پڑا۔ اس دور میں نازل ہونے والی نو سورتیں حسب ذیل ہیں۔

21.سورة الانبياء	رسولؐ پر شاعر و مفتون ہونے کا الزام
23.سورة المومنون	رسولؐ پر مجنون ہونے کا الزام
25.سورة الفرقان	رسولؐ پر مسحور اور مفتری ہونے کا الزام
26.سورة الشعراء	تشکیک اور رسولؐ پر مجنون ہونے کا الزام
27.سورة النمل	تشکیک اور رسولؐ پر ساحر ہونے کا الزام
28.سورة القصص	ابو طالب کی ہدایت رسولؐ کی اختیار میں نہیں
44. حٰم الدخان	رسولؐ پر مجنون اور معلّم ہونے کا الزام
45. حٰم الجاثيه	دہریت میں گرفتار مادہ پرست لیڈروں کو دھمکی
54.سورة القمر	دورِ تکذیب میں نازل ہوئی

اسیری کے تین سال: یہ وہی دور ہے، جس میں قریشِ مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا۔ یہ واقعہ محرم 7 نبوی مطابق 616ء کا ہے۔ تین سال تک آپ کو نظر بند کیا گیا اور اس زمانے کا اختتام محرم 10 نبوی مطابق 619ء میں ہوا۔

دورِ شدتِ ظلم وستم میں نازل ہونے والی سورتیں:

دورِ ظلم وستم میں غالباً گیارہ (11) سورتیں نازل ہوئیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ یہ وہ دور تھا، جس میں الزامات بھی تھے، لیکن بات الزامات سے بڑھ کر آپ ﷺ کے خلاف سازشوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس دور کے آخر میں حوامیم کی دو سورتیں نازل ہوئیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

34۔سبا	رسولؐ پر ساحر مجنون اور مفتری ہونے کا الزام
35۔سورت فاطر	رسولؐ کے خلاف سازشیں
36۔سورت یٰس	رسولؐ پر شاعری کا الزام اور اللہ کا جلال
37۔سورت الصافات	رسولؐ پر ساحر اور مجنون ہونے کا الزام
38۔سورۃ ص	رسولؐ پر ساحر اور کذاب ہونے کا الزام
85۔سورت البروج	ظلم وستم پر ہلاکت کی دھمکی
86۔سورت الطارق	﴿کید﴾یعنی سازشوں کے دور میں نازل ہوئی
89۔سورۃ الفجر	﴿ان ربك لبالمرصاد﴾۔ہلاکت کی دھمکی
90۔سورۃ البلد	جب رسولؐ پر ظلم حلال کر لیا گیا
40۔سورۃ حم المؤمن	فرعون کی ہلاکت سے تخویف
41۔سورۃ حم السجدہ	عاد وثمود کی ہلاکت سے تخویف

اس دور کا اختتام رسول اللہ ﷺ کی رہائی، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہؓ کے انتقال پر ہوتا ہے، جس کے بعد آپ نے حضرت سودہؓ سے نکاح فرمایا اور دعوت وتبلیغ کے لیے طائف کا سفر کیا۔

(a) انتقال حضرت ابو طالب : رجب 10 نبوی مطابق 619ء

(b) انتقال حضرت خدیجہؓ : رمضان 10 نبوی (دو ماہ بعد)

(c) حضرت سودہ سے نکاح: شوال 10 نبوی مطابق 619ء

(d) سفرِ طائف: شوال 10 نبوی۔مطابق جون 619ء میں رسول اللہ ﷺ نے طائف کا تبلیغی دورہ کیا، اسی موقع پر غالباً ﴿سورۃ الاحقاف﴾ اور ﴿سورۃ الجن﴾ کا نزول ہوا۔

46.سورۃ الاحقاف	جنات کو قرآن سنایا جاتا ہے
72.سورۃ الجن	جنات قرآن سن کر مسلمان داعی بن جاتے ہیں

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4۔آخری تین سالوں میں نازل ہونے والی سورتیں

آخری اور چوتھے دور کے چند اہم واقعات پر نگاہ ڈالیے۔

(a) حضرت عائشہؓ سے نکاح: شوال 11 نبوی مطابق 620ء۔رخصتی ہجرتِ مدینہ کے بعد ہوئی۔

(b) مدینے سے قبیلۂ خزرج کے 6 افراد کی مکہ آمد اور قبولِ اسلام: ذوالحجہ 11 نبوی مطابق 620ء

(c) واقعۂ معراج اور فرضیت نمازِ پنجگانہ: 27 رجب 12 نبوی مطابق 621ء کو معراج ہوئی۔

واقعۂ معراج کے بعد ﴿سورۃ النجم﴾ کا کچھ حصہ اور ﴿سورۃ بنی اسرائیل﴾ نازل ہوئی۔

(d) پہلی بیعتِ عقبہ: 12 افراد کی مدینے سے آمد اور قبولِ اسلام (10 خزرجی + 2 اوسی) ذوالحجہ 12 نبوی مطابق 621ھ

(e) دوسری بیعتِ عقبہ: 72 افراد کی آمد اور قبولِ اسلام ذوالحجہ 13 نبوی مطابق 622ھ

آخری اور چوتھے دور میں غالباً کُل تیرا (13) سورتیں نازل ہوئیں۔جن کی تفصیل حسبِ ذیل ہے۔

10.سورۃ یونس	تشکیک اور الزاماتِ سحر و افتراء میں نازل ہوئی
11.ھود	تشکیک اور الزاماتِ سحر و افتراء میں نازل ہوئی
12.یوسف	رسولؐ کے اخراج کے منصوبے ہو رہے تھے
13. الرعد	رسولؐ کے خلاف ﴿مکر﴾ سازشیں ہو رہی تھیں
14. ابراھیم	رسولؐ کے خلاف ﴿مکر﴾ سازشیں ہو رہی تھیں
15. الحجر	الزاماتِ سحر اور استہزاء کے ماحول میں نازل ہوئی
16. النحل	ہجرت مدینہ کا پیشگی اشارہ

12 نبوی میں معراج ہوئی۔اس سال غالباً دو سورتیں نازل ہوئیں،جن میں سفرِ معراج کا تذکرہ ملتا ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل میں رسول اللہ ﷺ کو ہجرت کی دعا سکھائی گئی۔معراج کے موقع پر مکے اور فلسطین کے سفر کے دوران میں آپ ﷺ کو مدینۂ منورہ دکھایا گیا۔

17۔بنی اسرائیل	مدینے میں اسلامی ریاست کے قیام کے اشارے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

53۔النجم	واقعۂ معراج

13 نبوی میں ہجرتِ مدینہ سے پہلے غالباً مندرجہ ذیل چار سورتیں نازل ہوئیں۔

42۔حٰم الشوری	اسلامی اجتماعیت کی وضاحت
43۔حٰم الزخرف	قریش کے خلاف اتمام حجت اور آخری وارننگ
6۔سورۃ الانعام	قریش کے خلاف اتمام حجت اور آخری وارننگ
7۔سورۃ الاعراف	قریش کے خلاف اتمام حجت اور آخری وارننگ

مدینے کی طرف ہجرت:

27 صفر 14 نبوی کو رسول اللہ ﷺ ہجرتِ مدینہ کے لیے حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے۔

مدینۂ منورۃ میں نازل ہونے والی (24) چوبیس سورتیں

زمانۂ نزول اور مرکزی مضمون

	سورۃ کا نام	زمانہ نزول	مرکزی مضمون / اہم مضمون
1	سورۃ جمعہ کی آخری تین آیات	1 ھ ۔ قبا میں پہلا جمعہ پڑھا گیا	خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے احکام
2	سورۃالحج آیات: 25 تا 78	1 ھ میں	دفاعی جنگ کی اجازت
3	سورۃ التغابن	1 ھ میں	جہاد و انفاق کی تمہید
4	سورۃ البقرۃ	2 ھ میں۔ جنگِ بدر سے پہلے	تبدیلیٔ قبلہ و امامت۔نئی شریعت کے احکام
5	سورۃ الطلاق	2 ھ میں ۔ جنگِ بدر سے پہلے	طلاق کا استعمال اور قوموں پر عذاب
6	سورۃ محمد	2 ھ میں ۔ جنگِ بدر سے پہلے	آدابِ جنگ اور اِنفاق کی ترغیب
7	سورۃ الانفال	2 ھ میں ۔ جنگِ بدر کے بعد	آدابِ جنگ اور غنیمت کے احکام
8	سورۃ الصف	3 ھ میں ۔ غزوۂ احد کے بعد	اللہ کے مددگار بنو! غالب ہو جاؤ گے !
9	سورۃ ال عمران	3 ھ میں	غلبۂ اسلام کی تدبیریں
10	سورۃ الحشر (بنی نضیر)	ربیع الاول 4 ھ میں	صفاتِ الٰہی سے نفاق کا علاج
11	سورۃ النساء	4 ھ میں	خاندان سے ریاست تک مضبوط اجتماعیت

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

12	سورۃ الحدید	4 ھ میں	عدل وانصاف کا قیام
13	سورۃ الاحزاب	جنگِ احزاب کے بعد شوال 5 ھ میں	عائلی، عسکری اور سماجی احکام
14	سورۃ المجادلہ	5 ھ میں	ظہار اور نجویٰ کے احکام
15	سورۃ المنافقون	شعبان 6 ھ میں غزوہ بنی المصطلق	نفاق چھوڑو! انفاق کرو!
16	سورۃ النور	6 ھ میں	عائلی اور سماجی احکام
17	سورۃ الفتح	صلح حدیبیہ سے واپسی پر ذوالحجہ 6 ھ میں	فتوحات ایران وافریقہ کی بشارت
1	سورۃ الجمعہ 1 تا 8 آیات	فتح خیبر کے بعد محرم 7 ھ میں	منصب رسالت، تزکیۂ نفس
18	سورۃ المائدۃ	7 ھ میں	اسلامی قانون اور سیکولرزم
19	سورۃ التحریم	8 ھ میں	عائلی زندگی اور عورت کا کردار
20	سورۃ الممتحنہ	8 ھ میں	عورتوں کی جاسوسی اور شہریت
21	سورۃ الحجرات	9 ھ میں	اللہ اور رسولؐ اور مسلمانوں کے حقوق
22	سورۃ التوبۃ	رجب 9 ھ میں غزوۂ تبوک سے پہلے اور بعد	مشرکین، یہود اور نصاریٰ سے جہاد
23	سورۃ البینہ	10 ھ میں	آخری رسول کو نہ ماننے والے دوزخی ہیں
24	سورۃ النصر	10 ذوالحجہ 10ھ میں بمقام منیٰ نازل ہوئی	رسول ﷺ کو وفات کی اطلاع
	وفات رسول ﷺ	12 ربیع الاول 11ھ ، تین ماہ دو دن بعد	

9- کتابی ترتیب کے مطابق قرآن کو سمجھنا:

قرآن مجید کی تفسیر کا نواں اُصول یہ ہے کہ قرآنِ مجید کو اُس کی کتابی ترتیب کے مطابق سمجھا جائے۔

قرآنِ مجید کے طالب علم کو حیرت ہوتی ہے کہ نزولی اعتبار سے تو پہلے سورۃ العلق، سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی چند آیات نازل ہوئیں، لیکن انہیں قرآن میں پہلے نہیں رکھا گیا۔ نزولی ترتیب اور ہے، کتابی ترتیب اور ہے۔ آخر اس کتابی ترتیب کی کیا حکمتیں ہیں؟

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس سلسلے میں مندرجہ ذیل چیزوں پر نگاہ رکھی جائے۔

(a) توقیفی ترتیب: سورتوں کی موجودہ قرآنی ترتیب توقیفی ہے، یعنی غیر اجتہادی ہے، منجانب اللہ ہے، منجانب جبریلؑ ہے اور منجانب رسول اللہ ﷺ ہے۔ اسی ترتیب سے صحابہؓ ، تابعینؒ، تبع تابعینؒ، قراء اور حفاظ نسل در نسل قرآنِ مجید کو یاد کرتے ہیں اور اسے اگلی نسل تک پہنچاتے ہیں۔ اس ترتیب میں بھی عظیم الشان حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ ان پر غور وفکر کرے۔

(b) مکی اور مدنی سورتوں کا حسین وجمیل امتزاج: الفاتحہ مکی ہے۔ پھر چار سورتیں البقرۃ، ال عمران ، النساء اور المائدہ مدنی ہیں۔ پھر دو سورتیں الانعام اور الاعراف مکی ہیں اور پھر دو سورتیں مدنی ہیں۔ الانفال اور توبہ۔ اس طرح یہ مکی اور مدنی سورتوں کا ایک حسین لیکن معنیٰ خیز امتزاج ہے۔

(c) سورتوں کے نام: سورتوں کے ناموں کے بارے میں تین باتیں ذہن نشین کر لیجیے۔

(i) سورتوں کے ناموں میں سے، صرف چند نام مسنون ہیں، یعنی محمد ﷺ سے ثابت ہیں۔

(ii) زیادہ تر سورتوں کے نام غیر توقیفی، یعنی اجتہادی ہیں اور علماء نے رکھے ہیں۔

(iii) بعض سورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔ جیسے سورۃ ﴿الدھر﴾ کا دوسرا نام ﴿الانسان﴾ ہے اور سورۃ ﴿محمد﴾ کا ﴿القتال﴾۔

(d) سورتیں، پارے اور رکوع:

(i) قرآن مجید کی ایک سو چودہ (114) سورتیں ہیں۔ سورتوں کی تقسیم توقیفی ہے۔ وحی پر مشتمل ہے۔ اجتہاد پر مشتمل نہیں ہے۔ یہی تقسیم فہمِ قرآن کی بنیاد ہے۔ پاروں کی تقسیم سے فہمِ قرآن میں کوئی مدد نہیں مل سکتی۔

(ii) تیس (30) پاروں کی تقسیم بھی غیر توقیفی، یعنی اجتہادی ہے، بعد کے اَدوار میں علماء نے کی ہے، فہم قرآن میں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔

یہ محض ایک مقداری (Quantitative) تقسیم ہے۔

(iii) رکوعوں کی تقسیم بھی غیر توقیفی یعنی اجتہادی ہے اور علماء کی جانب سے ہے۔ لیکن ہر جگہ نہیں۔ پاروں کی طرح رکوعوں کی تقسیم میں بھی زیادہ تر توجہ مقدار (Quantity) پر ہے، اگرچہ کہیں کہیں کسی حد تک مضمون کی مناسبت کا خیال بھی رکھا گیا ہے۔

(e) ہر سورت کو ایک اکائی، وحدت (Single Unit) تسلیم کیا جائے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مندرجہ بالا دلائل سے یہ اُصول ثابت ہوتا ہے کہ قرآنِ مجید کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہر سورت کو ایک وحدت اور اکائی تسلیم کر کے ایک وقت میں ایک سورت کا مطالعہ کرے۔ ہر سورت ایک وحدت اور اکائی (Single & Independent Unit) ہے۔

(f) قرآنی سورتوں کا باہمی تعلق :

قرآنی سورتوں کا آپس میں گہرا باہمی تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح کسی عالی شان عمارت میں کمرے سے کمرہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح یوں سمجھیے کہ قرآنِ مجید کے بھی 114 کمرے ہیں اور ہر کمرہ دوسرے سے مربوط ہے۔ جیسے:

(i) سورۃ ﴿البقرۃ﴾، سورۃ ﴿آل عمران﴾ سے جڑی ہوئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں ﴿زہراوان﴾ اور ﴿غمامتان﴾ کا نام دیا ہے۔ ایک مغضوب کی تفسیر ہے تو دوسری ضالین کی تفسیر ہے۔

(ii) سورۃ ﴿الطلاق﴾، سورۃ ﴿التحریم﴾ سے جڑی ہوئی ہے، دونوں کا موضوع عائلی زندگی ہے۔

(iii) سورۃ ﴿الانفال﴾، سورۃ ﴿التوبہ﴾ سے جڑی ہوئی ہے، دونوں کا موضوع جہاد ہے۔

(iv) سورۃ ﴿الضحیٰ﴾، سورۃ ﴿الم نشرح﴾ سے جڑی ہوئی ہے، دونوں میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دے کر ہدایات دی گئیں۔

(v) سورۃ ﴿الناس﴾، سورۃ ﴿الفلق﴾ سے جڑی ہوئی ہے، دونوں پناہ حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ ﴿مُعَوِّذَتان﴾ کہلاتی ہیں۔

10- ہر سورت کا نظمِ جلی بنیادی ڈھانچہ (Macro - structure) معلوم کیا جائے:

فہمِ قرآن کا دسواں اُصول یہ ہے کہ ہر سورت کا ایک نظمِ جلی یا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ ہر سورت چونکہ ایک وحدت ہے، اس لیے طالب علم کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اُس کے بڑے بڑے اجزاء تلاش کرے، جو ایک ذیلی مضمون رکھتے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں ہر سورت کو ﴿فقرات﴾ یعنی پیراگرافوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ سورت کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، جسے میں ﴿نظمِ جلی﴾ کا نام دیتا ہوں۔ میری یہ کتاب بھی اسی موضوع سے متعلق ہے۔

نظمِ جلی کی چند مثالیں:

(a) سورۃ البقرۃ کے چار بڑے حصے ہیں۔ پہلا تمہید دوسرا بنی اسرائیل سے متعلق ہے، تیسرا اُمتِ مسلمہ سے اور آخری اختتامیہ۔

(b) سورۃ آل عمران کے دو بڑے حصے ہیں۔ پہلا زیادہ تر اہلِ کتاب اور عیسائیوں سے متعلق ہے اور دوسرے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مسلمانوں سے۔

(c) سورۃ الاعراف کے آٹھ حصے ہیں۔ (تمہید اور اختتامیہ کے درمیان میں چھ قوموں کے واقعات ہیں)

(d) سورہ ھود کے بھی آٹھ حصے ہیں۔ (تمہید اور اختتامیہ کے درمیان میں چھ قوموں کے واقعات ہیں)

(e) سورۃ الکھف کے چھ حصے ہیں۔ (تمہید اور اختتامیہ کے درمیان میں چار قصے بیان کیے گئے ہیں)

(f) سورۃ الجمعہ کے دو حصے ہیں۔ (سبت کے ساتھ یہود کا برتاؤ اور مسلمانوں کے لیے احکامِ جمعہ)

(g) سورۃ المنافقون کے دو حصے ہیں۔ (نفاق اور اِنفاق کا باہمی تعلق)

(h) سورۃ النبأ کے تین حصے یا تین پیراگراف ہیں۔ (قیامت۔ طاغین کی صفات۔ متقین کی صفات)

11- ہر سورت کا مرکزی مضمون یا عمود (Theme) معلوم کیا جائے:

فہمِ قرآن کا اگلا اُصول یہ ہے کہ ہر سورت کا مرکزی مضمون تلاش کیا جائے۔

ہر سورت کو پیراگرافوں میں تقسیم کرنے کے بعد، ہر ذیلی پیراگراف کا عنوان تلاش کیا جائے۔ اس کے بعد سورت کے مرکزی مضمون کا فہم بہت آسان ہو جاتا ہے۔

مرکزی مضمون کی مثالیں:

(a) سورۃ البقرۃ کا مرکزی مضمون، تبدیلیٔ اِمامت ہے۔

(b) سورۃ الاعراف کا مرکزی مضمون، ہلاکت اور استبدالِ اقوام ہے۔

(c) سورۃ ھود کا مرکزی مضمون، دعوتِ توحید اور دعوتِ استغفار ہے تاکہ ہلاکت سے بچا جائے۔

(d) سورۃ القصص کا مرکزی مضمون، ﴿عُلُوًّا فِی الارض﴾ کا دنیاوی اور اُخروی انجام ہے۔

(e) سورۃ التین کا مرکزی مضمون، اِمکانِ قیامت کے نقلی اور عقلی دلائل کا جائزہ ہے۔

اس سلسلے میں دو اُصول مدِ نظر ہوں۔

(a) مرکزی مضمون (یعنی Theme) کے تعین میں، نظمِ جلی (Macro-Structure) سے مدد ملتی ہے۔

(b) نظمِ جلی (Macro-Structure) کے تعین میں، سورت کے اجزاء کے مختلف موضوعات اور متنوع مضامین رہنمائی کرتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

12- نظمِ خفیف (Micro-Structure) تلاش کیا جائے:

فہمِ قرآن کا اگلا اُصول یہ ہے کہ نظمِ خفیف (Micro-Structure) تلاش کیا جائے۔ نظمِ خفیف سے مراد، ایک آیت یا ایک سے زائد آیات میں آنے والے الفاظ کا باہمی ربط ہے۔ قرآنِ مجید کے طالب علم کو ہر لفظ کی اُنگلی پکڑ کر چلنا چاہیے۔ قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ مستقل ہے، کوئی حرف بھی زائد نہیں۔ اللہ تعالیٰ مفسرین کو اجرِ عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی تفاسیر میں ایک ایک لفظ پر کئی کئی صفحات لکھے ہیں اور آیت کو آیت سے اور لفظ کو لفظ سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ محذوفات کو دریافت کیا ہے۔ چھپی ہوئی چیزوں کا سراغ لگایا ہے۔ یہاں چند نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔

(a) ایک بڑی آیت کے اندر پائے جانے والے مختلف جملوں کے درمیان چھپی ہوئی چیزوں کا سراغ لگانا چاہیے۔

(b) بین السطور (Between the Lines) کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔

(c) محذوفات (Omissions) کو دریافت کرنے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔

(d) اکثر آیات صفاتِ الٰہی پر ختم ہوتی ہیں۔ جیسے ﴿الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ، الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ وغیرہ۔ یہ صفات الل ٹپ (At Random) نہیں آتیں، بلکہ اس کا اگلے یا پچھلے مضمون سے گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ ان مخصوص صفات کی اس مخصوص مقام پر لائے جانے کی حکمت پر غور کیا جائے۔

نظمِ خفیف کی چند مثالیں:

(a) سورۃ ﴿التین﴾ میں تین سے زیتون ، زیتون سے طورِ سیناء اور طورِ سیناء سے بلدِ امین جڑا ہوا ہے۔ ان چار چیزوں سے احسنِ تقویم اور اسفل سافلین جڑے ہوئے ہیں

یہ سارا مضمون ﴿یوم الدین﴾ یعنی قیامت اور اُس کی جزاء اور سزاء سے مربوط ہیں۔

قیامت ﴿احکم الحاکمین﴾ کے عدل و انصاف پر دلیل ہے۔

(b) آیت الکرسی میں ﴿اِلٰہ ، اَلْحَیُّ ، اَلْقَیُّوْمُ﴾ اور اُس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تنزیہی صفات (عدم نوم اور عدم وسن) آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ شفاعت اور علم کا گہرا تعلق ہے۔ ﴿اِلٰہ﴾ کا کرسی سے تعلق ہے۔ اقتدار کی تنزیہی صفت ﴿لَا یَؤُدُہٗ﴾ سے گہری مناسبت ہے ﴿الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ کی صفات پورے مضمون کا حاصل ہیں۔ آیت الکرسی کی تشریح پر ہمارا رسالہ زیرِ طبع ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

13- سورۃ کے کلیدی الفاظ پر توجہ دی جائے:

فہمِ قرآن کا اگلا اُصول یہ ہے کہ ہر سورت کے کلیدی الفاظ پر توجہ دی جائے۔
ہر سورت کے اندر بعض کلیدی الفاظ (Key Words) ہوتے ہیں، جو سورت کے فہم میں ممد ومعاون ثابت ہوتے ہیں۔قرآن کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ان پر بھرپور نگاہ رکھے۔جس طرح ایک کمرے میں صوفے دیکھ کر آپ جان لیتے ہیں کہ یہ بیٹھک اور دیوان خانہ ہے۔کھانے کی میز دیکھ کر کمرے کی غرض وغایت کا اندازہ کرلیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہر سورت کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں۔یہ مخصوص اصطلاحات اور یہ مخصوص الفاظ ، سورت کے مرکزی مضمون (Theme) سے کمال درجے کی مناسبت رکھتے ہیں، اور مرکزی مضمون یعنی عمود کی دریافت میں ممد ومعاون ثابت ہوتے ہیں۔

کلیدی الفاظ کی مثالیں:

(a) سورۃ الکھف میں ﴿زینت﴾ کا لفظ تین مرتبہ استعمال ہوا ہے۔

(b) سورۃ الرحمٰن میں ﴿ذُو الجَلالِ وَ الاکرام﴾ کا دو مرتبہ درود ہوا ہے، یہ دو صفات صرف اسی سورت میں آئی ہیں۔

(c) سورۃ الدھر میں ﴿سبیل﴾ کا لفظ ابتداء میں بھی آیا ہے اور آیا میں بھی۔

(d) سورۃ القصص میں ﴿عُلُوّ فی الارض﴾ الفظ ابتداء میں بھی لایا گیا ہے اور آخر میں بھی۔

(e) سورۃ القمر میں ﴿کَذَّبُوا﴾ اور ﴿کَذَّبَ﴾ جیسے الفاظ۔

14- اقسام القرآن کو دلائل سمجھ کر، دلیل اور مدلول کے ربط کو سمجھا جائے:

فہمِ قرآن کا اگلا اُصول یہ ہے کہ قرآنِ مجید میں جو قسمیں آئی ہیں، ان کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور دلیل اور مدلول کے ربط کو سمجھا جائے۔اَقسامُ القرآن بھی دلائل ہیں۔

قرآنِ مجید میں ﴿لَیل ، نَھار ، تِین ، زَیتُون ، عَصر ، فَجر ، ضُحیٰ ، العادِیات ، مُرسَلات﴾ وغیرہ کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔قسم، گواہی اور شہادت ہے۔یہ ساری قسمیں کسی نہ کسی حقیقت، قاعدے اور کلیے کو ثابت کرنے کے لیے کھائی گئی ہیں۔مدرسِ قرآن کو اچھی طرح

معلوم ہونا چاہیے کہ مُقسِم بہٖ (جس کی قسم کھائی گئی ہے) اور مُقسَم عَلَیْہِ (جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے) کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے۔(حمیدالدین فراہیؒ) ظاہر ہے ﴿وَالْعَصْرِ﴾ کا خسارے سے گہرا تعلق ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿وَالْعَصْرِ﴾ کی جگہ ﴿وَالْفَجْرِ﴾ نہیں رکھا جا سکتا۔

چند مثالیں ملاحظہ فرمایئے:

(a) سورۃ ﴿یٰسٓ﴾ کے آغاز میں حکمت والے قرآن کی گواہی اس لیے پیش کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو لوگ سلسلۂ رسالت کی آخری کڑی سمجھ کر ایمان لائیں۔

(b) سورۃ ﴿الْاِنْشِقَاق﴾ میں شفق، رات اور چاند کی گواہیاں اسی لیے پیش کی گئی ہیں، تا کہ ثابت کیا جا سکے کہ انسان کو بھی مندرجہ بالا تین چیزوں کی طرح ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف سفر کرنا ہے، وہ کشاں کشاں چاہے نہ چاہے اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہے۔

(c) سورۃ ﴿الطَّارِق﴾ میں زمین اور آسمان کی قسم یعنی گواہی اسی لیے فراہم کی گئی ہے کہ جس طرح آسمان باد و باراں کے فیض سے زمین پھٹ کر لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح قرآن کے فیض سے بھی انسانی روحیں سیراب ہوں گی۔ قرآنِ مجید قولِ فیصل ہے، سنجیدہ کلام ہے، ہنسی مذاق نہیں۔

ایک منکرِ خدا، ایک منکرِ رسالت اور ایک منکرِ آخرت کو آپ اُن دلیلوں ہی سے مطمئن کر سکتے ہیں، جن کا وہ خود مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور جن کا وہ خود قائل ہوتا ہے۔ جنت اور دوزخ کا مقصد جزا و سزا (Reward and Punishment) ہے۔ جزا و سزا کے اس الٰہی قانون کو زمین، آسمان، بجلی، ہوا، بارش، سمندر وغیرہ کی آفاقی دلیلوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے، جو قرآنِ مجید میں جگہ جگہ موجود ہیں۔

15۔ متشابہات کی تاویل سے اجتناب کیا جائے:

فہمِ قرآن کا اگلا اُصول یہ ہے کہ قرآنی متشابہات کی تاویل سے اجتناب کیا جائے، محکمات اور بینات پر توجہ دی جائے۔ متشابہات کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ ان پر اجمالی ایمان رکھا جائے، تفصیل سے گریز کیا جائے۔

(a) حروفِ مقطعات کے صحیح مطلب کو اللہ سے منسوب کیا جائے اور حتمی ذاتی رائے سے حتی الامکان بچا جائے۔

(b) ﴿کرسی، عرش، استویٰ، ید، وجہ﴾ وغیرہ جیسے الفاظ کی تفصیل اور تکییف سے گریز کیا جائے۔

(c) متشابہات کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران:6)۔

(d) تمام باطل فرقوں کی اساس، متشابہات کی باطل تاویل پر مشتمل ہوتی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

16- شانِ نزول کا مطلب، انطباقِ نزول ہے:

فہمِ قرآن کا اگلا اُصول یہ ہے کہ شانِ نزول کے صحیح مطلب کو سمجھا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہؒ صاحب محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں نہایت اہم بحث کی ہے۔ قرآنِ مجید قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں سمجھ لیجیے۔

(a) نصیحت اور عبرت کسی خاص وقت یا شخص کے لیے محدود نہیں کی جاسکتی۔

(b) شانِ نزول کا مطلب، انطباقِ نزول ہے، یہ نبی ﷺ کے زمانے کا واقعہ بھی ہوسکتا ہے۔ ان سے پہلے کا بھی، بعد کا بھی اور آج کا بھی۔ شانِ نزول کا مطلب یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کن لوگوں پر منطبق ہوتی ہے؟ کن پر چسپاں ہوتی ہے؟ مصداقِ آیت کون ہے۔

(c) بعض خاص آیات میں ماضی کا واقعہ جاننا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ جیسے: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ (البقرۃ :158)

(d) زیادہ تر مقامات پر پرانے قصے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ (الفوز الکبیر، شاہ ولی اللہؒ)

(e) ﴿ نَزَلَتْ فِيْ كَذَا ﴾ سے مراد، مخصوص افراد نہیں ہوتے، بلکہ عموماً لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

(f) مدح وذم کی خبریں بھی عام ہوتی ہیں۔

(g) تکرارِ نزول میں آیت دو مختلف صورتوں پر منطبق ہوتی ہے۔ (مقدمہ ابن تیمیہؒ)

17- ناسخ و منسوخ کی معرفت حاصل کی جائے:

فہمِ قرآن کا اگلا اُصول یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہاں حدیث کے بارے میں تردد کرنے والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن وحیِ جلی ہے اور حدیث وحیِ خفی۔ وحی وحی کو منسوخ کرسکتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر مریض کو پہلے دور میں ایک دوا دیتا ہے اور پھر کچھ دن بعد اپنی دوا بدل دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کی نفسیات کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے، ایک خاص وقت تک ایک حکم دیا اور پھر اُس کے بعد اُسے منسوخ کردیا۔ نسخ کی چار صورتیں ہیں۔ قرآن قرآن کو منسوخ کرتا ہے۔ قرآنی وحی، حدیث کی وحی کو منسوخ کرتی ہے۔ حدیث کی وحی، قرآن کی وحی کو منسوخ کرتی ہے اور حدیث کی وحی، حدیث کی وحی کو منسوخ کرتی ہے۔ اس سلسلے کا اہم اصول یہ ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہر منسوخ آیت کے لیے، ناسخ آیت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دعویٰ نسخ باطل ہوگا۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کے نزدیک (5) آیات منسوخ ہیں (الفوز الکبیر، شاہ ولی اللہؒ)۔ مولانا گوہر رحمانؒ کے نزدیک چھ۔ جبکہ شاید ان کی تعداد تین سے زیادہ نہیں۔

(a) موت سے پہلے والدین کے حق میں وصیت کا حکم (البقرۃ:180) منسوخ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''وارث کے لیے وصیت نہیں ہوسکتی'' (ترمذی 2047)۔ والدین کا حصہ 1/6 ہے (النساء:12)۔

(b) بیوہ کو ایک سال تک نان نفقہ اور رہائش کا حکم (البقرۃ:240) منسوخ ہے۔ اب بیوہ کو چار ماہ دس دن صرف زمانہ عدت میں نفقہ ملے گا (البقرۃ:234)

(c) رسول اللہ ﷺ سے اکیلے میں گفتگو کے لیے صدقہ دینے کا حکم (المجادلہ:12) منسوخ ہے۔ اسی سورۃ کی آیت نمبر 13 ناسخ ہے۔

(d) تہجد کی نماز میں، نصف شب کم یا زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم (المزمل 1 تا 4) منسوخ ہے۔ اب جتنا چاہے قرآن پڑھا جاسکتا ہے۔ (المزمل:20)

(e) بدکار عورتوں کو موت تک گھر میں بند رکھنے کا حکم (النساء:15) منسوخ ہے۔ قرآن کہتا ہے: غیر شادی شدہ زانی کے لیے سو کوڑے ہیں (النور:2) اور رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے رجم ہے (بخاری:1912)۔

18- بدعتی فرقوں کی تفسیر سے اجتناب کیا جائے:

فہمِ قرآن کا اگلا اُصول یہ ہے کہ بدعتی فرقوں کی تفسیر سے اجتناب کیا جائے۔

''یہ بدعتی فرقے پہلے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور پھر اپنی رائے کے مطابق، آیاتِ قرآنی کی تاویل کرتے ہیں''۔

یہ بدعتی فرقے، خوارج، روافض، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، مرجئہ، اشتراکی، سوشلسٹ، سیکولر، قادیانی اور منکرِ حدیث وغیرہ ہیں۔

صحابہؓ، تابعینؒ اور ائمۂ سلف کے اقوال کی موجودگی میں، گمراہ فرقوں کے مسلک کے مطابق تفسیر کرنا سراسر غلط ہے۔

امتِ وسط و اعتدال، سلفِ صالح اور ان کے امام ہے۔ (مقدمہ امام ابن تیمیہؒ)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(a) تفسیر باطنی، تفسیر صوفیا اور تفسیر اشاری سے بچا جائے:

تفسیر باطنی، تفسیر صوفیا اور تفسیر اشاری سے بچا جائے۔ صوفی، واعظ اور فقیہ حضرات سے بھی ﴿دلیل﴾ میں بھی غلطی ہوئی ہے اور ﴿مدلول﴾ میں بھی۔ انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ صحیح حدیث پر مبنی نہیں تھی۔ جھوٹی حدیث تھی یا ضعیف حدیث تھی۔ صحابہ سے منقول قول ثابت ہی نہیں تھا۔ دوسری غلطی مدلول کی تھی۔ انہوں نے قرآن کی آیت تو صحیح نقل کی لیکن اُس سے غلط استدلال کیا۔ اسی طرح حدیث بھی صحیح تھی لیکن اس سے غلط معانی لیے گئے۔

اہل تصوف کے ہاں مقبول بہت سی اَحادیث بے اصل اور جھوٹی ہیں۔ ابوعبدالرحمٰن محمد بن حسین السلمی نیشاپوری الصوفی (التوفی 412ھ) کی ﴿حقائق التفسیر﴾ ایسی غلطیوں سے بھری پڑی ہے۔ (مقدمہ امام ابن تیمیہؒ) (ان صاحب پر وضع حدیث کا بھی الزام ہے)۔

مثالیں:

﴿اُدْخِلُوْا نَارًا﴾ کی غلط تفسیر کی گئی: عشق کی آگ میں داخل کیے گئے۔

﴿قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ﴾ کی غلط تفسیر کی گئی: قریبی چیز تو نفس ہے اس لیے نفس کے ساتھ جنگ کرو۔

(b) تفسیر شیعہ اور روافض کی تفسیر سے اجتناب کیا جائے:

تفسیر شیعہ اور روافض کی تفسیر سے اجتناب کیا جائے۔ روافض (غالی شیعوں) کی تفسیریں، عجیب وغریب ہوتی ہیں اور حق کے راستے سے بہت دور ہوتی ہیں۔ بدعتی فرقوں نے ﴿دلیل﴾ اور ﴿مدلول﴾ دونوں میں ٹھوکر کھائی ہے۔ (مقدمہ ابن تیمیہؒ) یعنی ان کی دلیل بے اصل، بے سند اور بلا حوالہ جھوٹی اَحادیث پر مشتمل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ان سے جو مطلب لیا جاتا ہے، وہ بھی واہیات ہوتا ہے۔

جیسے: ﴿سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْيَاسِيْنَ﴾ کی باطل تفسیر، حضرت الیاسؑ کے بجائے سَلَامٌ عَلٰى آلِ يَاسِيْنَ یعنی ﴿آلِ مُحَمَّد﴾ کرنا۔ یہ قرآن کی لفظی تحریف بھی ہے اور معنوی تحریف بھی۔

یا ﴿تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ﴾ میں ابولہب کے دونوں ہاتھ ﴿يَدَانِ﴾ کی تفسیر، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے کرنا۔

(c) معتزلہ کی عقل پرستی سے بچا جائے:

معتزلہ کی عقل پرستی سے بچا جائے۔ عقلِ سلیم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ بہترین عقل وہ ہے، جو کتاب و سنت کے ماتحت ہو۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بدترین عقل وہ ہے، جو کتاب وسنت سے متصادم ہو۔ معتزلہ کی تفسیر میں خام عقلیت پائی جاتی ہے۔ بعض معتزلہ قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں۔ بعض معتزلہ اللہ کی صفات کی باطل تاویل کرتے ہیں بلکہ صفات کا انکار کرتے ہیں۔ بعض معتزلی قیامت کے دن رؤیتِ باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ بعض صحیح اور ثابت شدہ احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ بعض عذاب قبر کے منکر ہیں۔ یہ اپنی عقل پر اس کے دائرہ کار سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔

قدیم معتزلی: واصل بن عطاء اور عباسی دور کے معتزلیوں کے عقائد معروف ہیں۔ بعض اہلِ سنت کے علماء میں بھی بعض چیزیں معتزلیوں کی شامل ہوگئی ہیں۔ ان پر باریک بینی سے نظر ڈالنا ضروری ہے۔ شیخ جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف بلاغت کا شاہ کار ہے، لیکن اس میں جو اعتزال پایا جاتا ہے، اُس کو جاننا اور پرکھنا ضروری ہے۔

جدید معتزلی:

مصر اور برصغیر ہندو پاک میں اعتزال کا فتنہ پچھلے سو سالوں میں زور پکڑا۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، بس اتنا بیان کرنا کافی ہے کہ جدید معتزلیوں کی ایک قسم وہ ہے جو انگریزوں کی نمک خوار تھی۔ دوسری قسم وہ ہے جو اشتراکیت سے مرعوب تھی، یہی آگے چل کر منکرینِ حدیث کہلائے۔ تیسری قسم وہ ہے جو صحیح احادیث کا انکار کرتی ہے اور رجم وغیرہ کی منکر ہے۔

19- مخالفِ قرآن وسنت اسرائیلی روایات سے اجتناب کیا جائے:

فہمِ قرآن کا اگلا اُصول یہ ہے کہ تفسیر کو اسرائیلی روایات سے پاک رکھا جائے۔ امام ابن تیمیہؒ نے فرمایا کہ تفسیر میں اسرائیلیات استشہاد کے لیے پیش کی جاسکتی ہیں، اعتقاد کے لیے نہیں۔ اس کے تین اصول ہیں۔

(a) قرآن وسنت کے مطابق اسرائیلی روایات کو قبول کرلیا جائے گا۔

(b) قرآن وسنت کے مخالف، اسرائیلی روایات کو مسترد کردیا جائے گا۔ انبیاء کے بارے میں اسرائیلیات میں نہ صرف فضول اور بے فائدہ تفصیلات ملتی ہیں بلکہ بعض انتہائی بے ہودہ قسم کے الزامات بھی پائے جاتے ہیں۔

(c) سدی کبیرؒ (م 127ھ) کعب احبارؒ (م35ھ) وھب بن منبہؒ (م 116ھ) اور محمد بن اسحاقؒ (م150ھ) کی بیان کردہ اضافی معلومات پر مشتمل اسرائیلی روایات، جو قرآن وسنت کے خلاف بھی نہیں ہیں اور جن کی تائید بھی نہیں ہوتی، ایسی اسرائیلی روایات کی نہ تو تصدیق کی جائے گی اور نہ تکذیب۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

20- قرآن کی سائنسی تفسیر میں احتیاط برتی جائے:

فہمِ قرآن کا اگلا اُصول یہ ہے کہ قرآن کی سائنسی تفسیر نہایت احتیاط سے کی جائے۔آج کل لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتے اور لکھتے ہیں کہ سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے۔یہ ایک کھلی مرعوبیت ہے۔قرآن اللہ کا کلام ہے اور ابدی حقیقتوں پر مشتمل ہے۔سائنس حقائق کو جاننے اور سمجھنے کی ایک معمولی اور حقیر انسانی کوشش ہے۔ سائنس بدلتی رہتی ہے۔سائنسی نظریات تبدیلی کے عمل سے گذرتے رہتے ہیں اور گذرتے رہیں گے۔قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔قرآن کی کوئی آیت بوسیدہ نہیں ہو سکتی۔

قرآن کی سائنسی تفسیر میں احتیاط ہو۔اس کے دو ذیلی اصول ہیں۔

(a) سائنس کے غیر ثابت شدہ نظریات (Theories) کے مطابق تفسیر حرام ہے۔

اُنیسویں صدی کے آخر میں، بعض مفسرین نے اس صدی کی سائنس سے مرعوب ہو کر بعض قرآنی آیات و اصطلاحات کی باطل تاویل کی۔

(b) سائنس کے ثابت شدہ نظریات سے تفسیر میں کوئی مضائقہ نہیں (جنھیں بار بار تجربے سے ثابت کیا گیا ہے اور ثابت کیا جا سکتا ہے، جو ظنی نہیں، بلکہ قطعی قوانینِ فطرتِ الٰہی میں شامل ہیں) البتہ یہ بات یاد رہے کہ قرآن کی حقانیت، سائنسی ثبوت کی محتاج نہیں۔

یہ وہ بیس (20) بنیادی باتیں ہیں، جو قرآن کا طالب علم اپنے پیشِ نظر رکھے۔اس طرح وہ بڑی بڑی غلطیوں اور حماقتوں سے بچ سکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

01- سُورَةُ الفَاتِحَة

آیات : 7...... مَکِّیَّة“ ...... پیراگراف : 4



- **زمانۂ نزول:**

سورۃُ ﴿الفاتحہ﴾ پہلی مکمل سورت ہے، جو رسول اللہ ﷺ پر مَکَّةُ المُکَرَّمَه میں دعوت کے ابتدائی خفیہ دور میں نازل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے سورۃُ ﴿العَلَق، سورۃُ المُدَّثِّر اور سورۃُ المُزَّمِّل﴾ کی چند ابتدائی آیات نازل ہوئیں تھیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خصوصیات

1۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ فاتحۃُ الکتاب، امّ الکتاب، سَبعَ مَثَانِی وغیرہ۔

2۔ خودخالق نے، اپنی مخلوق کے لیے، انسان کی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق، سورۃ الفاتحہ کی صورت میں ایک مثالی دُعا تجویز کی ہے۔

سورۃُ الفَاتِحَة کے فضائل

اس سورت کی فضیلت میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(1) ﴿ وَالَّذِی نَفسِی بِیَدِہٖ مَا اُنزِلَت فِی التَّورَاۃِ وَلَا فِی الاِنجِیلِ وَلَا فِی الزَّبُورِ وَلَا فِی الفُرقَانِ مِثلُھَا ، وَاِنَّھَا سَبعٌ مَثَانِی وَالقُرآنُ العَظِیمُ الَّذِی اُعطِیتُہٗ ﴾

(ترمذی،ابواب فضائل القرآن، عن ابی بن کعب، حدیث 2,875 :صحیح)

"اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی سورت نہ تورات میں نازل کی گئی نہ انجیل میں اور نہ ہی زبور اور فرقان میں۔ یہ بار بار دوہرائی جانے والی سات (7) آیات پر مشتمل ﴿سبع مثانی﴾ اور ﴿قرآنِ عظیم﴾ ہے، جو آپ ﷺ کو دیا گیا۔"

(2) ﴿ اُمُّ القُرآنِ ھِیَ السَّبعُ المَثَانِی وَالقُرآنُ العَظِیمُ ﴾

(صحیح بخاری: کتاب التفسیر ، حدیث 4427 ، عن ابی ہریرۃؓ)

"یہ ﴿اُمُّ القرآن ﴾ یعنی قرآن کی اساس ہے ۔ بار بار دوہرائی جانے والی سات (7) آیات ﴿سبع مثانی ﴾ اور ﴿قرآنِ عظیم﴾ ہے"

(3) سورۃ الفاتحہ (پر مشتمل دعا کرنے) کے بعد آدمی جو مانگے وہ اُسے مل جاتا ہے۔ ﴿ ھٰذَا لِعَبدِی وَلِعَبدِی مَا سَاَلَ ﴾ (صحیح مسلم : کتاب الصلوۃ ، حدیث 904 ، باب 11، عن ابی ہریرۃؓ)

"(سورۃ الفاتحہ میں دعا کا یہ حصہ) میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے، وہ سب کچھ ملے گا، جو اُس نے مانگا"

(4) ایک فرشتے نے آ کر خبر دی:

﴿ اَبشِر بِنُورَینِ اُوتِیتَھُمَا ، لَم یُؤتَھُمَا نَبِیٌّ قَبلَکَ، فَاتِحَۃُ الکِتَابِ وَخَوَاتِیمُ سُورَۃِ البَقَرَۃِ ، لَن تَقرَاَ بِحَرفٍ مِنھَا اِلَّا اُعطِیتَہٗ ﴾ (صحیح مسلم: کتاب فضائل القرآن ، باب فضل الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرۃ حدیث 1913 ، عن ابن عباسؓ)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

"آپ ﷺ کو دو (2) نور ﴿نُورَین﴾ مبارک ہوں، جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔ فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرۃ کی آخری آیات۔ آپ اس میں سے جس حرف کی تلاوت بھی کریں گے، وہ آپ کو دیا جائے گا۔"

(5) سورۃ الفاتحہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے۔ ﴿ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾

(صحیح بخاری: کتاب صفۃ الصلاۃ، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلھا، حدیث 723)

آمین

﴿آمین﴾ کا مطلب ہے ﴿قبول کر﴾۔ اس سورت کو پڑھنے اور سننے کے بعد ﴿آمین﴾ کہنا چاہیے۔

1۔ ﴿آمین﴾ کے بعد ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔

(صحیح مسلم: کتاب الصلوۃ، باب التسمیع والتحمید والتأمین، حدیث 942)

2۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد ﴿آمین﴾ کہنا ضروری ہے۔

(صحیح بخاری: کتاب صفۃ الصلوۃ، حدیث 749)

3۔ جس شخص کی ﴿آمین﴾ فرشتوں کی ﴿آمین﴾ سے مل جائے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

(صحیح بخاری: کتاب صفۃ الصلوۃ، باب جھر الامام بالتامین، حدیث: 747)

3۔ سری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں آہستہ سے ﴿آمین﴾ کہیں گے۔ جہری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں کا زور سے ﴿آمین﴾ کہنا مسنون ہے۔ (ابو داود: کتاب الصلوۃ، باب التامین وراء الامام، حدیث 933، صحیح)

سورۃُ الفَاتِحَۃ کا کتابی ربط

قرآن کی آخری دو سورتوں کا اختتام ﴿ربّ الفلق﴾ اور ﴿ربّ النّاس﴾ کے الفاظ سے 'توحید ربوبیت' پر ہوا تھا۔ اس پہلی سورت ﴿الفاتحہ﴾ کا آغاز ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾ کے الفاظ کے ذریعے بھی 'ربوبیت' سے ہوا ہے۔ احساسِ ربوبیت کے نتیجے ہی میں ﴿حمد و شکر﴾ کے رویے جنم لیتے ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ ﴿الحمدُ﴾ تعریف اور ہر قسم کی تعریف، مکمل تعریف۔

2۔ ﴿الحمدُ لِلّٰه﴾، ﴿الحمدُ﴾ کا لفظ ﴿ لِلّٰهِ ﴾ کی ترکیب کے ساتھ ﴿شکر﴾ کے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔

3۔ ﴿ ربّ ﴾ پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نشوونما دینے والا، آقا، مالک۔

4۔ ﴿الرَّحمٰن﴾ فَعلان کے وزن پر اسمِ مُبالغہ ہے، اللہ وہ ہستی ہے، جس کی رحمت اپنی چوٹی اور بلندی پر ہے۔

5۔ ﴿ الرَّحیم ﴾ فَعِیل کے وزن پر اسمِ صفت ہے، اللہ وہ ہستی ہے، جس کی رحمت مستقل اور دائمی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6۔ ﴿الدِّین﴾ جزاوسزا (Reward and Punishment)

قیامت کے دن پر ایمان لاکر اللہ تعالیٰ کو جزاوسزا کا تنہا مالک اور صاحبِ اختیار سمجھ کر، اُسی کی عبادت واطاعت کی جائے اور اُسی سے مدد مانگی جائے۔

7۔ ﴿عِبَادَة﴾

عبادت کے تین (3) مطلب ہیں۔ غلامی (Slavery) ، اطاعت (Obedience) اور عبادت یعنی پوجاپرستش (Rituals , Acts of worship)۔

سورۃُ الفَاتِحَة کا نظمِ جلی

سورۃ الفاتحہ کے چار (4) پیراگراف ہیں، جو آدابِ دُعا، استحقاقِ دُعا، اصل دُعا اور وضاحتِ دُعا پر مشتمل ہیں۔

1- آیات 1 تا 4 : پہلے پیراگراف میں ﴿آدابِ دُعا﴾ بیان کیے گئے ہیں۔

دُعا سے پہلے حمد وثناء اور اسمائے حسنیٰ پر مشتمل صفاتِ الٰہی کا تذکرہ ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار، پھر رحمانیت کا اقرار، پھر رحیمیت کا اقرار اور پھر مالکیت کا اقرار کیا جائے۔

2- آیت 5 : دوسرے پیراگراف میں، ﴿استحقاقِ دُعا﴾ ہے۔

اطاعت اور عبادت کے نتیجے میں ہی دُعا مانگنے کا استحقاق ہوتا ہے۔ چونکہ ہم اُس کی عبادت واطاعت کرتے ہیں، اُسی کو طاقتور سمجھتے ہیں، اُسی کے غلام اور ملازم ہیں، اس لیے کسی اور ہستی کے بجائے، اپنے خالق اور اپنے ﴿مُطاع﴾ اور ﴿معبود﴾ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ﴿اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ﴾۔ اللہ کی عبادت کرنے کے نتیجے میں ہی انسان کو اس سے استعانت یعنی مدد طلب کرنے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔

3- آیت 6 : تیسرے پیراگراف میں، ﴿اصل دُعا﴾ بتائی گئی ہے۔ ﴿اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ﴾۔

''ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما''۔ دراصل یہ ایک جامع دعا ہے۔ صراطِ مستقیم توحید کا راستہ ہے، جو قرآن وسنت کی دعوت پر مشتمل ہے۔ اِسی راستے پر مرتے دم تک چل کر انسان، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرکے ابدی جنت میں داخل ہوسکتا ہے۔

4- آیت 7 : چوتھے اور آخری پیراگراف میں ایجابی اور سلبی دونوں طریقوں سے ﴿وضاحتِ دعا﴾ ہے۔

(a) ﴿صِراط مُسْتَقِیْم﴾ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ (النساء:69)

(b) ﴿صِراط مُسْتَقِیْم﴾ ﴿مغضوب﴾ قوموں کا راستہ نہیں ہے۔ جیسے یہود۔ (البقرۃ:90 ، المائدہ:60)

(c) ﴿صِراط مُسْتَقِیْم﴾ گمراہ قوموں ﴿ضَالِّیْن﴾ کا راستہ بھی نہیں ہے۔ جیسے عیسائی۔ (النساء:44)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾ ''اے اللہ! ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما''۔

اصل دعا ہی اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ یہ اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست ہے کہ وہ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر رہنمائی کرتا رہے، تاکہ ہم اعمالِ صالحہ کے ذریعے اُس کی خوشنودی اور رضا حاصل کر کے اُس کی جنت کے مستحق ہو سکیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشۂ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

02- سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ کے چار بڑے پیراگراف

آیات 286 ...... مَدَنِيَّةٌ ...... پیراگراف : 4

1 — آیات: 1 تا 39

منصبِ خلافت وتوحید کے سلسلے کے
تین رویوں میں سے ایمان کا رویہ اختیار کرو!

مرکزی مضمون

امامت کی تبدیلی

2 — آیات 46 تا 141

بنی اسرائیل کی امامت کے منصب سے معزولی کے اسباب کی وضاحت اور بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت

3 — آیات: 142 تا 283

اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسول ﷺ کی آخری شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے اُمتِ وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دو۔

4 — آیات 284 تا 286

آخری شریعت کے اَحکام پر نیک نیتی کے ساتھ حسبِ استطاعت عمل کرو گے تو غلبہ اور اقتدار حاصل کرو گے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سورۃ ﴿البقرۃ﴾ کا زیادہ تر حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا۔ سود کی حرمت سے متعلق آیات (275 تا 281) غالباً 10 ہجری میں نازل ہوئیں۔ آخری تین آیات ہجرت سے پہلے ہی نازل ہو چکی تھیں۔

دو ہجری (2ھ) میں مندرجہ ذیل سورتیں نازل ہوئیں۔

سورۃُ البقرۃ کے بعد ﴿سورۃُ الطلاق﴾، جنگِ بدر سے پہلے سورۃُ ﴿مُحَمَّد﴾ اور جنگِ بدر کے بعد سورۃُ ﴿الانفال﴾ نازل ہوئی۔

سورۃُ البَقَرَۃ کے فضائل

سورۃ البقرۃ کی فضیلت میں رسول اللہ ﷺ سے کئی صحیح احادیث منقول ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

1۔ ﴿لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ﴾

(صحیح مسلم: کتاب صلوۃ المسافرین، باب 29، حدیث 1,860، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ)

"اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ! یقیناً جس گھر میں سورۃ البقرۃ پڑھی جاتی ہے، اُس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔"

2۔ شیطان اُس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جس میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت سنتا ہے۔ (مستدرک حاکم، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ)

3۔ ﴿اِقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَّلَا تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ﴾ (اَيِ السَّحَرَةُ). (صحیح مسلم: کتاب فضائلِ قرآن، باب 42، حدیث 1,910، عن ابی اُمامۃ الباہلی)

"سورۃ البقرۃ پڑھا کرو ! اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اِس کا چھوڑ دینا باعثِ حسرت ہے۔ اہلِ باطل (یعنی جادوگر) اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے"

4۔ ﴿اِقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ، فَاِنَّهُمَا تَاْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، اَوْ كَاَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا.﴾

(صحیح مسلم: کتاب فضائلِ قرآن، باب 42، حدیث: 1,910، عن ابی اُمامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ)

"دو چمکتی سورتوں ﴿الزہراوین﴾ کو پڑھتے رہا کرو ! یعنی سورۃ البقرۃ اور سورۃ ال عمران۔ اس لیے کہ یہ دونوں سورتیں روزِ قیامت بادل کی دو ٹکڑیاں ﴿غَمَامَتَانِ﴾ بن کر، یا دو سائے ﴿غَيَايَتَانِ﴾ بن کر، یا پرندوں کے دو صف بستہ غول ﴿فِرْقَانِ﴾ کی صورت میں نمودار ہو کر، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑیں گی۔"

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ البقرۃ قرآن کی کوہان یعنی چوٹی ہے

5۔ ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَام ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ﴾

”ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور بلاشبہ قرآن کی کوہان یعنی چوٹی ، سورۃ البقرۃ ہے“۔

(سنن ترمذی: ابواب فضائل القرآن، باب فضل سورۃ البقرۃ وآیۃ الکرسی ، حدیث 2,878: ضعیف)

6۔ ﴿بَيْنَمَا جِبرِيلُ قَاعِدٌ عِندَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَومَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنهُ مَلَكٌ ـ فَقَالَ: هٰذَا نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَومَ فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ .لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنهَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ﴾

(صحیح مسلم: کتاب فضائل القرآن ، باب فضل سورۃ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرۃ ، حدیث 1,913 ، عن ابن عباسؓ)

”نبی ﷺ کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریلؑ بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریلؑ نے اوپر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ اپنا سر اُٹھایا، پھر جبریلؑ نے کہا: ”یہ آسمان کا دروازہ ہے، جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا“۔ اس دروازہ سے ایک فرشتہ اترا۔ جبریلؑ نے کہا: ”یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا“۔ اس فرشتے نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا اور کہا: ”آپ ﷺ کو دو نور ﴿نُورَيْنِ﴾ مبارک ہوں، آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیئے گئے۔ فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرۃ کا آخری حصہ“۔ آپ ﷺ اس کا جو حرف بھی پڑھیں گے، اس کا ثواب دیا جائے گا“

سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیات کی فضیلت

﴿الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.﴾

(صحیح بخاری: کتاب المغازی، باب 9 ، حدیث 3,786 ، عن ابی مسعود البدریؓ)

”جو شخص بھی ،سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیتیں رات میں (سونے سے پہلے) پڑھے گا، اُس کے لیے یہ کفایت کر جائیں گی“۔

آیۃ الکرسی کے فضائل

سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر 255، ﴿آیت الکرسی﴾ کہلاتی ہے۔ اس آیت کے بارے میں کئی احادیث مروی ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

1۔ آية الكرسي قرآن کی سب سے اعظم آیت ہے:

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعبؓ سے فرمایا

﴿ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ! اَتَدرِيْ اَيُّ اٰيَةٍ مِن كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَكَ اَعظَمُ؟ قلتُ: اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ،

قَالَ: يَا اَبَا الْمُنْذِرِ! اَتَدرِيْ اَيُّ اٰيَةٍ مِن كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَكَ اَعظَمُ؟

قَالَ قُلْتُ ﴿ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم ﴾ قَالَ: فَضَرَبَ فِيْ صَدرِيْ وَقَالَ: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ اَبَا الْمُنْذِرِ! ﴾

(صحیح مسلم: فضائل قرآن وما يتعلق به، باب فضل سورة كهف وآية الكرسی، حدیث: 1,921، عن ابی بن کعبؓ)

"ابا المنذر! کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا: ابا المُنذِر تم جانتے ہو کون سی آیت اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر ہے؟ میں نے کہا: ﴿ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم ﴾ ابی بن کعبؓ نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا: ابا المُنذِر! (اے ابی بن کعبؓ)! تمہیں یہ علم مبارک اور خوشگوار ہو۔" (ابو المُنذِر حضرت اُبی بن کعبؓ انصاری کی کنیت ہے)

2۔ آية الكرسي قرآن کی سردار آیت ہے:

﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَاِنَّ سَنَامَ الْقُرآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، فِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرآنِ، هِيَ آيَةُ الْكُرسِيِّ ﴾

"ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان یعنی چوٹی، سورۃ البقرۃ ہے اور اس میں ایک آیت ہے، جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے اور وہ آية الكرسي ہے"۔

(سنن ترمذی: ابواب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة وآية الكرسی، حدیث 2,878: ضعیف)

3۔ ہر فرض نماز کے بعد آية الكرسي پڑھنا چاہیے:

﴿ مَن قَرَأَ آيَةَ الْكُرسِيِّ عَنْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ اِلَّا اَن يَّمُوتَ ﴾

"جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اُسے جنت میں داخل ہونے سے، موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روک سکتی۔" (یعنی اُسے موت تک بہرحال انتظار کرنا پڑے گا)۔

(سنن نسائی الکبریٰ: کتاب عمل اليوم والليلة، باب ثواب من قرأ آية الكرسی دبر كل صلاة، 9,928)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4۔ سونے سے پہلے آیۃ الکرسی پڑھنا چاہیے :

”جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کی جانب سے اُس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ شیطان طلوعِ فجر تک اُس کے قریب نہیں آسکتا۔“

(صحیح بخاری: کتاب الوکالۃ، باب اذا وکل رجلا فترک الوکیل شیئا، حدیث:2,187)

5۔ آیۃُ الکُرسی صبح تک ابلیس سے محافظت ہے۔

حضرت ابو ہریرةؓ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے مجھے صدقۂ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا:

میں تجھے رسول اکرم ﷺ کے پاس لے جاؤں گا“

وہ کہنے لگا: ”میں محتاج ہوں، عیالدار اور سخت تکلیف میں ہوں۔“ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا، جب صبح ہوئی تو آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا: ”ابو ہریرة! آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! اس نے محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، اس لیے اُس پر مجھے رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”چوکنے رہنا! وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا: ”آج تو میں ضرور تمہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤں گا“۔ وہ کہنے لگا: ”مجھے چھوڑ دو ! میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔“ مجھے پھر رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپؐ نے مجھ سے پوچھا: ”ابو ہریرةؓ!“ ”تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ ! اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، مجھے رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپؐ نے فرمایا:

”ہوشیار رہنا ! وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا۔“ چنانچہ تیسری بار میں تاک میں رہا۔ وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا: ”اب تو میں تمہیں ضرور رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤں گا اور اب یہ تیسری بار ہے۔ ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا: ”مجھے چھوڑ دو! میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا: ”وہ کیا کلمات ہیں؟

وہ شخص کہنے لگا: ”جب تم سونے لگو تو آیۃ الکرسی پڑھ لیا کرو ! اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا۔ اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔“

چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا، صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا:

”تمہارے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ ﷺ کو ساری بات بتادی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿ وَهُوَ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کذوب ﴿ اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے کہا:
ابوہریرہؓ! جانتے ہو تین راتوں سے تمہارے پاس کون آتا رہا ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔
آپؐ نے فرمایا: ﴿ ذاك شيطان ﴾ ''وہ شیطان تھا''۔

(صحیح بخاری: کتاب الوکالة، باب اذا وکل رجلا فترك الوكيل شيئا، حدیث: 2187)

سورت کا کتابی ربط

پچھلی سورت سورۃ الفاتحہ میں مذکور ﴿ مَغضُوب ﴾ قوم یہود کے خلاف فردِ جرم کا ذکر یہاں اس سورۃ البقرۃ میں ہے۔
اگلی سورت، آلِ عمران میں نصاریٰ ﴿ الضَّآلِّين ﴾ کے خلاف فردِ جرم ہے۔
پچھلی سورت میں ﴿ اِهدِنا ﴾ کے الفاظ کے ذریعے ہدایت کی درخواست کی گئی تھی۔ اس کے جواب میں پورا قرآن رکھ دیا گیا، جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ﴿ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴾

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ سورۃ البقرۃ میں ﴿ بَلٰى ﴾ کا لفظ دو (2) مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ منفی اور مثبت دونوں طریقوں سے یہودیوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جنت اور دوزخ میں داخلے کا دارومدار، ایمان و کفر اور عملِ صالح و عملِ غیر صالح پر منحصر ہے۔ آیت 81 کا جواب، آیت 112 میں دیا گیا ہے۔

a- ﴿ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴾ (آیت: 81)

b- ﴿ بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾ (آیت: 112)۔ یہ دراصل تمہیدی حصے کی آخری دو آیات (38 اور 39) کی تفصیل ہے۔

2۔ آیت نمبر 40 میں ﴿ اَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ ''میرا عہد پورا کرو، (تب) میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا'' کے الفاظ سے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مشروط وعدہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے بے وفائی کی۔ انہیں معزول کر دیا گیا۔ آیت نمبر 152 میں امتِ مسلمہ سے بھی ایک مشروط وعدہ کیا گیا ﴿ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ ﴾ ''لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، (تب) میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا''

3- آیت نمبر 47 اور آیت: 122 ایک ہی ہیں۔ یہ آیت دو بار آئی ہیں۔ ان دو مقامات کے درمیان بنی اسرائیل کے خلاف فردِ جرم ہے۔

﴿ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے سبب، انہیں معزول کر کے ان کے سر سے ﴿ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴾ کا تاج اُتار لیا گیا۔

سورۃ البقرۃ کا نظمِ جلی

سورۃ البقرۃ کا نظم چار(4) بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ ہر حصے کے ذیلی پیراگراف ہیں اور اُن کا اپنا ذیلی نظم ہے۔

1۔ ابتدائی انتالیس(39) آیات تمہیدی ہیں۔

2۔ دوسرا حصہ(آیات 40 تا 142) بنی اسرائیل کے خلاف فردِ جرم ہے اور اس میں اُن اسباب کی نشاندہی ہے، جن کی وجہ سے انہیں امامت کے منصب سے معزول کیا گیا۔

3۔ تیسرے حصے (آیات 143 تا 283) میں، اُمتِ مسلمہ کو امام اور ﴿أُمَّتِ وَسَط﴾ بنا کر آخری شریعت کے اَحکام دیے گئے ہیں۔

4۔ آخری تین آیات پر مشتمل حصے کی حیثیت اختتامیہ کی ہے، جس میں چند اہم اصول بیان کیے گئے ہیں، جن سے امتِ مسلمہ کافروں پر غلبہ پا سکتی ہے۔

پہلا حصہ	دوسرا حصہ	تیسرا حصہ	چوتھا حصہ
آیات 1 تا 39	آیات 40 تا 142	آیات 143 تا 283	آیات 284 تا 286
تمہید	بنی اسرائیل کے خلاف فردِ جرم اور اِمامت کے منصب سے بنی اسرائیل کی معزولی	امامت کے منصب پر امتِ مسلمہ کا تقرر	اختتامیہ

سورۃ البقرۃ کا مرکزی مضمون

سورۃ البقرۃ کا مرکزی مضمون اِمامت کی تبدیلی ہے۔

بنی اسرائیل کی امامت، حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ کے دور یعنی 1,900 ق م سے لے کر، محمد ﷺ کی بعثت یعنی 610ء تک قائم رہی۔ اِن کی اِمامت کا یہ دور، ڈھائی ہزار سال پر محیط ہے۔ بنی اسرائیل کے غیر معتدل اور غیر متوازن رویوں کے سبب ، رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بعد انہیں اِمامت کے منصب سے معزول کیا گیا اور امتِ مسلمہ کو ﴿ شَهَادَتَ عَلَى النَّاس ﴾ کی ذمے داری سونپ کر، انہیں ﴿ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ ”معتدل اور متوازن قوم“ کے خطاب سے نوازا گیا اور قیامت تک امامت کی فضیلت عطا کی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط | نظمِ جلی

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ کا پہلا تمہیدی حصہ

(آیات 1 تا 39) ...... پیراگراف : 3



اہم الفاظ و مضامین

1- منصب خلافت کا لازمی تقاضا ہے کہ آدمی خیر و شر کے اختیار میں سے ، صرف خیر کو اپنا لے۔

2- کفر و نفاق سے بچ کر ، سچا مومن صالح بن جائے اور اللہ کے نائب اور خلیفہ کے حیثیت سے ، اُس کے احکامات پر حسنِ نیت کے ساتھ عمل کرے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشۂ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

سُوْرَۃُ الْبَقَرَۃ کا دوسرا حصہ

بنی اسرائیل کی معزولی کے اسباب

(آیات 40 تا 141) ...... پیراگراف : 6

مرکزی مضمون

بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت اور امامت کی فضیلت سے معزول کیے جانے کے اسباب کی وضاحت

1 پہلا پیراگراف (آیات: 40 تا 46)

بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت

2 دوسرا پیراگراف (آیات 47 تا 48)

بنی اسرائیل کو تخویفِ قیامت

3 تیسرا پیراگراف (آیات 49 تا 79)

بنی اسرائیل پر احسانات اور ان کی نافرمانیاں اور جرائم

4 چوتھا پیراگراف (آیات 80 تا 89)

آیات 80 تا 82 بنی اسرائیل کا نسلی تعصب و تفاخر

آیت 83 میثاق بنی اسرائیل

آیات 84 تا 89 بنی اسرائیل کا اثم وعدوان اور جزوی پیروی

5 پانچواں پیراگراف (آیات 90 تا 123)

آیات 90 تا 91 بنی اسرائیل کا نسلی تعصب اور بغی

آیات 92 تا 105 بنی اسرائیل کے جرائم

آیات 106 تا 109 شریعت کی تبدیلی کی وجہ اور بنی اسرائیل کا حسد

آیات 110 تا 115 اسلام کی دعوت اور ان کی نسل پرستی

آیات 116 تا 123 شرک اعتراضات اور اھواء تخویفِ قیامت

6 چھٹا پیراگراف (آیات 124 تا 141)

جدِ امجد ابراہیمؑ و یعقوبؑ کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

سُورَةُ البَقَرَة کا تیسرا حصہ

آخری شریعت کے اَحکام

(آیات 141 تا 283 ...... پیراگراف : 12)

پہلا پیراگراف (آیات 141 تا 152)

شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرو!

آیت 143	آیات 144 تا 150	آیت 150	آیت 151	آیت 152
اُمتِ وسط کا فریضۂ شہادت حق ہے	تحویلِ قبلہ	اہلِ کتاب سے نہ ڈرو!	مقصدِ رسالت	مشروط وعدہ

دوسرا پیراگراف (آیات 153 تا 158)

نماز، صبر، جہاد اور حج وغیرہ کے احکام

آیات 153 تا 157	آیت 158
نماز صبر و جہاد	حج وغیرہ

تیسرا پیراگراف

آیات 159 تا 167 — عقیدۂ توحید

آیات 159 تا 162	آیت 163	آیت 164	آیات 165 تا 167
کتمانِ توحید کی سزا	توحیدِ اُلوہیت	توحیدِ ربوبیت	توحید و شرک

چوتھا پیراگراف

آیات 168 تا 176 — رزق حلال و حرام کے اَحکام

آیات 168 تا 172	آیت 173	آیات 174 تا 176
رزق حلال	رزق حرام	کتمانِ اَحکام

پانچواں پیراگراف

آیت 177 — احکام کی روح

چھٹا پیراگراف (آیات 178 تا 189) اَحکام

آیات 178، 179	آیات 180 تا 182	آیات 183 تا 187	آیت 188	آیت 189
قصاص	وصیت	روزے	رشوت	قمری کیلنڈر

ساتواں پیراگراف (آیات 190 تا 207)

جہاد و انفاق و حج کے اَحکام

آیات 190 تا 194	آیت 195	آیات 196 تا 203	آیات 204 تا 207
قتال و جہاد	انفاق	حج وغیرہ	طاغوت

آٹھواں پیراگراف (آیات 208 تا 213)

ادخلوا فی السلم کافۃ

آیات 208 تا 212	آیت 213
مکمل اسلام کا مطالبہ	بنی اسرائیل کا اخلاقِ بغی

نواں پیراگراف (آیات 215 تا 218)

انفاق و جہاد کے اَحکام

آیت 215	آیات 216 تا 218
انفاق	جہاد

دسواں پیراگراف (آیات 217 تا 242)

معاشرتی اَحکام

آیات 217، 218 ارتداد اور ایمان	آیت 226 ایلاء
آیت 219 شراب و جوا	آیات 227 تا 232 طلاق
آیت 220 یتامیٰ	آیت 233 رضاعت
آیت 221 نکاح	آیات 234، 235 بیوہ کی عدت
آیات 222، 223 حیض	آیات 236، 237 مہر
آیات 224، 225 قسم کے اَحکام	آیت 238 نمازِ خوف و امن
	آیات 239 تا 242 مہر

گیارھواں پیراگراف (آیات 243 تا 274)

جہاد و انفاق کے اَحکام

آیت 243 جہاد	آیت 254 انفاق
آیات 244، 245 انفاق ۔	آیات 255 تا 259 جہاد کی دو قسمیں
آیات 246 تا 250 بنی اسرائیل کا جہاد	آیت 260 دلائلِ آخرت
آیات 251 تا 253 مقصدِ جہاد	آیات 261 تا 274 انفاق

بارھواں پیراگراف (آیات 275 تا 283)

معاملات کے اَحکام

آیات 275 تا 281	آیت 282	آیت 283
سود	قرض	رہن

مرکزی مضمون:

اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسولؐ کی آخری شریعت کے اَحکام پر عمل کرتے ہوئے اُمتِ وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرو!

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سُورَۃُ البَقَرَۃ کا چوتھا اختتامی حصہ

(آیات 284 تا 286) ...... پیراگراف : 3



اہم الفاظ ومضامین

1- آیت نمبر 93 کا جواب ، آیت 285 میں دیا گیا ہے۔

2- ﴿ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ سے بالخصوص بنی اسرائیل مقصود ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورة البقرة کے تمہیدی حصے کا نظمِ جلی (آیات: 1 تا 39)

سورۃ البقرۃ کے پہلے تمہیدی حصے کا نظمِ جلی، چھ (6) پیرگرافوں پر مشتمل ہے۔

سب سے پہلے انسانوں کی تین (3) قسمیں بیان کی گئیں ہیں، مؤمنین، کافرین اور منافقین۔ پہلا گروہ جنتی اور دیگر دو (2) گروہ دوزخی ہوں گے۔

1- پہلے پیراگراف (آیات: 1 تا 5) میں، ﴿مؤمنین﴾ کی پانچ (5) صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایمان بالغیب، نماز، اِنفاق، قرآن اور سابقہ کتب اور آخرت پر ایمان۔

2- دوسرے پیراگراف (آیات: 6 تا 7) میں، ﴿کافرین﴾ کی صفات بیان کی گئیں ہیں۔ وہ ضدی ہیں۔ اُن پر تبلیغ کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ دعوت کا اِنکار کرنے والوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔

3- تیسرے پیراگراف (آیات: 8 تا 20) میں، ﴿منافقین﴾ کی صفات بیان کی گئیں اور دو تمثیلات سے اس کی وضاحت کی گئی۔

4- چوتھے پیراگراف (آیات: 21 تا 29) میں، دعوتِ توحید ہے۔ تمام دنیا کے انسانوں کو ﴿اُعْبُدُوْا﴾ کے الفاظ سے، اپنے ﴿خالق﴾ اور اپنے ﴿رب﴾ کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے، تاکہ وہ انسانوں کے پہلے گروہ میں شامل ہوسکیں۔

﴿ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ﴾

5- پانچویں پیراگراف (آیات: 30 تا 37) میں، آدمؑ کی خلافت اور اُس کا استحقاق ثابت کیا گیا ہے۔ آدمؑ نے اپنا سبق یاد رکھا اور تمام نام بتا دیئے۔ آدمؑ اور ابن آدم کی کشمکش، قیامت تک متکبر ومغرور شیطان ﴿ابلیس﴾ سے جاری رہے گی، ابلیس جنات میں سے ہے۔

حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ نے غلطی مان کر توبہ کر لی، لیکن ﴿ابلیس﴾ نے اپنی غلطی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

6- چھٹے پیراگراف (آیات: 38 تا 39) میں، واضح کیا گیا کہ قیامت تک (رسولوں کے ذریعے) ہدایت کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی ہدایت کی پیروی کرے گا، (وہ جنتی ہے) اُس کو خوف وحزن لاحق نہیں ہوگا۔ جو شخص بھی اسلام کی دعوت کا انکار کرے گا، وہ دوزخی ہوگا۔ ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ اس تمہیدی حصے میں یہودیوں کو یہ اُصول بتایا گیا کہ جنت میں داخلہ نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ ہدایت کی پیروی کی بنیاد پر ہوگا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سُورةُ البَقرة کے تمہیدی حصے کا مرکزی مضمون

توحیداور منصب خلافت کے سلسلے میں، تین (3) مختلف گروہ ﴿ مُؤمنین ﴾، ﴿ مُنافقین ﴾ اور ﴿ کافِرین ﴾ کے ہیں۔

انسان کو چاہیے کہ وہ منصب خلافت کو سمجھ کر، ابلیس کے شر سے بچتے ہوئے، توحید اختیار کرکے، مؤمنین کے گروہ میں شامل ہوجائے اور جنت حاصل کرے۔

سورة البقرة کے دوسرے حصے کا نظمِ جلی (آیات: 40 تا 142)

سورة البقرة کا دوسرا حصہ بھی چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- پہلے پیراگراف (آیات 40 تا 46) میں، بنی اسرائیل (بالخصوص یہودیوں) کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ ﴿وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنی ذات پر غور کرنے کا مطالبہ کیا گیا (آیت: 44)

ملاقاتِ رب پر یقین کے ساتھ جہاد ﴿الصبر﴾ اور نماز ﴿الصلوٰة﴾ سے مدد لینے کا حکم دیا گیا (آیت: 45)

2- دوسرے پیراگراف (آیات 47 تا 48) میں، بنی اسرائیل کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اُس دن کوئی کام نہ آئے گا۔

3- تیسرے پیراگراف (آیات 49 تا 79) میں، بنی اسرائیل پر اللہ کے 'احسانات' کا تذکرہ کیا گیا اور پھر انہیں ان کی 'نافرمانیوں اور جرائم' سے آگاہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ تورات سے نوازا۔ من وسلویٰ نازل کیا۔ بادلوں کا سایہ کیا۔ بارہ چشمے جاری کیے وغیرہ۔ لیکن بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کردی۔ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ آیاتِ الٰہی کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ گائے کو ذبح کرنے میں لیت ولعل سے کام لیا۔ تحریف آیات سے کام لیا، دنیاوی فائدوں کے لیے آیات گھڑ کر اللہ سے منسوب کیں وغیرہ۔

4- چوتھے پیراگراف (آیات 80 تا 89) میں، بنی اسرائیل کو اُن کے نسلی تعصب اور تفاخر پر ملامت کی گئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوزخ میں صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے۔ جنت ان کا نسلی استحقاق ہے۔ ﴿ لَـــنْ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدَةً ﴾

آیت 83 میں، دس (10) نکاتی میثاق بنی اسرائیل ﴿وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِیۡثَاقَ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ﴾ کا ذکر ہوا۔ جن کی دفعات یہ تھیں۔ توحید، والدین، اقرباء، یتامیٰ اور مساکین سے حسنِ سلوک، حسن کلام، اِقامتِ نماز، ایتائے زکوٰۃ، قتلِ نفس سے اجتناب اور جلاوطنی کی ممانعت کی گئی۔

آیات 84 تا 89 میں، بنی اسرائیل کے ﴿اِثۡم وَعُدۡوَان﴾ کا ذکر کیا گیا۔ وہ اللہ کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے اور بندوں کے حقوق بھی۔ وہ لوگوں کو پہلے جلاوطن کرتے، پھر فدیہ لے کر دوبارہ شہریت عطا کرتے۔

بنی اسرائیل کی جزوی پیروی (Partial Submission) ﴿اَفَتُؤۡمِنُوۡنَ بِبَعۡضِ الۡكِتٰبِ وَتَكۡفُرُوۡنَ بِبَعۡضٍ﴾ کی سزا بتائی گئی کہ اس جرم کے مرتکب افراد کو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں آگ کی سزا دی جائے گی۔

5- پانچویں پیراگراف (آیات 90 تا 123) میں، بنی اسرائیل کے نسلی تعصب اور ﴿بَغۡی﴾ کا ذکر کیا گیا، جس کے سبب وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔

بنی اسرائیل کے کفر کی وجہ ﴿بَغۡی﴾ اور اُن کا نسلی تعصب ہے۔ ﴿اَنۡ يَّكۡفُرُوۡا بِمَآ اَنۡزَلَ اللّٰهُ بَغۡيًا﴾ وہ لوگوں پر دست درازی کر کے ان کا استحصال کرنا چاہتے تھے۔ (آیت:90)

وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے خاندان کے رسولوں پر نازل کردہ وحی پر ایمان لائیں گے اور خاندان سے باہر یعنی بنی اسمٰعیل کے نبی (محمد ﷺ) پر نازل کردہ وحی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ﴿نُؤۡمِنُ بِمَآ اُنۡزِلَ عَلَيۡنَا وَيَكۡفُرُوۡنَ بِمَا وَرَآءَهٗ﴾ (آیت:91)

آیات:92 تا 105 میں، بنی اسرائیل کے جرائم گنوائے گئے۔ بچھڑے کو خدا بنالیا۔ عہد کرنے کے بعد ﴿سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا﴾ کہا۔ دنیاوی زندگی کے حریص ہیں۔ ﴿اَحۡرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ﴾۔ حضرت جبریلؑ سے دشمنی کرلی۔ عہد و میثاق کرنے کے بعد اُسے اُٹھا کر پھینک دیا۔ ہاروت وماروت سے جادو سیکھ کر خاندانی نظام کو تباہ کیا وغیرہ۔

آیات:106 تا 109 میں، بنی اسرائیل کے ﴿حسد﴾ کا پول کھولا گیا ﴿حَسَدًا مِّنۡ عِنۡدِ اَنۡفُسِهِمۡ﴾۔ حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر دیکھنا چاہتے ہیں۔

آیات:110 تا 115 میں، بنی اسرائیل کی نسل پرستی اور خوش فہمیوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں ہی کو جنتی سمجھتے ہیں، جب کہ ہر شخص جنت میں داخل ہوسکتا ہے، بشرطیکہ وہ ایمان لا کر عملِ صالح کرے۔ ﴿لَنۡ يَّدۡخُلَ الۡجَنَّةَ اِلَّا مَنۡ كَانَ هُوۡدًا اَوۡ نَصٰرٰى﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

آیات:116 تا123 میں، صاف صاف بتایا گیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ کن فیکونی اختیارات کا مالک ہے۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، جب تک کہ یہ ان کی پیروی نہ کریں۔ آخر میں یہود و نصاریٰ کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔

آیت:122 میں، آیت 47 کا اعادہ کر کے قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔

6- چھٹے اور آخری پیراگراف (آیات 124 تا 141) میں، بنی اسرائیل کو اپنے جدِامجد حضرت ابراہیمؑ اور آباء کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔

انہیں بتایا گیا کہ خود حضرت ابراہیمؑ کو سب کا امام بنایا گیا تھا ﴿اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا﴾ لیکن ان سے بھی صاف صاف کہہ دیا گیا تھا ﴿لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ﴾ کہ یہ امامت، ایمان اور عمل سے مشروط ہے، آپ کی نسل کے ﴿ظالمین﴾ اور مشرکین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ (آیت:124)

حضرت یعقوبؑ نے بھی مرنے سے پہلے اپنے تمام بیٹوں سے ایک خدا کی پرستش کا عہد لیا تھا۔ (آیت:133)

محمد ﷺ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپؐ کی بعثت دعائے ابراہیمی ہی کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اہلِ کتاب کو دینِ ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ ﴿بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا﴾ (آیت:135)

اہلِ کتاب کو رسولوں میں تفریق نہ کرنے اور بنی اسمٰعیل میں اٹھائے جانے والے آخری رسول محمد ﷺ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ (آیت:136)

یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کر اللہ کا رنگ ﴿صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً﴾ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ (آیت:138)

سورۃ البقرۃ کے دوسرے حصے کا مرکزی مضمون

بنی اسرائیل کو، آخری رسول محمد ﷺ کی آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور انہیں امامت کی فضیلت کے منصب سے معزولی کے اسباب تفصیلی طور پر بتائے گئے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ البقرۃ کے تیسرے حصے کا نظمِ جلی (آیات: 143 تا 283)

سورۃ البقرۃ کا تیسرا حصہ بھی بارہ (12) پیرگرافوں پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں نئی امتِ مسلمہ کو 'آخری شریعت' کے احکام دیئے گئے ہیں۔

تیسرے حصے کے نظم کی خصوصیت:

تیسرے حصے میں مختلف قسم کے احکامات کے درمیان ﴿اِنفاق﴾ اور ﴿جہاد﴾ کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام کے مکمل نفاذ کے لیے اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے، جس کے لیے مال کا جہاد یعنی ﴿انفاق﴾ اور جان کا جہاد یعنی ﴿قتال﴾ ضروری ہے۔

1- پہلے پیراگراف (آیات 142 تا 152) میں، ﴿شہادت عَلَي النَّاس﴾ کے منصب پر ﴿اُمتِ وَسَط﴾ کے تعین کا ذکر ہے۔

بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر دیا گیا۔ خانۂ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ (آیت: 144)

www.KitaboSunnat.com

تحویلِ قبلہ: تحویلِ قبلہ کا حکم 2ھ میں دیا گیا۔ اس سے پہلے سولہ (16) ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔

تحویلِ قبلہ کے حکم کے دو مطلب تھے۔

(a) امامت بنی اسرائیل سے بنی اسمٰعیل کی طرف منتقل کر دی گئی ہے۔

(b) اپنے قبلہ یعنی خانۂ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے۔ مسلمانوں نے یہ ہدف چھ سال بعد (رمضان 8ھ میں) حاصل کیا۔

تحویلِ قبلہ کے معاملے میں یہودیوں سے نہ ڈرنے کی ہدایت کی گئی ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ (آیت: 150)

آخری امت سے مشروط وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اللہ کو یاد رکھیں گے، تو اللہ بھی انہیں یاد رکھے گا ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (آیت: 152)

جہاد ﴿صبر﴾ اور نماز سے کام لینے کی ہدایت کرتے ہوئے بشارت دی گئی کہ صابرین اور مجاہدین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ (آیت: 153)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یہاں ﴿ صابرین ﴾ سے مراد میدانِ جنگ میں ثابت قدمی دکھانے والے ﴿ مُجاھدین ﴾ ہیں۔اس پیرا گراف میں جہاد کی تمہید ہے۔(آیات:153۔157)

2- دوسرے پیرا گراف (آیات:153 تا158) میں، حج اور عمرے کے احکام بیان کیے گئے۔

جہاد اور حج میں کئی پہلوؤں سے مماثلت پائی جاتی ہے۔

3- تیسرے پیرا گراف (آیات:159 تا167) میں عقیدۂ توحید پر زور دیا گیا، جس کے بغیر احکام پر صحیح عمل درآمد نہیں ہوسکتا۔

توحید ربوبیت کے دلائل فراہم کئے گئے ہیں اور شرک کا اِبطال کیا گیا ہے۔

4- چوتھے پیرا گراف (آیات:168 تا176) میں حلال وحرام کے احکام بیان کیے گئے۔

زمین کی تمام پاک چیزوں کو حلال کیا گیا۔حلال وحرام کے معاملے میں ﴿مَا الفَینَا عَلَیہِ اٰبَاءَنَا﴾ کے بجائے ﴿مَا اَنزَلَ اللّٰہ﴾ کی پیروی کا حکم دیا گیا۔چار چیزیں مردار، خون، سور کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا گیا۔حالتِ اضطرار میں چھوٹ دی گئی۔﴿مَا اَنزَلَ اللّٰہ﴾ کے چھپانے ﴿ کِتمان﴾ کی سزا دوزخ کی آگ ہوگی۔

5- پانچویں پیرا گراف (آیت:177) میں احکام کی روح بیان کی گئی۔اس آیت کو ﴿ آیۃُ البِرّ﴾ کہتے ہیں۔

سچے اور متقی لوگ وہی ہیں، جو مشرق ومغرب کی طرف رخ کرنے کو زیادہ اہمیت دینے کے بجائے، ایمان لاکر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔نماز وزکوٰۃ کے علاوہ عہد کو پورا کرتے ہیں اور جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

6- چھٹے پیرا گراف (آیات:178 تا189) میں، قصاص، وصیت، صوم، رشوت وغیرہ کے احکام بیان کیے گئے۔

(a) قصاص کو فرض کیا گیا۔مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں تو فدیہ دیا جاسکتا ہے۔

قانونِ قصاص کو زندگی کہا گیا۔﴿وَلَکُمۡ فِی الۡقِصَاصِ حَیٰوۃٌ﴾ (آیت:178،179)

(b) رمضان کے روزے فرض کئے گئے۔ مسافروں اور بیماروں کو قضاء روزوں کی سہولت عطا کی گئی۔(آیت:183،184)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) حاکموں کو رشوت دے کر باطل طریقے سے مال کھانے کی ممانعت کی گئی۔ (آیت:188)

7- ساتویں پیراگراف (آیات:190 تا207) میں جہاد، انفاق اور حج کے احکام بیان کیے گئے۔

(یہاں جہاد کا مضمون دوسری مرتبہ آیا ہے۔) حج کے مہینوں کا تعین چاند سے ہوگا۔

پھر جہاد و قتال کا حکم دیا گیا۔ جہاد و قتال کا مقصد فتنوں کا خاتمہ ہے ﴿وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ﴾ (آیت:193)

﴿انفاق﴾ میں احسان کا حکم دیا گیا۔ عدمِ انفاق کا انجام اجتماعی خودکشی ہے اور انفاق پر محبتِ الٰہی کی ضمانت دی گئی (آیت:195)

حج کے احکام بتائے گئے اور زادِ راہ ساتھ لے جانے کا حکم دیا گیا۔ (آیات:196 تا203)

حج کے بعد ﴿طاغوت﴾ کا ذکر ہوا۔ ﴿طاغوت﴾ وہ سرکش قوت ہے، جس سے ﴿جہاد﴾ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

اس کی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ فسادی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے اور ہری بھری کھیتیاں اجاڑ دیتا ہے۔ یہ جہنمی ہوگا۔ اس کے خلاف لڑنے والے نیک لوگ ﴿مَرْضَاتِ اللّٰهِ﴾ یعنی اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ (آیات:204 تا207)

8- آٹھویں پیراگراف (آیات:208 تا213) میں کامل اسلام کا مطالبہ کیا گیا۔

مسلمانو! پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ﴿اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ (آیت:208)

شیطان کے راستے پر نہ چلو۔

مسلمانوں کو، بنی اسرائیل کی طرح ﴿بغی﴾ یعنی زیادتی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ (آیت:213)

9- نویں پیراگراف (آیات:214 تا218) میں انفاق و جہاد کے احکام بیان کیے گئے۔

(یہاں جہاد کا مضمون تیسری مرتبہ بیان ہوا ہے)

﴿جہاد﴾ میں شرکت اور آزمائشوں کے بغیر، جنت میں داخلے کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔

﴿انفاق﴾ کی ترغیب اور ناگوار چیزوں میں بھی موجود خیر کی وضاحت کر دی گئی۔

ایمان لا کر ہجرت اور جہاد کرنے والے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ (آیت:218)

10- دسویں پیراگراف (آیت 219 تا 242) میں شراب، یتامٰی، نکاح، حیض، قسم، ایلاء، طلاق، رضاعت، عدت، مہر وغیرہ کے معاشرتی احکام بیان کیے گئے۔

(a) شراب اور جوئے میں فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں (219) شراب کے بارے میں یہ پہلا تدریجی حکم تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پھر سورۃ نساء کی آیت:143 اور حتمی طور پر حرمتِ شراب کے لیے المائدہ کی آیت:90 نازل ہوئی۔

(b) یتامیٰ کے اموال کے ساتھ شراکت کی اجازت دی گئی (آیت:220)

(c) مشرک عورتوں سے نکاح کو حرام ٹھہرایا گیا (آیت:221)

(d) حیض کی حالت میں بیویوں کے پاس جانے کی پابندی عائد کی گئی (آیت:222)

(e) ﴿اِیلاء﴾ کے سلسلے میں وضاحت کی گئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ہاتھ لگانے کی قسم کھالیں، ان کے لیے چار ماہ کی مدت ہے۔ اسکے اندر انہیں رجوع کرنا چاہیے یا طلاق دے دینا چاہیے۔ معلق نہیں لٹکانا چاہیے (آیت:226)

(f) طلاق کی عدت تین ﴿ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ﴾ بیان کی گئی (آیت:228)

(g) حمل چھپانے سے روکا گیا (آیت:228)

(h) عورتوں کے حقوق مردوں کی طرح ہی ہیں، لیکن مردوں کا ایک درجہ بڑا ہے (آیت:228)

(i) طلاق دو مرتبہ ہے۔ دو مرتبہ رجوع کیا جاسکتا ہے۔ (آیت:229)

(j) تیسری طلاق کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے (آیت:230)

(k) خلع: بیوی شوہر کا دیا ہوا مہر واپس کر کے خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے (آیت:229)

(l) تیسری مرتبہ طلاق کے بعد، سابقہ بیوی صرف اُس صورت میں حلال ہوسکتی ہے، جب عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے اور وہ مر جائے یا اُسے طلاق دے دے (آیت:230)

(m) بیویوں اور عورتوں سے حسنِ سلوک کی نصیحت کی گئی (آیات:231،232)

(n) رضاعت کے سلسلے میں بتایا گیا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے۔

(o) باپ کے ذمے بچے کے اخراجات ہیں۔ (آیت:233)

(p) بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن ہے (آیت:234) عدت میں نکاح اور پیغامِ نکاح کی ممانعت کر دی گئی (آیت:235)

(q) مہر: رخصتی سے پہلے طلاق دی جائے تو نصف مہر ادا کرنا ہوگا، لیکن دونوں فریق فیاضی اور احسان کا مظاہرہ کر سکتے ہیں (آیات:236،237)

(r) مطلقہ عورتوں کو مہر اور متاع سے نوازنا ضروری قرار دیا گیا (آیات:241،242)

11- گیارہویں پیراگرف (آیات 243 تا 274) میں جہاد و انفاق کے احکام بیان کیے گئے۔

(یہاں جہاد اور انفاق کا مضمون چوتھی مرتبہ بیان ہوا ہے۔)

اس گیارہویں ذیلی پیراگراف (آیات 243 تا 274) کے نظم پر غور فرمائیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

آیت نمبر:243 بنی اسرائیل کے جہاد سے متعلق ہے۔

آیت نمبر:244 میں امتِ مسلمہ کو جہاد کا حکم دیا گیا۔

آیت نمبر:245 میں، ﴿قرضِ حسنہ﴾ کے ذریعے جہاد کے لیے ﴿اِنفاق فِی سَبِیل اللّٰه﴾ کا مطالبہ کیا گیا۔

آیات نمبر:246 تا 250 میں، بنی اسرائیل کے جہاد کا ذکر ہے، جو حضرت ﴿طالُوتؑ﴾ کی قیادت میں کیا گیا اور ﴿جالُوت﴾ کو شکست دی گئی۔

آیت نمبر:251 تا 253 میں، مقصدِ جہاد کی وضاحت ہے۔ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک ظالم قوم کو دفع کرتا ہے، ورنہ زمین فساد سے بھر جائے۔ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات پر فضل فرماتا ہے ﴿وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾ (آیت:251)

آیت نمبر:254 میں، مسلمانوں کو ﴿اِنفاق فِی سَبِیل اللّٰه﴾ کا حکم ہے۔ اس کے بعد 6 آیات پر مشتمل جملۂ معترضہ ہے۔ (آیت 255 تا 260)۔ ﴿اِنفاق فِی سَبِیل اللّٰه﴾ کا یہ مضمون آیت نمبر 261 سے دوبارہ شروع ہوتا ہے اور 14 آیات کے بعد آیت نمبر 274 پر ختم ہوتا ہے۔

جملۂ معترضہ:

آیت نمبر:255۔ آیۃُ الکُرسی ہے۔ اس میں اللہ کی صفات کے ذریعے، اللہ کی ذات کا تعارف کرایا گیا ہے۔

آیت نمبر:256 میں ﴿رُشد﴾ اور ﴿غیّ﴾ کا فرق بیان کر کے، جہاد کی دو قسمیں بتائی گئیں ہیں۔ اللہ کے لیے جہاد اور طاغوت کے لیے جہاد۔ اللہ کے سہارے کو مضبوط سہارا کہا گیا ہے۔

آیت نمبر:257 میں، آیت الکرسی کی صفات والے خدا ﴿اللّٰه﴾ کو مسلمانوں کا ولی اور ﴿طاغوت﴾ کو کافروں کا ﴿ولی﴾ بتایا گیا ہے۔

آیت نمبر:258 میں، ﴿رُشد﴾ کی مثال حضرت ابراہیمؑ سے اور ﴿غیّ﴾ کی مثال نمرود سے دی گئی ہے، جو اپنے وقت کا ﴿طاغوت﴾ تھا اور جس نے زندگی اور موت کے اختیارات کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود منکرِ آخرت بھی تھا۔ حضرت ابراہیمؑ نے آخرت کی پہلی عقلی دلیل دے کر نمرود کو ششدر کر دیا۔

آیت نمبر:259 میں، دوسری دلیلِ آخرت فراہم کی گئی۔ ﴿طاغوت﴾ سے مقابلے کے لیے جہاد سے پہلے آخرت پر یقین کامل لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو 100 سال کی موت کے بعد زندگی عطا کی۔

آیت نمبر:260 میں، تیسری دلیلِ آخرت فراہم کی گئی۔ حضرت ابراہیمؑ کو، چار پرندے لے کر مانوس کرنے اور پھر انہیں ذبح کر کے چار مختلف پہاڑوں پر رکھ کر آواز دینے کا حکم دیا گیا۔ پرندے زندہ ہو کر آ گئے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

آیات نمبر: 261 تا 274 میں، ﴿انفاق فی سبیل اللہ﴾ کا مضمون، دوبارہ بحال ہو گیا۔
اِنفاق کے آداب بیان کیے گئے۔ انفاق اللہ کے لیے ہو، احسان نہ جتایا جائے۔ تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ چھانٹ چھانٹ کر گندا مال نہ دیا جائے۔ چھپا کر دینا بہتر ہے۔ انفاق میں ریاء کاری نہ ہو۔ انفاق دل کی تثبیت کے ساتھ ہو۔
انفاق کے بعد سود کی حرمت کا ذکر ہوا، کیونکہ یہ فیاضی اور بخل پر مشتمل دو متضاد انسانی رویے ہیں۔

12- بارہویں پیراگراف (آیات: 275 تا 283) میں سود، قرض اور رہن کے احکام بیان کیے گئے۔

تیسرے حصے کے بارہویں ذیلی پیراگراف میں معاملات کے احکام ہیں۔

(a) آیات نمبر: 275 تا 281 میں سود کی حرمت کے احکام ہیں۔ اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ سود خوروں سے اعلانِ جنگ کیا گیا۔ سود خوروں کو دوزخی کہا گیا۔

(b) آیت نمبر: 282 میں قرض کے احکام ہیں۔ قرض کی دستاویز لکھ لی جائے اور گواہ بنا لیے جائیں۔ گواہ دو (2) مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ اس حکم کا مقصد سماجی اور معاشی عدل کا قیام ہے۔

(c) آیت نمبر: 283 میں رہن کے احکام ہیں۔ سفر میں ﴿رِھٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ﴾ کی سہولت دیتے ہوئے تقویٰ کے ساتھ برحق گواہی دینے اور گواہی نہ چھپانے کا حکم دیا گیا۔

سورۃ البقرۃ کے تیسرے حصے کا مرکزی مضمون

آخری امت کو، اپنے منصبِ امامت کا احساس کرتے ہوئے، ﴿اُمَّـةً وَّسَطًا﴾ کے حقیقی مصداق بن کر، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر، آخری رسول محمد ﷺ کی آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی سے عمل کرتے ہوئے ﴿شھادت علی الناس﴾ کے فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔

سورۃ البقرۃ کے چوتھے اور آخری حصے کا نظمِ جلی (آیات: 284 تا 286)

سورۃ البقرۃ کا چوتھا اور آخری حصہ تین (3) آیات پر مشتمل ہے۔ اس آخری حصے کا پچھلے تین (3) حصوں سے گہرا تعلق ہے، بالخصوص احکامات سے متعلق تیسرے حصے سے۔ اس اختتامی حصے کی حیثیت خلاصہ کی سی ہے۔

1- آیت 284 میں، بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک ﴿اللہ﴾ امامت کی تبدیلی کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ ﴿عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْر﴾ ہے۔
زمین و آسمان کا مالک ﴿اللہ﴾ قیامت کے دن آخری شریعت کے اِن احکامات پر عمل درآمد کا محاسبہ، نیت اور عمل کے مطابق کرے گا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- آیت 285 میں، واضح کیا گیا کہ آخری شریعت اور اُس کے احکام پر سب سے پہلے خود رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ ایمان لے آئے۔

امتِ مسلمہ، بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح رسولوں میں تفریق نہیں کرتی۔ وہ دونوں خاندانوں کے رسولوں پر ایمان رکھتی ہے۔ امتِ مسلمہ ﴿سَمِعۡنَا وَاَطَعۡنَا﴾ کہتی ہے۔ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح ﴿سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا﴾ نہیں کہتی، جس کا ذکر آیت 93 میں کیا گیا تھا۔

3- آخری آیت 286 میں، آخری امت کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حسبِ ذیل اصول ذہن نشین کر لیں۔

(a) مسلمان آخری شریعت کے احکام پر حسبِ استطاعت عمل کر سکتے ہیں۔ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا﴾

(b) برائیوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا ملے گی۔ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا اكۡتَسَبَتۡ﴾

(c) نسیان اور خطا (بھول چوک) پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ اِنۡ نَّسِيۡنَاۤ اَوۡ اَخۡطَاۡنَا﴾

(d) آزمائشوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ﴾

(e) کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ولی اور کارساز ﴿مَوۡلٰٮنَا﴾ مان کر، اس سے مضبوط روحانی تعلق قائم کرنا چاہیے، جو عفو و درگزر، مغفرت اور رحمت کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ﴿وَاعۡفُ عَنَّا وَاغۡفِرۡ لَنَا وَارۡحَمۡنَا اَنۡتَ مَوۡلٰٮنَا﴾

(f) قیامت تک امتِ مسلمہ کا اصل مقابلہ، بنی اسرائیل کے کفار کے ساتھ ہوگا۔ کافروں پر غلبے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے اس لیے جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ، اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے ﴿فَانۡصُرۡنَا عَلَى الۡقَوۡمِ الۡكٰفِرِيۡنَ﴾۔

سورة البقرة کے آخری حصے کا مرکزی مضمون

اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کی بنیاد پر آخری امت کو آخری شریعت کے احکام پر، نیک نیتی کے ساتھ، حسبِ استطاعت عمل کرنا چاہیے، تا کہ کافروں پر (بالخصوص اہلِ کتاب پر) غلبہ حاصل ہو سکے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — MACRO-STRUCTURE

نظمِ جلی — ترتیبی نقشہ ربط

03- سُورَۃُ اٰل عِمرَان

آیات : 200 ...... مَدَنِیّۃ ...... پیراگراف : 7

دوسرا حصہ	پہلا حصہ
اُمّتِ مسلمہ سے متعلق	اہلِ کتاب سے متعلق
(آیات:102 تا 200)	(آیات:1 تا 101)



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

-1 سورۃ ﴿آل عمران﴾ کا زیادہ تر حصہ جنگِ اُحد کے بعد، 3 ہجری میں نازل ہوا، جب کئی صحابہ کی شہادت کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے مسائل حل طلب ہو گئے تھے۔

-2 آیات 33 تا 70 غالباً نو (9) ہجری میں نازل ہوئیں، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد مدینہ آیا تھا اور اُنہیں مباہلے کی پیش کش کی گئی تھی۔

سورۃ آل عمران کی فضیلت

روزِ قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے آل عمران اور البقرہ دو بادلوں، دو سایوں اور دو روشنیوں کی صورت میں ظاہر ہو کر جھگڑیں گی۔ (صحیح مسلم: کتاب فضائلِ قرآن، باب 42، حدیث 1,910، عن ابی اُمامۃ الباھلیؓ)

سورۃ آل عمران کا کتابی ربط

-1 سورۃ ﴿الفاتحۃ﴾ میں مذکور ﴿الضَّآلِّین﴾ قومِ نصاریٰ کے خلاف فردِ جرم کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے۔
سورۃ البقرۃ کے آخر میں دُعا سکھائی گئی تھی کہ کافروں پر غلبے کے لیے اللہ سے مدد طلب کی جائے ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾۔ یہاں سورت ﴿آل عمران﴾ میں کافروں پر غلبے کی چار (4) تدبیریں بیان کی گئی ہیں۔
غزوہ احد کی شکست پر تبصرہ کر کے اتحاد و تنظیم کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔

-2 سورت ﴿آل عمران﴾ کے آخری حصے میں جنگِ اُحد کی شکست پر تبصرہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق، تنظیم کے استحکام اور اجتماعیت کے قیام کی ہدایات دی گئیں ہیں۔ اگلی سورت ﴿النساء﴾ کا مرکزی مضمون ہی اجتماعیت ہے کہ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت ناگزیر ہے۔

سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران کی مشترک خصوصیات

-1 سورۃ البقرۃ کے دوسرے حصے میں، اہلِ کتاب بالخصوص یہود کے خلاف فردِ جرم عائد کی گئی تھی، یہاں سورۃ ﴿آل عمران﴾ کے پہلے حصے میں، اہلِ کتاب بالخصوص نصاریٰ کے خلاف فردِ جرم عائد کی گئی ہے۔
سورۃ البقرۃ میں ﴿الْمَغْضُوْب﴾ کی تفصیل تھی، یہاں ﴿الضَّآلِّيْن﴾ کی تفصیل ہے۔

-2 سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر 143 میں اُمتِ مسلمہ کو ﴿اُمَّةً وَّسَطًا﴾ معتدل اور متوازن قوم کے لقب سے نوازا گیا تھا۔
یہاں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں انہیں ﴿خَيْرَ اُمَّةٍ﴾ بہترین اُمت کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3- سورۃ البقرۃ میں بھی اہلِ کتاب کو ﴿ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ﴾ کے الفاظ سے اسلام کی دعوت دی گئی تھی، یہاں سورۃ ﴿آل عمران﴾ میں بھی انہیں ﴿ ءَ اَسْلَمْتُمْ ؟ ﴾ کے الفاظ سے اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔

4- دونوں سورتوں کا اختتام جامع دُعاؤں پر ہوا ہے جو غلبۂ اسلام کے لیے ﴿تعلق باللہ﴾ کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- سورۃ ﴿آل عمران﴾ میں اہلِ کتاب کو بار بار یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اِلٰہ نہیں۔
(آیات: 2، 6، 18، 63 اور 64)

2- اس سورت میں ﴿الاسلام﴾ کی حقانیت ثابت کر کے تمام انسانوں بالخصوص اہلِ کتاب کو اسلام قبول کر لینے کا مشورہ دیا گیا۔

(a) اہلِ کتاب کو صاف بتا دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف ﴿الاسلام﴾ ہے۔ ﴿اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ﴾ (آیت:19)

(b) سلبی طریقے سے صاف صاف بتا دیا گیا کہ جو شخص ﴿اسلام﴾ کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا، وہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ﴿وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آیت:85)

(c) مسلمانوں کی زبان سے کہلوایا گیا کہ ہم رسولوں میں امتیاز نہیں کرتے (کہ کون سا رسول بنی اسرائیل میں سے ہے اور کون سا رسول بنی اسمٰعیل میں سے) ہم تو اللہ کے آگے جھکنے والے ﴿مُسلِمُون﴾ ہیں۔ (آیت:84)

(d) اللہ تعالیٰ ﴿اسلام﴾ لانے کے بعد کفر کا حکم نہیں دیتا۔ (آیت:80)

(e) مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی موت ﴿اسلام﴾ کی حالت ہی میں آنی چاہیے ﴿وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُم مُّسْلِمُوْنَ﴾ (آیت:102)۔

(f) حضرت عیسیٰ کے تمام حواریوں نے گواہی دی تھی کہ ہم مسلمان ﴿مُسلِمُون﴾ ہیں۔ (آیت:52)

(g) اہلِ کتاب سے مجادلہ کر کے اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ وہ منہ موڑ لیں تو خود یہ گواہی دینا کہ ہم ﴿مُسلِمُون﴾ ہیں (آیت:64)۔

(h) زمین آسمان کی ہر چیز ''طوعاً و کرھاً'' ﴿مُسلِم﴾ ہے۔ (آیت:83)

(i) حضرت ابراہیمؑ یہودی یا عیسائی بھی نہیں تھے اور مشرک بھی نہیں تھے، بلکہ ﴿مُسلِم﴾ حنیف تھے۔ (آیت:67)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(j) بنی اسرائیل (یہود ونصاریٰ) اور بنی اسمٰعیل کے ﴿اُمِّیّٖنَ﴾ (مشرکینِ مکہ) دونوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ (آیت 20)

3- سورۃ ﴿آل عمران﴾ کی مندرجہ ذیل آیات میں اہلِ کتاب کے بارے میں تفصیلات بیان کر کے احکام دیے گئے۔ (آیات 19، 20، 23، 61، 64، 65، 66، 69، 70، 71، 72، 74، 98، 99، 100، 110، 113، 186، 187، 199)۔

4- سورۃ ﴿آل عمران﴾ میں ﴿اُمِّیّٖنَ﴾ کے لفظ کا استعمال ایک خاص مفہوم رکھتا ہے۔

(a) بنی اسرائیل نسلی تعصب اور تفاخر میں مبتلا ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں ﴿لَیْسَ عَلَیْنَا فِی الْاُمِّیّٖنَ سَبِیْلٌ﴾ یعنی بنی اسمٰعیل کے ﴿اُمِّیّٖنَ﴾ کے مال ہڑپ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں (آیت 75)

(b) رسول اللہ ﷺ کو ہدایت کی گئی کہ وہ بنی اسرائیل کے علاوہ، بنی اسمٰعیل ﴿اُمِّیّٖنَ﴾ کو بھی اسلام کی دعوت دیں (آیت 20)۔

5- اس سورت میں قرآن مجید کو ﴿الفُرقان﴾ کہا گیا، کیونکہ یہ تورات وانجیل کی تحریفات کا پول کھولتا ہے۔ (آیت 4)

6- متشابہات سے بچنے کا حکم: اس سورت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ متشابہات کی تاویل کے فتنے میں گرفتار نہ ہوں۔ جن کے دلوں میں ﴿زیغ﴾ یعنی ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ (تمام گمراہ فرقے) متشابہات کی پیروی کرتے ہیں (آیت 7)۔ مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی ﴿لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنَا﴾ "اے اللہ! ایمان کی ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر!" (آیت 8)

7- امامت کی تبدیلی: ﴿تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ﴾ کے الفاظ سے امامت کی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل سے ﴿فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِیْنَ﴾ کا تاج چھین کر امتِ مسلمہ کے سر پر ﴿اُمَّةً وَّسَطًا﴾ کے اعزاز کے ساتھ رکھا گیا ہے (آیت 26)۔

8- اس سورت میں ﴿اُولُوا الْاَلْبَاب﴾ اور ﴿اولی الابصار﴾ کے الفاظ کے ذریعے عقل مندوں کی صفات بیان کی گئیں

(a) ﴿اُولُوا الْاَلْبَاب﴾ یعنی عقل مندوں کی وضاحت کی گئی کہ یہ لوگ متشابہات کی تاویل نہیں کرتے (آیت 8)۔ محکمات کی پیروی کرتے ہیں۔

(b) ﴿اُولُوا الْاَلْبَاب﴾ یعنی عقل مندوں کی وضاحت کی گئی کہ یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات پر غور وفکر کر کے عقیدۂ توحید اختیار کر لیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں (آیت 190)۔

(c) ﴿اُولُوا الابصار﴾ یعنی عقل مندوں کو دعوت دی گئی کہ وہ جنگِ بدر سے نصیحت حاصل کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے گروہ کو ایک بڑے گروہ پر فتح اور نصرت عطا فرمائی (آیت 13)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

9- سورۃ ﴿آل عمران﴾ میں بار بار حضرت ابراہیمؑ کا ذکر کر کے اہلِ کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔

(a) ﴿آلِ ابراہیم﴾ کو سارے عالم میں برگزیدہ کیا گیا (آیت:33)۔

(b) تورات اور انجیل ﴿ابراہیمؑ﴾ کے بعد نازل کی گئیں (آیت:65)۔ (حضرت ابراہیمؑ کا زمانہ 2,100 ق م ہے، جب کہ 1,300 ق م میں حضرت موسیٰؑ پر تورات نازل کی گئی اور اس کے 1,300 سال بعد حضرت عیسیٰؑ پر انجیل نازل کی گئی)۔

(c) حضرت ﴿ابراہیمؑ﴾ یہودی یا نصرانی نہیں تھے۔ (آیت:67)

(d) حضرت ﴿ابراہیمؑ﴾ سے قریب تر، محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کے صحابہؓ ہیں (آیت:68)۔

(e) مسلمان، یہودیوں کی طرح متعصب نہیں ہوتے، سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں (آیت:84)۔

(f) بنی اسرائیل کو ﴿فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا﴾ کے الفاظ سے ملتِ ابراہیمؑ کی پیروی کرنے کی ہدایت کی گئی (آیت:95)۔

(g) ﴿مقامِ ابراہیم﴾ مکہ میں وہ جگہ ہے، جہاں حضرت ابراہیمؑ کھڑے ہوتے تھے (آیت: 97)۔

سورۃ ال عمران کے دو بڑے حصے اور نظمِ جلی

دوسو (200) آیات پر مشتمل، اس سورۃ ال عمران کے دو (2) بڑے حصے اور سات (7) پیراگراف ہیں۔
پہلے حصے میں چار (4) پیراگراف ہیں اور دوسرے میں تین (3) پیراگراف۔

1- پہلا حصہ ابتدائی ایک سو ایک (101) آیات پر مشتمل ہے، جو اہلِ کتاب (بالخصوص عیسائیوں) سے متعلق ہے۔

2- دوسرے حصے (آیات 102 تا 200) میں، مسلمانوں کو اہلِ کتاب اور دیگر کافرین پر فتح و نصرت کے لیے تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں۔

سورۃ آل عمران کا نظمِ جلی

سورۃ آل عمران کا نظمِ جلی سات پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 9 : پہلا پیراگراف تمہیدی ہے۔ قرآن ﴿الفرقان﴾ ہے، جو اہلِ کتاب کی تحریفات کا پول کھول دیتا ہے

اہل کتاب (بالخصوص عیسائیوں) کو دعوت توحید و اسلام دی گئی ہے اور قرآن کا تعارف کرایا گیا ہے کہ یہ تورات و انجیل کی طرح اللہ کی وحی ہے۔ قرآن صحیح اور غلط کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ یہ ﴿الفرقان﴾ ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے (بغیر باپ کے بھی) اَرحام میں حمل ٹھہرا سکتا ہے۔ عیسائی متشابہات میں گرفتار ہو کر گمراہی کا شکار ہوئے۔ محکمات و متشابہات کے بارے میں، عقل مندوں کا رویہ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ محکمات اور متشابہات دونوں پر ایمان رکھنا چاہیے،

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لیکن متشابہات کی تاویل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، وہی متشابہات میں الجھتے ہیں۔
زیغِ قلب سے بچنے کے لیے دُعا سکھائی گئی ہے۔ ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا﴾

2- آیات 10 تا 32 :دوسرے پیراگراف میں اہلِ کتاب (بالخصوص عیسائیوں) کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔

﴿اُولِی الْاَبْصَارِ﴾ یعنی اہلِ بصیرت کو ہلاکتِ فرعون اور جنگِ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اہلِ کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ اللہ کے نزدیک دین، صرف الاسلام ہے۔
﴿اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ﴾ (آیت:19)۔
اہلِ کتاب اور مشرکین سے اسلام قبول کرنے کا مطالبہ، کیا تم اسلام لا کر دو گے؟ ﴿ءَاَسْلَمْتُمْ ؟﴾ (آیت:20)
یہودیوں کو محبتِ الٰہی کا دعویٰ کرنے کے بجائے، محمد ﷺ کی اِطاعت کا حکم دیا گیا ﴿فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ﴾
اہلِ کتاب کو اللہ اور اُس کے آخری رسول محمد ﷺ کی اطاعت کی ہدایت کی گئی۔

3- آیات 33 تا 63: تیسرے پیراگراف میں عیسائیوں کے (Trinity) عقیدۂ تثلیث کی تردید کے لیے حضرت مریم اور حضرت زکریاؑ کے سچے واقعات بیان کیے گئے۔

حضرت عیسیٰؑ کی نانی یعنی حضرت مریمؑ کی والدہ نے نذر مانی تھی کہ ہونے والے بچے کو اللہ کے لیے وقف کریں گی۔ حضرت مریمؑ پیدا ہوئیں تو وہ حضرت زکریاؑ کی کفالت میں دی گئیں۔ بیت المقدس میں وہ عبادت کرتیں اور اُن کے پاس معجزانہ طور پر رزق آ جاتا۔ اس پر حضرت زکریا کو تعجب ہوا اور اُنہوں نے بھی بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کی دعا کی۔ چنانچہ انہیں بھی معجزانہ طور پر بڑھاپے میں حضرت یحییٰؑ کی شکل میں بیٹا عطا کیا گیا۔ یہاں یہ ثابت کیا گیا کہ حضرت عیسیٰؑ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، جس طرح حضرت یحییٰ کی پیدائش معجزانہ طور پر بڑھاپے میں ہوئی۔
حضرتِ عیسیٰؑ کے معجزات بیان کر کے خود اُن کی زبان کے الفاظ نقل کیے گئے کہ ﴿اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ﴾۔ خود حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ پیش گوئی کی گئی کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد آپ کا انکار کرنے والوں سے زیادہ ہوگی۔
عقیدۂ تثلیث کی تردید کے لیے حضرت آدمؑ کی مثال بھی پیش کی گئی کہ اُنہیں تو نہ صرف بغیر باپ بلکہ بغیر ماں کے معجزانہ طور پر پیدا کیا گیا تھا۔
دعوتِ مباہلہ: ان تمام دلائل کے باوجود اگر کوئی عیسائی اسلام کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اُس سے مباہلہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیں اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اس کے بعد قسم کھائی جائے کہ جو جھوٹا ہوگا اُس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ آخر میں دعوتِ توحید کا اعادہ کیا گیا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4-آیات 64 تا 101: چوتھے پیراگراف میں اہلِ کتاب کے شر سے آگاہ کر کے مسلمانوں کو ان سے خبردار رہنے کی ہدایت کی گئی

اہلِ کتاب کو مکالمے کی دعوت دی گئی۔ (آیت:64)
حضرت ابراہیمؑ مسلمِ حنیف تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے جدِ امجد کا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہیے۔
اہل کتاب کے خیر و شر کی وضاحت کی گئی۔ یہ لوگ غیر یہودیوں کے مال کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ ان میں بعض اچھے لوگ بھی ہیں، جو دیانت دار ہیں۔ یہودی علماء کی تحریفِ کتاب کا پول کھول دیا گیا کہ یہ اپنی زبانوں کو ہلا ہلا کر لوگوں کو یہ تأثر دیتے ہیں کہ یہ حکم تورات میں ہے، حالانکہ وہ تورات میں نہیں ہوتا۔
یہودیوں کی خاندانی عصبیت کا رد کیا گیا۔ وہ صرف اپنے خاندان کے رسولوں پر ایمان لانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان متعصب نہیں ہوتے۔ وہ دونوں خاندانوں کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔
اہلِ کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اسلام کے علاوہ ،کوئی دوسرا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔
﴿ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْناً فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (آیت:85)
اہلِ کتاب کو اپنے جدِ امجد حضرت ابراہیمؑ کی طرح خالص توحید اختیار کرنے اور دینِ ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا۔
﴿ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفاً ﴾ (آیت:95)
اہلِ کتاب سے ﴿مجادلہ﴾ کرتے ہوئے انہیں دعوتِ اسلام دی گئی۔

5-آیات 102 تا 120: پانچویں پیراگراف میں ﴿تقویٰ﴾ کا حکم دے کر مسلمانوں کو تنظیمی ہدایات دی گئیں۔

مسلمانوں کو اللہ کا ایسا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کا حق ہے۔ ﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا﴾ کے الفاظ سے اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر مل کر پکڑنے کی ہدایت کی گئی۔ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ دعوت و تبلیغ ایک اجتماعی فریضہ بھی ہے۔
اُمتِ مسلمہ ﴿ خَيْرِ اُمَّت ﴾ ہے، اس کا نصب العین، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ امتِ مسلمہ کو میدان میں اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں ﴿اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾۔ اہل کتاب سے دردمندی کا اظہار کیا گیا کہ اگر وہ بھی اسلام لے آئیں تو کتنا اچھا ہو؟ (آیت:110)۔ اس کے بعد اہل کتاب کے شر اور اُن کے اندر پوشیدہ خیر کی چند مثالیں دی گئیں۔
کچھ لوگ اللہ کے بجائے، دنیا کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں، انہیں ان کے انجام سے خبردار کیا گیا۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ غیر مسلموں کو رازدار نہ بنائیں۔ ﴿ لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ ﴾ (آیت:118)۔ یہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی ہے۔ مسلمانوں پر واضح کیا گیا کہ تم اہلِ کتاب سے محبت کرتے ہو، لیکن اہلِ کتاب تم سے محبت نہیں کرتے ﴿ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ ﴾ (آیت:119)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

آخر میں انہیں بتایا گیا کہ صبر اور تقویٰ سے اہلِ کتاب کے شر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ (آیت:120)

6- آیات 121 تا 189: چھٹے پیراگراف میں جنگِ احد کی شکست پر تبصرہ کر کے منافقین کے کردار پر تبصرہ کیا گیا۔

جنگِ احد میں دو گروہوں کی کمزوری کا ذکر کیا گیا۔ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ وہ صبر و تقویٰ سے کام لیں۔ سود سے بچیں۔ دل کھول کر انفاق کریں۔ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کریں۔ انفاق اور جہاد کے ذریعے اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جائیں ﴿سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ﴾۔ اہلِ ایمان تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ غصے کو پی جاتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فحش کام یا گناہ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ انہیں مغفرت اور جنت عطا کی جائے گی۔

مسلمانوں کو تسلی کہ ایمان کا مظاہرہ کریں گے تو وہی غالب رہیں گے ﴿وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ (آیت:139)

اُحد کی شکست کا مقصد واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو چھانٹنا چاہتا تھا۔ (آیت:140)

جنگ میں صبر و ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کی ہدایت۔ (آیات: 141 سے 147)

صحابہؓ کی تربیت کی گئی کہ رسول اللہ ﷺ کی موت یا شہادت ہو جائے، تب بھی دینِ اسلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔

مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ کافروں کی اِطاعت کر کے نقصان اُٹھائیں گے۔ (آیت:149)

مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اللہ اُن کا ﴿مولیٰ﴾ یعنی سرپرست ہے اور وہ کافروں کے دلوں پر رُعب طاری کر دے گا۔

اُحد میں مسلمانوں کی شکست کی وجہ، بعض لوگوں کی (1) کمزوری (2) باہمی اختلاف، (3) مالِ غنیمت کی محبت (4) رسولؐ کی نافرمانی اور (5) دنیا کی طلب تھی۔ (آیت:152)

● جنگِ اُحد میں منافقین کا کردار اور اُن کی ہوسِ اقتدار کا تذکرہ کیا گیا۔ منافقین اپنے آپ کو قیادت کے لیے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو نرمی، باہمی مشاورت اور ﴿تَوَكُّل﴾ کا حکم دیا گیا۔ ترتیب بتائی گئی کہ پہلے مشورہ کیا جائے، پھر فیصلہ کیا جائے اور پھر فیصلے پر توکل۔ تبھی محبتِ الٰہی کا نزول ہوگا (آیت:159)۔

اللہ اور اُس کے دین کی مدد کرنے کی صورت میں فتح اور غلبے کی بشارت (آیت:160)۔

منافقین کو رسول اللہ ﷺ کی اصلی حیثیت کو سمجھنے کی ہدایت! آپ ﷺ معلم بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور مُزکّی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مبعوث کر کے مومنین پر احسان کیا ہے۔ اس کے بعد منافقین کی چند صفات گنوا کر سچے مسلمانوں کی ہمت افزائی کی گئی۔ مسلمانوں کو کافروں کی دوڑ دھوپ سے مرعوب نہ ہونے اور ﴿بخل﴾ کے بجائے، دل کھول کر ﴿اِنفاق﴾ کرنے اور اہلِ کتاب کے شر اور اُن کی اذیتوں کے مقابلے میں صبر اور تقویٰ کے التزام کی ہدایت

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کی گئی اہلِ کتاب عہد شکن بھی ہیں اور نافرمان بھی۔ یہ سزا کے مستحق ہیں۔

7- آیات 190 تا 200 : ساتواں اور آخری پیراگراف اختتامیہ ہے، جس میں پوری سورت کا خلاصہ ہے۔

(a) عقل مندوں کو اسرارِ کائنات پر غور کرنے اور تعلق باللہ میں اضافے کی ہدایات دی گئیں۔

(b) مُنادی (رسول اللہ ﷺ) کی آواز پر لبیک کہنے کا حکم دیا گیا۔

(c) ہجرت و اِنفاق و جہاد اور اذیتوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔

(d) مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا کہ کافروں کا مختلف ممالک میں دندناتا، ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ﴾ (آیت:196)۔

(e) اہلِ کتاب میں سے، ایمان لا کر مسلمان ہونے والوں کی صفات بیان کی گئی (آیت:199)۔

(f) آخری آیت میں بطور خلاصہ چار (4) ہدایات دی گئیں، جن کے ذریعے کافروں پر غلبہ پایا جا سکتا ہے۔

(1) ثابت قدمی ﴿صبر﴾ (2) ﴿مُصَابَرَت﴾ ثابت قدمی کی باہمی تلقین (3) ﴿مُرَابَطه﴾ کمر بستگی اور

(4) ﴿تقویٰ﴾ یعنی خوفِ خدا اور حدود کی پاسداری۔

آل عمران کی یہ آخری آیت ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ (آیت:200) دراصل سورۃ البقرۃ کی آخری دعا ﴿فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾ (جس کا ذکر ال عمران 147 میں بھی ہوا) کا جواب ہے۔ یہ چار تدبیریں ہی کافروں پر غلبے کی ضامن ہیں۔

مرکزی مضمون

چار تدبیریں اختیار کر کے کافرین پر اور بالخصوص اہلِ کتاب پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور ﴿فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾ کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔

1- اہلِ کتاب کو اِسلام کی دعوت دی جائے۔ اُن سے مکالمہ، مُباحثہ، مُجادلہ اور مُباہلہ کیا جائے۔

2- اہلِ کتاب میں موجود ﴿خیر﴾ کو دریافت کیا جائے اور اُسے اِسلام کے حق میں استعمال کیا جائے۔

3- اہلِ کتاب میں موجود ﴿شرّ﴾ سے آگاہی حاصل کر کے، اُس سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔

4- اُمتِ مسلمہ کی صفوں کے اندر کامل اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے، تقوے کی بنیاد پر اُمّت کی تنظیم کی جائے اور جنگِ اُحد کی شکست کے

اسباب کا جائزہ لے کر، مستقبل میں داخلی کمزوریوں بالخصوص نِفاق پر قابو پایا جائے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ آل عمران کے چار (4) اہم مضامین

۱۔ اہلِ کتاب سے مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ اور مباہلہ کیا جائے:

سورۃ آل عمران کا پہلا اہم مضمون یہ ہے کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ ان سے مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ اور مباہلہ کیا جائے۔

1- اللہ کے نزدیک دین، صرف ﴿الاسلام﴾ ہے۔ ﴿اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰہِ الْاِسْلَامُ﴾ اس دینِ اسلام سے ہٹ کر جو مختلف طریقے اہل کتاب نے اختیار کیے (یعنی یہودیت اور عیسائیت) اُس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد ﴿بَغْیًا بَیْنَھُمْ﴾ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا (آیت:19)۔

2- اب اگر اے نبیؐ! یہ لوگ آپ ﷺ سے جھگڑا کریں، تو ان سے کہیے: ''میں نے اور میرے پیروؤں نے تو اللہ کے آگے سرِ تسلیم خم کر دیا ہے۔'' پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب (اُمِّیِّین) دونوں سے پوچھو: ''کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا؟'' ﴿ءَاَسْلَمْتُمْ﴾ اگر کیا تو وہ راہِ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو آپؐ پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی (آیت 20)۔

3- اللہ سے محبت کے دعوے کے بجائے، اہلِ کتاب کو آخری رسول محمد ﷺ کی اِطاعت واتباع کی دعوت (آیات:31،32)۔

4- حضرت عیسیٰؑ نے خود توحید کی دعوت دی۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اُسی کی بندگی اختیار کرو! یہ سیدھا راستہ ہے'' (51)۔

5- حضرتِ عیسیٰؑ کی پیدائش کی مثال، حضرت آدمؑ کی طرح ہے۔ ﴿اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰہِ کَمَثَلِ اٰدَمَ﴾ (آیت:59)۔

6- آیتِ مباہلہ: یہ علم آ جانے کے بعد، اب جو کوئی اس معاملہ میں آپ ﷺ سے جھگڑا کرے تو اے نبی ﷺ اس سے کہیے کہ ''آؤ! ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اُس پر خدا کی لعنت ہو'' (آیت:61)۔

7- اہل کتاب سے مکالمہ کیا جائے: اے نبی کہو، ''اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے ﴿تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَۃٍ سَوَآءٍۢ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ﴾ یہ کہ ہم اللہ کے سوا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کسی کی بندگی نہ کریں! اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ! اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے ! اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم (صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے) ہیں" (آیت:64)۔

8- اہلِ کتاب سے مجادلہ: اہلِ کتاب سے کہنا کہ حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں غلط مباحثے نہ کرو! جن کا زمانہ 2,100 قبل مسیح ہے۔

تورات حضرت موسیٰؑ پر 1,300 قبل مسیح میں نازل کی گئی اور انجیل حضرت عیسیٰؑ پر حضرت ابراہیمؑ تو ﴿ مسلم ﴾ تھے، یہودی اور نصرانی (عیسائی) نہیں تھے۔ حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں، ان دو خود ساختہ مذاہب یعنی یہودیت اور نصرانیت کا وجود ہی نہیں تھا (آیت:65)۔

9- اے اہلِ کتاب! کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ (آیت:70)۔

10- اہلِ کتاب کو دعوتِ توحید و اسلام۔ ﴿اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴾ (آیت:83)۔

11- اہل کتاب کے برعکس اہلِ اسلام متعصب نہیں ہوتے، وہ ابراہیمؑ کی دونوں شاخوں کے پیغمبروں پر یکساں ایمان رکھتے ہیں (آیت:84)۔

12- اِس فرماں برداری ﴿الاسلام﴾ کے سوا ، جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار (یہودیت، عیسائیت) کرنا چاہے ، اُس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ ﴿وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (آیت:85)۔

13- کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ اُن لوگوں کو ہدایت بخشے، جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد، پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا (آیت:86)۔

14- اہل کتاب کو اپنی موت سے پہلے، اسلام قبول کر لینے کی دعوت۔ روزِ قیامت فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا (آیت:91)۔

15- اہل کتاب کو اپنے جدِ امجد حضرت ابراہیمؑ کی پیروی اختیار کرنے کی ہدایت ﴿وَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ﴾ (آیت:95)

16- اہل کتاب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی تمام منفی سرگرمیاں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں (آیت:98)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

II۔ اہلِ کتاب میں موجود خیر کو دریافت کیا جائے اور اُسے اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے

سورۃ آل عمران کا دوسرا اہم مضمون یہ ہے کہ اہل کتاب میں خیر بھی ہے، اسے دریافت کیا جائے اور اسے اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے۔

1- اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم (مسلمان) ہو، جسے انسانوں کی ہدایت واصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب بھی اگر ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ صاحب ایمان بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں (آیت:110)۔

2- مگر سارے اہلِ کتاب یکساں نہیں ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں (آیت:113)۔

3- اہلِ کتاب میں بعض لوگ، اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں (آیت:114)۔

4- اہلِ کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس سے پہلے خود انکی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا (آیت:199)۔

III۔ اہلِ کتاب کے شر سے آگاہی حاصل کر کے، بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے:

سورۃ آل عمران کا تیسرا اہم مضمون یہ ہے کہ اہلِ کتاب کے شر سے آگاہی حاصل کر کے اُس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔

1- اہل کتاب نے لوگوں پر زیادتی ﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ کے لیے بینات میں اختلاف کیا (آیت:19)

2- اہل کتاب نے نہ صرف انبیاء کا قتل کیا (21، 112)، بلکہ انصاف اور توحید کا حکم دینے والوں کا بھی قتل کیا (آیت:21)

3- اہل کتاب نے اللہ کے قانون کے مطابق تحکیم سے اعراض کیا۔
﴿ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ (آیت:23)۔

4- اہلِ کتاب اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ دوزخ میں صرف چند دن کے لیے جائیں گے (آیت:24)۔

5- اہل کتاب (بنی اسرائیل)، بنی اسمٰعیل ﴿ اُمِّيّين ﴾ کے بارے میں نسلی تعصب میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کہ ان پر ظلم وستم کرنے اور ان کا مال غصب کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ (آیت:75)۔

6- اہلِ کتاب اچھی طرح جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں (آیت:70)۔

7- اہل کتاب چند کوڑیوں کے عوض، اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں (آیت:77)۔

8- اہل کتاب کے علماء ، تورات کی تلاوت کے دوران میں اپنی زبانوں کو اس طرح گھماتے پھراتے ہیں کہ لوگ اسے تورات کی آیت سمجھنے لگتے ہیں ، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا (آیت:78)۔

اس کے برعکس مسلمان، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے بارے میں کوئی تعصب نہیں رکھتے۔ ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ (آیت:84)

علاوہ ازیں مسلمان، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں ہی پر نازل ہوئی ہوں، یا بنی اسمٰعیل کے پیغمبر محمد ﷺ پر۔ ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ﴾ (آیت:119)۔

9- بعض اہلِ کتاب اپنے آپ کو غنی اور اللہ کو فقیر کہتے ہیں (آیت:181)۔

10- بعض اہلِ کتاب کہتے ہیں کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہیں کریں گے، جب تک وہ ایسی قربانی ہمارے سامنے پیش نہ کرے، جسے غیب سے آکر آگ کھا جائے (آیت:183)۔

11- اہلِ کتاب نے اللہ کے اُس میثاق کو بھی پسِ پشت ڈال دیا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ تورات کی تعلیمات کو عام کریں گے اور اُنہیں چھپانے سے گریز کریں گے (آیت:187)۔

12- کافروں کی عسکری سرگرمیاں اور مسلمانوں کے خلاف مختلف ملکوں میں دوڑ دھوپ، انہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے (آیت:196)۔

13- اہل کتاب کا دنیا کے لیے انفاق، ضائع کر دیا جاتا ہے (آیت:117)۔

اہل کتاب اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات:

1- مومنو! مومنوں کو چھوڑ کو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

اہل کتاب کے شر سے بچنے کے لیے مناسب حکمت عملی اور تدبیریں اختیار کی جاسکتی ہیں (آیت 28)۔

2- اہلِ کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو گمراہ کر دیں ﴿وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ﴾ (آیت:69)۔

3- اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی ؑ کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے، اس پر صبح ایمان لاؤ اور

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

شام کو اس سے انکار کر دو! شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔

﴿ اٰمِنُوْا بِالَّذِیْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴾ (آیت:72)۔

4- اہلِ کتاب! تم لوگ کیوں توحید کے سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو اور مسلمانوں کو بھی کیوں اسلام سے ہٹانا چاہتے ہو؟

﴿ قُلْ یٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ﴾ (آیت:99)۔

5- مسلمانو اگر تم اہلِ کتاب کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے۔

﴿ اِنْ تُطِیْعُوْا فَرِیْقًا مِّنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ یَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِیْمَانِكُمْ كٰفِرِیْنَ ﴾ (آیت:100)

6- مسلمانوں کو اہلِ کتاب کی طرف سے اذیت رسانیاں ہوتی رہیں گی۔ ﴿ لَنْ یَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ﴾ (آیت:111)

7- اہلِ کتاب مسلمانوں کی خرابی کے کسی موقع سے نہیں چوکتے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اُن کے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض ہوتا ہے جو کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا ہے۔ انہیں راز دار نہیں بنانا چاہیے۔

﴿ لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا یَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ﴾ (آیت:118)۔

8- اہلِ کتاب مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے، جب کہ مسلمان اُن سے محبت کرتے ہیں۔ ﴿ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا یُحِبُّوْنَكُمْ ﴾ (آیت:119)۔

9- مسلمانوں کے نقصان سے اہلِ کتاب کو خوشی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی کامیابی سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔

﴿ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یَّفْرَحُوْا بِهَا ﴾ (آیت:120)۔

10- اے مسلمانو! تم لوگوں سے عیسائی اور یہودی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، جب تک تم ان کی ملت کے پیروکار نہ بن جاؤ!

﴿ وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْیَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ (البقرۃ:120)۔

11- کافر چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی، اُن کی پیروی کر کے اُلٹے پھیر لیے جائیں اور یہ بھی نامُراد ہو جائیں۔

﴿ اِنْ تُطِیْعُوا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا یَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِیْنَ ﴾ (آیت:149)۔

12- مسلمانوں کو، اہلِ کتاب اور مشرکین دونوں کی طرف سے، تکلیف دہ باتیں سُننی پڑیں گی۔

﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِیْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِیْرًا ﴾ (آیت:186)

IV- اُمّتِ مسلمہ کے لیے اہم تنظیمی اَحکام

سورۃ آلِ عمران کا چوتھا اہم مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور مضبوط تنظیم ہو۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

1- مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا کامل ﴿تقویٰ﴾ اختیار کرنے اور اسلام پر مرنے کا حکم۔ ﴿ وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ﴾ (آیت:102)۔

2- تمام مسلمانوں کو مل کر اللہ کی رسّی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا ﴾ (آیت:103)۔

3- افتراق اور انتشار سے بچنے کا حکم دیا گیا: ﴿وَلَا تَفَرَّقُوْا﴾ (آیت:103) اُن (اہل کتاب) کی طرح نہ ہو جانا جو افتراق اور اختلاف میں پڑ گئے۔ ﴿ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا ﴾ (آیت:105)۔

4- کافروں کو راز دار (بطانہ) نہ بنانے کا حکم:
﴿ لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا﴾ (آیت:118)

5- رسول اللہ ﷺ کی موت یا شہادت کی صورت میں بھی، ثابت قدمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا (آیت:144)

6- دنیاوی اجر کے بجائے آخرت کے اجر کا طالب اور شاکر بننے کی ہدایت کی گئی۔ (آیت:145)

7- انبیاء اور اولیاء کی طرح، عزیمت کا مظاہرہ کرنے والے ثابت قدم صابر مجاہدین کے لیے محبتِ الٰہی کی بشارت (آیت:146)

8- میدانِ جنگ میں اللہ سے دُعا مانگتے رہنے کا حکم۔
﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴾ (آیت:147)

9- رسول اللہ ﷺ (اور اپنے امیر) سے مالِ غنیمت کے سلسلے میں بدگمانی نہ کرنے کی ہدایت بھی دی گئی (آیت:161)۔

مسلمانوں کے لیے دیگر احکام:

1- دعوت الی الخیر، اَمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کا حکم (آیات:104، 110، 114)۔

2- سود سے بچ کر انفاق و جہاد کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت (آیات:130 تا 133)۔

3- مسلمانوں کو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اِنفاق اور جہاد کے ذریعے جلد از جلد مغفرت اور جنت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔
﴿ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ﴾ (132 تا 138)۔

4- پہلے مشاورت، پھر عزم (فیصلے) اور پھر ﴿تَوَكُّل عَلَى اللّٰه﴾ کا طریقہ اختیار کرنے کی صورت ہی میں ،

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

محبت الٰہی حاصل ہوسکتی ہے۔

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آیت:159)

5- بخل سے بچ کر انفاق کرنے کا حکم (آیت:180)۔

6- اس سورت میں بار بار اللہ کا ﴿تقویٰ﴾ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وَاتَّقُوا (آیات: 15، 28، 50، 76، 102، 115، 120، 123، 125، 130، 131، 133، 138، 172، 179، 186، 198، 200)

7- اس سورت آل عمران میں، چار (4) مقامات پر مسلمانوں کو ﴿صبر﴾ اور ﴿تقویٰ﴾ کا حکم دیا گیا ہے۔

(a) ثابت قدمی (صبر) اور تقویٰ کے نتیجے میں مسلمان، اہل کتاب کے شر سے بچ سکتے ہیں۔

﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ (آیت:120)۔

(b) ثابت قدمی (صبر) اور تقویٰ کے نتیجے میں، مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد حاصل ہوسکتی ہے (آیت:125)۔

(c) اہلِ کتاب اور مشرکین کی اذیت رسانیوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کی ثابت قدمی ﴿صبر﴾ اور ﴿تقویٰ﴾ کا رویہ ﴿عزم الامور﴾ ہے (آیت:186)۔

(d) ﴿صبر﴾ اور ﴿تقویٰ﴾ کے نتیجے میں، مسلمانوں کو فلاح حاصل ہوسکتی ہے (آیت:200)۔

8- اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی پکار پر، شکست کے بعد لبیک کہنے والوں کے لیے اجرِ عظیم کی بشارت (آیت:172)۔

9- اگر مسلمان اللہ کی مدد کریں گے تو اُن پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔

﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ (آیت:160)

10- شہادت کی صورت میں، مسلمانوں کو ابدی زندگی اور جنت کے رزق کی خوشخبری (آیت:169)۔

11- ہجرت وجہاد کا حکم: گھروں سے نکالے جانے کے بعد، ہجرت کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والوں اور قتل ہونے والوں اور کافروں کو قتل کرنے والوں کے لیے مغفرت اور جنت کی بشارت (آیت:195)

12- مسلمانوں کو غمزدہ اور شکستہ ہونے کے بجائے ایمان مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایمان کے نتیجے میں ہی مسلمانوں کو ﴿عُلُوّ﴾ اور غلبہ نصیب ہوسکتا ہے۔ ﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (آیت:139)۔

13- مسلمانوں کو تسلی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر رُعب طاری کردے گا۔ (151)۔ اہل ایمان پر اللہ فضل فرماتا ہے۔ (آیت:152)

14- مسلمانوں کو تسلی کہ اہلِ کتاب، جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے (آیت:111)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

15- ابلیس اور اُس کے اولیاء سے نہ ڈرنے کا حکم اور کفر میں دوڑ دھوپ کرنے والوں کی سرگرمیوں سے آزردہ نہ ہونے کی ہدایت (آیات:175 تا 176)۔

16- مسلمانوں کو چار اہم اختتامی ہدایات۔ فلاح کے لیے، ﴿صبر﴾، ﴿مُصابرت﴾، ﴿مُرابطت﴾ اور اللہ کے ﴿تقویٰ﴾ کا التزام کرنے کی ہدایت (آیت:200)۔

جنگِ اُحد پر تبصرہ اور شکست کے اسباب کی نشاندہی:

1- تم نے کمزوری دکھائی۔ ﴿ تَفْشَلَا ﴾ (آیت:122)، ﴿ فَشِلْتُمْ ﴾ (آیت:152)۔

2- تم لوگوں نے حکم میں اختلاف کیا۔ ﴿ تَنَازَعْتُمْ ﴾ (آیت:152)۔

3- تم لوگوں نے، مالِ غنیمت کی محبت میں، رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کی۔ ﴿ عَصَيْتُمْ ﴾ (آیت:152)۔

4- تم میں کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے۔ ﴿ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا ﴾ (آیت:152)۔

5- شکست کی وجہ خود مسلمانوں کی داخلی کمزوریاں تھیں۔ ﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ﴾ (آیت:165)۔

جنگِ اُحد میں منافقین کا کردار:

1- منافقین اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ ﴿ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟ ﴾ (آیت:154)۔

2- منافقین سادہ مسلمانوں کو بہکاتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا تو (تمھارے یہ رشتہ دار) جنگِ اُحد میں نہ مارے جاتے۔ ﴿ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ﴾ (آیت:154)۔

3- منافقین کے نزدیک، اسلام سے زیادہ اپنی ذات کی اہمیت ہوتی ہے۔
﴿ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ ﴾ (آیت:154)۔

4- اللہ چاہتا تھا کہ منافقین کو اچھی طرح پرکھ لے، منافقین وہ باتیں کرتے ہیں، جو ان کے دل میں نہیں ہوتیں۔
﴿ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ﴾ (آیت:167)۔

5- منافقین کے سردار کہتے تھے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ قتل نہ کیے جاتے۔ ﴿ لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ﴾ (آیت:168)۔

6- اُن منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے، جو اپنی بداعمالیوں پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ منافق اپنے اُن کاموں کی تعریف کے بھی خواہاں ہوتے ہیں، جو اُنہوں نے کبھی کیے نہیں ہوتے۔ ﴿ وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا ﴾ (آیت:188)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط | نظمِ جلی

04- سُوْرَةُ النِّسَاء

آیات : 176 ...... مَدَنِیَّۃ“...... پیراگراف : 9

زمانۂ نزول: جنگِ اُحد (شوال 3ھ) اور غزوۂ بنی المصطلق (شعبان 6ھ) کے درمیان مختلف حصوں میں نازل ہوئی، جب اُحد کی شکست کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے کئی مسائل بشمول نکاح ، مہر ، وراثت وغیرہ پیدا ہوگئے تھے اور منافقین کی ہمتیں بڑھ گئیں تھیں۔



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سورت ﴿النّسآء﴾ کا زیادہ تر حصہ جنگِ اُحد کے بعد، غالباً 3 ہجری کے آخر میں یا 4 ہجری میں نازل ہوا۔ بعض آیات جنگِ اُحد (شوال 3ھ) اور غزوۂ بنی المصطلق (شعبان 6ھ) کے درمیان مختلف حصوں میں نازل ہوئیں، جب جنگِ اُحد میں کئی مسلمانوں کی شہادت کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے کئی مسائل بشمول نکاح، مہر، وراثت وغیرہ پیدا ہو گئے تھے اور منافقین کی ہمتیں بڑھ گئیں تھیں۔

یہودی قبیلے بنی نضیر کی جلاوطنی (ربیع الاوّل 4ھ) سے پہلے، یہودیوں اور منافقین کا بغض وعداوت کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس موقع پر نوزائیدہ اسلامی مملکت کے استحکام کے لیے منافقین کی سرگرمیوں کا نوٹس لینا ضروری تھا، جو اسلامی ریاست کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، چنانچہ یہاں اس سورت میں اسلام کے نظامِ معاشرت، نظامِ حکومت اور نظامِ عدل وقسط کی وضاحت کی گئی ہے۔

صلاۃِ خوف کے اَحکام (آیت:102) غزوۂ ذات الرقاع (4 ہجری) کے موقع پر نازل ہوئے اور اَحکامِ تیمم (آیت:43) غزوۂ بنی المصطلق کے موقع پر (شعبان 6ھ میں) نازل ہوئے۔

خصوصیات

سابقہ دو سورتوں کی طرح سورۃ ﴿النساء﴾ میں بھی، اہلِ کتاب کو اسلام کی دعوت دینے کی ہدایت کی گئی ہے، البتہ یہاں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اہلِ کتاب کو اسلام کی دعوت، ایک اجتماعی ریاستی فریضہ بھی ہے۔

سُورۃُ النِّساء کا کتابی ربط

1۔ سورت ﴿ال عمران﴾ کے دوسرے حصے میں، نئی اُمت کی تنظیم اور اتحاد کی ہدایات دی گئی تھیں۔ یہاں سورت ﴿النساء﴾ میں اُس کی مزید توضیح ہے کہ یہ تنظیم صرف میدانِ جہاد تک محدود نہیں، بلکہ خاندان سے لے کر ریاستی اداروں تک وسیع ہو گی۔

2۔ یہاں سورت ﴿النساء﴾ میں اسلامی حکومت کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی سورت ﴿المائدہ﴾ میں اسلامی عدالتوں کے قیام کی طرف اشارہ ہے، تاکہ اسلام کے فوجداری نظام پر عمل درآمد ہو سکے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ مہر: اس سورت میں مہر کے احکام بار بار آئے ہیں۔ اس سے اس کی فرضیت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ مہر کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے گئے ﴿صدقات﴾ (آیت:4)۔ ﴿فریضۃ﴾ (آیت:24)۔ ﴿اُجور﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(آیت:10)۔قنطار اور خزانہ بھی مہر میں دیا جائے تو واپس نہیں دیا جا سکتا۔

2۔ ﴿طاغوت﴾ کے سلسلے میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔طاغوت کے پاس تحکیم کے لیے اپنے مقدمات نہیں لے جائے جا سکتے، کیونکہ قرآن نازل ہو چکا ہے، اب وحی کی روشنی میں فیصلے ہوں گے۔یہاں طاغوت سے مراد غیر اسلامی عدالتیں ہیں۔(آیت:60) دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کافر طاغوت کے لیے۔یہاں طاغوت سے مراد وہ نظریہ ہے، جس کے ماتحت کافر لیڈر اپنی قوم کو جنگ کے لیے ابھارتے ہیں۔(آیت:76)

3۔ پاک دامنی: مردوں اور عورتوں یعنی دونوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں۔﴿محصَن﴾ محفوظ، قلعہ بند اور پاک دامن رہیں۔چنانچہ مردوں کے لیے ﴿مُحصِنِینَ غَیرَ مُسٰفِحِینَ﴾ اور عورتوں کے لیے ﴿مُحصَنَاتٍ غَیرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخدَانٍ﴾ کے الفاظ استعمال کیے گئے۔(آیات:24،25)

سورۃُ النِّساء کا نظمِ جلی اور اُس کی خصوصیت

﴿سُورۃُ النِّساء﴾ نو(9) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

اس سورت کے نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں پہلے، تیسرے اور نویں پیراگراف پر مشتمل عائلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی احکام کے درمیان، دوسرے، چھٹے اور آٹھویں پیراگراف میں ، بنی اسمٰعیل اور بنی اسرائیل دونوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔

مضبوط اجتماعیت یعنی اسلامی ریاست کے قیام اور استحکام کے لیے اندرونی دشمنوں (یعنی منافقین) کے بارے میں احکامات بھی چوتھے اور ساتویں پیراگراف میں دیئے گئے ہیں۔

1- آیات 1 تا 43 : پہلے پیراگراف میں کئی معاشرتی اَحکام دیئے گئے ہیں، جن میں قانونِ وراثت بھی شامل ہے۔

(a) پہلی آیت میں اجتماعی معاشرتی زندگی کی تمہید ہے۔میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں۔وہ آدمؑ وحواؑ کی اولاد ہی ہیں۔نکاح کے نتیجے ہی میں رشتے پیدا ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے، اور خاندان ہی معاشرے کی بنیادی اکائی (Basic Unit) ہے۔اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے رشتوں کو قائم ودائم رکھنا چاہیے۔

(b) اس کے بعد یتامیٰ اور بیواؤں کے حقوق بیان کیے گئے۔

یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، بشرطیکہ انصاف کیا جا سکے۔یتیموں کے اموال عقل مند افراد کے زیرِ تصرف ہوں۔بالغ ہونے پر یتیموں کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔یتیموں کا مال کھانے والے دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔خوش دلی سے مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (آیت:4)

(c) آیات 12 تا 14 میں وراثت کے اَحکام (Laws of Inheritance) بیان کیے گئے۔

ان اَحکام کو ﴿حُدُوْدُ اللّٰهِ﴾ کہا گیا ہے جن کی خلاف ورزی کی سزا دوزخ ہے۔ (آیت:14)

2/3 حصہ صرف دو سے زائد بیٹیوں (سگی یا ماں شریک سوتیلی بہنوں) کا ہے جب اُصول اور فروع نہ ہوں اور سگے بھائی بھی نہ ہوں۔

1/3 ماں کا حصہ ہے، جب اولاد نہ ہو اور دو یا زیادہ بہن بھائی نہ ہوں، نیز ماں شریک سوتیلے بھائیوں کا بھی حصہ ہے جب باپ دادا اور اولاد نہ ہو۔

1/6 والدین کا حصہ ہے، جب اولاد ہو۔ ماں کا حصہ ہے، جب بھائی موجود ہوں۔ ماں شریک سوتیلے بھائی بہنوں کے لیے، جب میت کے والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو۔

1/2 حصہ صرف ایک بیٹی کے لیے اور بیوی کے بے اولاد شوہر کے لیے ہے۔

1/4 حصہ، اولاد والی بیوی کے شوہر کے لیے ہے۔ اور بے اولاد شوہر کی بیوی کے لیے ہے۔

1/8 حصہ اولاد والی بیوہ کے لیے ہے۔

وراثت کے تمام حصے وصیت اور ﴿دَین﴾ یعنی قرض کو ادا کرنے کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔

(d) بدکاری اور فحاشی کی سزائیں بتائی گئیں اور قبولیت توبہ کے اَحکام دیئے گئے۔ آیت:15 منسوخ ہے۔

سورۃ النور کی آیت:2 اس کی ناسخ ہے۔ (غیر شادی شدہ زانیہ کے لیے سو کوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے رجم)

اب بدکار عورت کو موت تک روکا نہیں جائے گا۔

(e) حسنِ معاشرت کے اصول بیان کیے گئے، جن میں بیویوں کے حقوق، مہر کی فرضیت اور محرماتِ نکاح کی تفصیل ہے۔ زبردستی بیویوں کے وارث بننے سے روکا گیا۔ بیویوں سے حسنِ سلوک کا حکم دیا گیا۔ ﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ (آیت:19) مہر قنطار (ڈھیر سارا) بھی ہو سکتا ہے اور اسے واپس نہیں لیا جا سکتا (آیت:20)

ان پندرہ (15) خواتین کی تفصیل بیان کی گئی، جن سے مسلمان مردوں کا نکاح حرام ہے۔ (آیت:22،23)

(f) مسلمانوں کو باہمی استحصال اور معاشی خودکشی سے روکا گیا اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔

کسی بھی معاملے کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں بیان کی گئیں۔ (1) معاملہ باطل نہ ہو (بذاتِ خود حق پر مبنی ہو)۔

(2) باہمی رضامندی پر مشتمل ہو۔ خودکشی اور مسلمانوں کی باہمی معاشی خودکشی کو حرام ٹھہرایا گیا۔ (آیت:29)

مالی معاملات میں ﴿ظُلْم وعُدْوان﴾ کی سزا دوزخ بتائی گئی۔ (آیت:30)

(g) حقوقِ زوجین بتائے گئے۔ مرد خاندان کا سربراہ ہے ﴿اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ﴾ اور تنازعے کی صورت

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

میں تحکیم کی ہدایت کی گئی۔ بیویوں کی اصلاح کے تین طریقے بیان کیے گئے۔ میاں بیوی کے حقوق کی وضاحت کی گئی۔

(h) حقوق اللہ کی وضاحت کی گئی کہ اُس کی خالص عبادت، شرک کی ملاوٹ کے بغیر کی جائے۔ (آیت:36)

حقوق العباد کی وضاحت کی گئی کہ بخل سے بچ کر، معاشرے کے مختلف افراد کے مالی حقوق ادا کیے جائیں۔

(i) نماز، غسل اور تیمم کے متفرق اَحکام بتائے گئے۔ جنابت کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کیا جاسکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ بتایا گیا۔

2- آیات 44 تا 57 : دوسرے پیراگراف میں، اہلِ کتاب کو دعوتِ اسلام دی گئی ہے۔

(a) اہلِ کتاب کی گمراہیاں بیان کی گئیں کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں۔ کلام کو اپنے موقع ومحل سے پھیر دیتے ہیں۔

(b) اہلِ کتاب کو دعوتِ اسلام دی گئی۔ ﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ﴾ اہلِ کتاب کو صاف صاف بتادیا گیا کہ شرک ناقابلِ معافی جرم ہے، باقی گناہ معاف ہوسکتے ہیں۔ (آیت 48)

(c) اہلِ کتاب کی اوہام پرستی پر تنقید کی گئی کہ وہ ﴿ جبت ﴾ اور ﴿ طاغوت ﴾ پر ایمان رکھتے ہیں۔

ان کے تعصب پر گرفت کی گئی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ﴿ مشرکین ﴾ کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بخیل ہیں۔

(d) رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہ لانے والے اہلِ کتاب کے لیے دوزخ ہے، جس میں اِن کی کھالیں بدلی جاتی رہیں گی اور مسلسل جلا جلا کر اَذِیت دی جائے گی۔ اہلِ کتاب میں سے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے جنت اور اُس کی نعمتیں ہوں گی۔ (آیات:46 تا 56)

3- آیات 58 تا 59 : تیسرے پیراگراف میں، اسلامی ریاست (State) کے اندر رعایا اور حکومت کے حقوق وفرائض پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

تیسرا پیراگراف صرف دو (2) آیات پر مشتمل ہے۔

(a) آیت 58 میں، عدل وانصاف کے ساتھ عہدے اور مناصب، اہل (Eligible) لوگوں کو تفویض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(b) آیت 59 میں، اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کے ماتحت، حکمرانوں ﴿ اُولوا الامر ﴾ کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔

اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت مطلق (Absolute) اور غیر مشروط (Un-Conditional) ہے، جب کہ حکمرانوں اور دیگر بزرگوں، اِماموں اور مفتیوں ﴿ اُولوا الامر ﴾ کی اِطاعت (Bound &Conditional) مقید اور مشروط ہے۔ حکمرانوں اور دیگر ﴿ اُولـوا الامـر ﴾ سے اختلاف اور نزع کی صورت میں، کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ﴿ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4- آیات 60 تا 104: چوتھے پیراگراف میں، منافقین اور جہاد کا تذکرہ ہے۔

(a) منافقین پر فردِ جرم عائد کی گئی کہ وہ اختلافی مسائل کے حل کے لیے قرآن کو چھوڑ کر ﴿طَاغُوت﴾ سے فیصلے کراتے ہیں اور ﴿شِرك فِي التَّشرِيع﴾ کے مرتکب ہوتے ہیں (آیت:60)۔ قرآن وسنت سے گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں (آیت:61)۔ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں (آیت:62)۔

(b) منافقین پر واضح کیا گیا کہ ہر رسول کو ﴿مُطَاع﴾ بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ ﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ (آیت:64) منافقین کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اُن کا ایمان اُس وقت تک معتبر نہیں ہوگا، جب تک وہ دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ ﷺ کے فیصلوں کو نہ مان لیں ﴿لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ﴾ (آیت:65)۔

(c) مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ منافقین کے جہاد سے فرار کے رویے پر روشنی ڈالی گئی۔ مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی۔ (آیات: 71 تا 75)

(d) جہاد کی دو (2) قسمیں بتائی گئی ہیں (1) ﴿جِهَاد فِي سَبِيلِ اللّٰه﴾ اور (2) ﴿جِهَاد فِي سَبِيلِ الطَّاغُوت﴾ مؤمن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کافر طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ شیطان کے اولیاء سے جہاد فرض ہے۔

(e) منافقین گفتار کے غازی ہوتے ہیں۔ ﴿كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ﴾ ''ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو'' کے حکم پر بلند وبانگ دعوے کرتے تھے لیکن فرضیتِ جہاد کے بعد ﴿لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ﴾ ''تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا ؟'' کی صدائیں لگانے لگے (آیت:77)۔ منافقین ہمیشہ موت سے خائف رہتے ہیں۔ (آیت:78)

(f) منافقین کو سمجھایا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت، دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ﴿مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ﴾ (آیت:80)

(g) منافقین کو اہم معلومات امیر اور اہلِ علم تک پہنچانے کا حکم دیا گیا، جو استنباط کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔

(h) منافقین کے طریقۂ سلام پر تنقید کی گئی اور ﴿فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا﴾ کا حکم دیا گیا۔ (آیت:86) مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ یکسو ہو جائیں اور منافقین کے بارے میں دو آراء نہ رکھیں۔ (آیت:88)

(i) ﴿دَارُ الْكُفْر﴾ کے مسلمانوں کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ انہیں ﴿دَارُ الْاِسْلَام﴾ کی طرف ہجرت تک ﴿ولایت﴾ حاصل نہیں ہو سکتی (آیت:89)

(j) منافقین کی قسمیں بیان کی گئیں اور اُن دو رُخے منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، جو دست درازی کریں۔

(k) قتلِ خطا اور قتلِ عمد کے احکام کی وضاحت کی گئی۔ قتلِ خطا کا کفّارہ ایک غلام آزاد کرنا اور وارثوں کو دیت ادا کرنا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہے۔ دشمن قوم کا آدمی غلطی سے ہلاک ہو جائے تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا۔ کسی قوم سے میثاق و عہد ہو تو ایسی صورت میں غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور دیت بھی ادا کرنی ہوگی۔ غلام نہ ہو تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے۔

(l) جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صاف کہہ دیا گیا کہ ﴿قَاعِدِين﴾ اور ﴿مُجَاهِدِين﴾ برابر نہیں ہو سکتے۔ جب جہاد فرضِ عین نہ ہو، بلکہ فرضِ کفایہ ہو تو گھر پر بیٹھنے والے ﴿قَاعِدِين﴾ اور مجاہدین کے لیے دعا کرنے والوں کا درجہ اُن ﴿مُجَاهِدِين﴾ سے کم تر ہوگا، جو میدانِ جنگ میں صف آراء ہوں گے (آیات:95،96)

(m) ﴿دارُ الکُفر﴾ کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ﴿دار الاسلام﴾ کے قیام کے بعد لازماً ہجرت کر لیں، ورنہ وہ دوزخی ہوں گے۔ ہجرت کے نتیجے میں دنیاوی فائدے اور اَموالِ غنیمت بھی حاصل ہوں گے۔

(n) صلاۃِ خوف کے اَحکام بتائے گئے۔ جنگ کی حالت میں آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج نگرانی کرے گی۔ پھر وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں بدلیں گے، لیکن نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔

﴿إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا﴾ (آیت:103)

5- آیات 105 تا 115: پانچویں پیراگراف میں، نزولِ قرآن کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔

(a) نزولِ قرآن کا مقصد یہ بتایا گیا کہ ﴿بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ﴾ یعنی حدیثِ رسول ﷺ کی روشنی میں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ (آیت:105)

(b) راتوں کو چھپ چھپ کر مشورے کرنے والے منافقین پر گرفت کی گئی (آیت:108) اور رسول اللہ ﷺ کو نفس کی خیانت کرنے والوں کی حمایت سے روک دیا گیا۔ خود گناہ کر کے دوسروں پر الزام تھوپنے والوں کو بڑا گناہ گار ٹھہرایا گیا۔ (آیت:112) گناہ ہو جانے کے بعد معافی مانگنے والوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔

(c) جو منافقین اپنی خفیہ مجالس میں ﴿نجویٰ﴾ کیا کرتے تھے، ان پر سخت گرفت کی گئی۔ ﴿نجویٰ﴾ خیر کے کاموں اور اللہ کی خوشنودی ﴿مَرضَاتِ اللّٰه﴾ کے حصول کے لیے جائز ہے۔ (آیت:114)

(d) منافقین کو مخلص صحابہؓ کا راستہ ﴿سَبِيلُ الْمُؤْمِنِين﴾ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی، ورنہ یہ منافقین دوزخ داخل کیے جائیں گے۔ (آیت:115)

6- آیات 116 تا 134: چھٹے پیراگراف میں دوسرے پیراگراف کی طرح بنی اسرائیل اور بنی اسمٰعیل دونوں سے ﴿مُجادَلہ﴾ ہے

(a) اولادِ ابراہیم کی دونوں شاخوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ توحید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے۔

(b) بنی اسمٰعیل فرشتوں کو ﴿اُنَاث﴾ اللہ کی بیٹیاں بنا کر انہیں پکارتے تھے۔ انہیں ابلیس کے دام میں گرفتار نہ ہونے کی ہدایت کی گئی۔ ابلیس بدعات کا حکم دیتا ہے جن کے مرتکب قریش اور بنی اسمٰعیل ہیں۔ (آیت:119) یہ دوزخی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہوں گے۔

(c) بنی اسرائیل اور بنی اسمٰعیل دونوں کے لئے اہم اصول بتائے گئے اور انہیں دینِ ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ جنت میں داخلہ نہ تو بنی اسرائیل کے اہلِ کتاب کی خوش فہمیوں پر موقوف ہے اور نہ بنی اسمٰعیل اور قریش کی خوش فہمیوں پر ﴿ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ﴾ بلکہ نسب سے قطع نظر جو بھی صحیح عقیدہ اور عمل اختیار کرے گا، وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ (آیت:123)

(d) توحید پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی وجہ سے، حضرت ابراہیمؑ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست ﴿ خَلِيْل ﴾ بنا لیا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل اور بنی اسمٰعیل دونوں کو اپنے جدِ امجد حضرت ابراہیمؑ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

(e) یتیموں سے متعلق معاشرتی احکامِ عدل کا اعادہ کیا گیا اور ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں بیویوں میں عدل کا حکم دیا گیا۔ (آیت:129)

(f) بنی اسرائیل اور بنی اسمٰعیل دونوں کو حکمِ تقویٰ دیا گیا اور استبدالِ قوم کی دھمکی دی گئی۔

﴿ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ﴾ (آیت:133)

(g) ایک اہم اصول یہ بتایا گیا کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے ﴿ فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ﴾، جو قومیں صرف دنیا کی طالب ہوتی ہیں، انہیں دنیا دے دی جاتی ہے، لیکن وہ آخرت سے محروم رہتی ہیں۔

7- آیات:135 تا 152: ساتویں پیراگراف میں، منافقت سے بچتے ہوئے، اسلام کا نظامِ عدل وقسط قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

(a) ہوائے نفس سے بچ کر مسلمانوں کو عدلِ اجتماعی قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ گواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، چاہے خود اپنے اور اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

﴿ كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ﴾

کچے مسلمانوں سے سچے ایمان کا مطالبہ کیا گیا۔ ﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا ﴾ (آیت:136)۔

(b) منافقین کو غیر مسلموں سے قطع تعلق کر لینے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کو منافقین کی مجلسِ استہزاء سے اُٹھ جانے کی ہدایت دی گئی ﴿ فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ﴾ (آیت:140)۔

اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین کو جہنم میں جمع کرے گا۔

منافقین کی صفات بیان کی گئیں۔ (آیات 141 تا 147)

(1) ﴿ تَرَبُّص ﴾ یعنی انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ (2) ﴿ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ ﴾ یعنی اللہ کو

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔(3)﴿ قَامُوْا كُسَالٰى ﴾نماز کے لیے کسل مندی سے کام لیتے ہیں۔(4) ﴿يُرَآءُوْنَ النَّاسَ ﴾یعنی ریاء کاری کرتے ہیں۔(5)﴿وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴾نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔(6)﴿مُذَبْذَبِيْنَ﴾ ہوتے ہیں، پختہ ایمان کے بجائے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ کچے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔

﴿لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾(آیت:144)

منافقین کے لئے دوزخ میں ﴿الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ﴾سب سے نچلا حصہ ہوگا۔(آیت:146)

(c) مظلوموں کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں بری بات ﴿جَهْرِ بِالسُّوْءِ﴾ زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں ﴿لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾(آیت:148)۔

منافقین کو منفی پروپیگنڈے سے روک دیا گیا اور جزوی ایمان ﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ پر عذاب کی دھمکی دی گئی اور اللہ اور رسول ﷺ پر سچے ایمان کی صورت میں جنت کی بشارت دی گئی۔(آیت:152)

8- آیات:153 تا 175: آٹھویں پیراگراف میں، چھٹے پیراگراف کی طرح اہلِ کتاب بالخصوص عیسائیوں سے ﴿مُجَادَلَہ﴾ ہے۔

بنی اسرائیل کے جرائم بیان کرکے اُن کے خلاف فردِ جرم عائد کی گئی۔ اُن کے خیر و شر کی وضاحت کی گئی۔

(a) عیسائیوں کو صاف بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰؑ قتل نہیں کیے گئے۔(آیت:157)۔

رسول ﷺ سے کتاب اتارنے کے مطالبے پر تبصرہ کیا گیا کہ اسی طرح حضرت موسیٰؑ کو بھی اذیت پہنچائی گئی تھی۔

(b) یہودیوں کے جرائم گنوائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ، بچھڑے کو خدا بنالینا، سبت کے احکام کی نافرمانی۔ نقضِ میثاق کا مرتکب ہونا، انبیاء کا قتل وغیرہ (آیت:155)، حضرت مریمؑ پر بہتان اور حضرت عیسیٰؑ کا انکار (آیت:156) سودخوری میں مبتلا ہونا (آیت:161) وغیرہ۔

قیامت سے پہلے تمام اہلِ کتاب حضرت عیسیٰؑ پر ایمان لائیں گے۔(آیت:159)

(c) معقول اہل کتاب ﴿الرّٰسِخُوْنَ﴾ کو دعوت اسلام دی گئی اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی۔ رسول ﷺ پر وحی پچھلے انبیاء کی طرح ہے۔ وحی کا مقصد اِتمام حجت ہے۔

﴿لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ﴾(آیت:165)

(d) تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دی گئی کہ آخری رسول محمد ﷺ پر ایمان لے آئیں یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔

﴿يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ﴾(آیت:170)

(e) اہلِ کتاب کو غلو اور مبالغہ آرائی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔﴿لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ﴾(آیت:171)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(f) عیسائیوں کو عقیدۂ تثلیث (Trinity) چھوڑنے کی ہدایت کی گئی۔

﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلٰثَةٌ﴾ (آیت:171)

حضرت عیسیٰؑ نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلوانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی۔ (آیت:172)

(g) عالم گیر رسالتِ محمدی ﷺ پر ایمان کی دعوت کا اعادہ کیا گیا۔﴿برھان﴾ اور﴿نور﴾ آجانے کے بعد اسلام لانا ضروری ہے۔

﴿یٰٓاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَیْكُمْ نُوْرًا مُّبِیْنًا﴾ (آیت:174)

آخر میں ایمان لا کر اس کی پیروی کرنے والوں کو ﴿رحمت﴾ اور صراطِ مستقیم کی بشارت دی گئی (آیت:175)۔

9- نواں پیراگراف آخری آیت (176) پر مشتمل ہے۔

جس میں ﴿کلالہ﴾ کے احکام بیان کر کے، قانونِ وراثت کی ایک ذیلی شق ﴿کلالہ﴾ کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ دراصل پہلے پیراگراف کی آیات 12 تا 14 کا ضمیمہ ہے۔﴿کلالہ﴾ سے مراد ایسی میت ہے، جو نہ تو اوپر ماں باپ چھوڑ کر مرے اور نہ ہی نیچے بیٹا، بیٹی چھوڑے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اکیلی بہن کو نصف حصہ ملے گا اور ایک سے زائد بہنوں کی صورت میں دو تہائی حصہ۔ بہن اور بھائی دونوں موجود ہوں تو بھائیوں کو بہنوں کے مقابلے میں دوگنا حصہ ملے گا۔

مرکزی مضمون

مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ساری دنیا کو بالخصوص اہلِ کتاب اور نصاریٰ کو دعوتِ اسلام دیں۔ مسلمانوں کو منافقت سے بچتے ہوئے، خالص توحید کے ساتھ، خاندان سے لے کر ریاست (State) تک، ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنا چاہیے۔

وضاحت: 'خاندان' معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے۔ اور اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل ریاست (State) ہے۔ خاندان کی مضبوطی کا دارومدار، میاں، بیوی، اولاد اور ماں باپ کے علاوہ رشتہ داروں اور یتیموں کے حقوق کے تحفظ پر ہوتا ہے، جب کہ ریاست کا استحکام خارجی محاذ کے علاوہ، داخلی محاذ پر اتحاد و یکجہتی پر منحصر ہے، منافقین ریاست کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اسلامی اجتماعیت کے فرائض میں اہلِ کتاب کو اسلام کی دعوت و تبلیغ بھی شامل ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

05- سُوْرَةُ الْمَائِدَة

آیات : 120 ...... مَدَنِیَّہ" ...... پیراگراف : 6



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الْمَائِدَة﴾ کا مُعْتَدبِہٖ حصہ صلح حدیبیہ (ذوالقعدہ چھ ہجری) کے بعد، یا غالباً سات (7) ہجری میں نازل ہوا۔

حالتِ احرام کے آداب، غالباً عمرۂ حدیبیہ یا عمرۂ قضاء (7ھ) کے موقع پر نازل ہوئے۔ بعض متفرق آیات بھی بعد میں بھی نازل ہوئیں، لیکن سلسلۂ کلام میں پیوست ہیں۔

تکمیلِ دین کے مضمون پر مشتمل قرآن کی آیت ﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾ (المائدہ:3) بھی اسی سورت میں آئی ہے، جو غالباً سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، البتہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورت، سورةُ النَّصر ﴿اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ﴾ ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سُورۃُ المَائِدَۃ کا کتابی ربط

1- پچھلی تین سورتوں، البقرۃ ، آل عمران اور النساء کی طرح اس سورت میں بھی، اہلِ کتاب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

2- پچھلی سورت ﴿النِّساء﴾ میں خاندانی اور ریاستی اداروں کی تنظیم کا ذکر تھا۔ یہاں سورت ﴿المائدہ﴾ میں اسلامی عدالتوں کے قیام کی طرف اشارہ ہے، تاکہ اسلام کے فوجداری قوانین پر بھی عمل درآمد ہو سکے، چوروں کے ہاتھ کاٹے جا سکیں اور اسلامی ریاست کے دشمن ﴿مُحارِبین﴾ کو سزا دی جا سکے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿عُقُود﴾: سُورۃُ المائِدَہ کی پہلی آیت ہی میں ﴿عُقُود﴾ یعنی معاہدوں (Agreements) کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ (آیت:1)

2- سورۃ المائدہ میں، حلال و حرام کے مندرجہ ذیل اَحکام دیے گئے۔

احرام کی حالت میں شکار حرام ہے (آیت:1)۔ شعائر اللہ کو حلال نہیں کیا جا سکتا (آیت:2)۔

گیارہ (11) چیزیں حرام ہیں۔ مردار، خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، گلا گھٹ کر مرنے والا جانور، چوٹ کھا کر اور گڑھے میں گر کر مرنے والا جانور، ٹکر سے ہلاک ہونے والا جانور، درندے کا شکار زدہ، آستانوں پر ذبح کیا گیا جانور اور پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ (آیت:3)

تربیت یافتہ شکاری کتے کا روکا ہوا جانور بھی حلال ہے (آیت:4)

اہلِ کتاب کا کھانا اور اُن کی محفوظ عورتیں ﴿مُحصَنات﴾ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہیں (آیت:5)

شراب، جوا، آستانے اور پانسوں کے تیر حرام ہیں۔ (آیت:90)

اِحرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام اور سمندری شکار حلال ہے۔ (آیات:95 اور 96)

3- سورۃ المائدہ میں اسلام کے فوجداری قوانین (Criminal Codes) بھی بیان کیے گئے۔
(آیات 33، 38 اور 45)

(a) اسلامی ریاست کا تختہ الٹنے والے فسادی ﴿مُحَارِبین﴾ کے لیے چار (4) فوجداری سزائیں مقرر کی گئیں، جنہیں حکومت اپنی صوابدید کے مطابق جاری کر سکتی ہے۔ (آیت:33)

(b) چوری کرنے والے مرد و خواتین کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کی گئی۔ (آیت:38)

(c) تورات کے اَحکامِ قصاص کا اعادہ کیا گیا۔ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان وغیرہ۔ (آیت:45)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4- سورۃ المائدہ میں ،﴿ توحیدِ تشریع ﴾یعنی﴿توحیدِ حاکمیت﴾ اور تحکیم الٰہی کی وضاحت کی گئی۔اللہ تعالیٰ ﴿خالق﴾بھی ہے، ﴿ربّ ﴾بھی ہے،﴿الٰہ ﴾اور﴿ معبود ﴾بھی ہےاور﴿ حاکم وشارع﴾ (Law-Giver)بھی ہے۔

(a) پہلی آیت ہی میں ﴿ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴾ کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، اپنے ﴿استحقاق حاکمیت﴾کو ثابت کیا ہے۔

(b) ﴿مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ﴾یعنی قرآن وسنت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر ہیں۔ظالم ہیں۔فاسق ہیں (آیات:44،45،47)

(c) رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ وحی کے مطابق فیصلے کریں۔﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ﴾ (آیات:48اور49)

(d) اللہ سے بہتر﴿حَاكِم ﴾اور قانون ساز کون ہوسکتا ہے؟ ﴿وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا؟ ﴾ (آیت:50)

5- اس سورۃ المائدہ میں،عیسائیوں کے عقیدۂ حُلُول(Incarnation) کا ابطال بھی کیا گیا ہے۔رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عیسائیوں کے دو(2) فرقے تھے۔

(a) پہلا فرقہ حضرت عیسیٰؑ کو اللہ کہتا تھا۔یہ فرقہ ﴿حلول﴾ کا قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت پوست کے انسان عیسیٰؑ میں ﴿حلول﴾ کیا ہے۔عیسیٰ ہی خدا ہیں۔اللہ اور عیسیٰ ایک ہیں۔قرآن نے انہیں کافر کہا۔﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (آیات 17 اور72)

(b)دوسرا فرقہ تثلیث(Trinity) کا قائل تھا۔وہ اللہ تعالیٰ کو تین خداؤں کے مُثَلَّث میں سے تیسرا خیال کرتا تھا۔ قرآن نے انہیں بھی کافر قرار دیا ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ﴾(آیت:73)

6- اس سورت میں عیسائیوں کے﴿غُلُوّ فِي الدِّيْن﴾ کا بھی ابطال کیا گیا اور اُن سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس﴿غُلُوّ﴾ کو ترک کردیں۔ مبالغہ آرائی سے بچیں۔﴿قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾(آیت:77) ﴿غُلُوّ﴾ ہی کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ایک رسول حضرت عیسیٰؑ کو،اللہ کا بیٹا بنا کر اُس کی خدائی میں شریک کرلیا،جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیرؑ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا اور لعنت کے مستحق ہوگئے تھے (التوبہ:30)

7- حضرت عیسیٰؑ کے﴿حواری﴾مسلمان تھے۔ان کے بارے میں دو اہم باتیں آئی ہیں۔

(a) ﴿حَوَارِيِّيْن﴾نے صاف کہہ دیا:''ہم ایمان لے آئے!اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں'' ﴿ اٰمَنَّا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ﴾(آیت:111)

(b) ﴿حَوَارِيِّين﴾ کے لیے حضرت عیسیٰؑ نے دعا کی اور ان کے لیے آسمان سے ﴿الْمَآئِدَة﴾ دسترخوان نازل کیا گیا۔(آیت:115)

8- سورۃ المائدہ میں ﴿اقامتِ تورات وانجیل﴾ کے حوالے سے دو (2) آیات آئی ہیں۔

(a) اِقامتِ تورات وانجیل کے بغیر، اہلِ کتاب کی کوئی اساس اور بنیاد نہیں ہوسکتی (آیت:6) آج کے یہود ونصاری تورات وانجیل کے قانون ہی کے قائل نہیں، وہ بھلا قرآن کے قانون کو کیسے تسلیم کرسکتے ہیں؟

(b) اگر اہلِ کتاب اِقامتِ تورات وانجیل کرتے تو اپنے اوپر اور نیچے سے رزق پاتے (آیت:66)

سُورَةُ المَائِدَة کا نظمِ جلی

سورۃ ﴿المائدۃ﴾ چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔اور اس کے نظم کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔

پہلے، تیسرے اور پانچویں پیراگراف میں تکمیلِ شریعت کے احکام دیئے گئے ہیں۔اور درمیان میں تذکیر رکھی گئی ہے۔ دوسرے اور چوتھے پیراگراف میں بنی اسرائیل کے حوالے سے تذکیر ہے۔ آخری یعنی چھٹے پیراگراف میں عیسائیوں کو دعوتِ اسلام ہے۔

1۔آیات:1 تا 11: پہلے پیراگراف میں، (تکمیلِ شریعت کے احکام) بیان کیے گئے ہیں۔

عقود یعنی معاہدوں (Agreements) کی پابندیوں کا حکم دیا گیا اور اِحرام کی حالت میں شکار کو حرام ٹھہرایا گیا۔

اِحرام اتارنے کے بعد شکار کیا جاسکتا ہے۔(آیت:2)

شعائر اللہ اور حرام مہینوں اور جانوروں اور حاجیوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا جاسکتا۔(آیت:2)

نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کی ہدایت دی گئی اور ﴿اثم وعُدوان﴾ میں تعاون سے روکا گیا۔تکمیلِ دین کی آیت نازل کی گئی۔(آیت:3)

وضو کا طریقہ، غسل اور تیمم کے اَحکام بتائے گئے۔(آیت:6)

مسلمانوں کو ﴿سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا﴾ کا سبق یاد رکھنے اور ﴿تقویٰ﴾ کا پاس ولحاظ کرنے کا حکم دیا گیا۔

قیامِ عدل کے لیے قوّام بن کر قیادت کا فریضہ انجام دینے کی ہدایت کی گئی۔

﴿اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى﴾ کا حکم دیا گیا۔

"عدل کرو! یہ عدل وانصاف سے زیادہ قریب ہے"۔(آیت:8)

اللہ کے احسان کا ذکر کیا گیا کہ اُس نے رسول اللہ ﷺ کے قتل کی سازش کو ناکام بنادیا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ (آیت:11)

2- آیات 12 تا 32: دوسرے پیراگراف میں، ﴿یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فردِ جرم﴾ ہے اور اُن کے لیے درسِ نصیحت ہے۔

● یہودیوں کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ بارہ (12) نقیبوں کو مقرر کر کے اُن سے ایک مشروط عہد و میثاق لیا گیا تھا کہ اللہ کی معیت اُن کے ساتھ ہوگی، اِس شرط پر کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے اور جہاد کے لیے قرضِ حسن کے ذریعہ اِنفاق کریں گے تبھی جنت عطا ہوگی۔ (آیت:12)

لیکن یہودیوں نے میثاق توڑ دیا۔ ان پر لعنت کی گئی۔ ان کے دل سخت کر دیئے گئے۔ انہوں نے موقع و محل سے آیاتِ الٰہی کو پھیر دیا۔ اپنے حصے کی نصیحت فراموش کر دی۔ آئے دن اُن کی خیانت ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ (آیت:13)

● عیسائیوں کے جرائم بیان کئے گئے کہ انہوں نے اپنے حصے کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ (آیت:14)

آیاتِ الٰہی کو چھپانے لگے۔ اب محمد ﷺ ان چھپائے ہوئے احکام میں سے چند کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے ﴿نور﴾ اور ﴿کتاب﴾ یعنی قرآن آچکا ہے۔ (آیت:15)

حضرت عیسیٰؑ کو خدا کہنے والے ﴿حُلُولی﴾ بھی کافر ہیں۔ عیسائیوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر حضرت عیسیٰؑ اور اُن کی والدہ اور ساری دنیا کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون اُسے اِس ارادے سے روک سکتا ہے؟ (آیت:17)۔

یہود و نصاریٰ دونوں کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، وہ بھی سب کی طرح ایک مخلوق ہیں۔ قانونِ ایمان و عمل کے مطابق دیگر انسانوں کی طرح انہیں بھی جزا و سزا ملے گی (آیت:18)۔

● یہودیوں کے جہاد سے فرار کے رویوں پر روشنی ڈالی گئی کہ صرف دو لوگوں ﴿رَجُلَانِ﴾ حضرت یوشعؑ بن نون اور حضرت کالبؑ نے جہاد کے مطالبے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ بقیہ تمام بنی اسرائیل عمالقہ سے ڈر گئے اور جہاد سے انکار کر دیا۔ بلکہ حضرت موسیٰؑ سے صاف کہہ دیا "تم اور تمہارا خدا دونوں جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے" ﴿فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ﴾ (آیت:24)

اس فراری رویے کے سبب انہیں چالیس سال کی صحرانوردی کی سزا دی گئی اور یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ (آیت:26)

● حضرت آدمؑ کے دو بیٹوں کا سچا قصہ سنایا گیا کہ ایک لڑکے کی قربانی قبول کی گئی کیوں کہ وہ متقی تھا۔ دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ دوسرے نے پہلے کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، جس نے اُسے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کی تدبیر سکھائی۔

بنی اسرائیل پر اس لیے یہ بات فرض کر دی گئی کہ ایک آدمی کا ناحق قتل، گویا پوری انسانیت کا قتل ہے (آیت:32)

اگلے پیراگراف میں اسلامی ریاست کے دشمن ﴿مُحَارِبِین﴾ کا قانونِ سزا بیان کیا گیا (آیت:33)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3- آیات 33 تا 50 : تیسرے پیراگراف میں فوجداری قوانین (Criminal code) بیان کر کے ﴿اللہ کی تشریعی حاکمیت﴾ ثابت کی گئی ہے۔

اللہ اور رسول سے ﴿مُحَارَبَة﴾ کرنے والے فسادیوں کو (حالات کے مطابق حکومتی صوابدید پر) پھانسی یا قتل یا جلاوطنی یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی فوجداری سزا دی جائے گی۔ (آیت:33)

- چوری اور ڈاکہ زنی کی سزا میں، مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹا جائے گا ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (آیت:38)

اللہ کی ﴿ تشریعی حاکمیت ﴾ کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے رویے بیان کیے گئے۔ وہ آیاتِ الٰہی کی تحریف کر کے اپنی خواہشاتِ نفس کے مطابق فیصلے کرانا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ (آیت: 41)

رسول اللہ ﷺ کو ﴿ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ کے مطابق عدل کے ساتھ فیصلوں کا حکم دیا گیا، تورات کے قانونِ قصاص کا ذکر کر کے ﴿شرك في التحكيم ﴾ کے مرتکب افراد کو کافر، ظالم اور فاسق کہا گیا۔ (آیات:45,44 اور 47)

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ... الظَّالِمُونَ ..... الْفَاسِقُونَ ﴾

رسول اللہ ﷺ کو اہلِ کتاب کی خواہشاتِ نفس کے مطابق فیصلہ کرنے اور یہودیوں کے دباؤ میں آنے سے روکا گیا۔

﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (آیت:48)۔

4- آیات 51 تا 86: چوتھے پیراگرف میں ﴿یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم﴾ بیان کر کے، مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں ہیں۔

(a) ہدایات: مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کو سرپرست ﴿أَوْلِيَاء ﴾ نہیں بنانا چاہیے۔ (آیت: 51)

مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی ہدایت کی گئی، ورنہ اللہ دوسری قوم اُٹھا سکتا ہے۔ سچے مسلمانوں کی چھ (6) صفات یہ ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ مسلمانوں کے تین سرپرست ﴿ولی﴾، اللہ، رسولؐ اور مؤمنین ہوتے ہیں۔ اور یہی اللہ کی پارٹی ﴿حِزْبُ اللَّهِ ﴾ ہے، جو غالب ہو کر رہے گی۔ (آیت:56)۔

مسلمانوں کو اہلِ کتاب اور کافروں کو ﴿ولی﴾ بنانے سے روک دیا گیا، جو دین کا مذاق اُڑاتے ہیں (آیات:57 اور 58)

(b) (یہودیوں کے جرائم) بیان کر کے اُن سے ﴿ مُجَادَلَه ﴾ کیا گیا ہے اور انہیں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔

اہلِ کتاب سے پوچھا گیا ہے کہ کیا اُن کی مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ، صرف اللہ اور تمام کتابوں پر ایمان ہے؟ (آیت:59)

یہودیوں کو بندر اور سور بنا کر ان پر لعنت کیے جانے کی وجہ، ان کی نافرمانی تھی۔ (آیت:60)۔

یہودی ﴿اِثم اور عُدوان ﴾ اور حرام خوری کے مرتکب ہیں (آیت:62)۔

یہودیوں کے علماء اور درویش بھی، ان کے لیڈروں کی حرام خوری پر انہیں نہیں روکا کرتے تھے۔ (آیت:63)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یہودی ﴿یَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ﴾ کہتے (آیت:64) ﴿طُغْیَانًا وَّ كُفْرًا﴾ سے کام لیتے (آیت:64)۔

فسادی یہودی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں (آیت:64)۔

یہودی خواہشاتِ نفس سے کام لیتے تھے اور بعض رسولوں کو جھٹلا دیتے اور بعض رسولوں کو قتل کر دیتے تھے (آیت:70)۔

(c) (اہلِ کتاب کو بلاخوف وخطر دعوت دینے کی ہدایت)

رسول اللہ ﷺ کو بلاخوف وخطر، کسی دباؤ میں آئے بغیر ﴿مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ﴾ کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ مکمل تبلیغ نہ کرنے کا مطلب رسالت کی ذمہ داری ادا نہ کرنا ہے۔ رسول ﷺ کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ ﷺ کی حفاظت کرے گا۔

﴿وَاللّٰهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (آیت:67)۔

(d) (عیسائیوں کے خلاف فردِ جرم اور اُن سے مجادلہ)

- عیسائیوں کے ایک فرقے کے عقیدۂ حُلُول (Incarnation) کو کفر قرار دیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضرت عیسیٰؑ کے گوشت پوست کے جسم میں حُلُول کے قائل تھے (آیت:17 اور 72)۔ انہیں صاف بتا دیا گیا کہ خود حضرت عیسیٰؑ نے توحید کی دعوت دی اور اعلان کر دیا تھا کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے اور وہ دوزخی ہوگا۔ (آیت:72)
- عیسائیوں کے دوسرے فرقے کے عقیدۂ تثلیث (Trinity) کو کفر قرار دیا گیا، جو تین خداؤں کے مجموعے کو خدائی کا مرکز ومحور سمجھتے ہیں اور اللہ کو تینوں میں کا تیسرا سمجھتے ہیں (آیت:73)۔

عیسائیوں کو دعوتِ توبہ واستغفار دی گئی کہ وہ شرک چھوڑ کر توحید اختیار کریں۔

﴿اَفَلَا یَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَیَسْتَغْفِرُوْنَهٗ﴾ (آیت:74)

حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کی بشریت پر دلیل پیش کی گئی کہ وہ کھاتے پیتے تھے (آیت:75)

عیسائیوں کو ﴿غُلُوّ﴾ اور مبالغہ آمیزی سے منع کیا گیا۔ ﴿لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِكُمْ غَیْرَ الْحَقِّ﴾ (آیت:77)

یہودیوں پر تنقید کی گئی کہ انہوں نے ﴿نهي عَن المنكر﴾ یعنی برائیوں سے روکنے کا کام چھوڑ دیا تھا (آیت:79)

حضرت داودؑ اور حضرت عیسیٰؑ نے بھی یہودیوں پر لعنت کی تھی۔ (آیت:78)

- مسلمانوں کے شدید ترین دشمن، یہودی اور مشرکین ہیں۔ مودّت کے اعتبار سے، مسلمانوں کے قریب ترین نصاریٰ ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، ان میں ﴿قِسِّیْسِیْنَ﴾ اور ﴿رُهْبَانًا﴾ ہیں۔ (آیت:82)۔

(e) اچھے عیسائیوں کی صفات بیان کی گئیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں، قرآن سن کر روتے ہیں اور کہہ اُٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ہمارا نام شہادت دینے والوں میں لکھ لیا جائے۔

﴿رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِیْنَ﴾ (آیت:83)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

5- آیات 87 تا 108: پانچویں پیراگراف میں، مشرکینِ مکہ سے ﴿مُجَادَلَہ﴾ کیا گیا اور ﴿متفرق احکامِ شریعت﴾ بیان کیے گئے ہیں۔

(a) مسلمانوں کو پاک چیزوں ﴿طَیِّبات﴾ کو حرام ٹھہرا لینے کی ممانعت کی گئی (آیت: 87) غیر شعوری قسموں پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ شعوری قسموں پر مؤاخذہ ہوگا۔ اس لیے شعوری قسموں کا کَفَّارہ لازم ٹھہرایا گیا۔ دس مسکینوں کو کھانا، یا کپڑے دینے ہوں گے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یہ ممکن نہ ہو تو تین روزے رکھنے ہوں گے۔ (آیت: 89)

شراب، جوئے، آستانوں اور پانسوں کے تیروں کو شیطان کے اعمال کی گندگی قرار دے کر حرام ٹھہرایا گیا۔

شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل کیا گیا۔ ﴿فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ (آیت: 90)۔

اس سے پہلے سورۃ البقرۃ کی آیت: 219 اور سورۃ نساء کی آیت: 43 میں جو تدریجی احکام دیئے گئے تھے، وہ منسوخ قرار پائے۔

اِحرام کی حالت میں خشکی کے شکار کو حرام ٹھہرایا گیا اور جان بوجھ کر اس حالت میں شکار کرنے والے کے لیے کَفَّارہ تجویز کیا گیا، البتہ سمندری شکار کی اجازت دی گئی (آیت: 96)

حج اور عمرہ کرنے والوں کو خانہ کعبہ، قربانی کے جانوروں اور احرام کی پابندیوں کے سلسلے میں خوفِ الٰہی کو پیشِ نظر رکھنے کی تاکید کی گئی۔ (آیت 97 : تا 100)

(b) (مشرکین کے جرائم اور اُن سے مُجادَلہ)

مشرکین کے خود ساختہ حلال و حرام پر گرفت کرتے ہوئے صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ نے نہ تو ﴿بَحِیرہ﴾ نہ تو ﴿سَائِبَہ﴾ نہ ﴿وَصِیلَہ﴾ اور نہ ﴿حَام﴾ کو مشروع کیا ہے۔ یہ وہ اونٹنیاں اور اونٹ تھے، جنہیں مختلف وجوہات کی بنا پر مشرکین نے مقدس ٹھہرا کر ان کی سواری وغیرہ کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا۔ (آیت: 103)

مشرکین کی اوہام پرستی کارڈ کر کے ﴿مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا﴾ اور ﴿مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ﴾ کے فرق کی وضاحت کی گئی ہے (آیت: 104) باپ دادا کی اندھی تقلید کے بجائے وحی کی پیروی کرنی چاہیے۔

وصیت (Will) کے احکام اور اس سے متعلقہ قانونِ شہادت کے احکام بیان کیے گئے۔ (آیت: 106 تا 108)

6- آیات 109 تا 120: چھٹے اور آخری پیراگراف میں، ﴿عیسائیوں کو دعوتِ توحید﴾ دی گئی ہے۔

اُس دن قیامت کے مناظر پیش کر کے اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰؑ کے درمیان مکالمہ نقل کیا گیا۔ حضرت عیسیٰؑ کے معجزات نقل کر کے عیسائیوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا (آیت :109)۔

اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰؑ پر اُس احسان کا ذکر کیا گیا، جب یہودیوں نے انہیں قتل کرنا چاہا اور اُن کی دعوت کو کھلا جادو قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کو یہودیوں سے بچا لیا۔

﴿وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِیْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ﴾ (آیت: 110)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں کی طرف سے دسترخوان ﴿مَـآئِدَہ﴾ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ فرمائش ، معجزے کے طور پر پوری کردی۔(آیات :112 تا 115)

آیت:73 کے حکم ﴿إِنَّ اللّٰہَ ثَـالِثُ ثَلٰثَةٍ﴾ ''اللہ تین خداؤں کے مجموعے میں سے تیسرا ہے'' کی تفصیل بیان کر کے عقیدۂ تثلیث (Trinity) کی مکرر تردید کی گئی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰؑ سے پوچھے گا: ''کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے علاوہ، دو اور خدا ﴿إِلٰـھَـیْنِ﴾ بنالو؟ وہ انکار کریں گے۔ حضرت عیسیٰؑ اعتراف کریں گے :میں نے تو یہی حکم دیا تھا ﴿أَنِ اعْـبُـدُوا اللّٰہَ رَبِّـیْ وَرَبَّـکُمْ﴾ ''اللہ ہی کی عبادت کرو وہی میرا رب بھی ہے اور تم لوگوں کا بھی'' آخر میں عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن توحید پرست سچے لوگوں کو (توحید کی سچائی) فائدہ دے گی۔ ﴿یَوْمُ یَـنْـفَعُ الصّٰدِقِیْنَ صِدْقُـھُمْ﴾ اور مُوَحِّدین جنت میں داخل کیے جائیں گے۔

مرکزی مضمون

آخری رسول محمد ﷺ پر نازل کردہ حتمی شریعت کے احکام پر، دورنگی اور منافقت کے بغیر صدقِ دل سے عمل درآمد کے لئے، امتِ مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد اور طرزِ عمل سے واقف ہو کر اُن سے احتراز ضروری ہے۔ اسلامی شریعت ﴿عُـقُـوْد﴾ اور معاہدوں کی پابندی کا نام ہے اور اس میں عقیدے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے علاوہ فوجداری قوانین بھی شامل ہیں۔ اسلام میں سیکولرازم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط — نظمِ جلی

06- سُورَۃُ الاَنعَامِ

آیات : 165 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف :7



زمانۂ نزول:

رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے آخری دور میں، عین ہجرت سے پہلے غالباً 13 نبوی میں، سُورت ﴿الانعام﴾ اور سُورت ﴿الاعراف﴾ نازل ہوئیں۔ اس سورت میں تیرا (13) سال کی دعوت کا خلاصہ، آخری الٹی میٹم کے ساتھ آ گیا ہے۔

آیت :33 شاید ابوجہل کے اس قول پر نازل ہوئی کہ مشرکین محمد ﷺ کی ذات کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ انہیں قرآن کی آیات سے انکار ہے۔ (سنن ترمذی: کتاب تفسیر القرآن، باب تفسیر سورۃ الانعام: حدیث 3,064، ضعیف)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خصوصیات

1- سورت ﴿ الْاَنعام ﴾ میں مشرکینِ مکہ کے خلاف حتمی فردِ جرم (Final Charge Sheet) بھی ہے، اُن کے شرک کی مختلف صورتوں کا بیان بھی ہے اور توحید کی مختلف قسموں کی وضاحت بھی۔ اس سورت میں مشرکینِ مکہ کے اعتراضات بھی نقل کیے گئے ہیں اور اُن کا مسکت جواب بھی دیا گیا ہے اور انہیں اجمالی طور پر ہلاکت کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔

2- کتابی ترتیب کے لحاظ سے سُورۃُ ﴿ الفاتحة ﴾ کے بعد کی چار مدنی سورتیں (البقرة ، آل عمران، النساء اور المائدہ)، بنی اسرائیل کے خلاف فردِ جرم سے متعلق ہیں۔ اہلِ کتاب کو دعوت اسلام اور ان کے اور امتِ مسلمہ کے درمیان روابط سے متعلق ہیں۔

3- سورت ﴿ الْاَنعام ﴾ سے قرآنِ مجید کا مزاج بالکل بدل جاتا ہے اور اس کا رخ، بنی اسمٰعیل (بالخصوص قریشِ مکہ) کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہاں سے 'دو مکی سورتوں' کا آغاز ہو رہا ہے ،اور قاری کو ایک نئے پیرایۂ بیان سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے۔

سورۃُ الْاَنعَام کا کتابی ربط

1- سورۃ ﴿المائدہ﴾ میں یہود و نصاریٰ کے سیکولرازم اور ﴿شرك في التّشريع﴾ کا ذکر تھا۔ یہاں سورۃ ﴿الانعام﴾ میں دیگر چیزوں کے علاوہ مشرکینِ مکہ کے ﴿شرك في التشريع﴾ کی وضاحت ہے۔

2- سورۃ ﴿الانعام﴾ کی آیت:6 میں قوموں کی ہلاکت کا اجمالی ذکر ہے، اگلی سورت ﴿ الاعراف﴾ میں، تفصیلی طور پر چھ (6) قوموں کی ہلاکت کا ذکر کر کے، قریشِ مکہ کو آخری وارننگ دی گئی ہے اور اللہ کا (قانونِ ہلاکتِ اَقوام) اور (قانونِ استبدالِ اَقوام) بیان کیا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- سورۃ الانعام میں ﴿ اللّٰہ ﴾ کے مقابلے میں ﴿ غیرُ اللّٰہِ ﴾ کی تحقیر اور (مشرکین سے مجادلے کے لیے) خود کلامی اور بحث پر مبنی کئی سوالیہ اسالیب استعمال کیے گئے ہیں۔

(a) ﴿غیرُ اللّٰہ ﴾ کی ربوبیت کی تردید کے لئے ﴿ قُلْ اَغَیْرَ اللّٰہِ اَبْغِیْ رَبًّا ؟﴾ (آیت:164)

(b) ﴿غیرُ اللّٰہ ﴾ کی عبادت اور شرك في الدّعاء کی تردید کے لئے ﴿ اَغیرَ اللّٰہِ تَدْعُوْنَ ؟﴾ (آیت:40)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) اللہ کو ولی اور کارساز بنا کر ﴿غَیْرُ اللہِ ﴾ کی ولایت کی تردید کے لئے ﴿ قُلْ اَغَیْرَ اللہِ اَتَّخِذُ وَلِیًّا ؟ ﴾ (آیت:14)۔

(d) ﴿غَیْرُ اللہِ ﴾ کے اختیارات کی تردید کے لئے
﴿ قُلْ اَنَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللہِ مَا لَا یَنْفَعُنَا وَلَا یَضُرُّنَا ؟ ﴾ (آیت:71)۔

(e) ﴿غَیْرُ اللہِ ﴾ کی حاکمیت اور شرك فی التشریع کی تردید کے لئے ﴿ اَفَغَیْرَ اللہِ اَبْتَغِیْ حَکَمًا ؟﴾۔ (آیت:114)

2- مشرکین سے مجادلے کے لیے ﴿یَعْدِلُوْن ﴾ کا لفظ دو(2) مرتبہ آیت نمبر: 1 اور 150 میں استعمال کیا گیا ہے، جو ﴿ غَیْرُ اللہِ ﴾ کو ﴿اللہ ﴾ کے برابر اور ہمسر ٹھہراتے تھے۔
﴿شِرْكٌ فِی الذَّات ﴾ کی تردید کے لیے مشرکین کے سامنے ایک عقلی دلیل رکھی گئی کہ جب اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے تو پھر اُس کا کوئی بیٹا کیسے ہوسکتا ہے؟ ﴿ اَنّٰی یَکُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ﴾ (آیت:101)

3- توحید علم کی وضاحت کے لیے بتایا گیا کہ اللہ غیب کی چابیوں کا مالک ہے (آیت:59) اُس کا علم ہر شئے پر محیط ہے (آیت:80)
اللہ تعالیٰ ہر شئے کا علم رکھتا ہے (آیت:101)۔

4- توحید تنزیہہ کی وضاحت کے لیے ﴿ حَمد ﴾ اور ﴿ تَسبیح ﴾ کے فرق کو ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا۔
" وہ کھلاتا ہے ، اُسے کھلایا نہیں جاتا"۔ ﴿وَهُوَ یُطْعِمُ وَلَا یُطْعَمُ ﴾ (آیت:14)۔

5- توحید اختیار کے سلسلے میں مندرجہ ذیل باتیں بیان کی گئیں۔

(a) اللہ تعالیٰ قوموں کی ہلاکت کا اختیار رکھتا ہے۔ فرمایا گیا:
کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا؟ ﴿ اَلَمْ یَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (آیت:6)۔

(b) اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔
﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ﴾ (آیت:45)۔

(c) کیا تم لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ کا عذاب اچانک بھی نازل ہوسکتا ہے؟
﴿ قُلْ اَرَءَیْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللہِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً ﴾ (آیت:47)۔

(d) اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے عذاب دے سکتا ہے۔ (1) اوپر سے یعنی بارش، بجلی وغیرہ سے (2) نیچے سے یعنی سیلاب، زلزلہ اور خسف وغیرہ سے (3) قوموں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو عذاب میں مبتلا کر دے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ ، اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ ، اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ، وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ﴾ (آیت:65)۔

(e) اللہ تعالیٰ سلب سماعت، سلب بصارت اور مہر قلوب کا اختیار رکھتا ہے، کسی ﴿غَيْرُ اللّٰهِ﴾ کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ لوٹا سکیں۔

﴿ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ﴾ (آیت:46)

(f) اللہ تعالیٰ انسانوں کو زمین پر خلافت عطا کر کے، عطا کردہ اختیارات و وسائل میں آزماتا ہے۔

﴿وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ ، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ ، لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ﴾ (آیت:165)

(g) اللہ زمین پر تمکین عطا کر کے نعمتوں سے نوازتا ہے، پھر ناشکری پر انہیں ہلاک کر کے، دوسری قوموں کو میدانِ امتحان میں لے آتا ہے۔

﴿اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ﴾ (آیت:6)۔

6- توحید حاکمیت اور توحید تشریع کے سلسلے میں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی احکامات جاری کرنے کے اختیارات ہیں، وہ حاکم اور شارع (Law-giver) ہے۔

(a) ﴿حُكْم﴾ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ صحیح حکم دیتا ہے اور بہترین فیصلے کرتا ہے۔

﴿اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ﴾ (آیت:57)۔

(b) صرف اللہ تعالیٰ ہی برحق مولا ہے، اسی کا ﴿حکم﴾ چلے گا اور وہ حساب کرنے میں سب سے زیادہ تیز ہے۔

﴿ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ﴾ (آیت:62)۔

(c) اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ﴿حَكَم﴾ نہیں بنایا جا سکتا، جب کہ اس نے مسلمانوں پر مفصل اَحکام نازل کر دیے ہیں۔

﴿اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؟﴾ (آیت:114)

(d) اللہ تعالیٰ ہی حلال و حرام کے اختیارات رکھتا ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کیے گئے جانور ہی کھائے جا سکتے ہیں۔

﴿فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ﴾ (آیت:118)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(e) جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اسے کھانے سے روک دیا گیا اور اسے ﴿فِسق﴾ یعنی نافرمانی کا نام دیا گیا۔
﴿ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ﴾ (آیت:121)۔

(f) زرعی پیداوار پر زکوۃ ادا کر کے، اس پیداوار کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن ﴿اِسراف﴾ سے روک دیا گیا۔
﴿ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ﴾ (آیت:141)

(g) حلال وحرام کے قواعد بتائے گئے کہ اللہ کی وحی میں صرف مردار، بہتا خون، سور کے گوشت اور غیر اللہ کے نام کے ذبیحہ کو حرام کیا گیا ہے۔
﴿ قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ﴾ (آیت:145)

حلال وحرام کے معاملے میں، مشرکینِ مکہ نے اللہ کی شریعت سے بے نیاز ہو کر، اپنی شریعت بنالی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مخصوص مویشی ہیں، اور یہ مخصوص کھیت ہیں، جو بتوں کے لیے وقف ہیں۔ ﴿ هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ﴾ (آیت 138)

" یہ جانور اور یہ کھیت ﴿غیرُ اللہ کے لیے﴾ محفوظ ہیں۔"

اسی طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر حاملہ جانور کے پیٹ میں کوئی بچہ ہو تو وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔

﴿ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ﴾ (آیت:139)

(h) رسول اللہ ﷺ کو مشرکینِ مکہ کے خواہشاتِ نفس پر مبنی، خودساختہ قواعد حلال وحرام کی گواہی دینے سے منع کر دیا گیا۔
﴿ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ ﴾ (آیت:150)

(i) اللہ تعالیٰ نے شرک کو، والدین کی نافرمانی کو، اولاد کے قتل کو، ظاہر و باطن کی فحاشی کو اور ناحق قتل کو ﴿حرام﴾ ٹھہرایا ہے۔
﴿ حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا ۖ وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ (آیت:151)۔

-7 توحیدِ رحمت کے سلسلے میں کئی آیات آئی ہیں۔

(a) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، سب لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے گا، جسے اُس نے اپنی ذات پر

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لازم کرلیا ہے۔

﴿ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ﴾ (آیت:12)

(b) اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ روزِ قیامت، انسان کو عذاب سے بچالیا جائے۔ اسی کا نام کامیابی ہے۔

﴿ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴾ (آیت:16)۔

(c) اللہ نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کرلیا ہے، جو لوگ لاعلمی کی وجہ سے غلط کام کر بیٹھیں اور پھر اپنی اصلاح کرلیں تو اللہ مغفرت اور رحم فرمائے گا۔

﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ، اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ، ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (آیت:54)۔

(d) اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والا ہے، لیکن روزِ قیامت عدل وانصاف کی خلاف ورزی نہیں ہوگی ، مجرموں پر سے عذاب کو نہیں ٹالا جائے گا۔

﴿ رَبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴾ (آیت:147)۔

(e) اس کی رحمت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ نیکیوں کا اجر، دس (10) گنا زیادہ دیتا ہے، لیکن برائی کا صلہ برائی کے برابر ہی دیتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ﴾ (آیت:160)۔

(f) انسان کو صاف بتایا گیا کہ اللہ نے اُسے زمین پر خلیفہ بنایا ہے اور بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے ، تاکہ ﴿ مَآ اٰتٰكُمْ ﴾ جو کچھ وسائل، عطا کیے گئے ہیں، صرف انہی میں انسان کو آزمایا جائے ، آزمائش میں فیل ہونے والوں کے لیے وہ ﴿ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ﴾ ہے اور پاس ہونے والوں کے لیے ﴿ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ ہے۔

﴿ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (آیت:165)

-8 مشرکینِ مکہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بابرکت قرآن پر ایمان لائیں ، اُس کی پیروی کریں اور اسی صورت میں اُن پر رحم کیا جاسکتا ہے۔

(a) ﴿ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ ﴾ (آیت:92)

"یہ ایک کتاب ہے ، جسے ہم نے نازل کیا ہے ، بڑی خیر و برکت والی ہے۔"

(b) ﴿ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾ (آیت:155)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

”یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، لہٰذا تم اِس کی پیروی کرو! اور تقویٰ کی روش اختیار کرو ! بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔“

9- توحید کی ﴿صراطِ مستقیم﴾ اور قرآن کی طرف دعوت دی گئی۔

(a) مشرکینِ مکہ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ ﷺ ملتِ ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ موحد تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔

﴿قُلْ اِنَّنِیْ هَدٰىنِیْ رَبِّیْٓ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ، دِیْنًا قِیَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ﴾ (آیت:161)۔

(b) مشرکینِ مکہ کو دعوت دی گئی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے سیدھے راستے کی پیروی کریں ، جو توحید اور نجات کا واحد راستہ ہے۔

﴿وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ﴾ (آیت:153)۔

10- توحید الوہیت اور توحید عبودیت کو ثابت کرنے کے لیے، خالقیت اور ربوبیت سے استدلال کیا گیا۔

(a) صرف اور صرف اپنے ﴿خالق﴾ اور اپنے ﴿رب﴾ کی ﴿عبادت﴾ کا حکم دیا گیا، جس کے علاوہ کوئی ﴿اِلٰہ﴾ نہیں ہے۔

﴿ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ، خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ، فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَّكِیْلٌ“﴾ (آیت:102)

(b) رسول ﷺ کو وحی کی پیروی کرنے، صرف اور صرف اللہ کو ﴿اِلٰہ﴾ تسلیم کر لینے اور مشرکین سے اعراض کا حکم دیا گیا۔

﴿اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ، وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ﴾ (آیت:106)

• سورۃ الاَنعام کا نظمِ جلی:

سورۃ الانعام سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 73 : پہلے پیراگراف میں، مشرکینِ مکہ (بنی اسمٰعیل) سے مناظرہ اور مجادلہ کر کے ان کے خلاف فردِ جرم عائد کی گئی ہے۔

پہلے اللہ کا تعارف ہے کہ وہ خالقِ ارض وسماء ہے اور انسان کو مقررہ وقت تک اس زمین پر رکھے گا، مکمل علم رکھتا ہے۔ پھر مشرکینِ مکہ کے خلاف فردِ جرم (Charge Sheet) ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مشرکینِ مکہ مخلوق کو خالق کے برابر سمجھتے ہیں (1) شک میں مبتلا ہیں (2) ہر محکم دلیل کے باوجود اعراض و اجتناب کا رویہ اختیار کرتے ہیں (4) حق کو جھٹلا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں (5) ،قرآن کو کھلا جادو سمجھتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ یہ منکرِ آخرت ہیں، انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا (13) ضدی اور ہٹ دھرم ہیں ،کسی دلیل پر غور نہیں کرتے ،قرآن کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر ٹال دیتے ہیں (26) روزِ قیامت نادم و شرمسار ہوں گے (28) منکرِ آخرت ہیں، صرف دنیا کی زندگی ہی کو تسلیم کرتے ہیں (29) حسّی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں (37)

اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، ولایت اور اختیار کو ثابت کیا گیا کہ وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے اور اس قرآن کے ذریعے انہیں خبردار کیا جارہا ہے (آیت:19)

مشرکینِ مکہ کے سامنے توحید کے آفاقی دلائل رکھے گئے (38)۔ پھر انفسی دلائل رکھے گئے کہ انسان عذاب کے موقع پر غیر اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ ہی کو پکارتا ہے (30)۔ پھر تاریخی دلائل رکھے گئے کہ سخت دل قوموں کو پہلے دکھ کے امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر سکھ کے امتحان میں اور بالآخر انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے (45)۔ اور ظالم قومیں ہلاک کردی جاتی ہیں (47)۔

منصبِ رسالت کی وضاحت کر کے اللہ اور رسول کی صفات کا فرق واضح کیا گیا:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام رسول لوگوں کو خوش خبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں (48)۔ ان کے پاس خزانے بھی نہیں ہوتے اور غیب کا مکمل علم بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی کی پیروی کرتے ہیں (50)۔ رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ صبح شام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے صحابہؓ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ (52)۔ نبی ﷺ کو ﴿مِن دُونِ اللّٰہ﴾ کی عبادت سے روک دیا گیا ہے (56)۔ رسول کے پاس قوموں کو عذاب دینے کا اختیار نہیں ہوتا ، بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے (57)۔ اگر یہ اختیار ہوتا تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا (58)۔ غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی نبی ﷺ کے پاس نہیں ہیں ، بلکہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے (59)۔ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ رسول ﷺ کو ان ضدی لوگوں سے اعراض کرنے کی ہدایت دی گئی ، جو دنیا کے لھو و لعب میں مبتلا ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے (70)۔ نبی ﴿من دون اللہ﴾ سے دعا بھی نہیں کرسکتا، جو نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے (71)۔ نبیوں کو اسلام قبول کرنے، نماز قائم کرنے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے ہی کا حکم دیا گیا ہے (72)۔ حکیم و خبیر با اختیار خدا قیامت کو برپا کر کے رہے گا۔ (73)

2- آیات 74 تا 94: دوسرے پیراگراف میں، انبیاء کی تاریخ دعوتِ توحید کی روشنی میں، مشرکینِ مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ کیا گیا

مشرکینِ مکہ کو سمجھایا گیا کہ انہیں حضرت ابراہیمؑ کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنے باپ دادا کے عقیدۂ شرک کو ترک کر کے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

عقیدۂ توحید اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیمؑ نے ہر تکلف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے والد اور اپنی قوم کو صاف کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کو صریح گمراہی میں پاتا ہوں۔ ﴿اِنِّیْ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ﴾(74)
حضرت ابراہیمؑ نے غور و تدبر سے کام لے کر پہلے ستاروں کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، پھر چاند کو اور پھر سورج کو اور بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ زمین آسمان کا خالق ہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے(79)۔ حضرت ابراہیمؑ کی قوم نے بھی (مشرکینِ مکہ کی طرح) اپنے خداؤں کی مار سے حضرت ابراہیمؑ کو ڈرایا، لیکن وہ ﴿غیر اللہ﴾ کی تخویف سے بالکل نہیں ڈرے اور بتایا کہ اہلِ توحید ہی کو امن حاصل ہو سکتا ہے ، اہلِ شرک اور اہلِ ظلم کے لیے کوئی امن نہیں (81)۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو دلیل و برہان کی حجت عطا کر کے ان کے درجات بلند کیے (82)۔
حضرت ابراہیمؑ کے بعد دیگر انبیاء کی دعوتِ توحید کا ذکر کر کے مشرکینِ مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ حضرات اسحٰقؑ ، یعقوبؑ نوحؑ ، داودؑ، سلیمانؑ ، ایوبؑ ، یوسفؑ ، موسیٰؑ ، ہارونؑ ، زکریاؑ ، یحییٰؑ ، عیسیٰؑ ، الیاسؑ ، اسمٰعیلؑ ، یسعؑ ، یونسؑ اور لوطؑ سترہ (17) پیغمبروں کا ذکر کیا گیا کہ ان سب کو بھی توحید کی ہدایت دی گئی تھی۔ اگر یہ جلیل القدر پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے (88)۔ مشرکینِ مکہ کو بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اس طرح صحیح اِدراک نہیں کیا، جیسا کہ اُس کا حق ہے اور یہ صرف وحی کی روشنی میں ہی ممکن ہے (91)۔ تورات کے بعد اب قرآن کی صورت میں اس مبارک وحی کا نزول ہوا ہے، تا کہ اُمّ القریٰ (مکہ) اور اس کے اَطراف و اَکناف کے لوگوں کو خبردار کیا جائے (92)۔ قریش کی متکبر اور مفتری قیادت کو عالمِ نزع اور عذابِ قبر سے ڈرایا گیا (93)۔ مشرکینِ مکہ کے خود ساختہ عقیدۂ شفاعت کی تردید کی گئی (94)۔

3- آیات 95 تا 113: تیسرے پیراگراف میں، ابطالِ شرک اور اثباتِ توحید کے لئے آفاقی دلائل سے مناظرہ اور مجادلہ کیا گیا

اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اس کا مزید تعارف کرایا گیا کہ وہ رب بھی ہے، زندگی اور موت کے اختیارات رکھتا ہے (95)۔ چاند اور سورج کی گردش کا اختیار رکھتا ہے (96)۔ بارش کے ذریعے سبزیاں اور پھل فراہم کرتا ہے ، لیکن مشرکینِ مکہ ان تمام دلائل کے باوجود، فرشتوں اور جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ، اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں منسوب کرتے ہیں (100)۔ عقلی دلیل پیش کی گئی کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے ، جب کہ کوئی اس کی بیوی ہی نہیں (101)۔ مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں اپنے خالق اور رَبّ کو، اِلٰہ اور حاکم تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی (آیت:102)۔
نو مسلم صحابہؓ کو ہدایت دی گئی کہ دعوت میں شائستہ زبان استعمال کریں۔ مشرکین کے خداؤں کے لیے غلط زبان استعمال کرنے سے پرہیز کریں، ورنہ مشرکین بھی لاعلمی میں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں (108)۔
مشرکینِ مکہ کے مطالبات کا جائزہ لیا گیا کہ یہ حسّی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اس قدر ضدی لوگ ہیں کہ اگر

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے بھی نازل کرتا، قبروں سے مردے اٹھ کر ان سے گفتگو کر لیتے اور دنیا کی ہر چیز ان کے لیے جمع کر دی جاتی تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔

4- آیات 114 تا 121: چوتھے پیراگراف میں، ﴿شرك فى التشريع﴾ کی تردید کی گئی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ مفصل کتاب کے نازل کیے جانے کے بعد وہ کسی غیر اللہ کو اپنا ﴿حَكَم﴾ اور اپنا ﴿شارِع﴾ نہیں تسلیم کر سکتے (114) جب کہ اللہ کا قانون صدق وعدل پر مبنی ہے (115)۔ اس کے برخلاف مشرکینِ مکہ ظن وخرص سے کام لے رہے ہیں (116)۔

ماکولات میں حلال وحرام کی وضاحت کی گئی کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیے گئے جانور ہی کھائے جا سکتے ہیں (118)۔ ﴿غير الله﴾ کا نام لے کر ذبح کیے گئے جانور نہیں کھائے جا سکتے (121)۔

4B- آیات 122 تا 135: اس پیراگراف میں، قریش کی ﴿مجرم اور مغرور قیادت﴾ کے مکر وفریب کا پردہ چاک کیا گیا ہے

قریش کی مکار قیادت ﴿اَکابر مجرمین﴾ کو متنبہ کیا گیا کہ روزِ قیامت یہ عذابِ شدید سے دوچار کیے جائیں گے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی رسول بنایا نہیں جاتا (124)۔ اللہ تعالیٰ اہلِ ہدایت کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جب کہ گمراہ لوگوں کے سینے گندگی سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے (125)۔ توحید کی دعوت ہی صراطِ مستقیم ہے۔ (آیت 126) اس کا ثمرہ جنت ہے (127)۔ انسانوں اور جنات دونوں کو آزادیٔ اختیار عطا کی گئی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں۔ اختیار کے صحیح وغلط استعمال پر جزاوسزا کا انحصار ہے۔ روزِ قیامت یہ پچھتائیں گے اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کھو کر آخرت اور رسالت کا انکار کرتے رہے۔

آخر میں قانونِ ہلاکتِ اقوام اور قانونِ استبدالِ اقوام کی وضاحت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو لاعلمی میں ظالمانہ طور پر ہلاک نہیں کرتا۔ قریش کو دھمکی دی گئی کہ اب آپ اپنی جگہ کام کریں اور ہم اپنی جگہ، بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس انجام بہتر ہوگا؟ ظالم ہرگز فلاح نہیں پا سکتے (135)۔

5- آیات 136 تا 154: پانچویں پیراگراف میں، قریش کی بدعات کا ذکر کر کے ان کے ﴿شرك فى التشريع﴾ کی وضاحت کی گئی ہے۔

مشرکین پر فردِ جرم عائد کی گئی کہ یہ مویشیوں اور کھیتیوں میں اللہ کے علاوہ ﴿غَيْرُ اللّٰه﴾ اور ﴿شُرَكَاء﴾ کے حصے مقرر کیا کرتے ہیں (136)۔ قتلِ اولاد کے مرتکب ہیں (137)۔ بعض کھیتیوں اور جانوروں کے حلال وحرام کے سلسلے میں من گھڑت قوانین کے پیروکار ہیں (آیت 139)۔ اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کے رزق کو علم کے بغیر سے حرام ٹھہراتے ہیں (140)۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو ﴿شارِع﴾ تسلیم کرنے کے بجائے، یہ خود شارع بن گئے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں۔ کھیتی کٹنے پر پیداوار کی زکوۃ ادا کریں۔ اِسراف سے بچیں

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(141)۔ اللہ کے رزق کو استعمال کریں ، لیکن شیطان کی پیروی سے بچیں (142)۔ اَلْاَنْعَام (8 مویشیوں) کا ذکر کرکے بتایا گیا کہ اللہ نے ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں کی۔ صرف مردار ، بہتا خون، سور کا گوشت اور اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیے گئے جانور ہی حرام کیے گئے ہیں۔ حلال و حرام کے تشریعی قوانین اللہ کی رحمت کی دلیل ہیں ۔ وہ وسیع رحمت والا ہے ، لیکن مجرموں سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا ، جو ظن و خرص سے کام لے کر خود ﴿شارع﴾ بن کر حلال و حرام کے قوانین بنا رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کررہے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسری ہستیوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں (150)۔ مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں کہ وہ شرک سے بچیں، والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کریں، قتلِ اولاد اور ظاہر و باطن کی فحاشی سے بچیں، قتلِ نفس اور یتیموں کا مال کھانے سے پرہیز کریں، ٹھیک ٹھیک تولیں، گفتگو میں بھی عدل کو ملحوظ رکھیں، اللہ کے عہد کو پورا کریں (152)۔ یہی صراطِ مستقیم ہے، اِسی پر چلیں (153)۔ انہی بنیادی باتوں کی تورات میں بھی تعلیم دی گئی تھی (154)۔

6- آیات 155 تا 165: چھٹے اور آخری پیراگراف میں، ﴿دعوتِ توحید کا خلاصہ﴾ بیان کر کے قرآن کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے

قرآن اور رسول اللہ ﷺ کی صورت میں آخری ہدایت آچکی ہے۔ اب اس کی پیروی کرنے پر ہی ان پر رحم کیا جائے گا ۔ دینِ ابراہیمی میں تفرقہ پیدا کرنے والوں سے رسول اللہ ﷺ کا کوئی تعلق نہیں ہے (158)۔ یہ ملتِ ابراہیمی کی اَساس پر سیدھا دین ہے اور صراطِ مستقیم ہے۔ حضرت ابراہیمؑ مشرک نہیں تھے (161)۔ نماز ہو یا قربانی ، زندگی ہو یا موت سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے ، شرک سے بچ کر اللہ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے ۔ روزِ قیامت دوسرے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے انسان کو خود اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے (164)۔

آخر میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو خلیفہ بنا کر بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، تا کہ ﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ﴾ یعنی جو کچھ عطا کیا گیا ہے، اس میں آزمائش اور امتحان لیا جائے اور اللہ تعالیٰ ﴿سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ بھی ہے اور ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ بھی ہے (165)۔

مرکزی مضمون

بنی اسمٰعیل میں ملتِ ابراہیمی اور عقیدۂ توحید کے سچے وارث ، قریش (مشرکینِ مکہ) نہیں ، بلکہ محمد ﷺ ہیں۔ بنی اسمٰعیل (مشرکینِ مکہ) سے مباحثہ و مجادلہ کرتے ہوئے ، شرک کی مختلف قسموں پر تنقید کے بعد، توحید کی قسمیں اور توحید کے تقاضے بیان کردیئے گئے ہیں۔ قریش کو اللہ کی حاکمیت اور تشریع کے بارے میں صاف صاف بتادیا گیا کہ حلال و حرام صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس بارے میں قریش کی بدعات خود ساختہ ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشۂ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

07- سُوْرَةُ الْاَعْرَاف

آیات : 206 ...... مَکِّیَّة" ...... پیراگراف : 8



زمانہ نزول اور پس منظر:

سورت ﴿الاعراف﴾ آخری سورت ہے، جو رسولِ اکرم ﷺ کے قیامِ مکہ کے چوتھے اور آخری دور (11 تا 13 نبوی) میں ہجرت سے عین پہلے، غالباً 13 نبوی میں سورت ﴿الانعام﴾ اور سورت ﴿الحجّ﴾ کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئی۔

یہ وہ زمانہ تھا، جب رسول اللہ ﷺ کے قتل کے منصوبے ہو رہے تھے۔ قریشِ مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ اور اس کے اسباب بتا کر تنبیہ کی گئی کہ ان کا انجام بھی ہلاکت ہو سکتا ہے۔ سورت کے آخر میں رسول اللہ ﷺ اور اہلِ ایمان کو صبر و استقامت کی ہدایات دی گئی ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خصوصیات

1۔ آیت نمبر 34 میں ﴿وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ﴾ کے الفاظ سے ہلاکتِ اقوام کے بارے میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، افراد کی طرح، اَقوام کی موت کا وقت بھی مقرر ہے، جس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔

﴿وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَل" فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ﴾ (آیت 34)

2۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے قانونِ ہلاکت [Law of Annihilation] اور قانونِ استبدال [Law of Replacement] کی وضاحت ہے کہ وہ وقفہ وقفہ سے قوموں کو مہلت دینے کے بعد ہلاک کر دیتا ہے، ان کے نیک لوگوں کو بچالیتا ہے اور پھر امامت اور قیادت کے لیے ایک اور قوم کو میدانِ امتحان میں لے آتا ہے۔

3۔ سورۃ ﴿الاعراف﴾ نظم کے اعتبار سے سورۃ ﴿ھود﴾ سے مشابہ ہے۔ دونوں کے آٹھ پیراگراف ہیں۔ دونوں میں تمہید اور اختتامیے کے درمیان چھ (6) قوموں کی جانشینی اور ہلاکت کے سچے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ کا قانونِ ہلاکت اور قانونِ استبدال سمجھایا گیا ہے۔

سورۃ الاعراف کا کتابی ربط

1۔ سورۃ البقرۃ کے پہلے تمہیدی حصے میں بنی اسرائیل کے لیے جو عمومی باتیں بیان کی گئیں تھیں، اُنہیں کا اعادہ یہاں سورۃ الاعراف میں بنی اسمٰعیل کے لیے ایک نئے انداز سے کیا گیا ہے۔

2۔ ﴿سورۃ الانعام﴾ میں ہلاکتِ اقوام کا اجمالی ذکر آیت نمبر 6 میں کیا گیا تھا، یہاں ﴿سورۃ الاعراف﴾ میں یکے بعد دیگرے چھ (6) قوموں کی ہلاکت کا تفصیلی بیان ہے۔

3۔ اگلی سورت ﴿الانفال﴾ میں جہاد کا حکم ہے۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾ میں مجرم قوموں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے راست (Direct) ہلاکت کا بیان ہے، جب کہ اگلی دو (2) سورتوں میں مجرموں کی مسلمانوں کے ہاتھوں بالواسطہ (Indirect) ہلاکت کا ذکر ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ہلاکتِ اَقوام: قوموں کی تاریخِ ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک ہلاک کیا، جب وہ سو رہے تھے، یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے۔

﴿وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَآئِلُوْنَ﴾ (آیت 4)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مندرجہ ذیل چھ (6) قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ، ان کے جرائم بھی گنوائے گئے اور طریقۂ ہلاکت کی بھی وضاحت کی گئی۔

(a) قوم نوحؑ کی ہلاکت: غالباً 3,500 ق م میں قوم نوحؑ کو ان کی تکذیب کے جرم میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا۔
﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ (آیت:64)

(b) قوم ہودؑ (عاد) کی ہلاکت: غالباً 3,000 ق م میں قوم عاد کو ان کی تکذیب کے جرم میں ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر کے اہلِ ایمان کو بچا لیا گیا۔ ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ (آیت:72)

(c) قوم صالحؑ (ثمود) کی ہلاکت: غالباً 2,500 ق م میں قوم ثمود کو ان کی تکذیب کے جرم میں ایک زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ (آیت:78)

(d) قوم لوطؑ کی ہلاکت: غالباً 2,100 ق م میں مجرم قوم لوطؑ کو ان کی تکذیب کے جرم میں پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ (آیت:84)

(e) قوم شعیبؑ کی ہلاکت: غالباً 1,400 ق م میں قوم شعیبؑ کو ان کی تکذیب کے جرم میں زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ (آیت:91)

(f) قوم موسیٰؑ کی ہلاکت: غالباً 1,300 ق م میں قوم موسیٰؑ کو ان کی تکذیب کے جرم میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا۔ ﴿فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ (آیت:136)

-2 سورۃ الاعراف میں حضرت آدمؑ اور ابلیس کی کشمکش کی داستان کا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔

(a) ابلیس نے حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ﴿لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾۔

(b) ابلیس سمجھتا تھا کہ میں آدمؑ سے بہتر ہوں۔ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے۔ یہی وہ تکبر ہے ، جو مخلوق کو لے ڈوبتا ہے۔
﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ (آیت:12)

(c) ابلیس کے طریقۂ واردات کی وضاحت کی گئی کہ وہ وسوسوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ بے لباس کرتا ہے اور بے شرمی پر اکساتا ہے۔
﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا﴾

(d) حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ کو ابلیس نے جھانسہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو اس درخت کے پاس جانے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے صرف اس لیے روکا ہے کہ اس طرح آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے اور آپ دونوں کو حیاتِ دوام حاصل ہو جائے گی۔ ﴿مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ﴾ (آیت:20)

(e) ابلیس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کا ناصح اور خیر خواہ ہوں۔

﴿وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ﴾ (آیت:21)

(f) اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یہ قصہ سنا کر خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے دشمن ﴿ابلیس﴾ کے دام میں گرفتار ہونے سے بچیں۔ اُس کے مکر، فریب اور چالبازیوں کو سمجھیں۔ وہ فحاشی اور عریانی پر اکساتا ہے۔ ابلس اور اس کا قبیلہ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے والوں کو ابلیس کا دوست بنا دیا ہے۔

﴿يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾ (آیت:27)

3- سورۃ الاعراف میں قوموں کی قیادت کے ﴿تکبر﴾ کا بھی تفصیلی ذکر ملتا ہے، جس کے سبب انہیں ہلاک کیا گیا۔

(a) اللہ کی آیات کو متکبرانہ رویوں سے مسترد کر کے جھٹلا دینے والی مجرم قیادت کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ﴾ (آیت:40)

(b) قوم ثمود کی کافر قیادت بھی متکبر تھی اور عام لوگوں کو دبا کر رکھتی تھی۔ یہ کمزور لوگ ہر قسم کے دباؤ کے باوجود حضرت صالحؑ پر ایمان لے آئے۔

﴿قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ﴾ (آیت:75)

(c) قومِ شعیبؑ کی کافر قیادت بھی متکبر تھی۔ انہوں نے حضرت شعیبؑ اور ان کے مومن ساتھیوں کو جلاوطنی (Deportation) کی دھمکی دی اور کہا کہ آپ کے سامنے صرف دو راستے ہیں، جلاوطنی یا پھر آپ کو دوبارہ ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔

﴿قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حضرت شعیبؑ نے بنیادی مذہبی حقوق (Right of Freedom of Faith) کی دہائی دی۔ پوچھا کہ کیا تم لوگ ہماری ناگواری کے باوجود، اپنا باطل اور مشرکانہ مذہب ہم پر مسلط کرو گے؟

﴿ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴾ (آیت:88)

4- سورۃ الاعراف سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ تمام انبیاء نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ ہی کی عبادت کرو اُس کے علاوہ کوئی اور ﴿اِلٰه﴾ نہیں ہے۔

(a) حضرت نوحؑ نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔

﴿ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ﴾ (آیت:59)

(b) حضرت ہودؑ نے بھی اپنی قوم عاد کو توحید کی دعوت دی۔

﴿ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ﴾ (آیت:65)

(c) حضرت صالحؑ نے بھی اپنی قوم ثمود کو توحید کی دعوت دی۔

﴿ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ﴾ (آیت:73)

(d) حضرت شعیبؑ نے بھی اپنی قوم مدین کو توحید کی دعوت دی۔

﴿ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ﴾ (آیت:85)

5- نبی اُمّی محمد ﷺ پر ایمان لانے کے لیے آپ ﷺ کی حقانیت کی تاریخی اور عملی اور واقعاتی دلیلوں پر غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے:

(a) آپ ﷺ کی رسالت کی حقانیت کی تاریخی اور نقلی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ کا ذکر تورات اور انجیل میں مذکور ہے۔

﴿ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ

(b) آپ ﷺ کی حقانیت کی عملی اور واقعاتی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ سماجی اور معاشی عدل و انصاف کے علمبردار ہیں۔ غلط عقائد و اوہام کے بوجھ ﴿اِصر﴾ کو لوگوں کی پیٹھوں سے اتارتے ہیں۔ توحید کی صاف اور شفاف راہ پر گامزن ہو کر دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ شرک، بدعت، استحصال اور ظلم و زیادتی کے پھندوں ﴿اَغلال﴾ سے انسانیت کو نجات دے کر آزاد کرنا چاہتے ہیں۔

﴿ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (آیت:157)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ پر نازل کیے جانے والے نور (یعنی قرآن) پر ایمان لانے والے ہی فلاح پائیں گے۔

﴿فَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِهٖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِيٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

(d) رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی عالمگیر رسالت کا علی الاعلان اظہار کریں کہ وہ زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والے مالکِ ارض وسماء کے سرکاری نمائندہ ہیں۔ تمام انسانوں کو (بشمول بنی اسمٰعیل و بنی اسرائیل) اللہ اور اس کے اُمی نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔

﴿قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ﴾ (آیت:158)

سورۃُ الاعراف کا نظمِ کلام

سورۃُ الاعراف آٹھ (8) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلے اور آخری پیراگراف میں دعوتِ توحید کا اعادہ ہے۔ درمیان کے چھ (6) پیراگرافوں میں چھ (6) قوموں کی یکے بعد دیگرے ہلاکت کے سچے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔

1- آیات 1 تا 58: پہلے پیراگراف میں تمہید (Introduction) ہے۔ اس کے پانچ (5) ذیلی پیراگراف ہیں۔

(a) آیات 1 تا 10 میں، نزولِ قرآن کا مقصد ﴿اِنذار﴾ یعنی (Warning) بتایا گیا۔ توحید، رسالت اور آخرت تینوں مضامین کا احاطہ کیا گیا۔ قرآنِ مجید کا اتباع کرنے اور دیگر ﴿اولیاء﴾ کی پیروی ترک کرنے کا حکم دیا گیا ورنہ پچھلی ظالم قوموں کی طرح عذاب نازل ہوسکتا ہے۔

روزِ قیامت تمام رسولوں سے اور ان کی قوموں سے، جن میں وہ مبعوث کیے گئے تھے، باز پرس ہوگی۔

﴿فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ﴾ (آیت:6)

روزِ قیامت جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائے گا اور جس کا ہلکا ہوا وہ خسارے میں ہوگا۔ (آیات:7تا9)

اللہ تعالیٰ (ہلاکت کے بعد) دوسری قوم کو تمکین عطا کرتا ہے۔ رزق دیتا ہے، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے۔ (آیت:10)

(b) آیات 11 تا 25 پر مشتمل دوسرے ذیلی پیراگراف میں، قصہ آدم و ابلیس سنا کر آدم کی اولاد کو، ابلیس کے شر سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ ابلیس کو غرور تھا کہ وہ آدم سے بہتر ہے۔ (آیت:12)

ابلیس نے قسم کھائی ہے کہ وہ انسانوں اور جنات کو گمراہ کر کے رہے گا۔ آگے پیچھے اور دائیں بائیں حملہ کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ ناشکرے بن جائیں گے۔ (آیت:17)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ابلیس نے جھانسا دے کر، آدمؑ اور حواؑ کی ستریں ایک دوسرے کے لیے کھلوا دیں۔

ابلیس کا طریقۂ واردات یہ ہے کہ وہ انسان کو جھوٹی باتوں اور آرزوؤں میں الجھا کر بہکاتا ہے۔ آدمؑ وحواؑ کو اس نے یہ کہہ کر بہکایا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اگر تم اس درخت کو چھو لو گے (آیت:20)

ابلیس نے قسم کھا کر کہا یقین دلایا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ (آیت:21)

آدمؑ اور حوا کی توبہ پر، اللہ نے دعا سکھائی ﴿ رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ ﴾ اور انہیں معاف کر کے زمین کی خلافت عطا کی۔ (آیات:23تا25)

آدمؑ اور ابلیس دونوں کو آزادیٔ اختیار (Freedom of choice) عطا کی گئی۔ دونوں نے حکم عدولی کی، لیکن حضرت آدمؑ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، جبکہ ابلیس اپنی غلطی پر اڑا رہا۔

(c) آیات 26 تا 34 پر مشتمل تیسرے ذیلی پیراگراف میں ابلیس کے طریقۂ کار کی وضاحت کی گئی کہ وہ فحاشی اور عریانی پر اکساتا ہے، جو فطرتِ آدم اور ابن آدم کے خلاف ہے۔ ستر پوشی انسانی فطرت میں داخل ہے (آیت:26)

اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خبردار کر دیا کہ وہ ابلیس کی باتوں میں آ کر عریانی اور فحاشی کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ (آیت:27)

ابلیس اور دیگر جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ بنی آدم کو توحید پر قائم رہنے، ابلیس کے دام سے بچنے، آخرت سے ڈرنے اور تقویٰ کا لباس اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ (آیت:30)

وقتِ عبادت زینت اختیار کرنے اور کھانے پینے کا حکم دیا گیا، لیکن اِسراف سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ (آیت:31)

جس طرح فحاشی، عریانی وغیرہ جیسی حرام چیزوں کو، حلال کر لینا گناہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ رزق اور زینت کو حرام کر لینا بھی جائز نہیں۔ ﴿ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِيۡنَةَ اللّٰهِ الَّتِيۡۤ اَخۡرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزۡقِ ﴾ (آیت:32)

اللہ تعالیٰ نے شرک اور ظاہری و باطنی فحاشی، گناہ اور زیادتی اور اللہ سے ان باتوں کو منسوب کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے جو اللہ نے بیان نہیں کیں۔ نافرمان قوموں کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے۔

(d) آیات 35 تا 53 پر مشتمل چوتھے ذیلی پیراگراف میں کارِ رسالت کی وضاحت کی گئی، جس کے نتیجے میں لوگ جنتی یا دوزخی بن سکتے ہیں۔

بنی آدم کی ہدایت کے لیے 'قانونِ رسالت' بیان کیا گیا کہ ان کے پاس مسلسل پیغمبر آتے رہیں گے، ہدایت کی طرف دعوت دیں گے اور انہی کی تعلیمات کی پیروی اور عدم پیروی کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ (آیت نمبر 36)

دوزخ میں انسانوں اور جنات کی نسلیں یکے بعد دیگرے داخل کی جائیں گی، ہر نسل اور ہر گروہ اپنی پچھلے گروہ کے لیڈروں پر لعنت کرے گا کہ ان کی وجہ سے ہم دوزخ میں داخل کیے گئے۔ ان کے لیے دوگنے عذاب کا مطالبہ کریں گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

قریش کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو بالعموم، آبا پرستی اور روایت پرستی کو چھوڑ کر، قرآن کی دعوتِ توحید پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ (آیت:39)

اہلِ تکذیب اور اہلِ تکبر کے لیے دوزخ میں آگ کا بچھونا اور آگ کی چادریں ہوں گی اور اہل ایمان کے لیے باغات ہوں گے۔ (آیات:41 تا 42)

جنت میں اہل ایمان کے دلوں کی باہمی کدورتیں دور کردی جائیں گی۔

اہلِ جنت اور اہلِ دوزخ کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہلِ دوزخ بھی اعتراف کریں گے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ (آیت:44)

﴿ أَصْحَابُ الْأَعْرَاف ﴾

اہلِ اعراف (بلندی پر کھڑے ہوئے لوگ) اہلِ جنت اور اہلِ دوزخ دونوں کو دیکھ سکیں گے۔ جنت والوں کو دیکھ کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے ہم ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ (آیت:46)

دوزخ والوں کی طرف دیکھ کر دعا کریں گے: اے رب! ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا! (آیت: 47)

اہلِ دوزخ، اہلِ جنت سے پانی اور رزق مانگیں گے، جو ان کے لیے حرام ہوگا۔ (آیت:50)

شفاعت کے باطل تصور کی نفی کی گئی ہے۔ اہلِ دوزخ دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی درخواست کریں گے، لیکن قیامت کے بعد دوبارہ عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ (آیت:53)

(e) آیات 54 تا 58 پر مشتمل پانچویں ذیلی پیراگراف میں دلائلِ توحید بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ ہر چیز کو اس نے مسخر کیا ہے۔

توحید ربوبیت اور توحید خالقیت سے استدلال کرتے ہوئے، توحید حاکمیت کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (آیت:54)۔

توحید دعا کا مطالبہ اور فساد سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ خالص توحید اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اللہ کو چپکے چپکے، گڑگڑاتے ہوئے خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے والے محسن ہوتے ہیں۔

﴿ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴾

”اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے ، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

﴿ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۭ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ (آیت:55 تا 56)

ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے انسانوں کو دعوتِ شکر دی گئی۔ (آیت:58)

قرآن کی بارش سے زرخیز دل رکھنے والے ہی، ایمان لاکر نیکیوں کی فصل اگا سکتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- آیات 59 تا 64 :دوسرے پیراگراف میں حضرت نوحؑ کی دعوت اور قومِ نوحؑ کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا۔

حضرت نوحؑ (3,500 ق م) کی دعوتِ توحید اور اس کے جواب میں، ان کی قوم کے کافر سرداروں ﴿مَلَأٌ﴾ کے رویے کا ذکر ہوا، جنہوں نے حضرت نوحؑ کو گمراہ قرار دیا تھا۔ (آیات:59 تا 63)

حضرت نوحؑ کی تکذیب پر، اُس اندھی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ (آیت:64)

3- آیات 65 تا 72 : تیسرے پیراگراف میں حضرت ہودؑ کی دعوت اور قومِ عاد کی ہلاکت کا ذکر ہے۔

قومِ نوحؑ کے بعد، قومِ عاد (غالباً 3,000 ق م) کو اس کا جانشین بنایا گیا۔ ﴿اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ﴾۔ اس قوم کے کافر سرداروں نے حضرت ہودؑ کو بے وقوف اور کاذب قرار دیا۔

حضرت ہودؑ کی قومِ عاد نے آباء پرستی کو چھوڑنے سے انکار کیا۔ توحید کی دعوت کو مسترد کر دیا۔

انہیں تاریخ سے سبق لینے اور ﴿اٰلَآءُ اللّٰهِ﴾ کو یاد رکھنے کی نصیحت کی گئی۔ ﴿فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ﴾ (آیت:69)

حضرتِ ہودؑ اور اہلِ ایمان کو بچا کر، کافر قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ (آیت:72)

4- آیات 73 تا 79 : چوتھے پیراگراف میں حضرت صالحؑ کی دعوت اور قومِ ثمود کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔

قومِ ہودؑ کے نجات یافتہ افراد، شمالی علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے اور یہ ﴿ثمود﴾ کہلائے (ان کا زمانہ غالباً 2,800 ق م یا 2,500 ق م ہے)۔ پھر یہ قوم بھی متکبر ہوتی گئی۔

ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالحؑ کو دعوتِ توحید کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اللہ کی نشانی ایک اونٹنی سے دور رہنے اور فساد فی الارض سے بچنے کا حکم دیا۔ (آیات:73 تا 74)

قوم کے متکبر سرداروں ﴿مَلَأٌ﴾ نے ایمان لانے والے کمزور طبقے سے، تکبر کا اظہار کیا۔

اور اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ (آیات:77 تا 78)

جس کے نتیجے میں انہیں ایک زلزلہ ﴿الرَّجْفَةُ﴾ کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ (آیت:79)

5- آیات 80 تا 84 : پانچویں پیراگراف میں حضرت لوطؑ کی دعوت اور قومِ لوطؑ کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا۔

اس کے بعد اردن کی سرزمین میں حضرت لوطؑ (غالباً 2,100B.C) کو مبعوث کیا گیا۔ جن کی قوم عورتوں کے بجائے، مردوں سے دلچسپی رکھتی تھی۔ یہ گھناؤنا جرم پہلے کسی اور قوم سے سرزد نہیں ہوا تھا۔

اس مجرم قوم کو، ایک خاص پتھریلی بارش سے ہلاک کیا گیا، جس میں حضرت لوطؑ کی کافر بیوی بھی شامل تھی۔ اللہ نے حضرت لوطؑ اور ان کے دیگر گھر والوں کو بچا لیا (آیت:83 تا 84)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6- آیات 85 تا 102: چھٹے پیراگراف کے دو (2) ذیلی پیراگراف ہیں۔

آیات 85 تا 93 میں حضرت شعیبؑ کی دعوت اور قومِ شعیبؑ کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔

(a) قومِ مدین میں، حضرت شعیبؑ (غالباً 1,300 ق م) نے نہ صرف دعوتِ توحید پیش کی، بلکہ انہیں صحیح تولنے، گھاٹا نہ دینے اور فساد نہ کرنے کی نصیحت کی اور رہزنی سے روکا۔ (آیات: 85 تا 86)

جس کے جواب میں ان کی قوم کے سرداروں ﴿مَلَأ﴾ نے انہیں جلاوطنی کی دھمکی دی اور کہا کہ دوبارہ ہمارے مذہب میں واپس آجاؤ! (آیت: 88)

حضرت شعیبؑ نے توحید پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ (آیت: 89)

قومِ شعیبؑ کو بھی دہلا دینے والی آفت ﴿الرَّجْفَةُ﴾ نے ایسا ہلاک کر دیا کہ گویا کبھی بسے ہی نہ تھے۔ (آیت: 91)

(b) آیات 94 تا 102 میں پچھلی پانچ (5) قوموں کی ہلاکت پر تبصرہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ قوموں کی ہلاکت سے پہلے رجوع الی اللہ کے لیے، تنگیوں اور سختیوں کی آزمائش سے دوچار کرتا ہے، پھر رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ ان دونوں قسم کی آزمائشوں میں قوموں کی ناکامی پر قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ (آیت: 95)

ایمان اور تقویٰ دو (2) ایسی نعمتیں ہیں، جن کی بدولت زمین اور آسمان سے برکات کا نزول ہوتا ہے، لیکن تکذیب اور بدعملی ایک ایسی لعنت ہے، جس کے سبب قوموں پر عذاب نازل ہوتا ہے۔

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (آیت: 96)

قریش اور ساری کائنات کو پانچ (5) قوموں، قومِ نوح، قومِ عاد، قومِ ثمود، قومِ لوطؑ اور قومِ شعیبؑ کے انجام سے عبرت حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی قدرتِ عذاب اور قانونِ عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔

7- آیات 103 تا 171: ساتواں پیراگراف حضرتِ موسیٰؑ کی دعوت، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کے حالات پر مشتمل ہے:

اس پیراگراف کے چار (4) ذیلی حصے ہیں۔

(a) آیات 103 تا 137 میں حضرت موسیٰؑ کی دعوت اور فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔

حضرت موسیٰؑ نے فرعون کو توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو، اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔

فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف سے نشانیوں کا مطالبہ کیا گیا۔ (آیت: 106)

حضرت موسیٰؑ نے عصا اور یدِ بیضا کے معجزات پیش کیے (آیت: 108)۔ فرعون نے حضرت موسیٰؑ پر جادو ﴿سحر﴾ کا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

الزام عائد کیا (آیت:109) اور یہ بھی کہا کہ یہ تمہیں اپنی زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔فرعون نے حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے مختلف شہروں سے جادوگر طلب کیے۔جادوگروں اور حضرت موسیٰؑ کے مقابلے کے لیے ایک خاص دن کا انتخاب ہوا۔مقابلے میں حضرت موسیٰؑ کے عصا نے جادوگروں کے جادو کو شکست سے دوچار کیا تو جادوگر مسلمان ہوگئے۔فرعون سیخ پا ہوگیا۔

فرعون نے جادوگروں سے پوچھا کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰؑ کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ (آیت:123)

فرعون نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور سولی پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ (آیت:124)

مسلمان ہوجانے والے جادوگروں نے ایمان پر بے مثال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔(آیت:126)

● فرعون کے درباری سرداروں ﴿مَلَأ﴾ کی شرانگیزیاں اپنا رنگ دکھانے لگیں۔کیا آپ موسیٰؑ اور ان کی قوم کو یونہی زمین پر فساد کے لیے چھوڑ دیں گے، جب کہ وہ آپ کے خداؤں ﴿اٰلِهَة﴾ کا قائل نہیں ہیں ﴿وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ﴾ فرعون نے دھمکی دی کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ہم ان پر غالب ہیں۔(آیت:127)

حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم (بنی اسرائیل) کو، تعلق باللہ اور صبر کا حکم دیا اور خوش خبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرکے، تمہیں زمین پر جانشین بنائے گا۔

﴿اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ﴾ (آیت:128)

قانونِ خداوندی کے مطابق ، آلِ فرعون کو بھی قحط میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ ﴿رجوع الی اللہ﴾ کریں۔

ان پر طوفان، ٹڈی دل، سرسریوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب مسلط کیا گیا(آیت:133)۔

ان تمام دلائل کے باوجود انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔

فرعون اور آلِ فرعون (جنودِ فرعون) کی ہلاکت ہوئی اور صبر و استقامت کے نتیجے میں کمزور قوم (بنی اسرائیل) کی مشرق و مغرب میں جانشینی عطا کی گئی۔

﴿وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ﴾ (آیت:137)۔

(b) آیات 138 تا 157 پر مشتمل دوسرے ذیلی پیراگراف میں خروج کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے۔خروج (Exodus) اور ہلاکتِ فرعون کے بعد بنی اسرائیل جب وادیٔ سینا میں داخل ہوئے تو ان کا گزر

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ایک بت پرست قوم پر سے ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ سے کہا: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک بت بنا دیجیے! (آیت:138)۔ یہ ایک ناشکری قوم تھی، جو توحید کے سبق کو بہت جلد فراموش کر چکی تھی۔ اس مطالبے پر حضرت موسیٰؑ بہت برہم ہوئے اور توحید پر اِستقامت کا حکم دیا (آیت:140)۔ حضرت موسیٰؑ چالیس دن کی قرارداد پر گئے۔ حضرت ہارونؑ کو اپنا جانشین بنایا۔

اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی۔ حضرت موسیٰؑ نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا: ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰؑ نے اصرار کیا۔ اللہ نے فرمایا: پہاڑ کی طرف دیکھو! اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو کچھ مدت بعد تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰؑ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اِفاقہ ہوا تو فرمایا: ﴿ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ تو بے عیب ہے۔ تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔

- اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو الواح (تورات) سے نوازا اور ان پر ثابت قدمی سے پیروی اور شکر کا حکم دیا۔

حضرت موسیٰؑ کی غیر موجودگی میں سامری نے زیورات سے بچھڑے کا ایک پتلا بنایا اور قوم نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰؑ لوٹے تو قوم کے شرک پر شدید نفرت کا اِظہار کیا اور غضب کا مظاہرہ کیا۔ بھائی پر بھی برہم ہوئے۔ حضرت ہارونؑ کی وضاحت پر حضرت موسیٰؑ نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے استغفار کیا۔ بچھڑے کو خدا بنانے والوں کو دنیوی عذاب سے دوچار کیا گیا۔ (آیت:152)

حضرت موسیٰؑ نے ستر (70) آدمیوں کا انتخاب کیا اور میقات پر پہنچے۔ وہاں ایک سخت زلزلے سے آزمائش کی گئی۔ حضرت موسیٰؑ نے دعائیں کیں اور عذاب ٹل گیا۔ (آیت:155)

بنی اسرائیل کو قصہ موسیٰؑ و بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرنے، اور نبی اُمّی محمد ﷺ کی پیروی کا حکم دیا گیا۔

محمد ﷺ کے (6) نکاتی مشن کی وضاحت کی گئی۔

(1) امر بالمعروف، (2) نہی عن المنکر، (3) تحلیلِ طیبات، (4) تحریم خبائث (5) عقائد و اوہام کے بوجھ کے علاوہ (6) سماجی اور معاشی ظلم واستحصال کے پھندوں سے انسان کو نجات دلانا۔

محمد ﷺ پر ایمان لانے والوں اور مدد کرنے والوں اور ان پر نازل کردہ نور (قرآن) کی پیروی کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارتیں دی گئیں۔ (آیت:157)

(c): آیت 158 میں بنی اسرائیل کو بھی بنی اسماعیل کے اُمی نبی ورسول حضرت محمد ﷺ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے محمد ﷺ کو واشگاف اعلان کرنے کی ہدایت کی گئی کہ میں زمین اور آسمان کے بادشاہ کی طرف سے، سارے انسانوں کے لیے ایک رسول ہوں۔ (آیت:158)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(d) آیات 159 تا 171 پر مشتمل چوتھے ذیلی پیراگراف میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بارہ (12) خاندانوں میں تقسیم کردی۔ ہر خاندان کے لیے ایک الگ چشمہ جاری کردیا۔

من وسلویٰ کا نزول ہوا ، بنی اسرائیل کو ﴿ حِطَّةٌ ﴾ کہنے کا حکم دیا گیا، لیکن بنی اسرائیل نے تحریف کی۔

اصحابِ سبت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا۔ سبت کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ بنی اسرائیل حیلوں اور بہانوں سے کام لے کر حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کرلیا کرتے تھے۔ ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں بندر بنادیا گیا۔ ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴾ (آیت:166)۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل میں نا خلف جانشین پیدا ہوئے۔ دنیا میں گرفتار ہوئے اور جھوٹی توقعات انہیں لے ڈوبیں کہ ہماری مغفرت ہوجائے گی (کیونکہ ہم حضرت یعقوبؑ کی نسل سے ہیں)۔ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ﴾ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا اِزالہ کیا کہ نسل کی بنیاد پر مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ جو لوگ اللہ کی کتاب اور نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، ایسے صالح افراد کے اعمال کا اجر دیا جائے گا۔

﴿ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴾

8- آیات 172 تا 206: آٹھویں اور آخری پیراگراف میں اختتامیہ (Conclusion) ہے۔

(a) آیات 172 تا 198 پر مشتمل آیات میں عہدِ اَلَسْت کا تذکرہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کرکے ان سے پوچھا: ﴿ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ؟ انہوں نے جواب دیا: ﴿ بَلٰى ﴾ ہاں ہاں! کیوں نہیں۔ یہ عہد روزِ قیامت کے لیے اِتمامِ حجت ہے۔ توحید کی دلیل فراہم کی گئی اور شرک کا اِبطال کیا گیا۔

توحید، انسانی فطرت میں داخل ہے اور اس کے عین مطابق ہے۔

ایک دنیادار مادہ پرست آدمی کا قصہ ایک خوبصورت تمثیل سے بیان کیا گیا (آیات: 173 تا 175)۔

اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور اپنے احکام سے نوازا تھا، لیکن اس نے شیطان کی پیروی اختیار کی۔ یہ آیاتِ الٰہی کی پیروی کرکے رفعت اور بلندی حاصل کرسکتا تھا لیکن زمین سے چمٹ بیٹھا ﴿ وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ ﴾ خواہشاتِ نفس کی پیروی کرنے لگا ﴿ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ﴾ اور کتے کی سی زندگی گزارنے لگا ﴿ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ﴾۔ (جو ہڈیوں اور کتیا کی تلاش میں ہر وقت زبان لٹکائے رہتا ہے، رال ٹپکتی رہتی ہے) (آیت:176)

دنیادار مادہ پرستوں کو مقصدِ حیات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ بہت سے بے مقصد انسان اور جن، مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ یہ جہنم کی کھیتی ہیں۔ (آیت:179)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اللہ تعالیٰ کو اس کی حسین وجمیل صفات پر مشتمل ناموں سے پکارنے اور خود ساختہ ناموں سے اجتناب کا حکم دیا گیا۔

محمد ﷺ اور قرآنِ مجید کو جھٹلانے والوں کے لیے، تباہی کی وعید سنائی گئی۔ (آیت:183)

محمد ﷺ پر کسی دیوانگی ﴿جنون﴾ کا اثر نہیں ہے، وہ تو نذیرِ مبین ہیں۔ (آیت:184)

قیامت کے دن کا علم، صرف اللہ کو ہے۔ قریشِ مکہ کو نہیں بتایا جاسکتا۔ (آیت:187)

توحیدِ اختیار کی وضاحت کی گئی۔ نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور نبی ﷺ کے پاس بھی نہیں۔

توحیدِ علم کی وضاحت کی گئی۔ رسول ﷺ کے پاس بھی غیب کا مکمل علم نہیں ہے، ورنہ وہ اپنے لیے بہت سا خیر جمع کر لیتے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ ﴿وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ﴾ (آیت:188)۔

اختتامی آیات: توحید کے انفسی دلائل فراہم کیے گئے۔ تمام لوگ آدم سے پیدا کئے گئے ہیں، ہر ایک کا جوڑا بنایا گیا ہے، تاکہ وہ سکون حاصل کرسکیں۔ (آیت:189)

توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا اور ﴿غَیْرُ اللّٰہ﴾ کی بے بسی اور لاچاری کی تصویر کھینچی گئی۔ اللہ کے علاوہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ﴿عِبَاد﴾ بندے ہیں۔ خالق نہیں ہیں، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ﴿اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ﴾

﴿غَیْرُ اللّٰہ﴾ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔

﴿وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ﴾

(b) آیات 199 تا 206 پر مشتمل آخری آٹھ (8) آیات میں محمد ﷺ اور مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں۔

دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنے، انکار کرنے والوں کے ساتھ، نرمی اختیار کرتے ہوئے امر بالمعروف کا فریضہ سرانجام دینے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کی تلاوت کو خاموشی اور پوری توجہ سے سننے کا حکم دیا گیا۔ صبح و شام 'غفلت' کی زندگی سے اجتناب کرتے ہوئے، دل اور زبان سے بھی اور ہلکی آواز میں 'ذکر' کرنے کی ہدایت دی گئی۔

(1) ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ اے نبی ﷺ! نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے!

(2) ﴿وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ معروف کی تلقین کیے جایئے،

(3) ﴿وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ﴾ اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ (199)

(4) ﴿وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ﴾ شیطان کی اکساہٹوں پر اللہ کی پناہ حاصل کیجیے

(5) ﴿وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ﴾ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کیجیے۔

(6) ﴿وَاَنْصِتُوْا﴾ (204) اور خاموشی اختیار کیجیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(7) ﴿وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ﴾ دل ہی دل میں، خوف اور گریہ کے ساتھ صبح وشام اللہ کو یاد کیجیے۔

(8) ﴿وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ﴾ (205) اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت اختیار کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔

مرکزی مضمون

قانونِ ہلاکتِ اقوام اور قانونِ استبدالِ اقوام کو سمجھ کر، چھ (6) رسولوں کی تاریخ دعوت اور چھ (6) اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ توحید کا اثبات، شرک کا اِبطال کرتے ہوئے، آخری رسول محمد ﷺ پر ایمان لانا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

08- سُوْرَةُ الأَنْفَالِ

آیات : 75 ...... مَدَنِیَّۃٌ ...... پیراگراف : 8



زمانۂ نزول اور پس منظر:

جنگِ بدر، رمضان دو (2) ہجری میں واقع ہوئی۔ سُورۃ ﴿الانفال﴾، ایک مدنی سورت ہے، جو جنگِ بدر کے بعد غالباً ذوالقعدہ دو (2) ہجری میں نازل ہوئی۔ جنگِ بدر سے پہلے سُورۃُ ﴿الطَّلاق﴾ اور سُورۃ ﴿مُحمَّد﴾ نازل ہوئیں تھیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الانفال کا کتابی ربط

-1 پچھلی سورت، سورت ﴿الاعراف﴾ میں مجرم قوموں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے راست اقدامِ ہلاکت (Direct Action) کا ذکر تھا۔اس سورت ﴿ الانفال﴾ میں، مسلمانوں کے جہاد کے ذریعے، یعنی بالواسطہ طریقے سے (By Indirect Action) مجرم قوموں کی بیخ کنی مقصود ہے، تاکہ دنیا سے فسادِ کبیر اور فتنوں کا خاتمہ ہو جائے۔﴿ هُوَ الَّذِیْۤ اَیَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِیْنَ ﴾(آیت:62)۔اس طرح مجرموں کو سزا دینا بھی مقصود ہے اور جہاد کے ذریعے مسلمانوں کی آزمائش بھی مقصود ہے۔

-2 سورت ﴿ الانفال﴾ کے پہلے پیراگراف اور آخری پیراگراف دونوں میں، جہاد کے نتیجے میں ﴿ مغفرت ﴾ اور ﴿ رزق کریم ﴾ یعنی عزت کی روٹی کی بشارت ہے۔ جو قومیں جہاد ترک کر دیتی ہیں، انہیں ذلت کی روٹی دی جاتی ہے۔

-3 سورت ﴿ الانفال﴾ میں فلسفۂ جہاد کی وضاحت ہے اور اگلی سورت، سورت ﴿ التوبة ﴾ میں تین گروہوں کے خلاف عملی جہاد کی ہدایات ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

-1 سورۃ ﴿الانفال﴾ میں ﴿مَغْفِرَةٌ" وَرِزْقٌ" كَرِیْمٌ" ﴾ کے الفاظ دو مرتبہ پہلے اور آخری پیراگراف میں (یعنی آیت 4 اور 74 میں) استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی اکثر سورتوں میں اہم مضمون کو ابتدا اور اختتام دونوں مقامات پر لایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاد کے نتیجے میں نہ صرف اُخروی مغفرت بلکہ دنیا میں عزت کی روٹی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جان کی بازی لگا دینے والے ان مجاہدین کو سچے مومنین ﴿ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ﴾ کے نام سے پکارا گیا۔

(a) ﴿ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ" عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ" وَّرِزْقٌ" كَرِیْمٌ" ﴾ (آیت:4)

(b) ﴿ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ" وَّرِزْقٌ" كَرِیْمٌ" ﴾ (آیت:74)۔

-2 سورۃ ﴿الانفال﴾ میں ، جنگِ بدر کو حق و باطل کی جنگ قرار دیا گیا:

(a) مسلمان چاہتے تھے کہ ان کی مڈبھیڑ تجارتی قافلے سے ہو، جب کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کا ٹکراؤ عسکری لشکر سے ہو ،تاکہ اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے۔﴿وَاِذْ یَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَیْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَیُرِیْدُ اللّٰهُ اَنْ یُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَیَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِیْنَ ﴾ (آیت:7)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(b) اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مشرک و مجرم قیادت کی ناگواری کے باوجود دینِ حق کی حقانیت اور باطل کا بطلان واضح اور نمایاں ہو جائے۔

﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (آیت:8)۔

(c) قریش کی مشرک قیادت بھی یہی چاہتی تھی کہ حق واضح ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے خود یہ دعا کی:

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾(آیت:32)

3- سورة ﴿الانفال﴾ میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے میدانِ جنگ میں ثابت قدمی کے احسان کا ذکر کیا اور ثابت قدمی کی ہدایات بھی دیں۔

(a) اللہ تعالیٰ نے عین جنگ سے پہلے مسلمانوں پر ایسی اونگھ طاری کر دی کہ بیدار ہوتے ہی وہ خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگے۔ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾

(b) پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش نازل فرمائی ، جس سے شیطان کی گندگی کا خاتمہ ہو گیا ، مسلمانوں کے دل جڑ گئے۔ چنانچہ بارش کی وجہ سے میدانِ جنگ میں ان کے قدم مضبوط ہو گئے۔

﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ (آیت:11)۔

(c) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ میدانِ جنگ میں مسلمانوں کو ثابت قدم رکھیں۔

﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾(آیت:12)

(d) اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ میدانِ جنگ میں دشمن سے مڈبھیڑ ہونے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور اس موقع پر بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں ، تاکہ کامیابی یقینی بنائی جا سکے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (آیت:45)

4- سورۃ الانفال کی دو (2) آیات (43 اور 46) میں ﴿ فَشَل ﴾ یعنی کمزوری کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ میدانِ جنگ میں مسلمانوں کو ہر قسم کی کمزوریوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے ، تاکہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ دشمنوں کو مقابلہ کریں۔

(a) اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے خواب میں مشرکینِ مکہ کی تعداد کو کم کر کے دکھایا ورنہ مسلمان کمزوری دکھاتے اور اطاعتِ نظم کے معاملے میں تنازعہ کا شکار ہو جاتے۔

﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾(آیت:43)

(b) مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ سمع و طاعت کے نظام پر عمل کریں۔ تنازعات

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے بچیں۔ ورنہ نظم کی کمزوری سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ جنگ میں ثابت قدمی کا مطالبہ کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ ثابت قدم مجاہدین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔

﴿وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾ (آیت:46)

5- سورۃ الانفال میں بار بار اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کے احکامات دیئے گئے، تاکہ مسلمان تحریک کے اگلے مرحلوں میں کامیاب رہیں۔

(a) مسلمانوں کو بتایا گیا کہ سچے اور خالص ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے ، اللہ کا تقویٰ اختیار کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو درست رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔

﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾ (آیت:1)

(b) مسلمانوں کے اذہان وقلوب میں یہ بات راسخ کی گئی کہ اللہ اور رسول کی پکار پر انہیں لبیک کہنا چاہیے۔ اسی پر ان کی زندگی اور بقا کا انحصار ہے۔

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ﴾ (آیت:24)

(c) اللہ اور رسول کے احکامات کو سن کر، ان کی بے چون وچرا اطاعت کی ہدایت کی گئی اور نظم وضبط یعنی ڈسپلن کا سبق سکھایا گیا۔

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ﴾ (آیت:20)

(d) مسلمانوں کو یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے روکا گیا، جو احکامات کو سنتے تھے ،لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔

﴿وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ﴾ (آیت:21)۔

(e) سن کر ان سنی کرنے والوں کو بدترین مخلوقات سے تشبیہ دی گئی، جو عقل ،سماعت اور گویائی سے محروم ہوتے ہیں۔

﴿اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ﴾ (آیت:22)۔

(f) سمع وطاعت ، صبر واستقامت اور مضبوط نظم کے نتیجے ہی میں مسلمانوں کا رعب قائم ہوسکتا ہے اور اللہ کی مدد حاصل ہوسکتی ہے۔

﴿وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾ (آیت:46)

6- سورۃ الانفال کی آیت 25 میں اسلام کے فلسفۂ اجتماع کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ جہاد کے ذریعے فتنہ وفساد کا خاتمہ ایک اجتماعی ناگزیر ضرورت ہے۔ بعض فتنے ایسے عام ہوتے ہیں کہ جن کی سزا ظالموں کے علاوہ خاموش

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تماشائیوں کو بھی ملتی ہے۔ قیادت کے جرائم کی سزا ، عوام الناس کو ملتی ہے۔ فرمایا گیا: ﴿ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ﴾ (آیت 25)

7- مسلمانوں کو خود بھی خیانت سے بچنے کا حکم دیا گیا اور دشمن قوموں کی خیانت سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا۔

(a) مسلمانوں کو اللہ اور رسول کی خیانت سے اور امانتوں میں خیانت سے منع کیا گیا۔

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ (آیت:27)

(b) اسلام کی خارجہ پالیسی کے سلسلے میں یہ وضاحت کی گئی کہ جو بد دیانت اور خائن قوم معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتی اس کے ساتھ اسلامی ریاست کو بھی اسی طرح کا سلوک کرنا چاہیے اور معاہدہ شکنی کی صورت میں معاہدے کو منسوخ کر دینا چاہیے۔

﴿ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ﴾ (آیت:58)

8- سورۃ الانفال میں لفظ ﴿ فِتْنَة ﴾ کا استعمال بہت ہی معنیٰ خیز ہے۔ اس سلسلے کی تین آیات پر غور کیجیے۔

(a) اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ایک ناگزیر عملِ جراحی قرار دیا ہے۔ جہاد انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح انسان کی جان کو بچانے کے لیے بعض اوقات آپریشن ناگزیر ہو جاتا ہے ، اسی طرح قوموں کی زندگی کے لیے بھی بعض اوقات جہاد لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ورنہ زمین پر فتنے جنم لیتے ہیں اور فسادِ کبیر برپا ہو جاتا ہے۔ عملِ جہاد کے ذریعے قوموں کے جسم سے فتنہ و فساد کے سرطان (کینسر) کی بیخ کنی کی جاتی ہے۔ ﴿ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ "فِتْنَةٌ" فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ "كَبِيْرٌ" ﴾ (آیت:73)۔

(b) جہاد کے سلسلے میں یہ فلسفہ اور اصول بیان کیا گیا کہ جنگ کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے ، جب تک فتنے کا پوری طرح استیصال نہیں ہو جاتا اور اللہ کی حاکمیت ﴿ الدِّيْنُ ﴾ دنیا پر پوری طرح نافذ نہیں ہو جاتی۔

﴿ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ "فِتْنَةٌ" وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ﴾ (آیت:39)۔

(c) میدانِ جہاد میں مقصدِ جہاد کو سب سے زیادہ اولیت حاصل ہوتی ہے۔ مال اور اولاد کی محبت اگر اللہ کی محبت اور مقصدِ جہاد پر غالب ہو جائے تو انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ﴿ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ "فِتْنَةٌ" وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ "عَظِيْمٌ" ﴾ (آیت:28)۔

سورۃ الانفال کا نظمِ جلی

سورۃ ﴿ الانفال ﴾ آٹھ (8) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 4 : پہلے پیراگراف میں، سچے مؤمنین کو آخرت میں ﴿ مغفرت ﴾ اور دنیا میں ﴿ رزقِ کریم ﴾ یعنی عزت کی روٹی کی بشارت دے کر ان سچے مؤمنین کی صفات بیان کی گئیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(a) سچے مؤمنین، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔(آیت:1)

(b) سچے مؤمنین مالِ غنیمت سے زیادہ، مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی استواری کی کوشش کرتے ہیں۔(آیت:1)

(c) سچے مؤمنین اللہ اور رسول کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہیں۔(آیت:1)

(d) سچے اہلِ ایمان تو وہ لوگ ہیں، جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں ﴿اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ﴾

(e) اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔

﴿وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا﴾(آیت:1)

(f) وہ اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں ﴿وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾ (آیت:2)

(g) نماز قائم کرتے ہیں ﴿الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ﴾ (آیت:3)

(h) جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں ﴿وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾(آیت:3)

2- آیات 5 تا 14: دوسرے پیراگراف میں جنگِ بدر کا پس منظر بتا کر مقصدِ جنگ کی وضاحت کی گئی۔

اللہ تعالیٰ اسلام کی حقانیت کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا اور مشرک و مجرم قریشی قیادت کے غلط عقیدے کے بطلان کو نمایاں کرنا چاہتا تھا۔﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ﴾ (آیت:8)۔

اللہ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کے احسان کا ذکر کر کے، مشرکین کو دنیاوی اور اُخروی عذاب سے ڈرایا گیا۔

3- آیات 15 تا 28 : تیسرے پیراگراف میں جہاد کی فرضیت کا حکم دے کر، سمع وطاعت کی ہدایت دی گئی۔

(a) جہاد فرض ہے ، میدانِ جنگ سے فرار گناہِ کبیرہ ہے اور اس جرم کی سزا جہنم ہے، البتہ کسی دوسرے فوجی لشکر سے ملنے کے لیے ، یا پھر کسی جنگی چال کے طور پر عارضی مدت کے لیے پسپائی اختیار کی جاسکتی ہے۔فرمایا گیا:

﴿وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ﴾ (آیت:16)

(b) مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً سمع وطاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔یہودیوں کی طرح سن کر بہرہ نہیں بننا چاہیے (آیت:21)۔اللہ اور رسول کی دعوتِ جہاد میں اُمتِ مسلمہ کے لیے زندگی کی بشارت ہے(آیت:24)۔ اُمتِ مسلمہ کو ان فتنوں سے ڈرنا چاہیے، جن کی وجہ سے ظالموں کے ساتھ معصوم لوگوں کو بھی سزا ملتی ہے۔قیادت کے گناہوں کی سزا عوام کو بھی ملتی ہے(آیت:25)

خیانت اور اَموال واولاد کے فتنے سے بچ کر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔

4- آیات 29 تا 40: چوتھے پیراگراف میں قریشِ مکہ کے جرائم گنوائے گئے اور مسلمانوں کو ان سے جنگ کا جواز فراہم کیا گیا (Legitimacy of war)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

قریشِ مکہ نے رسول اللہ ﷺ کے خلاف سازشیں کیں، مکروفریب سے کام لیا۔

قریشِ مکہ کے بارے میں صاف بتا دیا گیا کہ یہ اب خانۂ کعبہ کے متولی (Custodian) ہونے کا استحقاق نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لوگوں کو مسجدِ حرام سے روکتے ہیں، ان میں اب توحید باقی نہیں رہی، تقویٰ باقی نہیں رہا، ان کی نماز میں یادِ الٰہی نہیں ہوتی۔ یہ نماز میں تالیاں پیٹتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ خانۂ کعبہ کے متولی صرف متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ قریش کا انفاق، مذموم مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ قریشی قیادت کے لیے جہنم کی سزا ہوگی۔ قریش کو دعوت اسلام دی گئی کہ اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے (آیت:38)۔

ورنہ مسلمانوں کو اُن کے خلاف فتنے کے خاتمے تک جنگ کرنی پڑے گی۔

5- آیات 41 تا 47 : پانچویں پیراگراف میں، مالِ غنیمت اور جنگ کے احکام بتائے گئے۔

مالِ غنیمت میں سے ﴿خُمُس﴾ یعنی 20% اسلامی ریاست، رسول اللہ ﷺ، ذی القربیٰ، یتامیٰ، مساکین اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ (بقیہ 80% مجاہدین اور فوج میں تقسیم کر دیا جائے گا)۔ جنگِ بدر کے دن کو ﴿یومُ الفُرقان﴾ کہا گیا اور جنگِ بدر کے مقاصد کی مزید وضاحت کی گئی۔ جنگ کا مقصد یہ تھا کہ مرنے والا دلیل پر مرے اور جینے والا دلیل پر جیئے۔ ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ (آیت:42) مسلمانوں کو میدانِ جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے، لڑائی جھگڑے، تنازعے، غرور اور ریاکاری سے بچنے اور صبر و استقامت اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ورنہ مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔

6- آیات 48 تا 54 : چھٹے پیراگراف میں ابلیس کے کردار کی وضاحت کی گئی، جو اس نے جنگِ بدر میں ادا کیا تھا۔

منافقین اور ابوجہل کے فرعونی رویوں پر روشنی ڈالی گئی۔ انہیں دنیوی عذاب سے بھی دوچار کیا گیا اور بتایا گیا کہ عالمِ نزع کے وقت فرشتے کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں، پھر یہ آگ میں داخل کیے جائیں گے۔

ابوجہل اور فرعون کی مماثلت بیان کی گئی۔ دونوں نے ضد اور تکبر سے کام لے کر اللہ کے رسولوں کی نہ صرف تکذیب کی، بلکہ ان کی بھرپور مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ظالم آلِ فرعون کو غرقاب کر دیا۔

7- آیات 55 تا 71 : ساتویں پیراگراف میں اسلامی ریاست کے لیے احکامِ صلح و جنگ کی وضاحت کی گئی۔

عہد شکنی اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر کافروں سے سختی برتنے اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا (آیت:57)۔

اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی: اگر کوئی ملک معاہدوں کی خلاف ورزی کرے تو اسلامی ریاست کو بھی معاہدہ توڑ دینا چاہیے اور معاہدے کو خائن قوم کے منہ پر مارنا چاہیے ﴿فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ﴾۔ اگر دشمن صلح کی پیش کش کرے تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اسلامی ریاست کی عسکری پالیسی: اسلامی ریاست کو اپنی اقتصادی حالت کو دیکھتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار تیار رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ کے دشمنوں، مسلمانوں کے دشمنوں اور نامعلوم دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب قائم رہے۔

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ (آیت:60)

رسول کریم ﷺ کو حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں (آیت:65)

دشمن کے مقابلے میں عسکری قوت: اسلامی ریاست پر ایک اہم اصول یہ واضح کیا گیا کہ مسلمانوں کی فتح کا دارومدار، عسکری قوت اور مسلمانوں کی تعداد پر نہیں ہے، بلکہ مسلمان فوجیوں کے ایمان اور میدانِ جنگ میں ان کی صبر و ثابت قدمی پر ہے۔ ضعف اور کمزوری کی حالت میں سو صابر مسلمان دو سو کافروں پر غالب آسکتے ہیں اور نسبت ایک اور دو (1:2) کی ہوگی۔ قوت اور رعب کی حالت میں سو مسلمان ایک ہزار کافروں پر غالب آسکتے ہیں اور نسبت ایک اور دس (1:10) کی ہوگی۔

جنگی قیدیوں اور اُن کے فدیے کے بارے میں اَحکامات: جنگی قیدیوں کے مسئلے پر گرفت کی گئی۔ جنگ میں قیدی بنا کر فدیہ لینے سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو کچل کر اس کی قوت کو پاش پاش کر دیا جائے۔ قیدیوں کے فدیے کو حلال و طیب قرار دیا گیا ہے۔ مشرک جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ اگر ان کے دل میں اسلام کا خیر ہوگا تو انہیں مستقبل میں بہت سی دنیاوی نعمتوں کے علاوہ مغفرت بھی نصیب ہوگی۔

8- آیات 72 تا 75: آٹھویں اور آخری پیراگراف میں، پہلے پیراگراف کی طرح سچے مؤمن مجاہدین کو آخرت میں ﴿مغفرت﴾ اور دنیا میں ﴿رزقِ کریم﴾ یعنی عزت کی روٹی کی بشارت دی گئی۔

(a) ہجرت کرنے والے مہاجرینِ مکہ اور اُنہیں پناہ دینے والے انصارِ مدینہ کی فضیلت بیان کی گئی۔

(b) اسلامی ریاست سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو ریاست کی طرف سے حقِ ولایت حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے مسلمان اسلامی ریاست سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد لازمی ہے۔ ﴿ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾

(c) جہاد کی اہمیت بتائی گئی اور کہا گیا کہ جہاد نہ کرنے سے زمین پر فسادِ کبیر اور فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔

مرکزی مضمون

مقصد و فلسفۂ جہاد، جہاد کے آداب، ترغیبِ جہاد، اَحکامِ صلح و جنگ اور فضائلِ جہاد کی وضاحت۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط — نظمِ جلی

09- سُوْرَةُ التَّوْبَةِ

آیات : 129 ...... مَدَنِیَّۃ" ...... پیراگراف : 5

زمانۂ نزول: سورۃ التوبۃ کا دوسرا حصہ غزوۂ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں رجب 9 ہجری سے پہلے نازل ہوا۔ سورۃ التوبۃ کا تیسرا حصہ غزوۂ تبوک سے واپسی پر متفرق اوقات میں نازل ہوا۔ اور سورۃ التوبۃ کا پہلا حصہ سب سے آخر میں ذوالقعدہ 9 ہجری میں ، حج سے پہلے نازل ہوا۔



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول اور پس منظر

غزوۂ تبوک کے لیے رسول اللہ ﷺ رجب 9 ہجری میں شمالی محاذ پر قیصرِ روم سے مقابلے کے لیے 30 ہزار افراد کے ساتھ نکلے۔ قیصر مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ رسول اللہ ﷺ نے وہاں 20 دن قیام فرمایا۔ قیصر کے ماتحت چھوٹی موٹی عیسائی ریاستوں نے جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کر لی۔ واپسی شعبان 9 ہجری میں ہوئی۔ سورۃ التوبۃ کا دوسرا حصہ غزوۂ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں رجب 9 ہجری سے پہلے نازل ہوا۔ سورۃ التوبۃ کا تیسرا حصہ غزوۂ تبوک سے واپسی پر متفرق اوقات میں نازل ہوا۔ اور سورۃ التوبۃ کا پہلا حصہ سب سے آخر میں ذوالقعدہ 9 ہجری میں، حج سے پہلے نازل ہوا، جس کے اَحکامات اولاً حضرت ابوبکرؓ امیرِ حج کے ذریعے اور بعد میں چند اور اَحکامات حضرت علیؓ کے ذریعے مشرکینِ عرب کے اس عظیم اجتماع کے موقع پر بذریعہ اعلان سنا دیے گئے۔

سورۃ التوبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، جس میں غزوۂ تبوک (رجب 9 ہجری) کا سفر ہوا تھا۔

آیت 113 مکے میں 10 نبوی میں ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت ہے۔

سورۃ ﴿التَّوبَة﴾ کی متفرق آیات کا زمانۂ نزول حسبِ ذیل ہے:

1- آیات 1 تا 12، نو (9) ہجری کے حج سے پہلے نازل ہوئیں۔ غالباً آیات 25 تا 28 اور 36 تا 37 بھی اسی دور میں نازل ہوئیں۔
2- آیات 13 تا 24، آٹھ (8) ہجری کے اوائل میں صلحِ حدیبیہ کے معاہدے کے ٹوٹ جانے پر نازل ہوئیں۔
3- آیات 29 تا 35، جو اہلِ کتاب سے جہاد اور جزیہ سے متعلق ہیں، غزوۂ تبوک (رجب 9ھ) سے پہلے نازل ہوئیں۔
4- آیات 38 تا 41، غزوۂ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں نازل ہوئیں، جن میں ترغیبِ جہاد ہے۔
5- آیات 42 تا 127، غزوۂ تبوک سے واپسی پر 9ھ کے اواخر میں نازل ہوئیں، جو زیادہ تر منافقین سے متعلق ہیں۔
6- آخری دو آیتیں 128 تا 129، دس (10) ہجری کے آواخر میں نازل ہوئیں، جن میں رسول اللہ ﷺ کی دردمندی اور خیر خواہی کی قدر کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

خصوصیات

1- مدینۂ منورہ میں وفات سے پہلے 9 اور 10 ہجری میں رسول اللہ ﷺ پر تین سورتیں نازل ہوئیں۔ سُورۃُ البَیِّنَة، سُورَۃُ التَّوبَة اور سُورۃ النصر۔ چنانچہ سورۃ التوبۃ نزولی ترتیب کے اعتبار سے سب سے بڑی آخری مدنی سورت ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- سورۃ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں لکھی گئی، جس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اولاً یہ کہ یہ قرآن آج بھی اُسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ ﷺ نے اسے لکھوایا تھا۔ ثانیاً پچھلی سورۃ الانفال میں جہاد کے آداب فضائل وفوائد اور احکامِ صلح وجنگ بیان کیے گئے تھے۔ اِس سورۃ ﴿التوبۃ﴾ میں عملاً مشرکین بنی اسمٰعیل، اہلِ کتاب اور منافقین تینوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ دونوں سورتیں معنوی اعتبار سے مربوط ہیں اور دونوں جہاد سے متعلق ہیں۔

سورۃ التوبۃ کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿الانفال﴾ میں فلسفۂ جہاد، ترغیبِ جہاد اور آدابِ جہاد کا ذکر تھا۔ یہاں سورت ﴿التوبۃ﴾ میں اُن تین گروہوں (مشرکین، اہلِ کتاب اور منافقین) کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے عملاً جہاد کرنا ہوگا۔

2- اگلی سورت ﴿یونس﴾ میں جہاد سے پہلے جہاد کی شرائط کا ذکر ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت پر کامل ایمان کے بغیر جہاد ممکن نہیں۔ چنانچہ محکم دلائل کے ساتھ مجادلہ کیا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿مشرکین﴾ کے خلاف فردِ جرم اور اُن کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات:

(a) مشرکینِ مکہ کی صلحِ حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی پر، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اظہار بیزاری کیا گیا: ﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (آیت:1)

(b) مشرکینِ مکہ کو نو (9) ہجری میں، چار (4) مہینے کا الٹی میٹم دیا گیا۔

﴿وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ﴾ (آیت:3)

(c) جن مشرکین نے صلحِ حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ان سے مدتِ معاہدہ تک عہد نبھانے کی ہدایت کی گئی۔ یہ خارجہ پالیسی ہے۔

﴿اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ﴾ (آیت:4)

(d) مشرکین کو وارننگ دی گئی کہ انہیں چار (4) مہینے کے بعد گرفتار اور قتل کیا جائے گا، البتہ وہ اسلام قبول کر کے نماز اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کے خلاف جنگی کاروائی روکی جاسکتی ہے۔

﴿فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ﴾ (آیت:5)

(e) مشرکین اور غیر مسلم اگر اسلامی ریاست کا تعلیمی ویزہ (Educational Visa) لے کر دینِ اسلام سیکھنے کے لیے آئیں گے تو ان کی حفاظت کی جائے گی اور ویزہ کی مدت ختم ہونے کے بعد، ان کو بخیریت اپنے گھر لوٹنے کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

﴿وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ﴾ (آیت:6)

(f) مشرکین اگر سیدھے رہیں تو ان سے اچھے تعلقات رکھے جاسکتے ہیں ،لیکن یہ عہد شکن لوگ ہیں۔

﴿كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ﴾ (آیت:7)

(g) مشرکین کو یہ حق نہیں دیا جاسکتا کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں، جب کہ وہ اپنے خلاف خود کفر کے گواہ ہیں۔

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾(آیت:17)

(h) مشرکین اعتقادی طور پر نجس اور گندے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حدودِ حرم میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

﴿اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا﴾ (آیت:28)

(i) مشرکین کی ناگواری کے باوجود ،اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد ﷺ کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا ،تاکہ وہ سب پر غالب آجائے۔

﴿هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴾ (آیت:33)

(j) مشرکین جس طرح اتحادی قوتوں کے ساتھ متحد ہو کر جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اسی طرح متحد ہو کر جنگ کرنا چاہیے۔﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ﴾ (آیت:36)

(k) کسی نبی اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کی موت پر دعائے مغفرت کرے، چاہے وہ اس کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى ﴾ (آیت:113)

-2 ﴿اہلِ کتاب﴾ کے خلاف فردِ جرم اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات:

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(a) اسلامی ریاست کے اہلِ کتاب ذمیوں سے جزیہ لیا جائے گا ، ورنہ پھر ان سے جنگ کی جائے گی۔

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (آیت:29)۔

(b) اہلِ کتاب میں سے یہود نے حضرت عزیرؑ کو اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰؑ کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ دونوں اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ (آیت:30)

(c) اہلِ کتاب نے تورات و انجیل کی آیات کو نظر انداز کر کے، اپنے علماء ﴿أَحْبَار﴾ اور اپنے درویشوں ﴿رُهْبَان﴾ کو (یعنی اُن کے حلال و حرام کو تسلیم کر کے اپنا) رب بنالیا ، حالانکہ انہیں ایک خدا کی عبادت و اطاعت کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ شرک فی التشریع تھا۔

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (آیت:31)

(d) اہلِ کتاب اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں ، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (آیت:32)

(e) اہلِ کتاب کے علماء ﴿أَحْبَار﴾ اور درویش ﴿رُهْبَان﴾ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔
سونے چاندی کو جمع کرنے میں مشغول ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ دوزخی ہوں گے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (آیت:34)

-3 ﴿منافقین﴾ کے خلاف فردِ جرم اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات:

(a) منافقین اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں۔ کسل مندی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں اور ناگواری کے ساتھ انفاق کرتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ﴾ (آیت:54)

(b) منافقین کو خدشہ لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی سورت نازل کرے گا، جس میں ان کے دل کے نفاق کا پول کھل سکتا ہے۔

﴿يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ﴾ (آیت:64)

(c) منافقین برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، انفاق نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے بھی ان فاسقوں کو بھلا دیا۔

﴿يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾ (آیت:67)

(d) منافقین اور کفار سے جہاد کرنے اور ان دوزخیوں سے سختی سے نمٹنے کا حکم دیا گیا۔

﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ﴾ (آیت:73)

4- دیہاتی، بدوی ﴿اَعراب﴾

(a) دیہاتی منافقین اپنے کفر و نفاق میں شدید ہوتے ہیں اور اللہ کے نازل کردہ احکام سے غافل ہوتے ہیں۔

﴿اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ﴾ (آیت:97)۔

(b) دیہاتی منافقین انفاق کو بوجھ، جرمانہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں اور اسلام کے بدخواہ ہوتے ہیں۔

﴿وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ﴾ (آیت:98)

(c) منافقین کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ﴾ (آیت:101)

(d) دیہاتی، بدوی ﴿اَعراب﴾ حیلے بہانے تراش کر کے میدانِ جنگ سے رخصت لیتے ہیں۔

﴿وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ (آیت:90)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(e) بعض دیہاتی ، بدوی ﴿اَعراب﴾ سچے اور مخلص مؤمن بھی ہوتے ہیں۔

﴿وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ (آیت:99)۔

(f) جہاد میں شرکت نہ کرنے والے دیہاتی، بدوی﴿اَعراب﴾ کو سمجھایا گیا کہ جہاد میں ہر ہر قدم پر اجر سے نوازا جاتا ہے۔

﴿مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ (آیت:120)

سورۃُ التَّوبَۃ کا نظمِ جلی

سورت ﴿التوبۃ﴾ پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ چوتھا طویل پیراگراف منافقین سے متعلق ہے، جس میں منافقین کو مخلص صحابہؓ کے کردار کی جھلکیاں بار بار دکھائی گئی ہیں۔

1- آیات 1 تا 28 : پہلے پیراگراف میں، بنی اسمٰعیل یعنی مشرکین اور دیگر عرب کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا۔

(a) مشرکینِ عرب اور کفر کے اماموں سے جہاد وقتال کا حکم دیا گیا۔﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (آیت:5) ﴿فَقَاتِلُوْۤا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ (آیت:12) ﴿قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ﴾ (آیت:14) قریش کے خلاف فردِ جرم عائد کیا گیا کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کی معاہدہ شکنی کی۔ رسول اللہ ﷺ کو مکے سے نکالنے کی سازشیں کیں۔﴿نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ﴾ (آیت:13)

(b) تولیت کعبہ سے قریش مکہ کو معزول کیا گیا۔ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کے حق دار نہیں ہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لا کر نماز اور زکوۃ پر عمل پیرا ہونے والے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والے سچے مؤمنین اور مجاہدین ہی خانۂ کعبہ کے متولی ہو سکتے ہیں (آیت:18)۔ مسلمانوں کو دین کی ترجیحات بتائی گئیں ،اللہ، رسول اور جہاد کو رشتہ داروں اور دنیا کے دیگر جھمیلوں پر ترجیح دی جانی چاہیے، یا پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ (آیت:24)

جنگِ حنین کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا اور مشرکینِ مکہ کو نجس قرار دے کر مسجدِ حرام میں داخلے پر پابندی عائد کردی گئی۔ یہ بھی دراصل ان کی تولیتِ کعبہ سے معزولی کا اعلان تھا۔ (آیت:28)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- آیات29 تا35: دوسرے پیراگراف میں، بنی اسرائیل (اہلِ کتاب) یعنی یہود ونصاریٰ کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا

اہلِ کتاب سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، جب تک وہ جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی بالادستی کو تسلیم نہیں کر لیتے ﴿قَاتِلُوا .الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (آیت:29)۔

اہلِ کتاب کے خلاف فردِ جرم عائد کی گئی کہ وہ عزیرؑ اور عیسیٰؑ کو اللہ کا بیٹا بنا کر مشرک بن گئے ہیں (آیت: 30) ۔

انہوں نے لوگوں کا مال ہڑپ کر لینے والے بخیل علماء اور صوفیا کی من مانی باتوں کو حلال وحرام سمجھ لیا۔ تورات سے تقابل کر کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس طرح انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ﴿مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ کو اپنا رب اور حاکم وشارع بنا لیا۔ (آیت:31) ایسے دنیا پرست علماء ورہبان کو دوزخ کے عذاب کی نوید سنائی گئی۔ (آیت:35)

3- آیات36 تا41 : تیسرے پیراگراف میں، ترغیبِ جہاد ہے اور ترکِ جہاد پر استبدالِ قیادت اور عذابِ الیم کی دھمکی ہے

مشرکینِ مکہ کے جرائم گنوائے گئے۔ انہوں نے ﴿نَسِيءُ﴾ کی بدعت ایجاد کی۔ اللہ کے کیلنڈر میں من مانی تبدیلی کرتے رہے۔ ان کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنی ضروری ہے۔ (آیت:37)

﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ اور ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا﴾ کے الفاظ کے ذریعے مسلمانوں کو جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا

قانونِ استبدال: (Law of replacement)

جہاد نہ کرنے پر عذابِ الیم اور استبدال کی دھمکی دی گئی۔ ﴿إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ (آیت:39)

سورۃ محمد کی آخری آیت میں بھی یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ بخیل قوموں کو بھی زیادہ دیر تک باقی نہیں رکھا جاتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا کہ اس نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دکھایا اور اللہ کا کلمہ ہی بلند وبالا ہو کر رہا۔

﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ (آیت:40)۔

4- آیات42 تا127: چوتھے پیراگراف میں، منافقین کے خلاف فردِ جرم ہے اور ان سے جہاد کا حکم ہے

(a) منافقین کے خلاف فردِ جرم عائد کی گئی کہ وہ بلا عذرِ شرعی جنگ سے رخصت طلب کرتے ہیں ،فتنوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ان کا ماضی بھی داغ دار ہے۔

رسول اللہ ﷺ پر گرفت کی گئی کہ انہیں آپ کیوں رخصت دیتے ہیں؟ ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ (آیت:43)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(b) مسلمان ﴿إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾ دو بھلائیوں میں سے ایک ضرور حاصل کریں گے، فتح یا شہادت۔
اللہ تعالیٰ منافقین کو راست (Directly) یا بالواسطہ مسلمانوں کے ذریعے ہلاک کرے گا۔ ﴿يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ (آیت:52)
ایمان کے بغیر ان کے صدقات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ (آیت:53)

(c) منافقین تقسیم صدقات کے معاملے میں رسول اللہ ﷺ پر اعتراضات کیا کرتے تھے ،انہیں بتایا گیا کہ زکوٰۃ منافقین کے لیے نہیں، بلکہ اُس کی خاص آٹھ (8) مدات ہیں۔ رسول ﷺ پر اعتراضات کرنے والوں کے لیے عذاب ہے۔

(d) زکوٰۃ کی آٹھ مدات: زکوٰۃ کی رقم صرف اور صرف فقراء ، مسکینوں اور اُن لوگوں کے لیے ہے، جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور اُن کے لیے ہے، جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ پھر یہ گردنوں کے چھڑانے، قرض داروں کی مدد کرنے میں، اللہ کی راہ میں اور مسافر نوازی میں استعمال کی جاسکتی ہے۔ (آیت:60)

(e) منافقین کی جھوٹی قسموں کا ذکر کیا گیا ،انہیں خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی نئی سورت ان کے دل کے رازوں کا پول نہ کھول دے۔ ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ (آیت:68)
منافقین کو تاریخ کی مجرم قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا۔ (آیت:70)

(f) مخلص مؤمنین صحابہؓ کی صفات بتائی گئیں ،انہیں جنت کی بشارت دی گئی اور اُنہیں کفار و منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ (آیت:73)

(g) منافقین کا بخل: منافقین کا پول کھولا گیا کہ ان کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں۔ مال آنے کے بعد بھی یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ غریب لیکن فیاض مسلمانوں کے انفاق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ (آیت:79)
رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو صاف بتا دیا گیا کہ منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ (آیت:80)

(h) جنگِ تبوک میں گرمی کی شدت کا بہانہ کرکے، جہاد میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا (آیت:84) اور اس کے برعکس مخلص مجاہد صحابہؓ کے کردار اور ان کے اجر پر روشنی ڈالی گئی (آیت:89)
مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ منافقین کے اموال و اولاد سے دھوکہ نہ کھائیں! (آیت:85)

(i) بدوی اور دیہاتی منافقین کی رخصت طلبی پر گرفت کی گئی۔ میدانِ جہاد سے صرف مریضوں اور کمزور لوگوں کو ہی رخصت دی جاسکتی ہے ،وہ بھی اس صورت میں کہ وہ اسلامی ریاست کے وفادار ہوں ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (آیت:91)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بلا عذرِ جنگ سے رخصت طلب کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا (آیت:95)

(j) بدوی عربوں کی مختلف قسمیں:

بعض دیہاتی ناواقفیت کی وجہ سے کفر ونفاق میں شدید ہوتے ہیں (آیت:97)۔

بعض دیہاتی منافقین بوجھ اور جرمانہ سمجھ کر انفاق کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بدخواہ ہوتے ہیں (آیت:98)۔

بعض دیہاتی سچے اہلِ ایمان ہوتے ہیں۔ انصار ومہاجرین میں سے ﴿السابقون الاولون﴾ ایسے مخلص ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں (آیت:100)۔

ان کے برعکس مدینہ کے اندرونی اور مدینہ کے اطراف کے بیرونی منافقین کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ (آیت:101)

وہ لوگ جن سے نیکیاں بھی ہوئیں اور کچھ گناہ بھی، ان پر اللہ نظرِ عنایت کر سکتا ہے (آیت:102)

(k) منافقین کی مسجد میں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا (آیت:107)۔

مسجدِ قباء، جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور اس کے مخلص صحابہؓ کی فضیلت بیان کی گئی۔ (آیت:108)

(l) جہاد کی بیعت: اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مجاہد مؤمنین سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں۔

﴿إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ (آیت:111)

(m) نبی ﷺ اور اہلِ ایمان دونوں کو مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا (آیت:113)۔

(n) تین صحابہ کی توبہ قبول کی گئی، جو محض سستی کی وجہ سے شریکِ جہاد نہیں ہو سکے تھے (آیت:118)۔

زبان سے ایمان لانے والوں کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے اور سچے مخلص صحابہؓ کا ساتھ دینے کی ہدایت کی گئی۔

﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ (آیت:119)

(o) انفاق اور جہاد کا اجر بتایا گیا کہ ہر سخاوت اور ہر ہر قدم پر سخی لوگوں اور مجاہدین کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔

دین کا علم حاصل کرنا اور دین میں تفقہ پیدا کرنا فرضِ کفایہ ہے۔ کم از کم کچھ لوگ ہر قبیلے سے آ کر دین سیکھیں اور واپس جا کر اپنے علاقے میں دعوت و تبلیغ کریں (آیت:122)۔

مسلمانوں کو اطراف کے کافروں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔

﴿قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ﴾ (آیت:123)

(p) مخلص صحابہؓ اور منافقین میں موازنہ کیا گیا۔ مخلص صحابہؓ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا﴾، جب کہ منافقین کے دلوں کی گندگی میں اضافہ ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ﴾۔ اسی لیے ہر سال ایک دو مرتبہ منافقین کسی نہ کسی فتنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ﴿يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ (آیات:124 تا 126)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

5- آیات 128 تا 129: پانچویں اور آخری پیراگراف میں، (جو دو آیات پر مشتمل ہے) محمد ﷺ کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا
رسول اللہ ﷺ کی دردمندی اور خیر خواہی کا ذکر کیا گیا کہ وہ مؤمنین کے لیے حریص وشفیق ورحیم ہیں۔ مؤمنین کی تکلیف ان پر ناگوار گزرتی ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ آخری رسول کی اس خیر خواہی کو مسترد کرتے ہیں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اپنی توحید اور توکل کا اعلان کیجئے اور اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔

مرکزی مضمون

اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا جائے، چاہے وہ مشرکین ہوں، یا اہلِ کتاب، یا منافقین۔ جہاد کے لیے خام مسلمانوں کو تربیت ضروری ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ ربط نظمِ جلی

10- سُوْرَۃُ یُوْنُس

آیات : 109 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 8



زمانۂ نزول:

سورت ﴿یُـونـس﴾، رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے چوتھے اور آخری دور (11 تا 13 نبوی) کے وسط میں غالباً 12 نبوی میں سورت ﴿هُـود﴾ کے ساتھ نازل ہوئی۔

سورت ﴿یُـونـس﴾ کی آیات 37، 94 اور 104 میں اور اگلی سورت ﴿هـود﴾ کی آیات 62 اور 110 دونوں میں قرآن کی دعوت پر مشرکین کی طرف سے شک وریب کے اظہار کے علاوہ ، رسول اللہ ﷺ پر ساحری اور افتریٰ کے الزامات ملتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سُورۃ یُونس کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿ التوبہ ﴾ میں جہاد کا ذکر تھا۔ یہاں سورۃ ﴿ یونس ﴾ میں بتایا گیا ہے کہ جہاد سے پہلے اتمامِ حجت یعنی محکم دلائل کے ساتھ دعوتِ توحید اور مجادلۂ حسنہ ضروری ہے۔

2- سورت ﴿ یُونس ﴾ میں منکرینِ توحید، منکرینِ رسالت اور منکرینِ آخرت کے خلاف اِتمامِ حجت ہے۔ اگلی سورت ﴿ ھود ﴾ میں اتمامِ حجت کے بعد توبہ اور استغفار کی دعوت دی گئی ہے۔ دعوت کو مسترد کرنے کی صورت میں ہلاکت کی دھمکی ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- سورت یونس میں ﴿ قرآن ﴾ کا تفصیلی تعارف کرایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مؤمنین کے لیے رحمت ہے، کلامِ برحق ہے۔

(a) قرآن مخلوق ﴿ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ کا گھڑا ہوا کلام نہیں، بلکہ اللہ ﴿ رب العالمین ﴾ کا کلام ہے اور تورات و انجیل کی تصدیق میں ہے۔

﴿ وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾ (آیت:37)۔

(b) قرآن ایک ایسی نصیحت ہے، جو سینوں کے اَمراض کے لیے شفا اور ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے۔

﴿ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (آیت:57)۔

(c) قرآن اللہ کا کلامِ برحق ہے، جس طرح پچھلے پیغمبروں پر وحی کی گئی تھی۔ شک کرنے والے لوگوں کو اہلِ کتاب کے علماء سے پوچھنا چاہیے۔

﴿ فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴾ (آیت:94)۔

(d) قرآن رب کی طرف سے حق ہے، اب لوگوں کو آزادی حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو قبول کرلیں، یا مسترد کردیں۔

﴿ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ (آیت:108)

2- سورت یونس میں ﴿ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ﴾ کے الفاظ سے ﴿ رَبّ ﴾ کا صحیح صحیح تعارف کرایا گیا۔

مشرکینِ مکہ اللہ تعالیٰ کو ﴿ خالق ﴾ اور ﴿ رب ﴾ تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کی عبادت و اِطاعت، اس کی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿الوہیت﴾ اور اس کی ﴿حاکمیت و تشریع﴾ میں شرک کیا کرتے تھے۔

(a) مشرکین سے مجادلہ کیا گیا کہ تمہارا رب وہی ہے، جو زمین آسمان کا خالق ہے، ﴿مُدَبِّر﴾ ہے، اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرسکتا، اس لیے اسی ﴿رب﴾ کی ﴿عبادت﴾ کرنی چاہیے۔

﴿اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ، ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ، یُدَبِّرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ شَفِیْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ، ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ، اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ؟﴾ (آیت:3)۔

(b) مشرکین سے مجادلہ کیا گیا کہ تمہارا رب وہی ہے، جو زمین سے لے کر آسمان تک رزق فراہم کرتا ہے، سماعت و بصارت عطا کرتا ہے، مردہ چیزوں میں سے زندہ چیزیں اور زندہ چیزوں میں سے مردہ چیزیں پیدا کرتا ہے، ﴿مُدَبِّر﴾ ہے۔

﴿قُلْ مَنْ یَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ؟ اَمَّنْ یَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ؟ وَمَنْ یُّخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ؟ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ؟ وَمَنْ یُّدَبِّرُ الْاَمْرَ، فَسَیَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ، فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ؟ ○ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ؟ فَاَنّٰی تُصْرَفُوْنَ؟﴾ (آیت:32)۔

3- سورۂ یونس میں منکرینِ آخرت سے مناظرہ ہے۔ ﴿لِقَاء﴾ یعنی ملاقاتِ ربّ کا لفظ بھی کئی بار استعمال ہوا ہے۔

(a) دنیا میں مشغول و منہمک لوگ، ﴿لِقَاء﴾ یعنی آخرت کی ملاقاتِ رب کی اُمید نہیں رکھتے اور قرآنی دلائل سے غافل رہنا چاہتے ہیں۔

﴿اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا، وَرَضُوْا بِالْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا، وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیٰتِنَا غٰفِلُوْنَ﴾ (آیت:7)

(b) دنیا پرست ضدی ﴿لِقَاء﴾ یعنی آخرت کی ملاقاتِ رب کی اُمید نہ رکھنے والے اپنی طغیانی اور سرکشی میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔

﴿فَنَذَرُ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِیْ طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُوْنَ﴾ (آیت:11)۔

(c) ﴿لِقَاء﴾ یعنی ملاقاتِ رب کی اُمید نہ رکھنے والے، قرآن کی آیاتِ بینات سن کر (Ammend it or Replace it) دوسرے قرآن کا مطالبہ کرتے ہیں، یا قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں (کیونکہ یہ قرآن ان دنیاداروں کے مفادات پر چوٹ لگاتا ہے)۔ ﴿وَاِذَا تُتْلٰی عَلَیْهِمْ اٰیَاتُنَا بَیِّنٰتٍ، قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَیْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ﴾ (آیت:15)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(d) ﴿لِقَاء﴾ یعنی ملاقاتِ رب کی اُمید نہ رکھنے والے ، روزِ قیامت خسارے میں رہیں گے۔

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ﴾ (آیت:45)۔

4- سورت یونس میں دلائل و براہین (Evidences) کے لیے ﴿آیات﴾ کا لفظ بار بار استعمال کیا گیا ہے۔

(a) چاند اور سورج کی نپی تلی گردش، بے مقصد نہیں ہے، بلکہ با مقصد ہے۔ مقصود روشنی فراہم کرنا بھی ہے اور انسانوں کو جنتری (کیلنڈر) بھی دینا ہے، تا کہ لوگ زمانے اور وقت کا حساب کتاب رکھ سکیں۔ علم رکھنے والوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، ربوبیت اور حکمت کے دلائل ہیں۔

﴿هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً، وَّالْقَمَرَ نُوْرًا، وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ، لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ، يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ﴾ (آیت:5)

(b) رات دن کے اختلاف میں اور زمین وآسمان کی تخلیق میں بچ بچ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ﴿آیات﴾ موجود ہیں، کیونکہ چاند اور سورج اپنی اپنی حد میں رہ کر اللہ کے اَحکامات کی پیروی کر رہے ہیں۔

﴿اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ﴾ (آیت:6)

(c) ظالم اور مکار لوگ اللہ کی ﴿آیات﴾ میں مکروفریب سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانونِ ہلاکتِ اقوام یہ ہے کہ وہ پہلے دکھ کے امتحان میں مبتلا کرتا ہے، پھر سکھ کے امتحان میں۔ ظالم و مکاران دونوں امتحانوں میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ اپنی چال چلتا ہے، اس کے فرشتے ان کے مکروفریب کو ان کے اعمال ناموں میں درج کرتے رہتے ہیں۔ ﴿وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا، قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا، اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ﴾ (آیت:21)۔

(d) غور وفکر کرنے والوں کے لیے دنیا کے قانونِ جزا وسزا میں ، آخرت کے قانونِ جزا وسزا (جنت ودوزخ) کی دلیل ﴿آیت﴾ موجود ہے۔ بارش سے اللہ تعالیٰ زمین کو سرسبز وشاداب کر کے رزق فراہم کرتا ہے ، لیکن کبھی اچانک ناگہانی آفت سے فصلیں تباہ کر دی جاتی ہیں۔

﴿اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ اَتٰهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا، كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ، كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾ (آیت:24)۔

(e) اللہ نے اس کرۂ ارض کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور انسانوں کو نیند کے ذریعے سکون پہنچانے کے لیے رات بنائی ہے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور پودوں کی نشوونما اور کاروبارِ حیات کے لیے دن تخلیق کیا ہے۔ غرض چاند سورج کی گردش میں اللہ کی قدرت، ربوبیت اور حکمت کی دلیلیں ﴿آیات﴾ موجود ہیں۔

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (آیت:67)۔

5- سورت یونس میں، مکے کی فرعونی مشرک قیادت کا ﴿عُلُوّ﴾ اور کبریائی کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔

(a) فرعون ایک ظالم ڈکٹیٹر تھا۔ زمین پر ﴿عُلُوّ﴾ اور کبریائی کا دعویٰ اور مظاہرہ کرتا تھا۔ اختیارات کے استعمال میں اسراف اور تجاوز سے کام لیتا تھا۔ فرعون اور اس کے فوجی کمانڈروں کی دہشت عوام پر اس قدر تھی کہ صرف چند لوگ ہی حضرات موسیٰؑ وہارونؑ پر ایمان لے آئے تھے۔

﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (آیت:83)۔

(b) فرعون نہ صرف ظالم ڈکٹیٹر تھا، بلکہ کئی خداؤں کو ماننے والا مشرک بھی تھا اور آباؤ اجداد کے رسم و رواج پر سختی سے کاربند تھا۔ فرعون اور اس کے کمانڈروں نے حضرت موسیٰؑ وہارونؑ سے صاف کہہ دیا کہ ہم آپ دونوں پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ دونوں ہمیں آبائی رسم و رواج سے ہٹانا چاہتے ہیں اور زمین پر اپنی بڑائی اور کبریائی ﴿عُلُوّ﴾ قائم کرنا چاہتے ہیں۔

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ﴾ (آیت:78)۔

6- سورت یونس میں مجرم مشرکین مکہ کو تاریخی دلائل سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ﴿مجرمین﴾ کو کسی بھی وقت ہلاک کر سکتا ہے۔

(a) تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسولوں کی واضح تعلیمات پر ایمان نہ لانے والی ظالم و مجرم قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (آیت:13)۔

(b) مجرم مشرکین کو خبردار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی وقت صبح و شام نازل ہو سکتا ہے۔ انہیں غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا ، مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ؟﴾ (آیت:50)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۂ یونس کا نظمِ جلی

سورۂ ﴿یونس﴾ آٹھ (8) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

اس سورۃ کا ہر پیراگراف مشرکین کے عقائد کے خلاف ایک بحث پر مشتمل ہے۔ ہر پیراگراف میں، قرآن کی دعوتِ توحید، دعوتِ رسالت اور دعوتِ آخرت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے۔اس سورت کا آغاز اور اختتام بھی قرآن پر ہوتا ہے۔

1- آیات 1 تا 2 : پہلے پیراگراف یعنی ابتدائی دو آیات میں قرآن کا تعارف ہے۔

سب سے پہلے بتایا گیا کہ قرآن کتابِ حکیم ہے، جو قریش ہی کے ایک انسان حضرت محمد ﷺ پر نازل کیا گیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہو اور کافروں کے لیے تنبیہ ہو۔اس کے بعد کافروں کے اس الزام کا ذکر ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ کو ﴿ساحر﴾ یعنی جادوگر قرار دیا۔

2- آیات 3 تا 20 :دوسرے پیراگراف میں، قریش کے عقیدۂ شرک اور عقیدۂ آخرت کی تردید کر کے وضاحت کی گئی کہ قرآن کو نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کی جا سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کے دلائل دیے گئے کہ وہ اختیار رکھنے والا ﴿مدبر﴾ ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفیع نہیں ہو سکتا، اس لیے اسی کو ﴿رب﴾ مان کر اسی کی ﴿عبادت﴾ کرنی چاہیے۔ وہی قیامت برپا کرے گا، تاکہ عدل کے مطابق جزا اور سزا دی جا سکے۔ وہی سورج اور چاند کا خالق ہے۔اس نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ دنیا تخلیق کی ہے اسی لیے اسی کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ خالص دنیادار لوگ، جو آخرت کے منکر ہیں، محمد ﷺ اور قرآن کی اس دعوت کو مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ غافل ہیں اور اپنی سرکشی میں طاق ہیں۔ان ﴿مسرفین﴾ کے لیے دنیا خوشنما بنا دی گئی ہے ،لیکن ان ﴿مجرمین﴾ کو تاریخ ہلاکتِ اقوام سے سبق لینا چاہیے کہ ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ﴿خلیفہ﴾ بنا دیتا ہے۔

منکرینِ آخرت رسول اللہ ﷺ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خالص توحید کی دعوت دینے والے قرآن کو یا تو بدل دیجیے یا پھر اس قرآن میں ترمیم کر لیجیے۔اس مطالبہ کا جواب دیا گیا کہ قرآن کو بدلنے کا اختیار رسول اللہ ﷺ کو نہیں ہے، اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا۔

مشرکین کے عقیدۂ شفاعت کی نفی کی گئی اور حسی معجزات کے مطالبے پر قرآنی معجزے پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3- آیات 21 تا 46 : تیسرے پیراگراف میں، قریش کی دنیادار مادہ پرست قیادت سے مجادلہ اور قرآن کے بارے میں چیلنج ہے کہ اس طرح کی ایک سورت بھی ﴿ مِن دُونِ اللّٰہ ﴾ سامنے نہیں لا سکتے۔

انسان کی ناشکری اور اللہ کی زمین پر بغاوت ﴿ یَبغُونَ فِی الاَرض ﴾ اور خود اپنے نفس کے خلاف بغاوت ﴿ بَغیُکُم عَلٰی اَنفُسِکُم ﴾ پر گرفت کی گئی کہ اُسے آخرت کا خوف اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کو ایک خوبصورت تمثیل سے سمجھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ﴿ دارالسلام ﴾ یعنی جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ﴿ اَصحٰبُ الجَنَّۃ ﴾ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ﴿ اَصحٰبُ النَّار ﴾ میں۔ پھر احوالِ قیامت سے ڈرایا گیا۔

توحید کے مزید دلائل دے کر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا ﴿ رب ﴾ ہے۔

﴿ اللّٰہ ﴾ اور ﴿ من دونِ اللّٰہ ﴾ کے درمیان موازنہ کر کے پوچھا گیا کہ کیا کوئی شریک، کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے؟

قرآن کسی مخلوق کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ مشرکین کو چیلنج کیا گیا کہ اس طرح کی ایک سورت ہی لا کر دکھائیں۔ رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ آپ ان اندھوں اور بہروں میں بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ منکرینِ آخرت کو ڈرایا گیا کہ ایک نہ ایک دن انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ خسارے میں رہیں گے۔

4- آیات 47 تا 58 : چوتھے پیراگراف میں، منکرینِ رسالت اور منکرینِ قیامت سے مجادلہ اور قرآن کا تعارف ہے کہ یہ ایمان لانے والوں کے شفا، ہدایت اور رحمت بن جاتا ہے۔

اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ رسول کی آمد کے بعد قوموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس پر کافروں نے سوال کیا کہ یہ وقت کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ ﷺ کی زبان سے کہلوایا کہ وہ نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور کسی کمی بیشی کے بغیر ﴿ مجرمین ﴾ کو وقتِ مقررہ پر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔

قیامت کا اثبات کیا گیا کہ اُس دن لوگ زمین کی ساری دولت فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں گے، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ ظلم کے بغیر فیصلے کیے جائیں گے۔

ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے (قرآن کی صورت میں) نصیحت آچکی ہے، جو سینوں کے لیے شفا اور مؤمنین کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ مسلمانوں کو اس نعمت پر خوشیاں منانا چاہیے۔

5- آیات 59 تا 70 : پانچویں پیراگراف میں، قریش کے مشرکانہ عقائد اور خودساختہ حلال و حرام کے قوانین پر مجادلہ کیا گیا ہے

مشرکین کو ان کے خودساختہ حلال و حرام پر ٹوکا گیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ اور افتراء ہے۔

﴿ قُل اَرَءَیتُم مَّا اَنزَلَ اللّٰہُ لَکُم مِّن رِّزقٍ فَجَعَلتُم مِّنہُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ، قُل آٰللّٰہُ اَذِنَ لَکُم اَم عَلَی اللّٰہِ تَفتَرُونَ ؟ ﴾ (آیت:59)۔

اللہ کے نیک بندے اور اس کے دوست ﴿ اَولِیَاءُ اللّٰہ ﴾ ایمان لا کر تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ وہ کافروں کی باتوں پر افسردہ نہ ہوں۔ مشرکین محض گمان کی بنیاد پر ایک عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عظیم لازوال اختیارات ہیں، اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں۔

اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوسکتے۔

6- آیات 71 تا 93 : چھٹے پیراگراف میں، قریش کے لیڈروں کو، قوم نوحؑ اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔

حضرت نوحؑ کی دعوت وتبلیغ کافرین کے لیے بہت ناگوار تھی۔ انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر کے کشتی والوں کو بچالیا اور دوسری قوموں کو ان کی جگہ جانشین بنادیا۔

ان کے بعد حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، فرعون اور اس کے کمانڈروں نے ﴿استکبار﴾ سے کام لیا۔ وہ ﴿مجرم﴾ تھے۔ انہوں نے حق کو جادو قرار دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت موسیٰؑ وہارونؑ زمین پر اپنی بڑائی ﴿الکبریاء فی الارض﴾ چاہتے ہیں۔

فرعون اور اس کے فوجی کمانڈروں کی حکومت، دہشت گردی کی بنیاد پر قائم تھی، چنانچہ خوف کے مارے سوائے چند نوجوانوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ وہ ﴿مفسد﴾ بھی تھے اور ﴿مجرم﴾ بھی۔ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اللہ کا ﴿توکل﴾ اختیار کریں۔ دونوں بھائیوں کو حکم دیا گیا کہ وہاں مصر میں کوئی مسجد بنالیں اور نماز ادا کریں۔

حضرت موسیٰؑ کی دعوت کو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے مسترد کردیا، اس وقت حضرت موسیٰؑ نے بددعا کی:
﴿رَبَّنَا اطْمِسْ علی اَموالِهِم وَاشْدُدْ علی قُلُوبِهِم﴾۔ حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ کی بددعائیں قبول ہوئیں فرعون اور اس کے فوجی لشکر غرق ہوئے جو بغاوت ﴿بغی﴾ اور دشمنی ﴿عدو﴾ کے جرم کے مرتکب تھے۔ ڈوبنے کے بعد فرعون ایمان لایا۔ لیکن عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ (یہ ایک استثناء تھا کہ عذاب آنے کے بعد بھی قوم یونس کی دعا قبول کی گئی)۔

<u>قرآن کا معجزہ:</u> قرآن کا یہ بھی ایک بڑا زندہ معجزہ ہے کہ فرعون کی لاش تقریباً 4,300 سال گذر جانے کے باوجود 1,300 قبل مسیح سے آج تک محفوظ ہے۔

7- آیات 94 تا 103: ساتویں پیراگراف میں، بتایا گیا کہ قرآن شک سے پاک ہے۔ لوگوں کو توحید کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

رسول اللہ ﷺ کو ہدایات دی گئیں کہ وہ لوگوں کو ایمان کے لیے مجبور نہیں کرسکتے۔ اللہ نے انسانوں کو خیر وشر کی آزادی عطا کی ہے۔ مشرکین کو تاریخ کے ﴿ایام﴾ سے ڈرایا گیا کہ وہ بھی ہلاک کیے جاسکتے ہیں اور اہلِ ایمان کو تسلی دی گئی کہ رسولوں کو اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کو ہلاکت سے بچانا، اللہ کی ذمہ داری ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

8- آیات 104 تا 109: آٹھویں اور آخری پیراگراف میں، قرآن پر ایمان لانے، اُس کی پیروی کرنے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایات دی گئیں۔

انسانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی خالص عبادت کریں، جو نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی اور جو موت بھی دیتا ہے۔ ان ہستیوں کو پکارنے اور دعا کرنے سے روکا گیا، جو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتیں۔ آخر میں دعوت دی گئی کہ اللہ کی طرف سے قرآن لے کر رسول اللہ ﷺ آ گئے ہیں، اب انھیں اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، ورنہ گمراہی کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب لوگوں کو آزادی حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو قبول کر لیں، یا مسترد کر دیں۔

﴿ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ (آیت:108)۔

رسول اللہ ﷺ کو، نازل کردہ وحی کی پیروی کرنے اور اللہ کے فیصلے تک صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی گئی۔

مرکزی مضمون

قرآنِ مجید کے محکم دلائل کی روشنی میں، توحید، رسالت اور آخرت کے منکر، مشرکینِ مکہ پر اتمامِ حجت کی گئی۔ اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ رسول اللہ ﷺ اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

11- سُوْرَةُ هُوْد

آیات : 123 ...... مَکِّیَّة ...... پیراگراف : 8



زمانۂ نزول اور پس منظر:

سورت ﴿ھود﴾، رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے چوتھے اور آخری دور (11 تا 13) کے وسط میں، یعنی غالباً 12 نبوی میں، سورۃ ﴿یونس﴾ وغیرہ کے ساتھ نازل ہوئی۔ یہ وہی دور تھا، جب آپ ﷺ پر ﴿افتراء﴾ کے الزامات عائد کیے جا رہے تھے، آپ کی دعوت کو ﴿شک و ریب﴾ کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا اور اسے ﴿سحر مبین﴾ کہا جا رہا تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خصوصیات

1۔ سورۃ ھود ایک جلالی سورت ہے، جس میں باغی، نافرمان اور گناہ گار قوموں پر اللہ کے غضب اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے۔

اس سورت نے رسول اللہ ﷺ کو بوڑھا کر دیا تھا۔

2۔ اس سورت کے پہلے پیراگراف اور آخری آیت دونوں میں ﴿توحیدِ عبادت﴾ کا مطالبہ ہے (آیات: 2 اور 123)

3۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے قانونِ ہلاکت [Law of Annihilation] اور قانونِ استبدال [Law of Replacement] کی وضاحت ہے کہ وہ وقفہ وقفہ سے قوموں کو مہلت دینے کے بعد ہلاک کر دیتا ہے، ان کے نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے اور پھر امامت اور قیادت کے لیے ایک اور قوم کو میدانِ امتحان میں لے آتا ہے۔

4۔ سورۃ ﴿ھود﴾ نظم کے اعتبار سے سورۃ ﴿الاعراف﴾ سے مشابہ ہے۔ دونوں کے آٹھ پیراگراف ہیں۔ دونوں میں تمہید اور اختتامیے کے درمیان چھ (6) قوموں کی جانشینی اور ہلاکت کے سچے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ کا قانونِ ہلاکت اور قانونِ استبدال کو سمجھایا گیا ہے۔

5۔ البتہ اس سورت میں مختلف پیغمبروں کی زبان سے ﴿توبہ و استغفار﴾ کی دعوت دی گئی ہے، تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکیں۔

سورۃ ھود کے فضائل

رسول ﷺ نے فرمایا:

﴿ شَيَّبَتْنِي هُود" والواقِعَةُ والمُرسَلاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾

"مجھے سورۃ ھود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النّبأ اور سورۃ التکویر نے بوڑھا کر دیا۔" (جامع ترمذی: کتاب التفسیر، باب سورۃ الواقعہ، حدیث 3,297، صحیح)

سورۃ ھُود کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿یونس﴾ میں مختلف قسم کے دلائل سے منکرینِ توحید، منکرینِ رسالت اور منکرینِ آخرت کے خلاف اتمامِ حجت تھی۔ یہاں سورت ﴿ھود﴾ میں تاریخ کے چھ (6) سچے واقعات سے اتمامِ حجت ہے۔ اللہ برے لوگوں کو ہلاک کر کے، نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے۔

2۔ ﴿شک﴾ میں گرفتار لوگوں کے لیے اتمامِ حجت: پچھلی سورت ﴿یونس﴾ میں کہا گیا تھا کہ رب العالمین کا یہ کلام

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

قرآن ﴿شک﴾ سے پاک ہے (آیت:37)، مشرکینِ مکہ پر فردِ جرم عائد کی گئی کہ وہ ﴿شک﴾ میں مبتلا ہیں (آیت:94) اور (آیت:104) میں ﴿شک﴾ میں گرفتار لوگوں کو دلیل پیش کی گئی کہ انسانوں کو موت دینے والا ہی معبود ہو سکتا ہے۔ اور یہاں سورت ﴿ھود﴾ میں تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا کہ قومِ ثمود بھی ﴿شک﴾ میں مبتلا تھی (آیت:62) اور قومِ فرعون بھی ﴿شک﴾ میں گرفتار تھی۔

3۔ ﴿افتراء﴾ کے الزام کے جواب میں چیلنج: پچھلی سورت ﴿یونس﴾ میں مشرکین سے کہا گیا تھا کہ تم اللہ کے کلام کو، رسول اللہ ﷺ کا ﴿افتراء﴾ سمجھتے ہو تو تمہیں چیلنج کیا جاتا ہے کہ اس جیسی صرف ایک (1) سورت ہی تصنیف کر کے سامنے لے آؤ (آیت:38) اور

یہاں سورت ﴿ھود﴾ میں چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اسے ﴿افتراء﴾ سمجھتے ہو تو اس جیسی دس (10) سورتیں لا کر دکھاؤ (آیت:13)۔

4۔ ﴿سحر﴾ کے الزام کا جواب: پچھلی سورت ﴿یونس﴾ میں بتایا گیا تھا کہ مشرکینِ مکہ نے قرآنِ حکیم کے ذریعے تبشیر و انذار پر رسول اللہ ﷺ کو ﴿ساحر﴾ یعنی جادوگر قرار دیا تھا (آیت:2)، جس طرح فرعون اور اس کے فوجی کمانڈروں نے حق کو ﴿سحر مبین﴾ قرار دیا تھا (آیت:76)۔ یہاں سورت ﴿ھود﴾ میں بتایا گیا ہے کہ مشرکینِ مکہ رسول اللہ ﷺ کے پیش کردہ عقیدۂ آخرت کو ﴿سحر مبین﴾ قرار دیتے تھے کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

5۔ اگلی سورت ﴿یوسف﴾ میں مشکل اور صبر آزما حالات کے بعد اہلِ مکر و فریب کی شکست اور اہلِ ایمان کی فتح، کامرانی اور اقتدار کی بشارت ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ سورت ھود میں ﴿توحیدِ عبادت﴾ کا مضمون بار بار آیا ہے۔ تمام پیغمبروں نے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔

(a) آخری رسول محمد ﷺ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ﴿عبادت﴾ مت کرو، میں تو اللہ کی طرف سے صرف نذیر و بشیر ہوں۔

﴿اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ﴾ (آیت:2)۔

یہ مضمون سورت ﴿ھود﴾ کے آغاز میں بھی لایا گیا ہے اور اختتام پر بھی۔ خلاصۂ کلام کے طور پر ﴿فَاعْبُدْهُ﴾ کے الفاظ سے رسول اللہ ؐ اور ان کے توسط سے صحابۂ کرام کو ﴿توحیدِ عبادت﴾ اور ﴿توحیدِ توکل﴾ پر ثابت قدمی کی ہدایت دی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ (آیت:123)۔

(b) پہلے رسول حضرت نوح ؑ نے بھی یہی دعوت دی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ﴿ عبادت ﴾ مت کرو، میں تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں۔

﴿ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ، اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴾ (آیت:26)۔

(c) حضرت ھود ؑ نے بھی اپنی قوم (عاد) سے کہا تھا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ﴿ عبادت ﴾ کرو، تم لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی تمہارا ﴿ اِلٰہ ﴾ نہیں ہوسکتی۔

﴿ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ، مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ، اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴾ (آیت:50)

(d) حضرت صالح ؑ نے بھی اپنی قوم (ثمود) سے کہا تھا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ﴿ عبادت ﴾ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی تمہارا ﴿ اِلٰہ ﴾ نہیں ہوسکتی۔ www.KitaboSunnat.com

﴿ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا، قَالَ: يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ، مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ﴾ (آیت:61)

(e) حضرت شعیب ؑ نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ صرف اللہ ہی کی ﴿ عبادت ﴾ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی تمہارا ﴿ اِلٰہ ﴾ نہیں ہوسکتی۔ ﴿ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ﴾ (آیت:84)۔

2۔ سورت ھود میں ہلاکتِ اقوام اور ﴿ اِسْتِغْفَار ﴾ کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

انبیاء نے گناہ گار قوموں کو دعوتِ توبہ واستغفار دی اور بتایا کہ توبہ واستغفار کے نتیجے میں وہ ہلاکت سے بچ سکتے ہیں۔

(a) قریشِ مکہ کو ﴿ اِسْتِغْفَار ﴾ کی دعوت دی گئی اور توبہ واستغفار کے فوائد گنوائے گئے کہ انہیں وقتِ مقررہ تک متاعِ حسن سے نوازا جاسکتا ہے اور ہر انسان کے فضل کے مطابق اجر دیا جاسکتا ہے۔

﴿ وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ، يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ﴾ (آیت:3)۔

(b) حضرت نوح ؑ کے ﴿ استغفار ﴾ کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے دعا کی: ”اور اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا“۔ دعا کا یہ وہی انداز تھا ، جو حضرت آدم ؑ نے اختیار کیا تھا۔

﴿ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴾ (آیت:47)۔

(c) حضرت ھود ؑ نے اپنی مجرم ، متکبر، ظالم اور سرکش قوم (عاد) کو ﴿ استغفار ﴾ کی دعوت دی اور اس کے فوائد

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بتائے۔﴿توبہ و استغفار﴾ کے نتیجے میں بارشوں کی کثرت ہوتی ہے اور موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کیا جاتا ہے۔حضرت ھودؑ نے فرمایا۔

﴿وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ، وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ﴾ (آیت:52)۔

(d) حضرت صالحؑ نے بھی اپنی مشرک قوم (ثمود) کو اللہ تعالیٰ سے ﴿استغفار﴾ کی دعوت دی کہ وہ شرک چھوڑ کر خالص توحید اختیار کریں۔

وہ ﴿اللہ﴾ جو ﴿قَرِيْب﴾ بھی ہے اور ﴿مُّجِيْب﴾ بھی ،دعائیں سنتا ہے اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔فرمایا:

﴿فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ، اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ﴾ (آیت:61)۔

(e) حضرت شعیبؑ نے بھی اپنی بدچلن ،فاسق وفاجر قوم (مدین) کو اللہ تعالیٰ سے ﴿استغفار﴾ کی دعوت دی کہ وہ ناپ تول میں کمی نہ کریں ،لوگوں کو گھاٹا نہ دیں ،چوری ڈاکہ اور فساد فی الارض سے بچیں۔

وہ ﴿اللہ﴾ جو ﴿رَحِيْم﴾ بھی ہے اور ﴿وَدُوْد﴾ بھی ،محبت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔فرمایا: ﴿وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ، اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ﴾ (آیت:90)۔

3۔ ﴿شک و ریب﴾ میں مبتلا مشرکینِ مکہ کو خبردار کیا گیا کہ پچھلے انبیاء کی عذاب یافتہ قومیں بھی شک و ریب میں مبتلا تھیں۔

(a) حضرت صالحؑ کی دعوت کے سلسلے میں بھی، اُن کی قوم ثمود نے ﴿شک و ریب﴾ سے کام لیا۔

﴿قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ ، اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ، وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ﴾ (آیت:62)۔

(b) حضرت موسیٰؑ کی دعوت کے سلسلے میں بھی ،ان کی قوم نے ﴿شک و ریب﴾ سے کام لیا۔

﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ﴾ (آیت:110)۔

4۔ مشرکینِ مکہ نے رسول اللہ ﷺ پر ﴿افتراء کا الزام﴾ عائد کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔

چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو ساری مخلوق کی مدد لے کر ہی کیوں نہ ہو؟ اس طرح کی دس (10) سورتیں لا کر دکھاؤ۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(a) ﴿ اَمْ يَقُولُوْنَ افْتَرٰهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ (آیت:13)

(b) بالفرض میں نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے تو اس کا بوجھ مجھ پر ہے، لیکن تمہارے جرائم سے میں بری الذمہ ہوں۔

﴿ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴾ (آیت:35)۔

5۔ سورت ھود میں انسانوں کے ﴿بنیادی مذہبی حقوق﴾ (Freedom of Faith) کو تسلیم کیا گیا ہے۔

حضرت نوحؑ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اگرچہ کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح ہدایت ﴿بینۃ﴾ اور ہدایت کی رحمت آئی ہے، لیکن اگر تم اس کے بارے میں اندھے بننا چاہتے ہو تو ہم اس دعوت کو، تم پر زبردستی مسلط نہیں کر سکتے، جب کہ یہ تمہیں سخت ناگوار ہے۔

﴿ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ؟ ﴾ (آیت:28)۔

سورۃ ھود کا نظمِ جلی

سورۃ ھود آٹھ (8) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 24 : پہلا پیراگراف تمہید ہے، جس میں توحید عبادت اور استغفار کا مطالبہ ہے۔

قرآن حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے ہے، جس میں پہلے محکم (پختہ، ٹھوس) اور پھر اس کے بعد مفصل آیات ہیں۔

سب سے پہلے ﴿توحید عبادت﴾ کا مطالبہ ہے ﴿ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ﴾ اور پھر ﴿استغفار﴾ کا مطالبہ ہے۔

استغفار اور توبہ سے قوموں کو ایک وقت مقررہ تک مزید مہلت مل جاتی ہے، فضل میں اضافہ کیا جاتا ہے۔

﴿ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾۔ پھر یوم عذاب سے ڈرایا گیا۔

اللہ کے علم کی وضاحت کر کے اس کی خالقیت اور قدرت ثابت کی گئی اور بتایا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد آزمائشِ حسنِ عمل ہے۔ مشرکینِ مکہ جو ﴿منکرینِ آخرت﴾ بھی تھے، رسول کریم ﷺ کی اس بات کو ﴿سحر﴾ یعنی جادو قرار دیتے تھے کہ موت کے بعد ایک دن انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ (آیت:7)

﴿صابر﴾ اور ﴿غیر صابر﴾ لوگوں کے فرق کو واضح کیا گیا کہ یہ صابر لوگ دکھ اور سکھ دونوں گھڑیوں میں ہمیشہ ﴿شکر﴾ کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مشرکین کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر، قرآن کے بعض حصوں کو بیان کرنے سے رسول اعراض نہیں کر سکتے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

قریش کے اعتراضات: قریشِ مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپؐ کے ساتھ کوئی خزانہ، یا کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ آپؐ پر خود سے جھوٹ گھڑ لینے کا الزام عائد کیا گیا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس طرح کی دس (10) سورتیں تصنیف کر کے دکھاؤ، ورنہ پھر انہیں قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کر کے دعوتِ توحید کو قبول کر لینا چاہیے (آیت: 14)

اللہ کی سنت بیان کی گئی کہ وہ دنیا پرستوں کو دنیا عطا کر دیتا ہے، لیکن ان کے لیے آخرت میں آگ ہوگی۔ خدا کے راستوں سے روکنے والے اور خدا کے راستے کو ٹیڑھا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ کوئی ﴿ولی﴾ ان کی مدد نہیں کر سکتا، انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ (آیت: 20)

اہلِ ایمان اور اہلِ کفر کی مثال آنکھ والے اور اندھے، یا پھر سننے والے اور بہرے کی سی ہے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔

2- آیات 25 تا 49 : دوسرے پیراگراف میں، حضرت نوحؑ کی دعوت اور قومِ نوحؑ کی ہلاکت کا بیان ہے۔

حضرت نوحؑ پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے نبی ہوا کرتے تھے۔ ان کا زمانہ غالباً 3,500 قبل مسیح ہے۔ حضرت نوحؑ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ ان کی قوم کے مشرک ﴿ملاٗ﴾ لیڈروں نے اعتراض کیا کہ (a) آپ ہماری طرح کے انسان ہیں ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کر سکتے (b) آپ پر ایمان لانے والے ہماری قوم کے ﴿اَراذِل﴾ چھوٹے اور غریب لوگ ہیں (c) آپ کو ہم پر کوئی خاص فضیلت عطا نہیں کی گئی (d) آپ جھوٹے ہیں۔ حضرت نوحؑ انسان کی مذہبی آزادی (Freedom of Faith) کے قائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ناگواری کی حالت میں آپ لوگوں پر دعوتِ توحید کو زبردستی مسلط نہیں کریں گے، البتہ میں غریب مسلمانوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔

حضرت نوحؑ نے اپنے بارے میں وضاحت کردی کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ تو میرے پاس غیب کا علم ہے اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ حضرت نوحؑ کئی سو سالوں تک تبلیغ کرتے رہے۔ بالآخر لیڈروں نے کہا کہ عذاب لا کر دکھایئے ﴿ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ پھر حضرت نوحؑ کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ آج کے بعد کوئی آدمی مزید ایمان نہیں لائے گا۔ مشرک لیڈر کشتی کا مذاق اڑانے لگے، پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ کافروں کو غرق کر دیا گیا اور کشتی والے مسلمان بچا لیے گئے۔ حضرت نوحؑ کا بیٹا ایک مادہ پرست کافر تھا۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ﴿نعوذ باللہ﴾ اللہ تعالیٰ نہیں، بلکہ پہاڑ اسے پانی سے بچا سکتا ہے۔ ﴿ یَعْصِمُنِیْ مِنَ الْمَآءِ ﴾

حضرت نوحؑ کے قصے سے رسول اللہ ﷺ اور مشرکینِ مکہ واقف نہیں تھے۔ مشرکین کو قانونِ ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا اور رسول کریم ﷺ کو مخالفت کے اس ماحول میں صبر و استقامت کی ہدایت کی گئی اور تسلی دی گئی کہ بہترین عاقبت اور انجام صرف متقین ہی کے لیے ہے۔ ﴿ فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِیْنَ ﴾

3- آیات 50 تا 60 : تیسرے پیراگراف میں، حضرت ھودؑ کی دعوت اور قومِ عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔

قومِ نوحؑ کی ہلاکت کے تقریباً پانچ سو سال بعد، قومِ عاد کو جانشین بنایا گیا۔ یہ مشرک تھے۔ ان کے رسول حضرت ھودؑ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ حضرت ھودؑ نے انہیں شرک سے بچنے اور گناہوں پر ﴿توبہ و استغفار﴾ کی دعوت دی۔ استغفار کے فضائل بیان کیے گئے کہ اس سے بارشیں ہوں گی، موجودہ قوت میں مزید اضافہ کیا جائے گا، لیکن وہ اپنے ﴿آلِهَة﴾ یعنی خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت ھودؑ کو اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ انہوں نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم کو اٹھا سکتا ہے ﴿وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾۔ قوم عاد نے اپنے رب کی ناشکری کی، اس کی آیات کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی۔ یہ وہ قوم تھی، جو ہر ﴿جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ اسلام سے عناد رکھنے والے لیڈر کے احکامات کی پیروی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس قوم پر لعنت کی۔ ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت ھودؑ اور ان پر ایمان لانے والے نیک لوگوں کو بچا لیا۔

4-آیات 61 تا 68 : چوتھے پیراگراف میں، حضرت صالحؑ کی دعوت اور قومِ ثمود کی ہلاکت کا ذکر ہے۔

حضرت ھودؑ اور اہلِ ایمان عرب کے جنوبی علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے شمال میں آباد ہو گئے۔ آج کل یہ علاقہ ﴿مدائنِ صالحؑ﴾ کہلاتا ہے۔ ان کی نسل ﴿ثمود﴾ کہلائی، انہیں ﴿عادِ ثانی﴾ بھی کہتے ہیں۔ قومِ ھود کی ہلاکت کے تقریباً پانچ سو سال بعد، قومِ ثمود کی آزمائش کا وقت آ پہنچا۔

قومِ ثمود میں حضرت صالحؑ کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت صالحؑ نے بھی اپنی قوم کو ﴿توبہ و استغفار﴾ کی دعوت دی، لیکن یہ اپنے باپ دادا کے عقائد اور رسومات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے شک و ریب کا مظاہرہ کیا۔ آزمائش کے لیے اللہ نے ان کے پاس ایک اونٹنی بھیجی اور حکم دیا کہ اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا اور اس کو زمین پر کھانے سے نہ روکنا لیکن انہوں نے اسے مار ڈالا۔ اس قوم کو تین دن کی مہلت دی گئی، پھر ان کو ایک خوف ناک دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت صالحؑ اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔

5-آیات 69 تا 83 : پانچویں پیراگراف میں، حضرت لوطؑ کی دعوت اور قومِ لوطؑ کی ہلاکت کا بیان ہے۔

اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ نیک لوگوں کو بچا کر وقفے وقفے سے بدکاروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی اس کا قانون جزا و سزا (Law of Reward & Punishment) ہے۔ یہی دلیلِ قیامت اور دلیلِ جنت و دوزخ بھی ہے۔ اس کے فرشتے بھی کبھی جزا اور کبھی سزا کا موجب بن جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کے پاس آنے والے فرشتے انہیں بیٹے کی بشارت دینے کے بعد، ان کے بھتیجے حضرت لوطؑ کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیمؑ کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ وہ بہت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے ایک بھونا ہوا بچھڑا ان کی خدمت میں پیش کیا۔ کھانے سے انکار پر حضرت ابراہیمؑ کو احساس ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ ڈر گئے۔ فرشتوں نے تسلی دی اور انہیں بیٹے اسحٰقؑ اور پوتے یعقوبؑ کی بشارت دی۔ اس پر حضرت ابراہیمؑ کی بیوی نے حیرت کا اظہار کیا کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ جب کہ میں بوڑھی بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کے خاندان پر اللہ کی رحمت اور برکات ہیں۔ تعجب نہ کرو، ایسا ہی ہوگا۔ فرشتوں نے بتایا کہ ان کی اگلی منزل قومِ لوط کی طرف ہے، وہ ہلاک کی جائے گی۔ اس خبر پر حضرت ابراہیمؑ تکرار کرنے لگے، انہیں بتایا گیا کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اسے ٹالا نہیں جاسکتا۔ (آیت:76)

حضرت لوطؑ کے پاس فرشتے انسانی شکل میں پہنچے۔ یہ خبر سن کر ان کی قوم ان کے گھر کی طرف لپکی۔ انہیں عورتوں سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ وہ مردوں کے پیچھے دیوانے تھے۔ حضرت لوطؑ نے اللہ کا خوف دلایا۔ لڑکیوں سے شادی کی پیشکش کی اور کہا کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ لیکن قوم پاگل ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں حضرت لوطؑ نے فرمایا کہ کاش میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی؟ حضرت لوطؑ کو حکم دیا گیا کہ وہ اہلِ ایمان کو لے کر راتوں رات بستی سے نکل جائیں، کیونکہ صبح سے پہلے اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو بستی کو اوندھا کر دیا گیا اور ان پر مٹی کے پتھروں سے بارش کی گئی اور بالآخر ہلاک کر دیا گیا۔

﴿فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ﴾
(آیت:82)۔ یہ واقعہ غالباً 2,100 قبلِ مسیح کا ہے۔ قومِ لوطؑ بحرِ مردار (Dead sea) کے جنوب میں آباد تھی۔ ان سے ذرا قریب ہی جنوب میں حضرت شعیبؑ کی قومِ مدین اور تبوک میں اصحابُ الایکہ آباد تھے۔

6-آیات 84 تا 95 : چھٹے پیراگراف میں، حضرت شعیبؑ کی دعوت اور قومِ شعیبؑ کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔

حضرتِ شعیبؑ اصحابِ مدین اور اصحابُ الایکہ کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شعیبؑ نے بھی سب سے پہلے اپنے قوم کو ﴿توحید کی دعوت﴾ دی۔ انہیں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے روکا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یہ قوم رزقِ حرام کی خوگر تھی۔

قوم سے کہا گیا ﴿بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ تھوڑی، بہت حلال بچت، کثیر حرام سے بہتر ہوتی ہے۔ (آیت:86)

قومِ شعیبؑ سیکولر (Secular) ذہنیت کی حامل تھی۔ انہوں نے حضرت شعیبؑ سے کہا: آپ اپنی نمازوں سے کام رکھیے! ہمیں باپ دادا کے طریقہ پرستش سے منع نہ کیجیے۔ ان کا خیال تھا کہ مذہب اور اہلِ مذہب کا مالی اور اقتصادی امور میں کیا دخل ہوسکتا ہے؟ (آیت:87) ہم اپنی من مانی کریں گے۔

حضرت شعیبؑ نے بقدرِ توفیق واستطاعت اصلاحی کوششیں کیں ﴿وَمَا اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ انہوں نے بھی اپنی قوم کو ﴿توبہ اور استغفار﴾ کی دعوت دی۔ قومِ نوحؑ، قومِ ہودؑ اور قومِ صالحؑ کی ہلاکت کی تاریخ سے ڈرایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔ آپ ہماری برادری کے کمزور آدمی ہیں۔ اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنگسار کر دیتے۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حضرت شعیبؑ اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو بچالیا۔

7- آیات 96 تا 99 : ساتویں پیراگراف میں، حضرت موسیٰؑ کی دعوت اور آلِ فرعون کی ہلاکت کی تفصیل ہے۔

قوم شعیبؑ کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو فرعون اور اس کی فوجی حکومت کے ذمہ داروں ﴿ مَلَاۡ ﴾ کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ فرعون کے ظالمانہ احکام کی پیروی کیا کرتے تھے۔

فرعون اور اس کے ساتھیوں پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی اور قیامت کے دن بھی۔

8- آیات 100 تا 123: آٹھواں اور آخری پیراگراف اختتامیہ (Conclusion) ہے۔

اس آخری اور اختتامی حصے میں مختلف قوموں کی ہلاکت پر تبصرہ ہے۔ قریش کو عبرت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وقفے وقفے سے یکے بعد دیگرے قوم نوح (3,500 ق م)، قومِ عاد (3,000 ق م)، قومِ ثمود (2,500 ق م)، قومِ لوطؑ (2,100 ق م)، قوم شعیبؑ (1,400 ق م) اور قومِ فرعون (1,250 ق م) کی ہلاکت ہوئی۔ ﴿ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴾ اس کے بعد تخویفِ آخرت ہے۔ دوزخ کے عذاب اور جنت کی نعمتوں سے تذکیر کی گئی ہے۔

﴿ شقی ﴾ اور ﴿ سعید ﴾ برابر نہیں ہوسکتے۔ بدبختوں کے لیے دوزخ ہے اور خوش بختوں کے لیے جنت۔ مشرکینِ مکہ پر افسوس کیا گیا کہ وہ ان روشن دلیلوں کے باوجود، باپ دادا کے عقائد پر قائم ہیں اور شک وریب سے کام لے رہے ہیں۔

رسول ﷺ کو حکمِ الٰہی کے مطابق ثابت قدم رہنے اور کجی سے بچنے کی ہدایت دی گئی (آیت:112)۔

ظالم مشرکین کی طرف نہ جھکنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا اور صبر کی تلقین کی گئی۔

اللہ کی مغفرت کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ﴿ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ﴾ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے اصلاح پسند افراد کا ہر قوم میں ہونا ضروری ہے۔ (آیت:116)

ہلاکتِ اقوام کا اصول:

ہلاکت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی سنت بیان کی گئی کہ وہ اصلاحی قوتوں کی موجودگی میں کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴾ (آیت:117)۔ یہ دنیا ایک دارِ امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم جن وانس سے جہنم کو بھر کر رہے گا۔ رسول ﷺ کو تسلی اور کافروں کو دھمکی دی گئی کہ فریقین اپنے موقف پر اٹل ہیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ حق وباطل کا فیصلہ فرمائے گا۔ آخری آیت میں (کوئی کرے یا نہ کرے) رسول ﷺ کو ﴿ توحیدِ عبادت ﴾ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ اور ﴿ توکل ﴾ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

قرآن کی ﴿دعوتِ توحید﴾ قبول کرتے ہوئے، شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کرکے، اللہ کے حضور ﴿استغفار﴾ کرنے پر قوموں کو مزید مہلت مل جائے گی، ورنہ انھیں بھی پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کیا جاسکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART   **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ، ربط   نظمِ جلی

12- سُوْرَةُ يُوْسُف

آیات : 111 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 3



زمانۂ نزول اور پس منظر:

سورت ﴿یُوسف﴾، غالباً 12 نبوی میں ہجرت سے پہلے اور سورت ﴿ھُود﴾ کے بعد نازل ہوئی، جب رسول اللہ ﷺ کے خلاف مکے سے اِخراج یا مکے میں قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے اور قریشی قیادت برادرانِ یوسف کی طرح، اپنے ہی بھائیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہی تھی، جن کا جرم محض بت پرستی کا انکار اور توحید کا اقرار تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول اور پس منظر

سورت ﴿یُوسف﴾، غالباً 12 نبوی میں ہجرت سے پہلے اور سورت ﴿ھُود﴾ کے بعد نازل ہوئی، جب رسول اللہ ﷺ کے خلاف مکے سے اِخراج یا مکے میں قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے اور قریشی قیادت برادرانِ یوسف کی طرح، اپنے ہی بھائیوں پر ظلم وستم ڈھا رہی تھی، جن کا جرم محض بت پرستی کا انکار اور توحید کا اقرار تھا۔

سورۂ ھُود کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿ھُود﴾ میں قوموں کی تاریخ ہلاکت سے ﴿اِنذار﴾ کا پہلو غالب تھا۔ یہاں سورت ﴿یُوسف﴾ میں مشکل حالات کے بعد آسانیوں کی ﴿تبشیر﴾ کا پہلو غالب ہے۔ توحید حق اور شرک باطل ہے، حضرت یوسفؑ جیل میں بھی توحید کی دعوت عام کرتے رہے۔

2۔ اگلی سورت ﴿الرعد﴾ میں حق وباطل (توحید وشرک) کے فرق کو عقلی اور آفاقی دلائل سے مبرہن کیا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- برادرانِ یوسفؑ کے اعتراف گناہ اور احساسِ ندامت کے بعد، حضرت یعقوبؑ نے استغفار کیا۔

حضرت یوسفؑ کے ساتھ ان کے بھائیوں کے حسد اور ظلم کے باوجود، اللہ نے مختلف آزمائشوں سے گذارنے کے بعد بالآخر انہیں مصر کے اقتدار سے نوازا۔ تمام بھائی اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے والدین کے ساتھ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر منتقل ہو گئے۔ اس موقع پر برادرانِ یوسف اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمسار ہوئے اور ان کے لیے حضرت یعقوبؑ نے مغفرت کی دعا کی۔

﴿قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّیْ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ﴾ (آیت:98)۔

حاصل کلام یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو احساسِ گناہ اور احساسِ ندامت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے ضرور نوازتا ہے۔

2- سورت یوسف میں ﴿قرآن﴾ کا تعارف بھی ملتا ہے۔

(a) قرآن مجید کو غور وفکر کے لیے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، تاکہ پہلے اہلِ عرب کو مسلمان کیا جائے اور پھر عربوں کے ذریعے بقیہ دنیا کو۔

﴿اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾ (آیت:2)۔

(b) رسول اللہ ﷺ کو قرآنی وحی کے ذریعے حضرت یوسفؑ کی تفصیلات بتائی گئیں۔ بنی اسرائیل کے اس قصے سے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اہل عرب ناواقف تھے۔

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ، وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ﴾ (آیت:3)۔

(c) حضرت یوسفؑ کے قصے سے مشرکین مکہ کو عبرت کا سامان فراہم کیا گیا کہ ان کے ﴿اولو الالباب﴾ اور سوچنے والے افراد محمد ﷺ پر نازل کیے جانے والے قرآن کو ہدایت اور رحمت تسلیم کر کے ایمان لے آئیں، قرآن کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے۔

﴿لَقَدْ كَانَ فِیْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ، مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى ، وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِیْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَیْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ﴾ (آیت:111)۔

3- سورت یوسف میں دعوت توحید بھی ہے اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت بھی ہے۔

(a) حضرت یوسفؑ نے جیل کے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ ایک ایسی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں، جو توحید اور آخرت دونوں کا انکار کرتی ہے۔

﴿قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ، ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِیْ رَبِّیْ ، اِنِّیْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ﴾ (آیت:37)۔

(b) حضرت یوسفؑ نے عقلی دلائل سے کام لیتے ہوئے جیل کے دونوں ساتھیوں کو غور و فکر کرنے اور توحید کی دعوت کو قبول کر لینے کا مشورہ دیا۔ کیا متفرق خدا بہتر ہو سکتے ہیں، یا پھر ایک خدائے غالب و قہار؟

﴿يٰصَاحِبَیِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ ؟ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ؟﴾ (آیت:39)۔

(c) حضرت یوسفؑ نے شرک کی تردید کی۔ انہیں آباء پرستی سے روکا اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ صرف ایک خدائے واحد ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔

﴿مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ ، مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ، اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ، اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ، ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ (آیت:40)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4- ﴿ اُولُوا الالباب ﴾ یعنی عقل مندوں پر واضح کیا گیا کہ حضرت یوسفؑ کے سچے قصے میں عبرت ہے۔ حق کو بالآخر فتح حاصل ہو کر رہتی ہے۔

﴿لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ﴾ (آیت:111)۔

5- سورت یوسفؑ میں حضرت یعقوبؑ کی زبان سے دو مرتبہ ﴿صبر جمیل﴾ کے الفاظ کے استعمال کا ذکر ہے۔

(a) پہلے بیٹے یوسفؑ کی ہلاکت کی غلط خبر سننے کے بعد بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے نفس کی گھڑی ہوئی بات ہے، خوبصورت صبر ہی مناسب ہے۔ اُنہوں نے اللہ ہی کو مستعان بنالیا، اُسی سے فریاد کی۔

﴿وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ، قَالَ: بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ، فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ﴾ (آیت:18)۔

(b) دوسرے بیٹے بن یمین کے مصر میں روک لیے جانے کی خبر سن کر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ خوبصورت صبر ہی مناسب ہے۔ اُنہیں اللہ پر کامل ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اُنہیں ایک نہ ایک دن اُنہیں تمام بیٹوں سے ملا دے گا۔

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ، فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ، عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا

اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴾ (آیت:83)۔

6- اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسفؑ کو ﴿تاویل احادیث﴾ یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔

(a) حضرت یوسفؑ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا، یہ ایک تدبیر تھی، تاکہ انہیں مصر کا اقتدار مل جائے۔

﴿وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ﴾ (آیت:21)

(b) جیل میں حضرت یوسفؑ نے اپنے دو ساتھیوں کے خواب کی تعبیر ان کا کھانا آنے سے پہلے بتادی۔

﴿قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا﴾ (آیت:37)

(c) جب حضرت یوسفؑ کے والدین اور ان کے تمام بھائی مصر میں اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد کو یاد دلایا کہ یہ میرے کئی سال پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔

﴿وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ، قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا﴾ (آیت:100)

(d) حضرت یوسفؑ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے کہ اللہ نے انہیں بادشاہت سے نوازا، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ چنانچہ وہ ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے کہ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، بندگی کی حالت میں مجھے موت

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔

﴿رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ﴾ (آیت:101)

7۔ قریش کو دعوت اسلام:

اللہ تعالی نے رسول کریم ﷺ کو حکم دیا کہ وہ قریشِ مکہ کو صاف بتادیں کہ اللہ شرک سے پاک ہے، ان کا سلوک بھی برادرانِ یوسفؑ کی طرح ہے۔ حضرت یوسفؑ کی طرح رسول اللہ ﷺ اور ان پر ایمان لانے والے صحابہؓ بھی، اللہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں۔

﴿قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۚ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (آیت:108)۔

سورۃ یُوسف کا نظمِ جلی

سورۃ یوسف تین (3) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 2 : پہلے پیراگراف میں، تمہید (Introduction)۔نزول قرآن کا مقصد تعقّل ہے:

ابتدائی دو آیات تمہیدی ہیں، جن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عربی زبان میں نازل کیے گئے قرآن پر غور وفکر کیا جائے اور سورۃ یوسفؑ میں بیان کردہ سچے قصے سے عبرت حاصل کی جائے، جس قصے کو قرآن نے ﴿احسن القصص﴾ کا نام دیا ہے۔

2- آیات 3 تا 101 : دوسرے پیراگراف میں حضرت یوسفؑ کا قصہ بیان کیا گیا ہے:

اس پیراگراف کے دس (10) ذیلی پیراگراف ہیں۔

(1) پہلے ذیلی پیراگراف (آیات 3 تا 20) میں حضرت یوسفؑ کے خواب اور ان کے بھائیوں کی سازش کا ذکر ہے۔

حضرت یوسفؑ نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور گیارہ ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ والد نے نصیحت کی کہ اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ حضرت یوسفؑ کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسفؑ کو بہانے سے جنگل لے جاکر ایک اندھے کنوئیں میں پھینک دیا اور والد کے پاس ایک خون لگی قمیص لے کر آئے اور کہا کہ یوسفؑ کو بھیڑیے نے کھالیا ہے۔ حضرت یعقوبؑ نے صبرِ جمیل کا مظاہرہ کیا ایک تجارتی قافلہ حضرت یوسفؑ کو فلسطین سے مصر لے گیا اور وہاں انہیں فروخت کردیا۔

(2) دوسرے ذیلی پیراگراف (آیات 21 تا 35) میں سرزمینِ مصر پر حضرت یوسفؑ کی آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔

حضرت یوسفؑ مصر پہنچے۔ اُنہیں ایک امیر آدمی نے خرید لیا اور گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ ان کے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرت یوسفؑ بہت خوبصورت تھے۔ امیر کی بیوی ان کی محبت میں گرفتار ہوگئی۔ چنانچہ اس نے دروازہ بند کر کے انہیں گناہ پر اکسایا، پھر پکڑے جانے پر الٹا حضرت یوسفؑ پر الزام لگا دیا، لیکن عورت ہی کے خاندان سے ایک آدمی نے عورت کو ملامت کی۔ عورت نے اپنی سہیلیوں کو بلا کر حضرت یوسفؑ کو دکھایا۔ عورتیں انہیں دیکھتی ہی رہ گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔

بالآخر عورت نے حضرت یوسفؑ کو دھمکی دی کہ وہ اس کی بات مانیں، ورنہ وہ انہیں جیل بھیج دے گی۔ حضرت یوسفؑ بہت ثابت قدم رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قید منظور ہے لیکن وہ منظور نہیں جس کی طرف یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ حضرت یوسفؑ کو اپنی بے گناہی کے باوجود جیل جانا پڑا۔

(3) <u>تیسرے ذیلی پیراگراف (آیات 36 تا 42) میں حضرت یوسفؑ کی جیل میں اشاعتِ توحید اور دعوت کا ذکر ہے۔</u>

جیل میں حضرت یوسفؑ کو دو اور قیدیوں کی رفاقت نصیب ہوئی۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور حضرت یوسفؑ سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسفؑ نے انہیں عقیدۂ توحید کی دعوت دی اور خواب کی تعبیر بیان کی۔ ان میں سے ایک آدمی جیل سے چھوٹ گیا۔ اس سے حضرت یوسفؑ نے کہا کہ تم میرا ذکر بادشاہ سے کرنا، جس کے پاس تم جا کر ملازمت کرو گے۔

(4) <u>چوتھے ذیلی پیراگراف (آیات 43 تا 57) میں بادشاہ مصر کے خواب اور خزائن مصر پر حضرت یوسفؑ جیسی صالح قیادت کی تعیناتی کا بیان ہے۔</u>

بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اہل دربار سے تعبیر پوچھی۔ اس وقت ملازم کو یاد آیا کہ خوابوں کی بہترین تعبیر تو حضرت یوسفؑ بتا سکتے ہیں، جو قید خانے میں ہیں۔ حضرت یوسفؑ نے تعبیر بتائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنا معاون بنا لے۔ حضرت یوسفؑ نے جیل سے اس وقت تک نکلنے سے انکار کر دیا، جب تک ان پر لگائے گئے جھوٹے الزام سے براءت نہیں ہو جاتی۔ عورت نے اپنی غلطی اور حضرت یوسفؑ کی بے گناہی کا اقرار کر لیا۔ اس طرح حضرت یوسفؑ جیل سے چھوٹ کر مصر کے حکمران بن گئے۔

(5) <u>پانچویں ذیلی پیراگراف (آیات 58 تا 68) میں برادرانِ یوسفؑ کی مصر میں پہلی آمد کا ذکر اور حضرت یوسفؑ کا بن یمین کو فلسطین سے مصر لے آنے کا مطالبہ ہے۔</u>

فلسطین میں قحط پڑا۔ برادرانِ یوسف پہلی مرتبہ مصر آئے۔ بادشاہ سے غلہ مانگا۔ حضرت یوسفؑ نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسفؑ نے ان کے ساتھ احسان کیا اور کہا اگلی دفعہ اپنے ساتھ اپنے بھائی بن یمین کو بھی لے آنا۔ وہ فلسطین پہنچے۔ والد حضرت یعقوبؑ نے دوسرے بیٹے بن یمین کو بھیجنے میں پس و پیش کیا، لیکن جب انہوں نے پختہ قسم کھائی تو بن یمین کو مصر روانہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔

(6) <u>چھٹے ذیلی پیراگراف (آیات 69 تا 79) میں برادرانِ یوسفؑ کی مصر میں دوسری آمد اور بن یمین کو روکنے کے</u>

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لیے الٰہی تدبیر کا بیان ہے۔

برادرانِ یوسف، بن یمین کو لے کر دوسری مرتبہ مصر پہنچے۔ایک تدبیر کے ذریعے حضرت یوسفؑ نے اپنے سگے بھائی بن یمین کو روک لیا۔

(7) ساتویں ذیلی پیراگراف (آیات 80 تا 87) میں بن یمین کو روک لیے جانے پر، بڑے بھائی کی غیرت اور حضرت یعقوبؑ کے صبرِ جمیل کا تذکرہ ہے۔

بن یمین کے روک لیے جانے پر بھائیوں نے باہمی مشاورت کی۔ پھر یہ فلسطین واپس پہنچے۔حضرت یعقوبؑ سے اس کا ذکر کیا۔دوسرے بیٹے سے محرومی کے بعد بھی حضرت یعقوبؑ نے صبرِ جمیل کا مظاہرہ کیا۔انہیں حضرت یوسفؑ سے بہت محبت تھی، لیکن اللہ تعالی پر کامل توکل کیا کرتے تھے۔ بیٹوں کو حکم دیا کہ مصر جا کر انہیں تلاش کریں۔

(8) آٹھویں ذیلی پیراگراف (آیات 88 تا 92) میں برادرانِ یوسفؑ کی سرزمین مصر میں تیسری آمد، اوران کے اعتراف گناہ کا تذکرہ ہے۔

بردرانِ یوسف تیسری مرتبہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسفؑ سے احسان کے طالب ہوئے۔اس مرتبہ حضرت یوسفؑ نے حقیقت بتادی اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ بھائیوں نے معافی مانگ لی۔

(9) نویں ذیلی پیراگراف (آیات 93 تا 98) میں حضرت یوسفؑ کی قمیض کے معجزے اور حضرت یعقوبؑ کے استغفار کا بیان ہے۔

حضرت یوسفؑ نے اپنی قمیص بھائیوں کو دی کہ اسے والد کے چہرے پر ڈالا جائے، معجزانہ طور پر ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ قافلہ مصر سے فلسطین کی طرف روانہ ہوتے ہی ادھر فلسطین میں حضرت یعقوب کہنے لگے کہ مجھے یوسفؑ کی خوشبو آرہی ہے۔قمیص والد کے چہرے پر ڈالی گئی اوران کی بینائی لوٹ آئی۔

(10) دسویں ذیلی پیراگراف (آیات 99 تا 101) میں برادرانِ یوسفؑ کی والدین کے ساتھ بغرضِ ہجرت مصر میں چوتھی مرتبہ آمد کا بیان ہے اور حضرت یوسفؑ کے شکر کا تذکرہ ہے۔

برادرانِ یوسفؑ نے اپنے والد سے معافی مانگی کہ انہوں نے حضرت یوسفؑ کو ایک خشک کنوئیں میں پھینک دیا تھا۔والد نے ان سب کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کی۔ پھر تمام بھائی اپنے والد، اپنی والدہ اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مستقل ہجرت کی غرض سے مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسفؑ نے والد، والدہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھالیا۔ بھائی مطیع وفرمان ہو گئے۔اس موقع پر حضرت یوسفؑ نے کہا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، جو میں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

اس موقع پر حضرت یوسفؑ نے اللہ تعالی کا شکرادا کرتے ہوئے دعا کی کہ اُسی نے انہیں بادشاہت سے نوازا ہے، خوابوں کی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت میں ان کا ولی اور سرپرست ہے۔ مجھے بندگی کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔

3- آیات 102 تا 111: تیسرا اور آخری پیراگراف اختتامیہ (Conclusion) ہے:

مشرکینِ مکہ اور اقوامِ عالم سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ حضرت یوسفؑ کے قصے سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ قریش کو ناگہانی عذاب کی دھمکی دی گئی۔

مشرکینِ مکہ کا رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ کے ساتھ سلوک بالکل اُسی طرح تھا، جس طرح برادرانِ یوسفؑ کا حضرت یوسفؑ کے ساتھ۔ آپ ﷺ کو بھی شعب ابی طالب میں تین سال کے لیے محصور کر دیا گیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کو ہدایت کی گئی کہ وہ بھی حضرت یوسفؑ کی طرح دعوتِ توحید کا کام ﴿ علی بصیرہ ﴾ جاری رکھیں۔

مشرکین پر یہ بات واضح کی گئی کہ ماضی کے تمام پیغمبر بھی انسان ہی ہوئے ہیں، اس لیے انھیں محمد ﷺ کو انسان ہونے کے باوجود رسول تسلیم کر لینا چاہیے، اور غور و فکر سے کام لے کر ﴿ اولو االالباب ﴾ یعنی عقل مند بن کر قرآن پر ایمان لانا چاہیے جو اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

مرکزی مضمون

رسول اللہ ﷺ کو فتح مکہ اور کامل اقتدار و غلبۂ اسلام کی بشارت۔ قریشِ مکہ، برادرانِ یوسفؑ کی طرح، ایک دن رسول اللہ ﷺ کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ عقل مندوں کو تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی ﴿ دعوت اِلی اللہِ علیٰ بَصِیْرَۃ ﴾ کو قبول کر لینا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

13- سُوْرَۃُ الرَّعْد

آیات : 43 ...... مَکِّیَّۃ" ...... پیراگراف : 3



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الرَّعد﴾ رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے آخری دور میں، غالباً سورۃ ﴿یوسف﴾ کے بعد، 12 نبوی میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ ﷺ کے خلاف بڑی سخت چالیں چلی جا رہی تھیں۔ ﴿مَکر﴾ سے کام لیا جا رہا تھا (آیات 33،42)۔ اور مشرکینِ مکہ اپنے شرک (آیت:33)، انکارِ رسالت (آیت:43) اور انکارِ آخرت (آیت 2،5) کے عقیدے پر سختی سے عامل تھے۔ حق و باطل کی کشمکش عروج پر تھی۔ بعض علماء نے اسے مدنی سورت قرار دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ خالصۃً ایک مکی سورت ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خصوصیات

سورت ﴿ الــرّعد ﴾ اپنے مخصوص الفاظ، فواصل (قافیوں)، ایجاز اور آفاق وانفس کے محکم دلائل کے لحاظ سے منفرد لب ولہجہ رکھنے والی مکی سورت ہے۔اس اعتبار سے یہ سورت ﴿ق﴾ سے مشابہت رکھتی ہے۔ بلاغت، جامعیت، منفرد اسلوب کے اعتبار سے یہ ایک نہایت پرتاثیر سورت ہے۔

سورۃ ﴿الرّعد﴾ کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿ یــوسف ﴾ میں حضرت یوسفؑ کے ﴿حق﴾ پر ہونے پر اور اُن کے مخالفین کے ﴿باطل﴾ پر ہونے کا قصہ تھا۔

یہاں سورت ﴿ الــرّعد ﴾ میں حق وباطل کے فرق کو قصے کے بجائے، عقلی اور آفاقی دلائل سے مبرہن کیا گیا ہے۔ توحید حق ہے اور شرک باطل۔

2۔ پچھلی سورت ﴿ یوسف ﴾ کے آخر میں رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو ﴿ دعوت الی اللّٰہ علیٰ بصیرۃ ﴾ کہا گیا تھا۔

یہاں سورت ﴿ الــرّعــد ﴾ میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں مضامین کے دلائل کی بصیرت ، نہایت موثر انداز میں نمایاں ہوگئی ہے۔

3۔ اگلی سورت ﴿ ابراہیم ﴾ میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ﴿ شکر ﴾ کے نتیجے ہی میں توحید کے فطری جذبات پھوٹتے ہیں۔اس سورت میں بھی اور اگلی سورت میں ﴿اولــوا الالــبــاب ﴾ یعنی عقل مندوں کا ذکر ہے، جو اہلِ توحید ہی ہوسکتے ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ سورۃ الرعد میں مشرکینِ مکہ پر ﴿ توحیدِ ربوبیت ﴾ کو واضح کر کے ﴿ توحیدِ الوہیت ﴾ اور ﴿ ایمان بالآخرہ ﴾ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

(a) مشرکین کو بتایا گیا کہ اللہ ہی نے آسمانوں کو بلند کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، وہی مدبّر ہے، لہٰذا اپنے رب سے ﴿ملاقات پر یقین﴾ رکھنا چاہیے۔

﴿ اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ، ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ، یُدَبِّرُ الْاَمْرَ ، یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ﴾ (آیت:2)۔

(b) مشرکین کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو پھیلا کر اس میں پہاڑ اور دریا رکھ دیے، اسی نے ہر قسم کے پھل پیدا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کیے، وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، لہذا عقل سے کام لے کر اس کی ربوبیت اور طاقت کو تسلیم کر کے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (آیت:3)

(c) مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پانی سے سیراب کر کے ایسے پھل اگاتا ہے، جن کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، لہذا ﴿ عقل مندوں ﴾ کو اس کی ربوبیت، قدرت، حکمت اور کمالات کو تسلیم کر کے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔

﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ، يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (آیت:4)۔

(d) مشرکین سے سوال کیا گیا کہ آسمانوں اور زمین کے نظام کا چلانے والا ﴿ ربّ ﴾ کون ہے؟ کیا ﴿ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ﴾ نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں؟ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرے اور اجالا یکساں ہو سکتا ہے؟ ان تمام عقلی دلیلوں کے باوجود کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ ﴿ شریک ﴾ ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ کیا ان مزعومہ شریکوں نے کوئی چیز ﴿ تخلیق ﴾ کی ہے کہ انہیں شک لاحق ہو گیا ہے؟ غور وفکر پر مجبور کرنے والے ان سوالات کے بعد رسول کریم ﷺ سے کہا گیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا ﴿ خالق ﴾ ہے اور وہ اکیلا ہی سب پر غالب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت، خالقیت اور اختیار ثابت کر کے ﴿ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ﴾ کی بے بسی ثابت کی گئی ہے اور شرک کا ابطال کر کے توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ قُلِ اللّٰهُ ، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ؟ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؟ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (آیت:16)۔

2۔ سورۃ الرعد میں مشرکینِ مکہ پر ﴿ توحید قدرت واختیار ﴾ کو واضح کر کے، ﴿ توحید الوہیت ﴾ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

(a) مشرکین کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی برق وباراں کا ذمہ دار ہے۔ وہی کائنات پر پوری گرفت رکھتا ہے۔ صاحبِ اختیار ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴾ (آیت:12)

(b) مشرکین کو بتایا گیا کہ نہ صرف فرشتے بلکہ بجلیوں کی کڑک بھی، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرتی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہے۔ وہ صاحبِ اختیار ہے۔ زبردست قوت والا ہے، عین اس وقت جب وہ اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں، ان پر بجلیاں برسا دیتا ہے۔

﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ (آیت:13)۔

(c) مشرکین کو بتایا گیا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی بھی اللہ تعالی کے اختیار میں ہے، انہیں دنیا کی زندگی پر اترانا نہیں چاہیے۔

﴿ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ، وَفَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴾ (آیت:26)۔

3۔ سورۃ الرعد میں مشرکینِ مکہ پر ﴿توحیدِ علم﴾ کو واضح کر کے ﴿توحیدِ دعا﴾ اور ﴿توحیدِ عبادت﴾ کا مطالبہ کیا گیا ہے

(a) مشرکین پر واضح کیا گیا کہ اللہ کو پکارنا اور اللہ سے دعا کرنا ہی برحق ہے۔ ﴿مِن دُونِ اللّٰهِ﴾ دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے، ان کو پکارنا پانی کو پکارنے کے مترادف ہے اور پانی تو چل کر منہ میں آنے سے رہا۔ ﴿کافروں کی دعائیں﴾ صدا بصحرا ہوتی ہیں۔

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِينَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴾ (آیت:14)

(b) مشرکین پر واضح کیا گیا کہ ہر حاملہ کے حمل میں کمی اور زیادتی کا ﴿علم﴾ بھی اللہ تعالی کے پاس ہے، اس کے نزدیک ہر چیز نپی تلی ہے۔

﴿ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ (آیت:8)۔

(c) مشرکین پر واضح کیا گیا کہ اللہ تعالی چھپی ہوئی اور ظاہر تمام چیزوں کا جاننے والی بلند مرتبہ عظیم ہستی ہے۔

﴿ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ (آیت:9)۔

(d) ﴿توحیدِ علم﴾ کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ تعالی کے لیے انسان کا زور سے پکارنا یا آہستہ پکارنا مساوی حیثیت رکھتا ہے، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے نزدیک دن کی روشنی میں نقل و حرکت کرنے والا اور رات کے اندھیرے میں چھپنے والا برابر ہے (آیت:10)

﴿ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾

4۔ سورۃ الرعد میں مشرکینِ مکہ پر ﴿پہلی فردِ جرم﴾ یہ عائد کی گئی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ﴿شریک﴾ ٹھہرا لیے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ﴾ (آیات:16اور33)

5۔ سورۃ الرعد میں مشرکینِ مکہ پر ﴿دوسری فردِ جرم﴾ یہ عائد کی گئی کہ وہ ﴿رسالتِ محمدی ﷺ کے منکر﴾ ہیں۔

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (آیت:43)۔''کافر کہتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔انہیں جواب دیجیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور ان لوگوں کی گواہی بھی، جن کے پاس کتاب کا علم ہے'' (جو عام آدمی اور رسول کا فرق بتا سکتے ہیں)۔

6۔ سورۃ الرعد میں مشرکینِ مکہ پر ﴿تیسری فردِ جرم﴾ یہ عائد کی گئی کہ وہ ﴿منکرِ آخرت﴾ ہیں۔

(a) مشرکین کا یہ اعتراض بھی عجیب ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ مٹی ہو جانے کے بعد ہم از سرِ نو کس طرح پیدا کیے جائیں گے؟ ان کی گردنوں میں آباء پرستی کے پھندے ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے منکر ہیں۔انسانوں کا رب دوسری زندگی پر قادر ہے۔

﴿ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (آیت:5)۔

(b) مشرکین مکہ کے سامنے دلیلیں رکھ کر مطالبہ کیا گیا ہے کہ اب شاید وہ ﴿ لِقَاءِ ﴾ یعنی ﴿ملاقاتِ رب﴾ پر یقین کرلیں گے۔

﴿ اللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ (آیت:2)۔

7۔ سورۃ الرعد میں ﴿ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ﴾ یعنی توحید و شرک کے فرق کو نمایاں کیا گیا۔

(a) مشرکین کو ایک تمثیل سے سمجھایا گیا کہ قرآنی فیضان ہر ایک کے لیے عام ہے۔یہ بارش کی طرح ہے، ہر وادی اپنے ظرف کے مطابق اسے قبول کرتی ہے۔جھاگ اڑ جاتا ہے، فائدہ بخش معدنیات پانی میں حل ہو کر زمین کو زرخیز بنا دیتی ہیں۔شرک ﴿باطل﴾ ہے، اڑ جائے گا اور توحید کی فائدہ بخش حقانی دعوت انسانی دلوں کے اندر جڑ پکڑ لے گی۔

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

الْاَرْضِ ، كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ﴾ (آیت:17)۔

(b) مشرکین سے کہا گیا کہ وہ اندھے اور بے وقوف ہیں، اس لیے اللہ کی طرف نازل کیے گئے ﴿برحق﴾ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ قرآن کی نصیحت کو آنکھ رکھنے والے اہلِ عقل ﴿اُولُوا الالباب﴾ ہی قبول کر سکتے ہیں۔

﴿اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى، اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾ (آیت:19)۔

(c) توحید دعا کو ﴿حق﴾ اور شرک فی الدعا کو ﴿باطل﴾ قرار دیا گیا۔ ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ کی حقیقت واضح کی گئی کہ وہ فریاد رسی نہیں کر سکتے۔

﴿لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ﴾ (آیت:14)

8۔ سورۃ الرعد میں مشرکینِ مکہ پر یہ فردِ جرم بھی عائد کی گئی کہ وہ مکروفریب اور سازشوں سے کام لے رہے ہیں۔

(a) مشرکین پر واضح کیا گیا کہ ان کافرین کی سازشیں ﴿مَكْرُهُمْ﴾ اور توحید کے راستے سے ان کا رکنا اور روکنا ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے۔

﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ﴾ (آیت:33)۔

(b) مشرکین پر واضح کیا گیا کہ اسلام کے خلاف ان کا ﴿مَكَرَ﴾ اور سازشیں نئی نہیں، پچھلی قوموں کے کافر بھی مکروفریب سے کام لیتے رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی سازشوں کے مقابلے میں اللہ کی چالیں ﴿الْمَكْرُ﴾ بڑی گہری ہوتی ہیں۔

﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا﴾ (آیت:42)۔

سورۃ الرَّعد کا نظمِ جلی

سورۃ ﴿الرَّعد﴾ تین (3) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 18: پہلے پیراگراف میں، قرآن کی دعوتِ توحید، محمد ﷺ کی رسالت اور آخرت کی زندگی کے برحق ہونے کو ثابت کیا گیا ہے۔

- رسول اللہ ﷺ پر نازل کی جانے والی وحی ﴿برحق﴾ ہے۔ ﴿وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ﴾ آفاقی دلائل توحید سے ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالی مدبر ہے، جو تمام اوامر کی تدبیر کرتا ہے۔ اور وہی آخرت کو برپا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

- منکرینِ قیامت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان دلائل کی روشنی میں اپنے ﴿رب سے ملاقات﴾ کے عقیدے پر ایمان لے آئیں۔ ﴿لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ﴾ (آیت:2)۔
- آفاقی دلائلِ ربوبیت پیش کر کے ﴿لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾ اور ﴿لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ﴾ کے الفاظ کے ذریعے، غور وفکر اور عقل سے کام لینے کا مشورہ دیا گیا۔
- منکرِ آخرت مشرکین کا استدلال تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر نئے سرے سے کیسے پیدا کیے جاسکتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے پالنے والے رب کی طاقت کا انکار کیا ہے، کیونکہ ان کی گردنوں میں آباء پرستی اور تقلید کے پھندے ہیں۔ ﴿ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ، اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ﴾ (آیت:5)

حسّی معجزات کے مطالبے پر انہیں بتایا گیا کہ ان گستاخیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ﴿ذُوْمَغْفِرَةٍ﴾ ہے، لیکن وہ ﴿شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ بھی ہے۔

- منصبِ رسالت کی وضاحت کی گئی کہ رسول اللہ ﷺ کا کام معجزات دکھانا نہیں ہے۔ وہ تو ایک ﴿مُنْذِر﴾ اور ﴿هَادِی﴾ ہیں۔ ﴿اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (آیت:7)
- توحیدِ علم کی دلیلیں: پیش کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مادہ کے رحم کی کمی بیشی کا علم رکھتا ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز نپی تلی ہے۔ وہ عالمِ غیب وشہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زور سے پکارنا اور آہستہ پکارنا برابر ہے۔ وہ ہر صورت جان لیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں چھپنے والا اور دن کی روشنی میں چلنے والا اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔

﴿مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ (آیت:10)

- قوموں کے عروج وزوال کا ضابطہ: بتایا گیا کہ جو قوم اپنے حالات درست کرنا نہیں چاہتی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات نہیں بدلتا ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ﴾ (آیت:11)
- شرک فی الدعاء: کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ صرف اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے

﴿لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ (آیت:14)

توحید کی عقلی دلیل پیش کر کے ثابت کیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہوسکتے۔ مشرکین سے یہ چبھتا ہوا سوال کیا گیا کہ کیا ﴿شرکاء﴾ یعنی دیگر خداؤں نے اللہ کی طرح کوئی شے تخلیق کی ہے کہ انہیں اشتباہ ہو گیا ہے۔

﴿اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾ (آیت:16)۔

- حق اور باطل: یعنی توحید اور شرک کی وضاحت کے لیے ایک خوب صورت تمثیل پیش کی گئی کہ شرک کا جھاگ اڑ جاتا ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند عقیدۂ توحید دل کی زمین میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۥ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴾ (آیت:17)

- ﴿حق﴾ کو قبول کرنے والوں کے لیے جنت اور ﴿باطل﴾ کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کی بشارت دی گئی۔

2- آیات 19 تا 29: دوسرے پیراگراف میں، عقل مند ﴿اہلِ توحید﴾ اور بے وقوف ﴿اہلِ شرک﴾ کے درمیان موازنہ ہے۔

مومنین، اہلِ حق، اہلِ توحید اور عقل مند ﴿ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴾ ہوتے ہیں۔ صاحبِ علم اور صاحبِ بصیرت ہوتے ہیں۔

اس کے برخلاف کافرین اہلِ باطل، اہلِ شرک اور بے وقوف ہوتے ہیں۔ علم سے بے بہرا اور اندھے ہوتے ہیں۔

- مومنین کی صفات: (a) مومنین اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں (b) عہد شکنی اور میثاق شکنی کے جرم کے مرتکب نہیں ہوتے۔ ﴿ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴾ (آیت:20)

(c) صلہ رحمی کرتے ہیں۔ (d) پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ (e) آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴾ (f) صابر ہوتے ہیں۔ (g) محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلب گار ہوتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ﴾

(h) نماز قائم کرتے ہیں۔ (i) فیاض ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپا کر اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔

﴿ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً ﴾

(j) برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔

﴿ وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (آیت:23)

- کافروں کی صفات: اہلِ توحید کی دس (10) صفات کا تذکرے کے بعد دوزخ اور لعنت کے مستحق افراد کی سات (7) صفات گنوائی گئیں۔

(1) میثاق کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ﴾

(2) صلہ رحمی کے بجائے، قطع رحمی سے کام لیتے ہیں۔ ﴿ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ ﴾

(3) زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانا ہے۔

﴿ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴾ (آیت:25)

(4) دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں، جب کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی متاعِ قلیل ہے۔

﴿ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴾ (آیت:26)

(5) حسی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ (6) اللہ کی طرف انابت اختیار نہیں کرتے، اس لیے ہدایت سے محروم

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

رہتے ہیں۔(7) اللہ کو یاد نہیں کرتے۔

- اس کے برخلاف عقل مند اہلِ ایمان کی مزید دو(2) صفات بیان کی گئیں۔

(11) اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سکونِ قلب پاتے ہیں۔﴿ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾
اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔(12) نیک عمل کرتے ہیں۔ ان کا انجام اچھا ہوگا۔

3- آیات 30 تا 43 : تیسرے پیراگراف میں، مخالفت، انکار اور سازشوں کے ماحول میں رسول اللہ ﷺ کو دعوت وتبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

- رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ پچھلے رسولوں کی طرح آپ پر بھی وحی کی گئی ہے، پچھلی قوموں نے بھی رحمٰن کا انکار کیا لیکن آپ توحید، توکل اور اس کی طرف لوٹنے کا اعلان کیجیے۔

﴿كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ﴾ (آیت:30)

- مشرک کافروں کی ضد اور ہٹ دھرمی کا نقشہ کھینچا گیا کہ اگر ایسا قرآن نازل کیا جاتا، جس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا جس سے زمین پاش پاش ہو جاتی، یا ایسا قرآن نازل کیا جاتا، جس کی وجہ سے مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔﴿وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى﴾ (آیت:31)

اہلِ ایمان کامیاب ہوں گے اور اہلِ کفر کے لیے آگ ہوگی۔(آیت:35)

اہلِ ایمان نزولِ قرآن پر خوش ہوتے ہیں ﴿يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ﴾ اور اہلِ کفر انکار۔

رسول ﷺ کو توحید پر قائم رہنے اور توحید کی تبلیغ کی ہدایت کی گئی۔(آیت:36)

﴿قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ﴾ (آیت:28)

رسول اللہ ﷺ کو کافروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔(آیت:37)

منصبِ رسالت کی وضاحت کی گئی کہ تمام رسول انسان ہوتے ہیں۔ بیوی بچوں والے ہوتے ہیں۔(38)

﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً﴾

حسی معجزات کے مطالبے پر وضاحت کی گئی کہ معجزہ رسول کا اختیار نہیں ہوتا اور اللہ کے اذن کے بغیر رونما نہیں ہوسکتا۔﴿وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ (آیت:38)

- رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ آپ ﷺ کی زندگی ہی میں ان پر عذاب نازل کیا جاسکتا ہے۔ پیغام پہنچانا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

رسول اللہ ﷺ کی ذمہ داری ہے اور حساب لینا اللہ کے ذمے ہے۔﴿وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ (آیت:40)

- رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ ماضی کے کافروں نے بھی سازشوں سے کام لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار ہی میں ساری تدبیریں ہیں۔﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾ (آیت:42)
- کافروں کے اس اعتراض پر کہ آپ ﷺ رسول نہیں ہیں ﴿لَسْتَ مُرْسَلًا﴾، انہیں بتایا گیا کہ آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ کتاب کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنایا گیا ہے۔

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (آیت:43)

مرکزی مضمون

محمد رسول اللہ ﷺ اور قرآن کی دعوتِ توحید و آخرت کو تسلیم کرنے والے عقل مند ﴿أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ ہیں، منکرینِ توحید و آخرت سازشی بھی ہیں اور بے وقوف بھی ہیں۔ یہ حق و باطل کی کشمکش ہے۔ دونوں کا کردار بھی مختلف ہے اور انجام بھی مختلف ہوگا۔ انسان کو رسالتِ محمد ﷺ پر سطحی اعتراضات سے بچ کر، تاریخ رسالت اور منصب رسالت پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

14- سُورَةُ اِبْرَاهِيم

آیات : 52 ...... مَکِّیَة" ...... پیراگراف : 8



زمانہ نزول:

سورت ﴿ابراھیم﴾، سورۃ الرّعد کے بعد، رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے چوتھے اور آخری دور (11 تا 13 نبوی) کے وسط میں نازل ہوئی، یہ وہ ﴿مکر﴾ یعنی سازشوں کا زمانہ تھا (آیت: 46)، جب شہر مکہ سے اِخراجِ رسول ﷺ کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ اِبراھیم کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿ الرّعد ﴾ میں حق و باطل کا فلسفہ، عقلی اور آفاقی دلائل کے ذریعے پیش کیا گیا تھا۔ یہاں سورت ﴿ ابراہیم ﴾ میں بتایا گیا ہے کہ ﴿ شکر ﴾ کے نتیجے میں ﴿ توحید ﴾ کے فطری جذبات پھوٹتے ہیں۔ ﴿ توحید ﴾ حق اور ﴿ شرک ﴾ باطل ہے۔

پچھلی سورت ﴿ الرّعد ﴾ کی آیت: 37 میں قرآن کو ﴿ حکماً عربیاً ﴾ کہا گیا تھا۔ یہاں سورت ابراہیم میں وضاحت کی گئی ہے کہ تمام رسولوں کو قوم کی زبان ہی میں دعوت کا فریضہ سونپا جاتا ہے تاکہ وہ بخوبی وضاحت کر سکیں، اس لیے عربوں کی زبان میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔

2۔ پچھلی سورت اور اس سورت دونوں میں ﴿ اُولوا الالباب ﴾ یعنی عقل مندوں کا ذکر ہے، جو اہلِ توحید ہی ہو سکتے ہیں۔ ﴿ کلمة طيبة ﴾ پر مشتمل دعوتِ توحید، انسان کی فطرت کی زمین میں جڑیں رکھتی ہے۔ اس کا آسمان سے ربط ہوتا ہے اور یہ تمام انسانیت کے لیے سودمند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قول ﴿ کلمة طيبة ﴾ والوں کو دنیا و آخرت میں ﴿ تثبیت ﴾ یعنی ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔

3۔ اگلی سورت ﴿ الحجر ﴾ میں قومِ لوطؑ، قومِ شعیبؑ اور قومِ ثمود کی ہلاکت کا ذکر ہے اور یہاں سورت ﴿ ابراہیم ﴾ میں ہدایت کی گئی ہے کہ تاریخ کے اہم واقعات ہلاکت و عبرت یعنی ﴿ اَيّامِ اللهِ ﴾ سے تذکیر کی جائے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ سورت ابراہیم میں توحید و شرک کو ﴿ نور و ظلمات ﴾ کہا گیا ہے۔

(a) پہلی آیت ہی میں نزولِ قرآن کا مقصد بتا دیا گیا کہ غالب اور حمید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہی اور شرک کے مختلف اندھیروں ﴿ ظلمات ﴾ سے نکال کر توحید کی صراطِ مستقیم کی روشنی ﴿ النور ﴾ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔

﴿ الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ (آیت: 1)

(b) تاریخ سے استدلال کیا گیا کہ آیاتِ موسیٰؑ کا مقصد بھی اُن کی قوم کو ﴿ ظلمات ﴾ سے نکال کر توحید کے ﴿ النور ﴾ میں لانا تھا۔

﴿ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ﴾ (آیت: 5)

2۔ سورت ابراہیم میں تاریخی دلائل کے لیے ایک خاص لفظ ﴿ اَيّامُ اللهِ ﴾ استعمال ہوا ہے۔

﴿ اَيّامُ اللهِ ﴾ کا لفظی مطلب تو ''اللہ کے دن'' ہیں۔ لیکن ان سے مراد تاریخ کے وہ مشہور دن ہیں، جب قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوا اور جب اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا گیا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جیسے: ﴿یَوْمُ الْبَدْرِ﴾ یعنی 17 رمضان 2ھ کا دن، جب 70 کے قریب کافر واصلِ جہنم کیے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ یا پھر ﴿یوم عاشوراء﴾ یعنی 10 محرم کا دن، جب فرعون وہامان کی فوجیں غرق کی گئیں اور بنی اسرائیل نے نجات پائی۔ ﴿اَیَّامُ اللّٰہ﴾ کا یہ لفظ سورۃ الجاثیہ کی آیت: 14 میں بھی استعمال ہوا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو ہدایت کی گئی کہ وہ مشرکینِ مکہ کو تاریخی دلائل سے اللہ تعالیٰ کے قانونِ جزاء وسزا سمجھائیں۔ صابر وشاکر عقل مند لوگ ان آیات ودلائل سے سبق حاصل کر لیتے ہیں۔ بے صبرے اور بے وقوف لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔

﴿وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ ، اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ﴾ (آیت:5)۔

3۔ سورت ابراہیم میں ﴿نِعْمَةُ اللّٰهِ﴾ کا لفظ بھی بڑا اہم اور کلیدی ہے۔

(a) بنی اسرائیل ایک ﴿ناشکری﴾ اور احسان فراموش قوم تھی۔ ان کے رسول حضرت موسیٰؑ نے انہیں اللہ کی نعمتوں ﴿نعمۃُ اللّٰہ﴾ کو یاد رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آلِ فرعون کے ظلم وستم سے نجات دی تھی۔ فرعون ان کے لڑکوں کا قتل کر دیا کرتا تھا، لیکن نجات کے بعد بنی اسرائیل پھر شرک اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ (آیت:6)

﴿وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ﴾

(b) مشرکینِ مکہ کو غور وفکر کی دعوت دی گئی کہ وہ تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ کی نعمتوں ﴿نعمت اللّٰہ﴾ کا شکر ادا نہ کرنے والے ناشکرے احسان فراموش اور نمک حرام قائد (Leader) اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی (دوزخ) میں اتار دیتے ہیں۔

﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ (آیت:28)

(c) اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور وفکر کی دعوت دی کہ اس نے ضرورت کی تمام چیزوں سے اس دنیا کو آراستہ کیا ہے۔ اس کی نعمتیں بے حد وحساب ہیں۔ انسان اگر گننا چاہے بھی تو اللہ کی نعمتوں ﴿نِعْمَةُ اللّٰه﴾ کا شمار نہیں کر سکتا۔ یقیناً انسان بہت بڑا حق تلف اور ﴿ناشکرا﴾ ہے۔ وہ خالق کے بجائے مخلوق کی عبادت اور پیروی کر کے نمک حرامی کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ توحید کے بجائے شرک اختیار کرتا ہے، جو ظلمِ عظیم ہے۔

﴿وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ، وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ، اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ﴾

4۔ ﴿شُکر﴾، ﴿کفر﴾، ﴿صبّار﴾ اور ﴿شکُور﴾ کے الفاظ اس سورت میں اہمیت کے حامل ہیں:

(a) تاریخ میں عبرت کا سبق موجود ہے۔ اس سبق سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کے صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ ، اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴾ (آیت:5)۔

(b) اللہ تعالی نے اپنی مشروط پیش کش سے تمام انسانوں کو آگاہ کر دیا ہے۔اگر لوگ اللہ تعالی کی نعمتوں پر ﴿شکر﴾ کریں گے تو وہ انہیں بڑھائے گا اور اگر ﴿ناشکری﴾ کا مظاہرہ کریں تو اس کا عذاب بھی بہت شدید ہوگا۔

﴿ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ ، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ﴾ (آیت:7)

(c) اگر دنیا کی ساری مخلوق بھی اللہ تعالی کی ﴿ناشکری﴾ کرے اور ﴿کفرانِ نعمت﴾ کا رویہ اختیار کر لے تو اس سے اللہ تعالی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی ،اللہ تعالی اپنی ذات میں ہر قسم کی تعریفوں سے بے نیاز ﴿غنی﴾ اور اپنی ذات میں آپ محمود ﴿حمید﴾ ہستی ہے۔

﴿ اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴾ (آیت:8)

5۔ قرآن خود ایک کتابِ ﴿اِنْذار﴾ ہے، یہ کتاب قیامت کے دن سے بھی ڈراتی ہے۔

(a) قرآن مجید ایک کتابِ اِنذار ہے۔اس کا مقصد لوگوں کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے، تاکہ وہ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالی ہی ایک ﴿الٰہ﴾ ہے ﴿اُولُو الاَلباب﴾ یعنی عقل مند لوگ اس اِنذار اور یاددہانی سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے دل و جان سے عقیدۂ توحید کو تسلیم کر لیتے ہیں اور بے وقوف بدستور شرک و جہالت میں مبتلا رہتے ہیں (آیت:52)۔آخری آیت کہتی ہے۔

﴿ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴾

(b) سورۃ ابراہیم میں لوگوں کو قیامت کے دن سے بھی ﴿اِنْذار﴾ کیا گیا ہے، یعنی خبردار کر کے ڈرایا گیا ہے۔

﴿ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴾ (آیت:44)

سورۃ ابراھیم کا نظمِ جلی

سورۃ ابراہیم آٹھ (8) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 4 : پہلے پیراگراف میں، تعارفِ قرآن ہے اور عربی زبان میں نزولِ قرآن کی حکمت کی وضاحت ہے۔

قرآنی آیات کے نزول کا مقصد لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اسلام اور توحید کے اجالوں میں لے آنا ہے۔

دعوتِ توحید دراصل ﴿دعوتِ شکر﴾ ہے۔آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کے لیے عذاب ہوگا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تمام رسولوں پر ان کی اپنی زبان (عبرانی، آرامی، عربی) میں وحی نازل کی گئی، تاکہ وہ اپنی بات کھول کر اپنی قوم کو سمجھا سکیں (اسی لیے قرآن کو عربیٔ مبین میں نازل کیا گیا ہے)۔

2- آیات 5 تا 8: دوسرے پیراگراف میں ﴿اَیَّامُ اللّٰہِ﴾ اور تاریخِ موسیٰؑ سے ﴿شکر و کفر﴾ اور جزاو سزا پر استدلال ہے

حضرت موسیٰؑ کو بھی یہی ہدایت دی گئی تھی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اندھیروں سے (اسلام اور توحید کے) اُجالے میں لے آئیں اور ﴿ایامُ اللہ﴾ سے نصیحت کریں۔

انہوں نے اللہ کی تمام نعمتوں اور احسانات کو یاد رکھنے کی ہدایت کی۔ بالخصوص فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کا احسان۔

بنی اسرائیل کو بھی ایک اہم اور اصولی قاعدہ بتا دیا گیا کہ لوگ اگر ﴿شکر﴾ کا رویہ اختیار کریں گے تو انہیں بڑھایا جائے گا اور اگر ﴿ناشکری کا رویہ﴾ اختیار کریں گے تو اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا۔

3- آیات 9 تا 17: تیسرے پیراگراف میں ،شکر و کفر کے درمیان کشمکش کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ رسولوں کی کردار کو اجاگر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرتے ہیں اور توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔

قومِ نوحؑ ، عاد اور ثمود اور ان کے بعد کی قوموں نے بھی پیغامِ رسالت کا انکار کر کے دعوت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ پیغمبروں کو صرف اپنے جیسا انسان قرار دیا اور روایت پرستی کے اسیر رہے۔ ان حالات میں پیغمبروں نے اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود ثابت قدمی اور توکل کا مظاہرہ کیا۔

کافروں کی طرف سے رسولوں کو دھمکی دی گئی کہ تم لوگ ہمارے پرانے مذہب پر لوٹ آؤ! ورنہ ہم جلاوطن کر دیں گے۔

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا﴾

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو تسلی دی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور زمین پر دوسرے جانشین پیدا کریں گے

﴿فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ o وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ﴾ کافروں نے فیصلہ مانگا تھا۔ اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا۔ ہر جابر سرکش اور اسلام و توحید سے عناد رکھنے والا شخص دنیوی عذاب سے دوچار کر کے رسوا اور نامراد کیا گیا۔

﴿وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ﴾ یہ تو دنیاوی عذاب تھا، لیکن اس کے آگے ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہاں انہیں پینے کے لیے پیپ لہو دیا جائے گا ﴿مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ﴾

4- آیات 18 تا 23: چوتھے پیراگراف میں، ﴿شکر﴾ نہ کرنے والے کافر لیڈروں اور ان کے کمزور پیروکاروں کو خبردار کیا گیا کہ ہر دو کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے۔

(a) مغرور اور گھمنڈی آقاؤں (Leaders) کے لیے ﴿الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا﴾ اور کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے اُن کے پیروکاروں (Followers) کے لیے ﴿ضُعَفٰٓؤُا﴾ کی اصطلاح استعمال کی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(b) ابلیس بھی ایک ایسا لیڈر ہے، جو انسانوں کو بہکاتا ہے لیکن روزِ قیامت کافر لیڈروں کے طرح آنکھیں پھیر لے گا۔

کافروں کے اعمال کو ایک ایسی راکھ سے تشبیہ دی گئی، جس پر تیز آندھی چل گئی ہو۔

کافروں کو دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مٹا کر کسی دوسری قوم کو بسانے کا اختیار رکھتا ہے۔

کافر لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کے طرزِ عمل پر تنقید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ دونوں عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے۔

(c) لیڈروں اور عوام کے درمیان روزِ قیامت پیش آنے والے مکالمے کو نقل کیا گیا۔ اس دن وہ ایسے بے بس ہوں گے کہ اپنے پیروکاروں کو عذاب سے نجات دلانا تو درکنار، خود عذاب سے دوچار ہوں گے۔

یہی معاملہ روز قیامت ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے درمیان ہوگا۔ ابلیس اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ مجھے ملامت مت کرو، بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو ﴿ فَلَا تَلُوْمُوْنِیْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ ﴾ تم لوگوں نے کیوں میری پیروی کی؟

ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔

5- آیات 24 تا 27 : پانچویں پیراگراف میں، ﴿ کلمۂ طیبہ ﴾ اور ﴿ کلمۂ خبیثہ ﴾ کو دو درختوں سے تشبیہ دی گئی۔

قرآن اور صحیح احادیث پر مشتمل ہر بات ﴿ کلمۂ طیبہ ﴾ ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہر بات ﴿ کلمۂ خبیثہ ﴾ ہے۔

توحید کا اقرار بھی کلمۂ طیبہ ہے، جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ توحید کی دعوت انسان کے قلب و روح میں مضبوط جڑیں رکھتی ہے۔ ایمان میں اضافے کے ساتھ ساتھ یہ جڑیں دل کی زمین میں گہری اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ یہ قلب و روح کی زمین ہی سے ایمانی غذا حاصل کرتی ہیں۔ جڑوں کے ساتھ ساتھ زمین کی بالائی سطح پر بھی درخت بڑھتا رہتا ہے۔

لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے اور انہیں پھلوں سے نوازتا ہے۔ یہ ایک مضبوط اور توانا درخت ہے۔ اس کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے۔

اس کے برخلاف ﴿ کلمۂ خبیثہ ﴾ ایک ایسا درخت ہے، جس کی جڑیں دل کی زمین میں گہری نہیں ہوتیں۔ اس کا تعلق اللہ سے بھی کمزور ہوتا ہے اور یہ برگ و بار بھی نہیں لاتا۔ انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں۔

اہلِ ایمان ﴿ کلمۂ طیبہ ﴾ کے قولِ ثابت پر پورے شرحِ صدر اور دل جمعی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی جابر قوت انہیں اس کلمہ سے منحرف نہیں کر سکتی۔ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت اور قبر میں بھی اہلِ ایمان توحید پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

6- آیات 28 تا 34: چھٹے پیراگراف میں ﴿ نِعْمَةُ اللّٰهِ ﴾ یعنی اللہ کی نعمتوں کا ﴿ شکر ﴾ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے

دنیا کے ناشکرے اور کافر آقا (Leader)، کفرانِ نعمت کے ذریعے اپنی قوم کے لیے دوزخ کے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ شکر گزاروں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ نماز اور انفاق کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔

زمین اور آسمان کی تخلیق، بارش کے ذریعے رزق کا انتظام، دریاؤں اور سمندروں کی تسخیر اور رات اور دن کی گردش کا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تذکرہ کر کے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کے مطابق ہر چیز کا اہتمام وانصرام کر رکھا ہے۔
اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔
﴿وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ، وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا، اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ﴾

7- آیات 35 تا 41: ساتویں پیراگراف میں ،تاریخِ ابراہیمؑ سے شکر و توحید پر استدلال ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے جب مکہ کو آباد کیا اور جب اس وادیٔ غیر ذی زرع میں حضرت ہاجرہؓ اور حضرت اسمٰعیلؑ کو ٹھہرایا تو اگلی نسلوں کے لیے کئی دعائیں کیں کہ انہیں بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ نماز قائم کرنے والے بنیں اور لوگوں کے امام بن کر ان کی توجہ کا مرکز بن جائیں۔ انہیں رزق عطا کیا جائے کہ یہ تیرا ﴿شکر﴾ ادا کریں۔ خود حضرت ابراہیم بھی انتہائی ﴿شکر گزار﴾ بندے تھے۔ بڑھاپے میں حضرت اسمٰعیلؑ اور حضرت اسحٰقؑ جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ کا ﴿شکر﴾ بجالاتے تھے۔ وہ اپنی اور اپنی نماز کے بارے میں بھی فکر مند تھے۔ وہ اپنی، اپنے والدین کی اور تمام اہلِ ایمان کی مغفرت کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔

8- آیات 42 تا 52: آٹھویں اور آخری پیراگراف میں، ﴿اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾ یعنی عقل مندوں کو شرک چھوڑ کر خالص توحید اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔

قرآن کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ یہ ایک واضح اعلان وابلاغ ہے اور اس کا مقصد انسانیت کو خبردار کرنا ہے۔
﴿هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ، وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ، وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾۔

رسول اللہ ﷺ کو ہدایت کی گئی کہ وہ لوگوں کو قیامت کے دن کی آفت سے خبردار کریں ﴿وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ﴾۔ روزِ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور کافرین وظالمین کی ندامت اور شرمساری پر مشتمل جملے نقل کیے گئے اور بتایا گیا کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لباس تارکول کے ہوں گے۔ ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کافروں نے بہت سی چالیں چلیں، ایسی زبردست چالیں تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے، لیکن رسولوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ رسولوں سے کیے گئے اللہ کے تمام وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور زبردست ہے، وہ ظالم وکافر مشرکین سے انتقام لینے پر قادر ہے۔

سورت کا آغاز اور اختتام قرآن کے تعارف اور اُس کے مقصدِ نزول پر ہوا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

بنی اسرائیل ناشکرے تھے، جب کہ حضرت ابراہیم شکر گزار۔ جذبۂ شکر کے نتیجے ہی میں انسان توحید کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ دعوتِ توحید فطرت کے عین مطابق ہے، جس کی جڑیں قلب و روح میں گہری اور جس کی ثمردار شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں۔

انسان کو ﴿قرآن مجید﴾ کے انذار کی روشنی میں ﴿ اَیَّامُ اللّٰہ ﴾ سے عبرت حاصل کر کے، کفر، ناشکری اور کفرانِ نعمت کا رویہ ترک کر کے ﴿توحید و شکر﴾ کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خلیل الرحمٰن چشتی کی مقبول کتابیں

عربی زبان کے قواعد آسان اور سلیس انداز میں

قواعد زبان قرآن

حصہ اول اور حصہ دوم

پانچواں ایڈیشن شائع ہو چکا ہے۔

مدرس قرآن کی ضرورت

درس قرآن کی تیاری کیسے؟

پانچواں ایڈیشن شائع ہو چکا ہے۔

تاریخ روایت حدیث اور اصلاحات حدیث کو سمجھنے کے لیے

حدیث کی اہمیت وضرورت

مقبول عام کتاب کا نواں ایڈیشن الحمدللہ شائع ہو گیا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

15- سُوْرَةُ الْحِجَر

آیات : 99 ...... مَکِیَّة" ...... پیراگراف : 5



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانہ نزول

غالباً 11 یا 12 نبوی میں، نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ ﷺ پر ﴿مجنون﴾ اور مسحور کرنے کے الزامات کا چرچا عام تھا اور مخالفت اپنی شدت پر تھی۔ قریشی لیڈر اللہ کے ﴿ذکر﴾ قرآن کو پاگل پن قرار دے رہے تھے۔

﴿وَقَالُوا يَاأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (آیت:6)۔

استہزا اور تمسخر سے کام لینے والے قریش کے لیڈروں کو قومِ لوطؑ، اصحاب الایکہ اور اصحابُ الحجر کی ہلاکت سے ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ الحجر میں رسول اللہ ﷺ کے لیے تسلی بھی ہے کہ چند سالوں کے اندر اندر یہی لیڈر اپنے رویوں پر نادم ہوں گے اور ان کی زبانوں پر ہوگا:

''کاش مسلمان ہو جاتے'' ﴿لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾۔ یہ پیش گوئی دو (2) ہجری میں بڑے بڑے لیڈروں کی ہلاکت اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں پوری ہوئی۔

سورت ﴿الحجر﴾ کا زیادہ تر حصہ، سورۃ ابراھیم کے بعد رسول اللہ ﷺ کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور (11 تا 13 نبوی) میں نازل ہوا۔ بعض آیات غالباً اعلانِ عام کے وقت نازل ہوئیں۔

جیسے: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ (آیت:94)۔

سورۃُ الحِجر کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿ابراھیم﴾ میں ﴿أَيَّامُ اللَّهِ﴾ کا اجمالی ذکر تھا۔ یہاں سورۃ ﴿الحجر﴾ میں ابلیس لعین کی پیروکار ﴿مجرم﴾ قریشی قیادت کے استہزاء پر قومِ لوطؑ، اَصحابُ الایکہ اور اَصحابُ الحِجر (ثمود) کی ہلاکت کے تفصیلی تذکرے سے فہمائش کی گئی ہے۔

2۔ اگلی سورت ﴿النحل﴾ میں قریش کی مجرم قیادت اور رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کی صالح قیادت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ دونوں سورتوں کے آخر میں دعوت و تبلیغ کے آداب بیان کر کے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے اور ہدایات سے نوازا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ ﴿سورۃ الحجر﴾ میں ہلاکت اقوام کے سلسلے میں چار (4) باتیں بیان کی گئی ہیں۔

(a) ہلاکتِ اقوام کا ایک وقت مقرر ہے۔ ﴿اَجَل﴾ آجانے کے بعد وقت کو آگے پیچھے نہیں کیا جاتا (آیات:4، 5)

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ○ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴾

(b) 2,500 قبل مسیح میں اصحاب الحجر (قوم ثمود) نے رسولوں کی تکذیب کی، جب اللہ نے ﴿الصَّيْحَة﴾ کے ذریعے انہیں ہلاک کیا تو ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔

﴿فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ○ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴾ (آیات:84،83)

(c) 2,100 قبل مسیح میں قوم لوطؑ کو ہلاک کیا گیا۔ یہ ہم جنس پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کو اوندھا کر دیا اور ان پر پتھروں سے بارش کی۔ اس پر تبصرہ کیا گیا کہ اس واقعہ میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے

﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ○ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴾ (آیت:75)۔

(d) 1,400 قبل مسیح میں اصحاب الایکہ ﴿قوم شعیبؑ﴾ کو ہلاک کیا گیا۔ یہ ایک ظالم قوم تھی۔ اللہ نے ان سے انتقام لیا۔

﴿وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ○ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴾ (آیات:79،78)

2۔ سورۃ الحجر میں یہ وضاحت کی گئی کہ قرآن کسی ﴿مجنون﴾ کا کلام نہیں ہے، بلکہ صاف پڑھی جانے والی ایک کتاب ہے اور یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔

(a) ﴿الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴾ (آیت:1)۔

(b) اس ﴿قرآن﴾ کا مذاق اڑانے والوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ خالقِ کائنات نے اس ﴿ذِكْر﴾ کو نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ کسی پاگل اور مجنون کی گفتگو نہیں کہ مٹ جائے گی ﴿اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴾ (آیت:9)۔

3۔ سورۃ الحجر میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں، جن کا ﴿اِستهزاء﴾ اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ ماضی میں جتنے رسول بھی گزرے ہیں ان سب کا مذاق اڑایا گیا۔

(a) ﴿وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴾ (آیت:11)۔

(b) رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں آپ کی حمایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ ﴿اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴾ (آیت:95)۔

4۔ سورۃ الحجر میں ﴿مجرمین﴾ کا لفظ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ﴿مجرم﴾ قومیں رسولوں کا مذاق اڑاتی ہیں، انہیں

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿مجنون﴾ قرار دیتی ہیں۔ یہ ایمان نہیں لا سکتے۔

(a) ﴿كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ﴾ (آیت:12)

(b) حضرت ابراہیمؑ کو بیٹے کی بشارت دینے والے فرشتے ﴿مجرم﴾ قوم لوطؑ کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔

﴿قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ﴾ (آیت:58)۔

5۔ سورۃ الحجر میں اس کرۂ ارضی کے بارے میں یہ عجیب وغریب وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کی چیزیں ایک خاص تناسب کے ساتھ اگائیں۔ زمین کا ہر ذرّہ اور ہر عنصر ﴿مَّوْزُوْنٍ﴾ یعنی وزن شدہ (weighted) ہے۔

﴿وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ﴾ (آیت:19)

6۔ یہ عجیب وغریب انکشاف بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے حد وحساب خزانوں میں سے ایک مقررہ مقدار ﴿قدرٍ معلوم﴾ ہی نازل فرماتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بین ثبوت ہے۔

﴿وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ﴾ (آیت:21)۔

7۔ سورۃ الحجر میں ﴿غاوین﴾ یعنی بھٹکے ہوئے لوگوں اور ابلیس کے دام سے بچنے والے ﴿متقین﴾ کا موازنہ ہے۔

(a) بھٹکے ہوئے لوگ ابلیس لعین کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک وفادار بندوں پر ابلیس کا زور نہیں چل سکتا۔

﴿اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ﴾ (آیت:42)۔

(b) گستاخ ابلیس کا چیلنج تھا کہ وہ زمین پر تمام لوگوں کو بہکائے گا اور دنیا کو خوشنما اور پرکشش بنا کر دکھائے گا۔

﴿قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ﴾ (آیت:39)

سورۃ الحجر کا نظمِ جلی

سورۃ الحجر پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 15: پہلے پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو ﴿مجنون﴾ کہنے والوں اور قرآن مجید کا مذاق اُڑانے والے ﴿مجرموں﴾ کو ہلاکت کی دھمکی ہے اور غلبۂ اسلام کی بشارت بھی ہے۔

قرآن مجید کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کسی مجنون کی باتیں نہیں۔ یہ اللہ کا ﴿ذکر﴾ ہے، جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا ﴿اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ﴾ (آیت:9)۔

قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑانے والے بہت جلد پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش مسلمان ہو جاتے!

﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ﴾ (آیت:3)۔ انہیں ﴿مجرم﴾ کہا گیا اور ان کی ضد پر روشنی ڈالی گئی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول کر، سیڑھی لگا دیتے اور یہ چڑھنے لگتے، تب بھی اللہ کے کلام کو جادو کہتے اور انبیاء کے معجزات کے بارے میں کہتے کہ ہماری آنکھوں میں نشہ پیدا کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ﴿مسحور﴾ کر دیے گئے ہیں (آیت:15)۔

2- آیات 16 تا 25 : دوسرے پیراگراف میں، توحید کے ﴿آفاقی دلائل﴾ پیش کیے گئے ہیں۔

آسمان، زمین اور پہاڑوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے (جس نے قرآن نازل کیا ہے) پھر بادلوں اور بارشوں کے نظام کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے کی قدرت سے امکانِ آخرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس زمین پر، ہر چیز نپی تلی مقدار میں اگائی ہے۔ ﴿وَاَنۡۢبَتۡنَا فِيۡهَا مِنۡ كُلِّ شَىۡءٍ مَّوۡزُوۡنٍ﴾ (آیت:19) اللہ تعالیٰ ہی نے اسبابِ معیشت فراہم کیے ہیں۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، لیکن وہ اپنی حکمت کے ساتھ ایک مقررہ مقدار ہی نازل فرماتا ہے۔

﴿وَاِنۡ مِّنۡ شَىۡءٍ اِلَّا عِنۡدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعۡلُوۡمٍ﴾

اللہ تعالیٰ ہی حاملہ ہواؤں ﴿الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ﴾ کو بھیج کر بادلوں کے ذریعے زمین کو سیراب کرتا ہے۔ وہی آسمان میں پانی کے خزانوں کا ذخیرہ کرتا ہے اور بارش کے ذریعے مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ اسی طرح روزِ قیامت تمام مردوں کو زندہ کرے گا وہ علیم و حکیم ہے۔ قیامت کا دن، اللہ کی حکمتِ عدل اور صفتِ علم کا آئینہ دار ہوگا۔

3- آیات 26 تا 50 : تیسرے پیراگراف میں، توحید کے انفسی دلائل ہیں۔ قصۂ آدمؑ و ابلیس اور معرکۂ خیر و شر بیان کر کے، خیر و شر کی جزا و سزا کا قانون بتایا گیا ہے۔ بے لگام "بھٹکے ہوئے" ﴿غاوین﴾ اور ہدایت یافتہ ﴿متّقین﴾ کا انجام مختلف ہوگا

انسانوں اور جنات دونوں کو آزادیٔ اختیار عطا کی گئی ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی کے سوکھے گارے سے کی گئی ہے۔ جنات کو پہلے آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ایک جن ابلیس نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا۔ آدمؑ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور گستاخی کی کہ میں زمین پر لوگوں کو دنیا کی زینت میں الجھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ وہ توحید کی صراطِ مستقیم پر ڈٹے رہیں گے، البتہ ﴿غـاوِيـن﴾ "بھٹکے ہوئے لوگ" تیری پیروی کریں گے۔ ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔

﴿غاوِین﴾ کے مقابلے میں، ابلیس کی پیروی سے بچنے والے ﴿مُتَّقِین﴾ ہوں گے۔ ان کے لیے باغات اور چشمے ہوں گے۔ مسلمانوں کی باہمی کدورتیں جنت میں دور کر دی جائیں گی۔ وہاں وہ بھائی بھائی بن کر ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔

آخر میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے مطلع کیا گیا کہ وہ ﴿غاوِین﴾ کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا اور ﴿مُتَّقِین﴾ کے لیے غفور و رحیم ثابت ہوگا۔

﴿نَبِّئۡ عِبَادِىۡۤ اَنِّىۡۤ اَنَا الۡغَفُوۡرُ الرَّحِيۡمُ ۝ وَاَنَّ عَذَابِىۡ هُوَ الۡعَذَابُ الۡاَلِيۡمُ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4- آیات 51 تا 84 : چوتھے پیراگراف میں، جزاوسزا کے تاریخی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔

تاریخ گواہ ہے کہ پہلے اصحابُ الحجر ﴿قومِ ثمود﴾ کو، پھر قومِ لوطؑ کو اور پھر اصحابُ الایکہ یعنی قومِ شعیبؑ کو ہلاک کیا گیا۔ مجرموں کو سزا دی گئی اور متقین کو بچالیا گیا۔

(a) سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو فرشتے حضرت ابراہیمؑ کو بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے، وہی فرشتے حضرت لوطؑ کی قوم کو ہلاک کرنے پر مامور تھے۔ ثابت کیا گیا کہ تاریخ میں جزا اور سزا دونوں کا سبق موجود ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے حیرت کا اظہار کیا کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوسکتی ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ مایوسی کی ضرورت نہیں، صرف گمراہ لوگ ہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں ﴿فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ٥ قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ﴾۔

حضرت ابراہیمؑ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اب کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اب ہم ایک ﴿مجرم﴾ قوم کو ہلاک کرنے پر مامور ہیں۔ قومِ لوطؑ، ایک بدکار اور مجرم قوم تھی۔ فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں پہنچے۔ وہ مہمانوں کے درپے تھے۔ حضرت لوطؑ نے ہر چند سمجھایا کہ قوم کی یہ لڑکیاں ہیں، ان سے تمہارا انکاح ہوسکتا ہے، لیکن وہ مردوں کے طلب گار تھے۔ انہوں نے حضرت لوطؑ کو دھمکی دی کہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت مت کرو۔ ان پر بدکاری کا بھوت سوار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی قسم کے عذاب (Multiple Means) سے ہلاک کیا۔ ایک دھماکے ﴿الصَّيْحَةُ﴾ کے بعد، پوری بستی کو اوندھا کر کے ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش کی گئی۔

﴿فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ٥ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ﴾۔ آخر میں تبصرہ کیا گیا کہ ﴿مُتَوَسِّمِيْنَ﴾ یعنی صاحبِ فراست لوگوں کے لیے، اس واقع میں اللہ تعالیٰ کے قانونِ جزاء وسزا کا درس موجود ہے۔ (آیات: 51 تا 77)

(b) ﴿اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ﴾ کی ہلاکت کا قصہ: اس کے بعد حضرت شعیبؑ کی قوم ﴿اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ﴾ کا ذکر کیا گیا جو ظالم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے بھی انتقام لیا۔ ﴿ایکۃ﴾ شہرِ تبوک کا قدیم نام ہے۔ ﴿اصحاب مَدْیَن﴾ اور ﴿اصحابُ الایکہ﴾ کا علاقہ بھی، قومِ لوطؑ کے علاقے کی طرح، مکے سے فلسطین جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔

(c) ﴿اَصْحٰبُ الْحِجْرِ﴾ کی ہلاکت کا قصہ: اس کے بعد حضرت صالحؑ کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا۔ انہیں ثمود بھی کہا جاتا ہے اور ﴿اَصْحٰبُ الْحِجْرِ﴾ بھی۔ قومِ ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ پہاڑوں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے۔ بے خوف اور مطمئن تھے۔ صبح صبح ایک ﴿الصَّيْحَةُ﴾ دھماکے نے انہیں آلیا۔ (آیات: 80 تا 84)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

5- آیات 85 تا 99 : پانچویں اور آخری پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو الزام تراشی اور استہزاء کے مشکل حالات میں تسلی دی گئی اور صبر کی ہدایات دے کر دعوت و تبلیغ کے آداب بیان کیے گئے۔

(a) مخالفین سے شریفانہ، درگزر کرنا چاہیے۔ ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ﴾ (آیت:85)۔

(b) اس متاعِ دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے! جو ہم نے اور لوگوں کو عطا کی ہے۔

﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ (آیت:88)

(c) مومنین کے ساتھ نرمی سے کام لینا چاہیے ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (آیت:88)۔

(d) دعوت کا علی الاعلان اظہار کرنا چاہیے ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ (آیت:94)۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ پر قرآن نازل کیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل پر تورات کو نازل کیا گیا تھا۔ لیکن یہودیوں نے اپنے قرآن (یعنی تورات) کے ٹکڑے کر دیئے۔ ایک حصہ چھپاتے دوسرا ظاہر کرتے۔

(e) مشرکوں کی بالکل پروا نہیں کرنی چاہیے ﴿وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (آیت:94)۔

(f) مخالفین کی دل آزار باتوں پر اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے! ﴿يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ﴾ (آیت:97)

(g) حمد کے ساتھ تسبیح اختیار کرتے ہوئے سجدہ بجا لانا چاہیے۔

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ﴾ (آیت:98)۔

(h) آخری گھڑی یعنی موت تک (ثابت قدمی کے ساتھ) اللہ کی عبادت و اطاعت کرنی چاہیے۔

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ﴾ (آیت:99)۔

مرکزی مضمون

الزامات اور استہزاء کے ماحول میں آفاقی، انفسی اور تاریخی دلائل کے ذریعے، کافروں کے دباؤ اور دنیا پرستی سے بچ کر، عقیدۂ توحید اور عقیدۂ آخرت پر مشتمل قرآنی دعوت کے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

16- سُوْرَةُ النَّحل

آیات : 128 ...... مَکِّیَّة ...... پیراگراف : 6



زمانہ نزول:

سورت ﴿النحل﴾ رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے آخری دور (غالباً 12 نبوی) میں، قحط کے اختتام پر، ہجرتِ مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، چنانچہ اس سورت میں، مظلوم صابر متوکل مسلمانوں کے لیے ہجرت کی ترغیب ہے۔

بعض آیات دورِ قحط یعنی سات نبوی میں نازل ہوئیں۔ بعض آیات دورِ تشدد میں نازل ہوئیں، جیسے آیت نمبر 106 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمار بن یاسرؓ کے بارے میں نازل ہوئی تھی (ابن ہشام)، جس میں مسلمانوں کو رخصت دی گئی کہ وہ ایمان پر قلبی ثابت قدمی کے ساتھ، جان بچانے کے لیے زبان سے کلمۂ کفر بھی ادا کرسکتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورت کی خصوصیات

1۔ سورت کے آغاز میں توحیدِ خالقیت کے دلائل ہیں، پھر رسالت کی غرض وغایت ﴿اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ بتائی گئی، یعنی تمام رسولوں کو اللہ کی بندگی اور اطاعت اختیار کرنے اور اپنے وقت کی طاغوتی سرکش قیادت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے (آیت:36)۔

2۔ اس سورت میں فرشتوں کی اُلوہیت کا رد بھی ہے (آیت:57)۔

3۔ اس سورت میں مسلم قیادت اور مشرک قیادت کا تقابل بھی موجود ہے اور مشرک قیادت کے خلاف فردِ جرم (Charge sheet) بھی۔

4۔ سورۃ النحل سورۃ الانعام سے پہلے نازل ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ یہ اُس کی تمہید ہے، چنانچہ مدینے میں اِسلامی معاشرے کے قیام کے لیے حلال وحرام کے ابتدائی احکام (آیات:115 اور 116)، عدل واحسان کی تعلیم (آیت:90) اور عہدوپیمان کی پاسداری کا سبق بھی دیا گیا ہے۔

سورۃ النحل کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت سورۃ ﴿الحجر﴾ میں ﴿مُستَهزِئین اور مُجرِمین﴾ کی ہلاکت کا ذکر تھا، یہاں اس سورت ﴿النحل﴾ میں قریش کی مشرک اور مغرور قیادت کے ﴿مُستکبِرین﴾ کا تذکرہ ہے۔

2۔ سورۃ النحل میں ہجرتِ مدینہ کی پیش گوئی بھی ہے اور فضیلت بھی (آیات 41 اور 110)
اگلی سورت ﴿بنی اسرائیل﴾ میں باقاعدہ طور پر ہجرت کی دعا سکھائی گئی ہے۔(آیات 80 اور 81)۔

3۔ تورات کے احکامِ عشرہ کی طرح آخری امت کو احکام دیے گئے ہیں، تاکہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرت اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جاسکے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- توحیدِ خالقیت کے دلائل:

سورۃ النحل میں توحیدِ خالقیت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل آئے ہیں، ان پر غور فرمایئے۔

(a) اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا ﴿خالِق﴾ ہے، لہٰذا کسی ﴿مخلوق﴾ کو ﴿خالق﴾ کا درجہ دے کر شرک نہیں کیا جا سکتا۔﴿خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾ (آیت:3)۔

(b) اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے ﴿تخلیق﴾ کیا ہے، لہٰذا انسان کو اپنے ماضی پر غور کر کے اپنے موجودہ خاصمانہ رویے کو ترک کرنا چاہیے۔

﴿خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ﴾ (آیت:4)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) اللہ تعالیٰ منفعت بخش مویشیوں کا بھی ﴿ خالق ﴾ ہے، لہٰذا ﴿ خالق ﴾ ہی شکر اور عبادت کا مستحق ہوسکتا ہے۔

﴿ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴾ (آیت:5)۔

(d) اللہ تعالیٰ نے زینت اور سواری کے لیے گھوڑوں خچروں اور گدھوں کو ﴿ تخلیق ﴾ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ایسی چیزیں ﴿ تخلیق ﴾ کرتا رہے گا، جنہیں ہم نہیں جانتے۔ (آیت:8)

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً وَّيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾

(e) اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ کچھ بھی ﴿ تخلیق ﴾ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود ﴿ مخلوق ﴾ ہیں۔

﴿وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴾ (آیت:20)

(f) اللہ تعالیٰ کی ﴿ تخلیق ﴾ کی ہوئی ہر چیز کے سائے بھی، اللہ کو عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں۔

﴿اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ﴾ (آیت:48)۔

(g) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ اس طرح ﴿ تخلیق ﴾ کیا ہے کہ انہیں موت دی جاتی ہے، بعض ارذل العمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانیں، لہٰذا ثابت ہوا کہ ﴿ خالق ﴾ ہی موت دیتا ہے اور وہی حافظے کو چھین سکتا ہے۔ وہی کلی اختیارات کا مالک ہے۔

﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ﴾ (آیت:70)۔

(h) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرمانبردار دیکھنے کے لیے اپنی ﴿ تخلیق ﴾ کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، گرمی اور جنگ کی آفتوں سے بچانے والے لباس بنائے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو خالق مان کر اس کا مسلم اور مطیع فرمان بن جائے۔

﴿ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴾ (آیت:81)۔

(i) حاصل کلام: انسان اگر غور وفکر سے کام لے تو اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائے گا کہ جو ﴿تخلیق﴾ کرسکتا ہے، کیا وہ ﴿ تخلیق ﴾ کی صلاحیت نہ رکھنے والے کے برابر ہوسکتا ہے؟ یعنی کیا ﴿ خالق ﴾ اور ﴿ غیر خالق ﴾ یعنی خالق اور مخلوق برابر ہوسکتے ہیں؟ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ﴿ خالق ﴾ اور ﴿ مخلوق ﴾ کے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

فرق کو سمجھ کر خالص توحید اختیار کرے۔ مخلوق کو خدا بنا کر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے

﴿ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴾ (آیت:17)۔

-2 توحیدِ ربوبیت، توحیدِ الوہیت اور توحیدِ حاکمیت کے دلائل:

سورۃ النحل میں توحید کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے دیگر ﴿دلائل﴾ بھی دیے گئے ہیں، جنہیں ﴿آیۃ﴾ اور ﴿آیات﴾ کا نام دیا گیا ہے اور انسان سے غور و فکر کا مطالبہ کیا گیا ہے، تا کہ وہ اللہ کو ﴿خالق﴾ مان کر ﴿توحیدِ خالقیت﴾ کا، اللہ کو ﴿رب﴾ مان کر ﴿توحیدِ ربوبیت﴾ کا، اللہ کو ﴿إلٰہ﴾ مان کر ﴿توحیدِ الوہیت﴾ کا اور اللہ کو حاکم وشارع مان کر ﴿توحیدِ حاکمیت﴾ کا قائل ہو جائے۔

(a) اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارضی پر انسانی زندگی کی بقاء کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے ہیں۔ غور کرنے والے ان دلائلِ ربوبیت کی روشنی میں عقیدۂ توحید اختیار کر لیتے ہیں۔ وہی آسمان سے پانی برسا کر ہر قسم کے غلے اور پھل اگاتا ہے۔ لہٰذا غور و فکر سے کام لے کر اس کی ربوبیت کو تسلیم کر کے شکر کا رویہ اپنانا چاہیے۔ ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴾ (آیت:11)۔

(b) اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارضی پر انسانوں کے لیے جو چیزیں پھیلائی ہیں، ان میں یک رنگی نہیں، بلکہ ہمہ رنگی ہے۔ لذتِ دہن کے علاوہ لذتِ نظر کا بھی سامان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان دلائل کی روشنی میں اس کی قدرت وطاقت کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ (آیت:13)

﴿ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴾

(c) اللہ تعالیٰ ہی موسمِ خزاں کے بعد بارش کے ذریعے موسمِ بہار میں زمین کو دوبارہ زندہ کر کے سرسبز وشاداب کر دیتا ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس کی قدرت کا اعتراف کر لینا چاہیے اور آخرت کی جزاء وسزا کو بھی مان لینا چاہیے۔

﴿ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴾ (آیت:65)

(d) اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو خیر وشر کی آزادی عطا کی ہے۔ پھلوں کے ذریعے بعض لوگ حلال مشروبات تیار کرتے ہیں اور بعض لوگ نشہ آور چیزیں۔ عقل مند شکر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے رزقِ حسن پر قناعت کرتے ہیں، جب کہ بے وقوف رزقِ حرام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔

﴿ وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ﴾ (آیت:67)۔

(e) اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پیدا کی۔ پھر اسے حکم دیا کہ وہ مختلف پھولوں کا رس چوسے اور گلوکوز اور فرکٹوز پر مشتمل شہد بنائے، جس میں انسانوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ لہٰذا غور وفکر سے کام لینے والوں کو اللہ تعالیٰ کے دلائلِ حکمت، دلائلِ قدرت اور دلائلِ ربوبیت ورحمت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ (آیت:69)

﴿ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

(f) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ستاروں، چاند اور سورج کو مسخر کر کے ان کے گھومنے کا ایسا انتظام کیا ہے کہ یہ کرۂ ارض رات کو ٹھنڈا اور دن کو گرم ہو جاتا ہے، لہٰذا عقل رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طاقت وقدرت، حکمت ودانائی اور ربوبیت کا قائل ہو کر خالص توحید اختیار کرنا چاہیے۔

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ﴾ (آیت:12)

(g) اللہ تعالیٰ نے زمین وآسمان کے اندر ایسے قوانینِ توازن واستحکام بنائے ہیں کہ پرندے آسمانوں پر اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں، لہٰذا ان دلائل پر ایمان لانے والوں کو اس کی قدرتوں اور حکمتوں کو مان کر خالص توحید اختیار کرنی چاہیے۔

﴿اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ۭ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ﴾ (آیت:79)۔

(h) دلائلِ قرآنی ﴿آیاتُ اللّٰہ﴾ پر غور وفکر نہ کرنے والوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ دردناک عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ (آیت:104)

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

(i) عقل سے کام نہ لینے والے اور اللہ پر بہتان باندھنے والے جھوٹے لوگ ، دلائلِ قرآنی ﴿آیاتُ اللّٰہ﴾ پر ہرگز ایمان نہیں لا سکتے۔ (آیت:105)

﴿اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ﴾

3۔ قریشی قیادت کے اوصاف اور فردِ جرم:

اس سورت میں مسلمانوں کی ﴿متقی قیادت﴾ کے مقابلے میں قریش کی ﴿مشرک قیادت﴾ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔

(a) سورۃ النحل کی پہلی آیت ہی میں مشرکین کو صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بے عیب ذات تم لوگوں کے شرک سے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بہت بلند ہے۔ شرک اور مشرکین کے خاتمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آخری رسول ﷺ آخری کتاب کو لے کر آ چکے ہیں۔

﴿ اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴾ (آیت:1)۔

(b) اللہ تعالیٰ چونکہ آسمانوں اور زمین کا ﴿خالق﴾ ہے، اس لیے وہی معبود ہو سکتا ہے۔ اللہ کی کوئی مخلوق معبود نہیں ہو سکتی۔ مشرکین کے منسوب کردہ غلط عقائد سے اللہ کی بے عیب ذات بہت بلند و بالا ہے۔

﴿ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴾ (آیت:3)۔

(c) مشرکین کی الٹی منطق: مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ ہم اور ہمارے آباء واجداد اللہ کے ساتھ ﴿مِن دُوْنِهٖ﴾ کی بھی عبادت کریں اور اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم حلال وحرام کو چھوڑ کر کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَاۤ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴾ (آیت:35)۔

(d) روزِ قیامت مشرکین اپنے خداؤں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہی وہ ہستیاں تھیں، جنہیں ہم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے اور جن سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لیکن ان کی یہ باتیں ان پر پھینک دی جائیں گی کہ تم لوگ جھوٹے ہو، شریکوں نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔

﴿ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰۤؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴾ (آیت:86)۔

(e) اللہ تعالیٰ ہی ﴿كَاشِفُ الضُّرِّ﴾ ہے، یعنی وہی تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ خود مشرکین مکہ بھی مصیبت میں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ناشکری اختیار کر کے شرک کرنے لگتے ہیں۔

﴿ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴾ (آیت:54)۔

(f) شیطانِ لعین ابلیس کا زور تو بس ان لوگوں پر چلتا ہے، جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔

﴿ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ﴾ (آیت:100)۔

(g) مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ خود تمہارے جدِّ امجد حضرت ابراہیمؑ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے سچے اور یکسو فرمانبردار (سچے موحد تھے) مشرکین میں سے نہیں تھے۔

﴿ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ (آیت:120)

(h) رسول اللہ ﷺ پر اسی لیے وحی کی گئی کہ وہ یکسو ہو کر اپنے جدِّ امجد حضرت ابراہیمؑ کی پیروی کریں، جو مشرک

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نہیں تھے۔ (آیت:123)

﴿ ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

4۔ توحید کی تکمیل طاغوت کے انکار کے بغیر ناممکن ہے:

تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ انسانوں کو اللہ کی بندگی، عبادت اور اطاعت کا حکم دیں اور اپنے دور کی سرکش اور طاغوتی قوتوں کی اطاعت اور پیروی سے روکیں۔ (آیت:36)

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

5۔ ﴿مِن دُون اللہ﴾ اور ﴿غیرُ اللہ﴾ کے شرک کی تردید:

اس سورت میں ﴿اللہ﴾ اور ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ اور ﴿غیرُ اللہ﴾ کا تقابلی جائزہ لے کر شرک کی تردیدٗ کی گئی ہے۔

(a) ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ خود مخلوق ہیں، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ لہذا ان سے دعا مانگنا حرام ہے۔ اللہ خالق ہے، اسی سے مانگا جا سکتا ہے۔

﴿ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴾ (آیت:20)۔

(b) ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ کسی معمولی رزق کا اختیار بھی نہیں رکھتے اور نہ استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔

﴿ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ﴾ (آیت:73)۔

(c) ﴿غیرُ اللہ﴾ کا خوف اور تقوی ناجائز ہے، خوف اور تقوی تو صرف اللہ کا ہی اختیار کیا جا سکتا ہے، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور جس کی اطاعت اور فرمانبرداری ہمیشہ اور مسلسل ہم پر واجب اور لازم ہے۔ (آیت:52)

﴿ وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا، اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ؟﴾

(d) ﴿غیر اللہ﴾ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے۔ جانوروں پر صرف اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ (آیت:115)

﴿ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ﴾

6۔ ﴿انکارِ آخرت﴾ کی تردید اور اثبات آخرت کے دلائل:

اس سورت میں آخرت کے حوالے سے مشرکین مکہ کی قیادت کی سوچ کا جائزہ لے کر اثبات آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔

مشرکین مکہ اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی مرنے والوں کو ہرگز زندہ نہیں کرے گا۔ یہ ان کا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

عقیدۂ انکارِ آخرت تھا۔

﴿ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ﴾ (آیت:38)۔

(a) ﴿ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ جن سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وہ بے چارے تو بھی نہیں جانتے کہ وہ کب تک عالمِ برزخ میں پڑے رہیں گے؟ اور قیامت کب برپا ہوگی؟ اور کس دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟

﴿ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴾ (آیت:21)۔

(b) روزِ قیامت ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، کافروں کو نہ تو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ یہ فرمائش ہوگی کہ وہ اللہ کو راضی کرلیں۔ (آیت:84)

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴾

(c) روزِ قیامت ہر قوم میں سے ایک شہید یعنی گواہ اٹھایا جائے گا اور مشرکین مکہ کے خلاف رسول اللہ ﷺ کو بطورِ گواہ اٹھایا جائے گا (جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے) کہ انہوں نے آپ ﷺ اور قرآن کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے، جو سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴾ (آیت:89)۔

(d) آخرت پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کے دل (دعوتِ توحید کے لیے) منکر ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ﴿ مغرور اور متکبر ﴾ ہوتے ہیں۔

﴿ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴾ (آیت:22)۔

(e) متقی اور پرہیزگار لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے دارِ آخرت جنت ہے اور یہ ﴿ دارُ المتقین ﴾ ہے۔

﴿ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا خَيْرًا لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ (آیت:30)۔

(f) ہجرت کرنے والے مظلوم مسلمانوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ اور اجر دیا جائے گا۔

﴿ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ﴾ (آیت:41)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(g) آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے بری تمثیلیں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین تمثیل کیونکہ وہ بہترین صفات سے متصف ہے۔(آیت:60)

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

(h) کافروں کے لیے عذاب عظیم اور اللہ کا غضب ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی۔

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (آیت:107)

(i) آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہی آخرت میں لازماً خسارے اور نقصان سے دوچار ہو کر رہیں گے۔

﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (آیت:109)

(j) مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ ان کے جدِّ امجد حضرت ابراہیمؑ عقیدۂ توحید کی وجہ سے دنیا میں بھی بھلائیوں کے مستحق ٹھہرے اور آخرت میں بھی صالحین کے زمرے میں شامل ہوں گے۔

﴿وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (آیت:122)۔

7. قریشی قیادت کا غرور ﴿استکبار﴾:

اس سورت میں قریشی قیادت کے غرور کا پردہ چاک کیا گیا۔

(a) قریشی قیادت ﴿متکبر﴾ ہے، چنانچہ دعوتِ توحید کو مسترد کر چکی ہے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتی۔

﴿إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ" وَاحِدٌ" فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ" وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (آیت:22)۔

(b) قریشی قیادت کو بتایا گیا کہ اللہ ان کے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وہ ﴿متکبر﴾ لوگوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔(آیت:23)

﴿لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾

(c) قریشی قیادت کو خبردار کیا گیا کہ ان کے ﴿تکبر﴾ کا لازمی نتیجہ دوزخ کا دائمی عذاب ہوگا۔

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (آیت:29)

(d) قریشی قیادت کو سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی بندگی اور ان کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ زمین آسمان کی ہر چیز اس کی مطیع فرمان ہے۔

فرشتے بھی ہر دم اس کا حکم بجا لاتے ہیں اور وہ کسی قسم کے ﴿غرور و تکبر﴾ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔(آیت:49)

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یَسْتَكْبِرُوْنَ ﴾

(e) قریش کو ماضی سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا کہ پچھلی قوموں نے اپنے برے اعمال کا مزہ چکھا، وہ بھی اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے اور ﴿استہزاء﴾ سے کام لیتے۔

﴿ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ﴾ (آیت:34)۔

8۔ رسول اللہ ﷺ اور نو مسلم صحابہؓ کے اوصافِ تقویٰ:

اس سورت میں مسلمانوں کو ﴿ متقین ﴾ کے خطاب سے نوازا گیا ہے اور ان کے اجر کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

(a) توحید پرست ﴿ متّقی ﴾ اور محسن لوگوں کو دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کی جائیں گی اور جنت بھی۔ جنت ﴿دَارُ الْاٰخِرَةِ﴾ بھی ہے اور ﴿ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ بھی۔ ﴿ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَا ذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا خَيْرًا لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ" وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ" وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ﴾ (آیت:30)۔

(b) ﴿اللہ کا تقویٰ﴾ اختیار کرنے والے ﴿متقین﴾ کے لیے جنت کے باغات ہوں گے۔

﴿ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ (آیت:31)۔

(c) توحید کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ﴿اللہ کا تقویٰ﴾ اختیار کیا جائے۔ رسولوں پر ذمہ داری عائد کی جاتی ہے کہ وہ توحید اختیار کرنے کے لیے لوگوں میں ﴿ اِنذار ﴾ کریں، انہیں متنبہ اور خبردار کریں۔

﴿ يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ﴾ (آیت:2)۔

(d) مشرکین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ ﴿اللہ کا تقویٰ﴾ اختیار کرنے کے بجائے ﴿غیرُ اللّٰہ کا تقویٰ﴾ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ جب کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک ہے اور مسلسل لگاتار اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب اور لازم ہے۔ (آیت:52)

﴿ وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ، اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ؟ ﴾

(e) آخری آیت میں مسلمانوں کو تسلی اور بشارت دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس نہ کریں، اللہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ﴿اللہ کا تقویٰ﴾ اختیار کرنے والے اور حسنِ عمل سے کام لینے والے صاحب ایمان لوگ ہیں۔

﴿ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴾ (آیت:128)۔

9۔ ہجرت مدینہ کی بشارت اور ہجرت کی فضیلت:

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(a) مکے کے مظلوم مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر مدینہ منورہ میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ذہن نشین کرائی گئی کہ آخرت کا اجر ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

﴿ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾ (آیت:41)۔

(b) مکے کے مظلوم مسلمان کو جو آزمائشوں سے دوچار کیے گئے تھے، انہیں خوشخبری دی گئی کہ ہجرت مدینہ کے بعد جہاد اور صبر واستقامت سے کام لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحم اور اپنی مغفرت کی دولت سے نوازے گا۔

﴿ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ (آیت:110)۔

10۔ حضرت ابراہیمؑ کی طرح شکرانِ نعمت کا مطالبہ:

(a) اس سورت میں مشرکین مکہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے جدّ امجد اور توحید کے علمبردار حضرت ابراہیمؑ کی پیروی اختیار کرتے ہوئے شرک چھوڑ کر خالص توحید اختیار کریں۔ رزق حرام کے بجائے پاک اور حلال چیزیں استعمال کریں ناشکری کے بجائے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ جس کا شکر ادا کیا جارہا ہے، اسی کی عبادت ہو رہی ہے اور جس کی ناشکری کی جارہی ہے، اس کی عبادت کے دعوے بھی کھوکھلے ہیں۔

﴿ فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ﴾ (آیت:114)

(b) ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے قریش کو دھمکی دی گئی کہ ان کی ناشکریوں، نمک حرامیوں اور ملمع سازیوں کے سبب انہیں اللہ تعالیٰ بھوک اور خوف کے لباس کی سزا دے سکتا ہے۔ (آیت:112)

﴿ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ﴾

(c) قریش کو بتایا گیا کہ خود ان کے جدّ امجد حضرت ابراہیمؑ اللہ کی نعمتوں کے شکر گذار تھے، چنانچہ انہوں نے شرک کو ترک کر کے خالص توحید اختیار کی، اس لیے اللہ نے انہیں امامت کے لیے چن کر برگزیدہ کر دیا اور توحید کی صراطِ مستقیم پر گامزن کر دیا۔ لہٰذا انہیں بھی ناشکری چھوڑ کر توحید اختیار کرنا چاہیے۔

﴿ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ۭ اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾ (آیت:121)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

11۔ اللہ کے حقوق ادا کرنے اور ﴿ عهد الله ﴾ کی تکمیل کرنے کا مطالبہ:

(a) اللہ کے ساتھ کیے گئے ﴿عہد﴾ کو پورا کرنے کی ہدایت کی گئی۔

﴿ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا ﴾ (آیت:91)

(b) یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ دنیاوی مفادات اور چند ٹکوں کے لیے ﴿اللہ کے عہد﴾ کو پس پشت نہ ڈالا جائے۔

﴿ وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ﴾ (آیت:95)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

قریش کی مشرک قیادت اور صحابہؓ کی مسلم قیادت کا موازنہ

مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں سورۃ النحل کی آیات سے مسلم اور مشرک قیادت کا تقابل ایک اجمالی نظر میں ملاحظہ فرمایئے:

موضوع اور حوالہ جات	قریش کی مشرک قیادت	مسلمان قیادت
عقیدہ۔۔۔آیات:35،54،73، 86	قیادت مشرک ہے	قیادت موحد ہے۔(51)
توحید دعا۔۔۔آیات:17،20،21	جن ہستیوں سے دعا مانگی جاتی ہے، وہ مردہ ہیں، خالق نہیں ہیں۔	اللہ ہی خالق ہے، زندہ ہے، صرف اُسی سے دُعا کی جا سکتی ہے۔
اللہ اور طاغوت۔۔۔آیت:36	طاغوت کی اطاعت کرتی ہے۔	صرف اللہ کی بندگی کرتی ہے۔
عقیدۂ آخرت۔۔۔آیات:22،38، 60	قیادت منکرِ آخرت ہے۔	قیادت قائلِ آخرت ہے۔(41)
ترجیحات۔۔۔آیات: 107،109	دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی ہے	آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتی ہے۔
ظالم اور مظلوم۔۔۔آیات: 42، 110	قیادت ظالم ہے۔(42)	مظلوم ہے۔مجاہد ہے۔صابر ہے۔مہاجر ہے۔
تقویٰ اور تکبر آیات:22،23،29،52،30، 31،128	قریشی قیادت متکبر ہے۔ غیر اللہ کا تقویٰ اختیار کرتی ہے۔	مسلمان قیادت متقی، محسن اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتی ہے
عجلت پسندی اور صبر۔۔۔آیات: 1، 42	قیادت عجلت پسند ہے(1)	قیادت صابر و متوکل ہے۔(42)
ایفائے عہد اور عہد شکنی۔۔۔آیات: 90تا97	قیادت عہد شکن ہے۔	قیادت عہد کی پاسداری کرتی ہے۔
کفرانِ نعمت اور شکر آیات:112،114،121	مشرک قیادت ناشکری اور کفرانِ نعمت کے جرم کی مرتکب ہے	مسلم قیادت حضرت ابراہیمؑ کی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شاکر اور قدردان ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سُوْرَةُ النَّحل کا نظمِ جلی

سورۃ النحل چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 21 : پہلے پیراگراف میں، ثابت کیا گیا ہے کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے ﴿توحیدِ خالقیت﴾ کی عقلی دلیلیں پیش کی گئیں۔

وحی اور رسالت کا مقصد ﴿اِنذار﴾ یعنی تنبیہ ہے، تاکہ لوگ شرک سے بچ کر توحید اختیار کرلیں (آیت:2)

اللہ کو ﴿خالق﴾، پھر ﴿ربّ﴾، پھر ﴿اِلٰہ﴾ مان کر اسے حاکم بھی تسلیم کرلینا چاہیے۔

﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ چونکہ خالق نہیں، مُردہ ہیں، زندہ نہیں لاعلم ہیں، لہٰذا اِن سے دُعا مانگنا جائز نہیں۔ (آیت 21)

2- آیات 22 تا 34 : دوسرے پیراگراف میں مشرکینِ مکہ کے خلاف فردِ جرم ہے کہ وہ مشرک ہیں، متکبر ہیں، آخرت کے منکر ہیں اور آخرت کا مذاق اڑانے والے ہیں، اس کے برخلاف متقی اہلِ ایمان صحابہؓ کا کردار اور ان کے اوصافِ حمیدہ کو اجاگر کیا گیا۔

مشرکینِ مکہ منکرینِ آخرت متکبر ہیں۔ اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ (آیت:23)

قرآن کو اساطیر الاولین (پرانے افسانے) کہہ کر اُڑا دیتے ہیں۔ اور دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی اپنے سر لیتے ہیں۔ اور عذاب کے مستحق ہیں۔ (آیت:25) مشرک، کافر اور متکبر ہیں۔ (آیت:29)

3- آیات 35 تا 89 : تیسرے پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ ہر قوم میں رسول بھیجے جاتے ہیں اور تمام رسول ﴿اللہ کی عبادت﴾ کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے وقت کی سرکش اور طاغوتی قوتوں سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ (آیت:36)

مشرکینِ مکہ کا جرم یہ ہے کہ یہ منکرینِ رسالت و آخرت ہیں۔ ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا (آیات 37 تا 40)

مظلوم، صابر متوکل مسلمانوں کے لیے بشارت دی گئی کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ (آیات 41 تا 42)

رسول اللہ ﷺ پر بشریت کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ (آیت:48)

منکرینِ رسالت کو تنبیہ اور منصبِ رسالت کی وضاحت کی گئی۔ (آیات 43 تا 47)

اثباتِ توحید اور تردیدِ شرک کے دلائل۔ امکانِ آخرت کے دلائل دیے گئے۔ (آیات 48 تا 60)

مشرکینِ مکہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کے عقیدے کا رد کیا گیا۔ لڑکیوں کے قتل کے جرم پر غضب کا اظہار ہوا

رسول اللہ ﷺ پر نزولِ قرآن کی حکمتوں کی وضاحت کی گئی کہ یہ ہدایت و رحمت ہے (آیات 61 تا 65)

اثباتِ توحید و آخرت اور تردیدِ شرک کے مزید دلائل دیے گئے۔ (آیات 66 تا 83)

مناظرِ قیامت سے مشرک منکرینِ آخرت کو تخویف کی گئی۔ (آیات 84 تا 89)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4- آیات 90 تا 119 : چوتھے پیراگراف میں، اللہ اور بندوں کے حقوق کے اہتمام کی ہدایت کی گئی۔

تین چیزوں کو کرنے کا حکم اور تین چیزوں سے بچنے کا حکم۔ اللہ کے بعد والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔

(آیت:90)۔﴿ عهد الله ﴾ کے پاس ولحاظ کی ہدایت۔ (آیات:91 تا 97)

ابلیس کے شر سے بچنے کا حکم۔ (آیات 98 تا 105)

رسول اللہ ﷺ پر بشریت اور افترٰی کے الزامات کا جواب دیا گیا۔ (آیت 103)

ہجرت کرنے والے مظلوم صابر مسلمانوں کا اجر مغفرت کا وعدہ ہے۔ (آیت 110)

مظلوم مسلمانوں کو کلمۂ کفر کی رخصت، دی گئی بشرطیکہ دل میں کامل ایمان ہو اور مہاجرین کے درجات بیان کیے گئے۔

ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے قریش کی قیادت کو کفرانِ نعمت کی سزا سے تخویف کی گئی۔ (112 تا 113)

حلال وحرام کے اَحکام بتا کر ﴿توحید حاکمیت﴾ کی وضاحت کی گئی۔ (آیات 114 تا 119)

5- آیات 120 تا 124: پانچویں پیراگراف میں، سیرتِ ابراہیمؑ سے توحید اور شکر پر استدلال کیا گیا ہے۔

قریشِ مکہ کو اپنے جدِ امجد حضرت ابراہیمؑ کی طرح، کفرانِ نعمت سے بچ کر، موحد اور شکرگذار بننے کی ہدایت دی گئی۔

6- آیات 125 تا 128: چھٹے اور آخری پیراگراف میں، دعوت کے آداب بیان کیے گئے۔

(a) دعوت اللہ کے راستے کی ہو۔ ﴿سَبِيلِ رَبِّكَ﴾

(b) دعوت حکمت کے ساتھ ہو۔ ﴿بِالْحِكْمَةِ﴾

(c) دعوت موعظت حسنہ کے ساتھ ہو۔ ﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

(d) دعوت جدال حسن کے ساتھ ہو۔ ﴿وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

(e) شر کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾

(f) صبر واستقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ ﴿وَاصْبِرْ﴾

(g) مکر اور سازشوں سے آزردہ نہ ہونے کی ہدایت دی گئی۔ ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾

(h) تقویٰ سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔

(i) احسان سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

خالق اور مخلوق ﴿الله﴾ اور ﴿مِن دُون الله﴾ برابر نہیں ہو سکتے۔ منکرینِ توحید و رسالت و آخرت سے مجادلہ کرتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کے احساس کی روشنی میں، انہیں طاغوت سے بچ کر ﴿الله﴾ کو پہلے خالق، پھر ربّ، پھر الٰہ اور حاکم و آمر ماننے اور آخرت پر یقین لانے کی دعوت دی گئی۔ مسلمانوں کو صبر، تقویٰ، حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — MACRO-STRUCTURE

ترتیبی نقشہ ربط — نظمِ جلی

17- سُوْرَۃُ بَنِیْ اِسْرَاءِ یْل

آیات : 111 ...... مَکِّیَّۃ" ...... پیراگراف : 10



زمانۂ نزول:

سورۃ ﴿ بنی اسرائیل ﴾ کا دوسرا نام ﴿ سورۃُ الاسراءِ ﴾ ہے۔

﴿ اِسرَاء ﴾ کا مطلب رات کا سفر ہے، (جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک جانے اور پھر لوٹنے پر مشتمل تھا)۔

یہ سورت معراج کے موقع پر، غالباً 12 نبوی میں، ہجرت سے ایک سال پہلے نازل ہوئی، جب قریشی قیادت رسول اللہ ﷺ کے خلاف اِخراج اور قتل کی سازشیں کررہی تھی۔ معراج کے سفر کے موقع پر، حضرت جبریلؑ نے رسول ﷺ کو مدینہ منورہ بھی دکھایا، جس کی طرف ہجرت کا اشارہ، آیت نمبر 80 میں موجود ہے۔ صحیح اقوال کے مطابق معراج کا واقعہ، رجب 12 نبوی میں پیش آیا تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ بنی اسرائیل کے فضائل

حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں:

﴿كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ عَلٰى فِرَاشِهٖ حَتّٰى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ﴾

"رسول اللہ ﷺ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کی تلاوت کے بغیر، اپنے بستر پر نہیں سوتے تھے۔"

(سنن ترمذی: کتاب فضائل قرآن، حدیث 2,920، حسن غریب)

سورۃ بنی اسرائیل کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿النحل﴾ میں ہجرتِ مدینہ کی پیش گوئی اور فضیلت تھی۔ (آیات: 41 اور 110)

یہاں سورۃ بنی اسرائیل میں باقاعدہ ہجرت کی دُعا سکھائی گئی ہے (آیات 80 اور 81)۔

2۔ سورت بنی اسرائیل میں ہجرتِ مدینہ کے بعد، اسلامی حکومت کے قیام کی بشارت بھی ہے اور اس کے بنیادی اُصولوں کی وضاحت بھی۔

علاوہ ازیں تورات کے اَحکامِ عشرہ کی طرح، آخری اُمت کو احکام دیے گئے ہیں، تاکہ ایک اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد رکھی جا سکے۔

3۔ اگلی سورت ﴿الکھف﴾ میں بتایا گیا کہ نزولِ قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے اہل کتاب کو متنبہ اور خبردار کیا جائے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر لی ہے۔

﴿ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا﴾ (آیت: 4)۔

یہاں سورت ﴿بنی اسرائیل﴾ میں ان کے عروج و زوال کی مختصر روداد بیان کی گئی ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ سورۃ بنی اسرائیل میں قرآنِ مجید کی خصوصیات اور فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں مشرکین کے رویے بھی بیان کیے گئے۔

(a) قرآن ایک ایسے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، جو بالکل سیدھا ہے۔

﴿إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (آیت: 9)۔

(b) قرآن میں لوگوں کی تذکیر و نصیحت کے لیے ﴿تصریف﴾ سے کام لیا گیا ہے۔ اس کے باوجود کافروں کی نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ (آیت: 41)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴾

(c) قرآن میں ﴿تصریف﴾ کے ذریعے حکیمانہ حقیقتیں بیان کر کے انسانوں پر اتمامِ حجت کردی گئی ہے۔ ﴿تصریف﴾ کا مطلب مختلف اسالیب اور مختلف پیرایوں میں ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کرنا ہے، اس کے باوجود اکثر لوگ انکار کی روش پر قائم ہیں۔ (آیت:89)

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴾

(d) قرآن ایک دودھاری تلوار ہے۔ مؤمنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالمین کے نقصان میں اضافے کا سبب ہے۔

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴾ (آیت:82)۔

(e) قرآن صرف مؤمنینِ آخرت کے لیے ہدایت ہے، ﴿منکرینِ آخرت﴾ کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔

﴿ وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ﴾ (آیت:45)

(f) نمازِ فجر کی تلاوتِ قرآن کی گواہی کے لیے فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ ﴿ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ، وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ، اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴾ (آیت:78)۔

(g) قرآنِ مجید کو لوحِ محفوظ سے رسول کریم ﷺ کے قلبِ اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے تیئیس (23) سال کے عرصے میں نہایت اہتمام سے اتارا گیا ہے، تاکہ آپ ﷺ صحابہؓ کو ٹھہر ٹھہر کر قرآن سناتے جائیں۔

﴿ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ، وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴾ (آیت:106)۔

(h) قرآن میں جب صرف ایک خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو مشرک لوگ نفرت سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔

﴿ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ بِالْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ، وَلَّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴾ (آیت:46)۔

(i) مشرکینِ مکہ نے واقعۂ معراج اور قرآن میں بیان کردہ دوزخ کے نچلے حصے میں اگنے والے درخت ﴿زقوم﴾ کا مذاق اڑایا۔

اللہ نے انہیں خانۂ کعبہ کی تولیت سے معزولی اور دوزخ کی سزا سے ڈرایا، لیکن ان کی سرکشی اور طغیانی میں اور اضافہ ہوتا گیا۔

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ وَنُخَوِّفُهُمْ، فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾ (آیت:60)۔

(j) قرآن کا چیلنج ہے کہ تمام انسان اور تمام جنات ایک دوسرے کے مددگار بن کر قرآن کی طرح کا کوئی کلام تصنیف

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ ﴿خالق کا کلام﴾ بھی ﴿مخلوق کے کلام﴾ کی طرح ہرگز نہیں ہوسکتا۔

﴿قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا﴾ (آیت:88)۔

2۔ سورۃ ﴿بنی اسرائیل﴾ میں ایک خاص لفظ ﴿اِسْتِفْزَاز﴾ تین (3) مرتبہ استعمال ہوا ہے۔

﴿اِستِفزاز﴾ کا لفظ صرف اسی سورت میں استعمال ہوا ہے۔اس لفظ کا مطلب زمین سے بے دخل کرنا اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔

(a) اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو چیلنج کیا کہ وہ اپنی دعوت سے حسبِ استطاعت انسانوں کو اللہ کی اِطاعت سے بے دخل کرنے کی کوشش کر دیکھے ،ان پر اپنی پیادہ اور گھڑ سوار فوج سے حملہ کر کے دیکھے ،ان کے اَموال واولاد میں ساجھی بن جائے اور انہیں جھوٹے وعدوں کے فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے (لیکن اللہ کے نیک بندوں پر ابلیس کے ان سارے ہتھکنڈوں کا زور نہیں چل سکے گا)۔

﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا﴾ (آیت:64)۔

(b) فرعون ایسا ظالم ڈکٹیٹر تھا، جو بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین میں جڑ سے اکھاڑنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے فوجی کمانڈروں کو غرق کر کے ہلاک کر دیا۔﴿فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا﴾ (آیت:103)۔

(c) قریشِ مکہ بھی (فرعون کی طرح) رسول اللہ ﷺ کو مکے کی سرزمین سے ﴿اِستِفزاز﴾ بے دخل (Up-root) کرنا چاہتے تھے ،انہیں خبردار کیا گیا کہ ایسی صورت میں یہ بھی بہت دیر تک آپ کے بعد اپنے قدم نہیں جما سکیں گے۔

﴿وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ (آیت:76)

3۔ ﴿بنی اسرائیل﴾ کے خلاف فردِ جرم اور انہیں دعوتِ اسلام۔

(a) بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر ﴿توراۃ﴾ نازل کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ﴿وکیل﴾ بنا کر شرک نہ کیا جائے۔ (آیت:2)

﴿وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلًا﴾

(b) بنی اسرائیل کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین پر دو مرتبہ فساد برپا کریں گے اور تکبر اور بڑائی کا مظاہرہ کریں گے۔

﴿وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تَکۡبِیۡرًا﴾ (آیت:4)۔

(c) بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کو ایک سحرزدہ ﴿مسحور﴾ آدمی قرار دیا تھا، حالانکہ وہ نو(9) معجزات لے کر آئے تھے۔ ﴿وَلَقَدۡ اٰتَیۡنَا مُوۡسٰی تِسۡعَ اٰیٰتٍۭ بَیِّنٰتٍ فَسۡـَٔلۡ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اِذۡ جَآءَہُمۡ فَقَالَ لَہٗ فِرۡعَوۡنُ اِنِّیۡ لَاَظُنُّکَ یٰمُوۡسٰی مَسۡحُوۡرًا﴾ (آیت:101)۔ یہی اعتراض بعد میں رسول اللہ ﷺ پر کیا گیا کہ وہ بھی ایک سحرزدہ ﴿مَسۡحُوۡر﴾ شخص ہیں۔(آیت:47)

(d) بنی اسرائیل سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب آخرت کے وعدے کا وقت آجائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر کے لائے گا۔ ﴿وَّقُلۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِہٖ لِبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اسۡکُنُوا الۡاَرۡضَ فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ الۡاٰخِرَۃِ جِئۡنَا بِکُمۡ لَفِیۡفًا﴾ (آیت:104)

4۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ﴿آخرت کے امکان پر تعجب﴾ اور اس کی سزا بھی بیان کر دی گئی۔

(a) ﴿منکرینِ آخرت﴾ تعجب کرتے تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟

﴿وَقَالُوۡۤا ءَاِذَا کُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَ خَلۡقًا جَدِیۡدًا﴾ (آیت:49)۔

(b) ﴿منکرینِ آخرت﴾ کو اوندھے منہ دوزخ کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔(آیت:98)

﴿ذٰلِکَ جَزَآؤُہُمۡ بِاَنَّہُمۡ کَفَرُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَقَالُوۡۤا ءَاِذَا کُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَ خَلۡقًا جَدِیۡدًا﴾

5۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ﴿وکیل﴾ کے لفظ کا استعمال۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ﴿وکیل﴾ کا بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ سرپرست اور کارساز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس پر کامل بھروسہ اور ﴿توکّل﴾ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی مکمل اختیارات رکھتا ہے۔ ایسے اختیارات کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہیں۔ لہٰذا اسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ رحمت اور عذاب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ناگہانی آفات سے بچا سکتا ہے۔ یہ توحید اختیار کا مضمون ہے۔

(a) اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو صاف بتا دیا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا اور اللہ تعالیٰ کا اختیار سب پر حاوی ہے اور وہی ﴿وکیل﴾ بنائے جانے کا حق دار ہے۔ انسانوں کے لیے اس کی سرپرستی کفایت کرتی ہے۔

﴿وَکَفٰی بِرَبِّکَ وَکِیۡلًا﴾ (آیت:65)۔

(b) تورات میں بنی اسرائیل کو ہدایت کی گئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ﴿وکیل﴾ یعنی بااختیار اور کارساز نہ بنایا جائے۔ یہ توحید اختیار کا مطالبہ تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَكِیْلًا ﴾ (آیت:2)۔

(c) اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی کہ اگر وہ کسی ناگہانی عذاب سے دوچار کردے تو پھر تم لوگ اپنے لیے کوئی ﴿وکیل﴾ یعنی بچانے والا نہیں پا سکتے۔

﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِیْلًا ﴾ (آیت:68)۔

(d) رسول کریم ﷺ کو بتایا گیا کہ وہ بھی مشرکینِ مکہ پر ﴿وکیل﴾ نہیں ہیں، عذاب وثواب کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم یا عذاب کا اختیار رکھتا ہے۔ ﴿ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ وَكِیْلًا ﴾ (آیت:54)۔

(e) رسول کریم ﷺ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپؐ پر نازل کردہ وحی کو بھی چھین سکتا ہے، پھر خود رسول اللہ ﷺ بھی اللہ کے مقابلے میں کسی اور ہستی کو ﴿وکیل﴾ نہیں پا سکتے (جو چھینی ہوئی وحی کو واپس دلا سکے)۔ ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَیْنَا وَكِیْلًا ﴾ (آیت:86)۔

سورۃ بنی اسرائیل کا نظمِ جلی

سورۃ بنی اسرائیل دس (10) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 10: پہلے پیراگراف میں، بنی اسرائیل کے عروج وزوال کی تاریخ بتا کر انہیں اور مشرکینِ مکہ کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے اور فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کی بشارت بھی۔

﴿اسراء﴾ کے سفر میں رسول اللہ ﷺ کو بہت سارے مشاہدات سے نوازا گیا۔ قریشی قیادت کو سمجھایا گیا کہ انہیں بنی اسرائیل کے عروج وزوال سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو خالص توحید اختیار کرنے اور اللہ ہی کو ﴿وکیل﴾ بنانے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن وہ ناشکرے تھے۔ انہوں نے دو (2) بار فساد برپا کیا۔

(a) حضرت طالوتؑ، حضرت داودؑ اور حضرت سلیمانؑ کے زمانے میں (1,004 تا 926 قبل مسیح) انہیں عروج حاصل تھا پھر ان میں شرک، قبائلی عصبیت اور دیگر برائیاں پیدا ہوتی گئیں۔ ان کی بداعمالیوں کے سبب آشوریوں نے 721 قبل مسیح میں دولتِ اسرائیل کا خاتمہ کردیا۔ ہزاروں اسرائیلی قتل کیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے مال واولاد میں اضافہ کیا اور ایک مشروط پیش کش کی کہ سدھر جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

﴿اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ، وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا﴾ لیکن انہوں نے دوسری مرتبہ فساد برپا کیا۔

(b) حضرت یحییٰؑ کو قتل کردیا۔ حضرت عیسیٰؑ کو قتل کرنے کی کوشش کی اور دیگر کئی برائیوں میں گرفتار ہوگئے۔ جس کی پاداش میں رومی سلطنت کے فرماں روا ٹائٹس (Titus) نے 70 عیسوی میں ہزاروں لوگوں کو قتل کرکے بیت المقدس کو تباہ وتاراج کردیا۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد انہیں وارننگ دی گئی ﴿وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ﴾ کہ اگر

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اب بھی تم فساد برپا کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد داخلِ جہنم ہو کر رہو گے۔

2- آیات 11 تا 22 :دوسرے پیراگراف میں، انسان کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔

انسان کی کامیابی اور ناکامی کے اصول بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی اچھی اور بری تقدیر لٹک رہی ہے۔ اسے خیر وشر کی آزادی حاصل ہے۔ ہدایت قبول کرلے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، گمراہ ہونے پر اس کا اپنا نقصان ہے۔ ﴿ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾۔

قوموں کی ہلاکت کے دو (2) اصول بیان کیے گئے۔ پہلا یہ کہ رسول کی بعثت اور اتمام حجت کے بغیر قوموں کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ دوسرا یہ کہ ہلاکت سے پہلے قوم کے ﴿ مُتْرَفِيْن ﴾ یعنی خوشحال قیادت کو نیکی کے احکام دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں تباہ وتاراج کر دیا جاتا ہے۔ مادہ پرستوں کے لیے دوزخ ہے۔ ایمان لا کر نیک اعمال کی کوشش کرنے والوں کے لیے جنت۔ آخرت کی زندگی درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی اور فضیلت رکھنے والی ہے، لہذا انسان کو عقیدۂ توحید قبول کر کے آخرت پر ایمان لانا چاہیے اور نیک اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔

3- آیات 23 تا 39 :تیسرے پیراگراف میں، اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے بنیادی اُصول بیان کیے گئے۔

اس حصے میں تورات کے احکامِ عشرہ کی طرح، دین کی بنیادی تعلیمات کی وضاحت کی گئی۔

اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد ﴿ عقیدۂ توحید ﴾ پر ہے، چنانچہ اس پیراگراف کا آغاز اور اختتام توحید کی دعوت پر ہوا ہے۔ توحید اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے بعد ﴿ والدین کے حقوق ﴾ ہیں، جن سے حسنِ سلوک لازمی ہے۔ والدین کے بعد ﴿ رشتہ داروں ﴾ کے ساتھ حسنِ سلوک ضروری ہے۔ ﴿ فضول خرچی ﴾ سے بچنے کا حکم دیا گیا، ورنہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جاسکتے۔ قتلِ اولاد کو حرام ٹھہرایا گیا اور اس کے ساتھ زنا کو بھی۔ اسلام نے نکاح کی ترغیب دی ہے، جس سے ایک صالح معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ قتلِ نفس کو حرام ٹھہرایا گیا۔ مظلوم مقتول کے ورثاء کی سرپرستی اور یتیموں کے مال کی حفاظت کو اخلاقی اور قانونی طور پر فرض قرار دیا گیا۔ عہد کی پاسداری کا حکم دیا گیا۔ روزِ قیامت کان آنکھ اور دل ودماغ کی باز پرس ہوگی۔ ناپ تول میں عدل وانصاف کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ علم کے بغیر کسی چیز کے پیچھے لگنے سے منع کر کے اوہام، شبہات، قیاس وگمان اور بے بنیاد الزامات کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ زمین پر اکڑ کر چلنے اور اقتدار کے نشے میں گرفتار ہونے سے روکا گیا، پھر آخر میں توحید کے مضمون کا اعادہ کرتے ہوئے شرک کی مذمت کی گئی اور اس کی سزا جہنم بتائی گئی۔

4- آیات 40 تا 60 :چوتھے پیراگراف میں، مشرکینِ مکہ کے عقائد کی تردید اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔

(a) عقیدۂ شرک کی تردید کی گئی کہ اہلِ کتاب ﴿ اللہ کے بیٹے ﴾ تجویز کرتے ہیں اور مشرکینِ مکہ فرشتوں کو ﴿ اللہ کی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بیٹیاں ﴾ سمجھتے تھے۔ قرآن کی دعوتِ توحید کو سن کر ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے (آیت: 41)۔ انہیں توحید کی عقلی دلیل فراہم کی گئی کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہوتے تو وہ عرش والے پر تسلط کی کوشش کرتے۔ اللہ کی بے عیب ذات ان الزامات سے پاک ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی بے عیبی اور سبحانیت کا اعتراف کر رہی ہے، لیکن آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے مشرکینِ مکہ کے لیے توحید کی یہ دعوت حجاب بن گئی ہے، اُلٹا وہ نبی کریم ﷺ کو بھی، حضرت موسیٰ کی طرح سحر زدہ ﴿ مَسحُور ﴾ آدمی کہہ رہے ہیں (آیت: 47)۔

(b) مشرکینِ مکہ امکانِ آخرت پر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ کس طرح زندہ کی جاسکتی ہیں؟ (آیت: 49) انہیں عقلی جواب دیا گیا کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، یا کوئی اور چیز (راکھ، مٹی، دھواں یا عناصر) وہی اللہ، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ کب؟ بتایا گیا کہ قیامت قریب ہے۔

مشرکینِ مکہ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم بھی کر سکتا ہے اور ان پر عذاب بھی نازل کر سکتا ہے، اللہ ہی ﴿ وکیل ﴾ ہے، رسول اللہ ﷺ کو ان پر ﴿ وکیل ﴾ نہیں بنایا گیا۔ انہیں تاریخ سے سبق لینے اور ہلاک شدہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ فرشتوں اور ﴿ مِن دونِ اللّٰه ﴾ کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ وہ کسی آفت کو ٹال نہیں سکتے بلکہ وہ خود اللہ کے وسیلے، تقرب اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ سفرِ اسریٰ اور ﴿ زقّوم ﴾ پر مشرکینِ مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ یہ ان کے لیے آزمائش اور فتنہ ہیں۔

5- آیات 61 تا 70 : پانچویں پیراگراف میں، ابلیس کے دام اور بنی آدمؑ کی تکریم و تفضیل کا بیان ہے۔

(a) ابلیس نے (جو ایک جن ہے، جسے خیر و شر کی آزادی عطا کی گئی ہے) غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے آدمؑ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آدمؑ کی تکریم اور فضیلت پر حسد کرتے ہوئے اس نے عہد کیا کہ وہ آدمؑ کی اولاد کی بیخ کنی کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ تیرے تمام پیروکار داخلِ جہنم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو چیلنج کیا کہ (1) تو اپنے شور و غوغا سے ﴿ اِستفزاز ﴾ یعنی انہیں بے دخل کرنے کی کوشش کر لے (2) اپنی پیادہ اور سوار فوج سے حملہ کر کے دیکھ لے (3) ان کی مال و اولاد میں ساجھی بن کر دیکھ لے (4) اور انہیں آرزوؤں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر لے، ﴿ اِنَّ عِبَادِی لَیسَ لَكَ عَلَیهِم سُلطَان ﴾ میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ﴿ وکیل ﴾ یعنی کارساز اور با اختیار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔

(b) انسان کی ناشکری کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اسے با اختیار اور ﴿ وکیل ﴾ نہیں سمجھتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا سکتا ہے، طوفانی ہواؤں سے ہلاک کر سکتا ہے، غرق کر سکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) بنی آدمؑ کی تکریم اور فضیلت: بنی نوعِ انسان کی فضیلت اور تکریم بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خشکی اور پانی میں سواریاں عطا کیں، پاکیزہ رزق دیا اور اپنی بہت سی دیگر مخلوقات پر نمایاں فضیلت عطا فرمائی۔

6- آیات 71 تا 77: چھٹے پیراگراف میں، رسول ﷺ کے خلاف ﴿ اِستِفزاز فی الارض ﴾ کے منصوبوں کی ناکامی کی بشارت

(a) اس حصے میں قریشی قیادت کی چال بازیوں کا ذکر ہے کہ وہ رسول کریم ﷺ کو مکے سے ﴿ اِستِفزاز ﴾ یعنی بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ روزِ قیامت، قیادت (Leadership) کا احتساب ہوگا، ہر قوم کو اس کے ﴿ امام ﴾ یعنی لیڈر کے ساتھ پکارا جائے گا۔ نامۂ اعمال پڑھائے جائیں گے۔ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

(b) قریشی قیادت کے منصوبوں کو بے نقاب کیا گیا کہ وہ محمد ﷺ کو اللہ کی وحی سے ہٹا کر اپنا پکا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ اگر اللہ نے ثابت قدمی عطا نہ کی ہوتی تو آپ مشرکین کی طرف جھک جاتے اور دگنے عذاب کے مستحق ہو جاتے۔ پیراگراف کے آخر میں اللہ کی سنت بیان کی گئی کہ جو قوم اپنے رسول کو بے دخل کرتی ہے، وہ خود بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔

7- آیات 78 تا 82: ساتویں پیراگراف میں، نماز، قرآن، تہجد اور تعلق باللہ کی ہدایات ہیں۔

(a) اس حصے میں نماز کی پابندی کے اہتمام کی ہدایت ہے۔ فجر کی مشہود نماز کی خاص تاکید کی گئی کہ یہ حضوری کی نماز ہے۔ نمازِ تہجد میں طویل قراءتِ قرآن کا حکم دیا گیا کہ یہ مقامِ محمود کی ضامن ہے۔

(b) رسول اللہ ﷺ کو مکے سے مدینے کی طرف ﴿ ہجرت کی دعا ﴾ سکھائی گئی اور مدینۂ منورہ میں ایک صالح اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اللہ کی خاص مدد پر مشتمل، حمایت اور قوت عطا کیے جانے کی دعا بھی سکھائی گئی کہ اب باطل مٹنے والا ہے اور حق دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ یہاں مدینۂ منورہ میں اسلامی حکومت کے قیام اور فتح مکہ اور ساری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کی بشارت ہے۔ یہ ساری کامیابیاں نماز، قرآن اور تعلق باللہ کے نتیجے میں ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔

(c) دودھاری قرآن، اہلِ ایمان کے لیے نہ صرف شفا بلکہ رحمت ہے، جب کہ یہ ظالموں کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔

8- آیات 83 تا 100: آٹھویں پیراگراف میں، ﴿ مشرکین کے اعتراضات کا جواب ﴾ اور قرآن جیسا کلام لے آنے کا ﴿ چیلنج ﴾ ہے۔

(a) انسانی نفسیات بیان کی گئیں کہ وہ نعمتوں پر پھول جاتا ہے اور آزمائشوں میں مایوس۔ رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ قرآن مجید ایک بہت بڑی رحمت اور اللہ کا فضل ہے۔ چیلنج کیا گیا کہ تمام انسان اور تمام جن ایک دوسرے کی معاونت کر کے بھی اس طرح کا کوئی قرآن تصنیف نہیں کر سکتے (آیت:88)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مشرکین کو سمجھایا گیا کہ زندہ معجزہ قرآن کی موجودگی میں، حسّی معجزات کے مطالبہ سراسر احمقانہ ہے۔

(b) مشرکین کے اعتراضات اور مطالبات نقل کیے گئے کہ وہ اس وقت تک رسول اللہ ﷺ کو رسول تسلیم نہیں کریں گے، جب تک وہ (1) زمین سے کوئی چشمہ پھاڑ کر نہ دکھا دیں (2) انگور اور کھجور کا کوئی باغ آپؐ کے پاس ہو، جس میں نہریں ہوں (3) یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر دکھائیں (4) یا اللہ کو لا کر دکھائیں (5) یا فرشتوں کو سامنے لا کھڑا کر دیں (6) یا آپؐ کے لیے سونے کا گھر ہو جائے (7) یا آسمان پر چڑھ جائیں (8) پھر کوئی ایسی کتاب اتار کر دکھائیں جسے مشرکین خود پڑھ سکیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کسی رسول کے پاس ایسے اختیارات نہیں ہوتے۔ یہ اختیار تو صرف اللہ کا ہے۔ رسول اللہ ﷺ تو ایک انسان بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔

(c) اعتراض کیا گیا کہ کسی فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ جواب دیا گیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتہ رسول بھیجا جاتا۔ انسانوں کے لیے انسانی رسول بھیجا گیا ہے۔

(d) اعتراض کیا گیا کہ آخرت کیسے ممکن ہے؟ جواب دیا گیا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، جو انسان پیدا کر کے دکھا چکا ہے، وہی اسی طرح انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔

9- آیات 101 تا 104: نویں پیراگراف میں، ﴿قریشی قیادت﴾ کو بتایا گیا کہ ان کے رویے بھی ﴿فرعون﴾ کی طرح ہیں

(a) اس پیراگراف میں قریش کے لیڈروں کو دھمکی دی گئی ہے کہ فرعون کی طرح ان کی بھی شامت آسکتی ہے۔ ان کے رویے بھی رسول ﷺ کے ساتھ بالکل اسی طرح کے ہیں، جس طرح فرعون کے رویے حضرت موسیٰؑ کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰؑ کو بھی سحرزدہ ﴿مسحور﴾ کہا گیا تھا۔ (آیت: 101)

(b) فرعون نے بھی حضرت موسیٰؑ کے ﴿استفزاز مِنَ الْاَرْضِ﴾ کی کوشش کی تھی، یعنی انہیں زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کا ساتھ دینے والی فوجوں کو غرق کر دیا۔ (آیت: 103)

10- آیات 105 تا 111: آخری پیراگراف میں، قرآن پر ایمان لانے اور خالص عقیدۂ توحید اختیار کرنے کی ہدایت ہے

(a) رسول کریم ﷺ کو بشیر و نذیر بنا کر، آپؐ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج نازل کیا گیا ہے، تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں۔

(b) قرآن کے بارے میں اہل علم کا رویہ:

مشرکین کو غیرت دلائی گئی کہ اہل علم اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرتے ہیں۔

(c) نماز میں قرآن کو درمیانی آواز کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(d) آخری آیت میں اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرنے کی ہدایت کی گئی، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے اور نہ وہ ایسا عاجز اور کمزور ہے کہ اسے کسی مددگار اور پشتی بان کی ضرورت ہو۔

مرکزی مضمون

عقیدۂ توحید اور اللہ پر ﴿ تــوکّـــل ﴾، ثابت قدمی اور ہجرت کے نتیجے میں ریاستِ مدینہ، فتحِ مکہ اور فتحِ بیت المقدس کی بشارت۔ فرعون کی طرح، قریشی قیادت بھی رسول اللہ ﷺ کا مکے سے ﴿ استِـــفْــزاز ﴾ یعنی بے دخلی چاہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود انہیں غیر مستحکم (Up-Root) کر دے گا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART　　　　　　　　　　　　MACRO-STRUCTURE

ترتیبی نقشہ ربط　　　　　　　　　　　　نظمِ جلی

18- سُورَۃُ الکَھفِ

آیات : 110 ...... مَکِّیَّۃٌ ...... پیراگراف : 6



زمانہ نزول:

سورت ﴿الکھف﴾، سورت ﴿الزُّمر﴾ کے نزول سے پہلے اور ہجرتِ حبشہ (رجب 5 نبوی) سے پہلے ، 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی، جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے۔ حبش کے عیسائیوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لئے مسلمانوں کی تربیت کی گئی اور نوجوان صحابہؓ کو اصحابِ کہف کی طرح، توحید کی آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے اور قریش کے ظالم سرداروں اور مشرک والدین کے دباؤ میں نہ آنے کی تعلیم دی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

فضائل سُورۃ الکھف

اس سورت کی فضیلت میں رسول اللہ ﷺ سے کئی احادیث مروی ہیں۔

1- ﴿ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ ﴾

(صحیح مسلم عن ابی الدرداء، 1,919)

"جو شخص سورۃ ﴿الکھف﴾ کی ابتدائی دس آیات محفوظ رکھے گا، وہ دجال سے محفوظ رہے گا"

2- ﴿ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ الْكَهْفِ ، عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ﴾

(ترمذی: عن ابی الدرداء، 2,868 ، صحیح)

"جو شخص سورۃ ﴿الکھف﴾ کی پہلی تین آیات پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا"

3- ﴿ فَمَنْ اَدْرَكَهٗ مِنْكُمْ ، فَلْيَقْرَاْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ ، فَاِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهٖ ﴾

(ابو داود :4,323 ، صحیح)

"تم میں سے جو شخص دجّال کو پائے، اسے چاہیے کہ وہ سورۃ ﴿الکھف﴾ کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجّال کے فتنے سے پناہ دینے والی سورت ہے۔"

(غالباً دجّال کا دجل وفریب، انسان کو زینتِ دنیا میں مبتلا کر کے، آخرت اور قیامت کے خوف سے بے نیاز کر دے گا)

4- "ایک شخص نے سورۃ ﴿الکھف﴾ کی تلاوت کی، جب کہ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا تھا۔ گھوڑا بدکنے لگا اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آسمان پر ایک دھند، یا ایک بادل چھایا ہوا ہے۔ اُس شخص نے اس واقعے کا ذکر نبی ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿ فَاِنَّهَا السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْاٰنِ اَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْاٰنِ ﴾

"یہ سکینت (اطمینان کی روشنی) تھی، جو قرآن کے پڑھنے سے، یا قرآن پڑھتے وقت نازل ہوئی"۔

(صحیح مسلم: عن براء بن عازب، کتاب صلاۃ المسافرین، باب 36 ، 1,893)

5- ﴿ مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، اَضَاءَ لَهٗ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ﴾

(سنن البیہقی :کتاب الجمعۃ، عن ابی سعید الخُدریؓ ، حدیث 5,792)

"جو شخص جمعہ کے دن سورۃ ﴿الکھف﴾ پڑھے، اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے"

(یعنی سورۃ ﴿الکھف﴾ کی تعلیمات کا نور، ایک ہفتے تک اُس کے دل ودماغ پر رہے گا اور وہ دنیا اور دنیا کی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زینت کے فتنوں سے محفوظ رہے گا)۔

6- ﴿مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلٰى مَكَّةَ، وَمَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا، ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يَضُرَّهُ﴾

(معجم الاوسط للطبرانی: جز دوم، حدیث 1,455)

"جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، روزِ قیامت اس کے لیے اس کی رہائش سے مکہ تک ایک نور ہوگا اور جو آدمی آخری دس آیات پڑھتا ہے، وہ دجال کے خروج پر اُس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔

سُورَۃُ الکَہف کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿بنی اسرائیل﴾ میں، اسلامی معاشرے اور عادلانہ اسلامی ریاست کی اساسات کا ذکر تھا۔ یہاں سورت ﴿الکہف﴾ میں اس راستے کی کٹھن منزلوں اور ایک عادل بادشاہ ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ عادلانہ معاشرہ اور عادلانہ ریاست اُسی وقت قائم ہوسکتی ہے، جب فدا کاروں کی ایسی جماعت وجود میں آجائے، جو توحید اور ﴿لِقاء﴾ یعنی ملاقاتِ رب پر بھی کامل یقین رکھتی ہو اور جو زندگی کے ہر امتحان میں اپنے حسنِ عمل سے کامیاب ہوسکتی ہو۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

سورت ﴿الکہف﴾ میں بعض اہم الفاظ ہیں، جو بار بار دہرائے گئے ہیں۔ ان کلیدی الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لینے سے سورت کو سمجھنا آسان ہوجاتا ہے۔ جیسے: ﴿لِنَبْلُوَهُمْ﴾، ﴿زِيْنَت﴾، ﴿لِقاء﴾، ﴿الحَيٰوةُ الدُّنيا﴾، ﴿وَلِي، اَوْلِيَاء، وَلَايَت﴾

1- اس سورت میں ﴿زِيْنَت﴾ کا لفظ، تین (3) مرتبہ، آیات: 7، 28 اور 46 میں استعمال ہوا ہے۔

(a) زمین کی ساری ﴿زِيْنَت﴾ کا مقصد، انسانوں کے حُسنِ عمل کی آزمائش ہے۔ (آیت: 7)۔ یہی اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

(b) رسول اللہ ﷺ کو تین (3) ہدایات دی گئیں۔ (1) صحابہؓ سے چمٹے رہنے (2) دنیا کی ﴿زِينت﴾ سے بچنے اور (3) اور کافر قیادت سے نہ دبنے کی ہدایت۔ (آیت: 28)

﴿تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

(c) مال اور اولاد بھی، دنیاوی زندگی کی ﴿زِينت﴾ ہیں۔ (آیت: 46)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا﴾

2- اس سورت میں اللہ کی ﴿ وَلایت ﴾ کو ثابت کیا گیا ہے اور ﴿غَیرُ اللّٰہ ﴾ کے ﴿ اَولیاء ﴾ ہونے کے بارے میں کافروں کے عقیدے کا ابطال کیا گیا ہے۔﴿ وَلی ، اَولیاء ، وَلایت﴾ کے الفاظ کئی بار استعمال ہوئے ہیں۔(آیات:17،26،44،50اور102)

(a) جس کو اللہ گمراہ کردے، اُس کے لیے کوئی ﴿وَلی﴾ اور ﴿مُرشد ﴾نہیں ہوسکتا۔(آیت:17)

(b) لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ﴿وَلی﴾ نہیں۔ وہ اپنے اَحکامات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔(آیت:26)

(c) مغرور زمین دار کے باغ کی تباہی کے بعد ثابت ہوا کہ ﴿وَلایت﴾ اللہ ہی کا حق ہے۔(آیت:44)

(d) کیا تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی ذُرِّیّت کو ﴿ اَولیاء ﴾ بنالیا ہے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ تم نے کتنا بدترین متبادل اختیار کرلیا ہے؟(آیت:50)

(e) اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے بندوں کو ﴿اَولیاء ﴾ بنانے والے کافروں کے لیے جہنم تیار ہے۔(آیت:102)

3- اس سورت میں خصوصیاتِ قرآن (آیات:1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 27 ، 29 اور 54) تفصیل سے بیان کی گئیں۔

(a) قرآن میں ٹیڑھ نہیں ہے۔(آیت:1)

(b) قرآن ﴿ قَیِّم ﴾ ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے۔(آیت:2)

(c) قرآن کا مقصد ﴿اِنذار ﴾ (Warning) ہے۔(آیت:2)

(d) نیک لوگوں کے لیے ﴿تبشیر﴾ ہے۔(آیت:2)

(e) عیسائیوں کے لیے بھی ﴿اِنذار ﴾ ہے۔(آیت:4) عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔

(f) قرآن میں ﴿ تَصریف ﴾ سے کام لیا گیا ہے۔ مختلف انداز و اسالیب سے حقائق و انکشاف کیے گئے ہیں، تاکہ لوگ ایمان لے آئیں۔

4- اس سورت میں آزادئ مذہب (Freedom of Faith) کے حوالے سے دو آیات آئی ہیں۔(آیات:20 اور 29)

(a) جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے۔﴿ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾

(b) ﴿ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ نوجوان غار میں نہ چھپتے تو ان نوجوانوں کو سنگسار ہو جانا پڑتا، یا دوبارہ توحید چھوڑ کر پرانا مذہب اختیار کرلینا پڑتا۔ انہیں مذہبی آزادی میسر نہ تھی۔

5- اس سورت میں ﴿الحیاۃ الدُّنیا ﴾ کا لفظ تین (3) مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کی گئی ہے۔

(a) دنیا کی زندگی اُس کھیتی کی طرح ہے، جو سوکھ کر خشک ہو جائے اور ہوائیں اسے اڑا لے جائیں۔ (آیت:45)

(b) مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی ﴿زینت﴾ ہیں، لیکن نیک اعمال باقی رہتے ہیں۔ (آیت:46)

(c) وہ لوگ جن کی ساری سرگرمیاں صرف دنیا کی زندگی ہی کے لیے ہوتی ہیں، وہ اعمال کے لحاظ سے زیادہ خسارے میں ہوتے ہیں اور غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ (آیت:104)

6- اس سورت میں ﴿لِقاء﴾ یعنی ملاقاتِ ربّ کا لفظ بھی دو (2) مرتبہ استعمال ہوا ہے:

(a) ملاقاتِ رب ﴿لِقاء﴾ کے منکرین کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور قیامت کے دن اُن کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ (آیات:105)

(b) ملاقاتِ رب ﴿لِقاء﴾ کے امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ شرک چھوڑ کر اعمالِ صالحہ کرے۔ (آیت:110)

7- اَحوالِ قیامت کے سلسلے میں کئی آیات آئی ہیں۔ (آیات:21 ، 47 ، 48 ، 49 ، 52 ، 98)

(a) اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قیامت کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ (آیت:21)

(b) روزِ قیامت پہاڑ چلائے جائیں گے اور زمین برہنہ ہوگی۔ (آیت:47)

(c) لوگ صف بستہ پیش کیے جائیں گے۔ (آیت:48)

(d) نامۂ اعمال کو دیکھ کر کہیں گے یہ عجیب کتاب ہے، اس میں کوئی چھوٹی بڑی چیز درج ہونے سے نہیں رہ گئی۔ (آیت:49)

(e) اللہ حکم دے گا کہ شرکاء کو پکارو ، وہ دادرسی نہیں کر سکیں گے۔ (آیت:52)

(f) روزِ قیامت، مضبوط بند بھی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ (آیت:98)

سورۃ الکہف کا نظمِ جلی

سورۃ الکہف چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلا پیراگراف تمہیدی ہے اور آخری پیراگراف میں خلاصہ ہے۔ درمیانی چار پیراگرافوں میں چار (4) قصے بیان کیے گئے ہیں، جن کا مقصد کسی نہ کسی قسم کی آزمائش ﴿لِنَبْلُوَهُمْ﴾ ہے۔ پہلے دو (2) قصوں کے بعد تبصرہ بھی کیا گیا ہے۔

(1) پہلا قصہ غار والے نوجوانوں کا ہے، جن کے لیے ایمان کی آزمائش تھی، انہیں غار میں پناہ لینا پڑا، ورنہ وہ سنگسار کر دیے جاتے۔

(2) دوسرا قصہ دو زمینداروں کے اَحوال پر مشتمل ہے۔ یہاں مال و دولت کی کمی بیشی کی آزمائش کا ذکر ہے۔

(3) تیسرا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات پر مشتمل ہے۔ یہاں علم کی کمی بیشی کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(4) چوتھا قصہ ایک عادل بادشاہ حضرت ذوالقرنینؒ کا ہے۔ یہاں اقتدار کی آزمائش کا ذکر ہے۔

1۔ آیات 1 تا 8 : پہلا پیراگراف تمہیدی ہے۔ قرآن کے تعارف کے بعد انسان کو زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا گیا۔

(a) قرآن میں ٹیڑھ نہیں ہے۔ (آیت:1)

(b) ﴿ قَيِّمًا ﴾ یعنی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے۔ (آیت:2)

(c) قرآن کا مقصد ﴿ اِنذار ﴾ (Warning) ہے۔ (آیت:2)

(d) نیک لوگوں کے لیے ﴿ تبشیر ﴾ ہے۔ (آیت:2)

(e) قرآن عیسائیوں کے لیے بھی ﴿ اِنذار ﴾ ہے۔ (آیت:4) عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی۔

رسول اللہ ﷺ کی داعیانہ فکرمندی کی تعریف کی گئی کہ وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے دردمند ہیں۔ (آیت:6)

زمین کی ساری ﴿ زِينَةً ﴾ کا مقصد ، امتحان و آزمائشِ حسنِ عمل ﴿ لِنَبْلُوَهُمْ ﴾ ہے۔ (آیت:7)

قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی کہ زمین کی ساری ﴿ زِينَة ﴾ تہہ و بالا کردی جائے گی۔ (آیت:8)

2۔ آیات 9 تا 31 : دوسرے پیراگراف میں، ﴿ اصحاب کہف ﴾ یعنی غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا

جن کا ایمان ان کے لیے آزمائش تھا۔ انہیں غار میں پناہ لینی پڑی، ورنہ حکومتِ وقت انہیں سنگسار کردیتی۔

دوسرے پیراگراف کے دو ذیلی حصے ہیں۔

پہلا ذیلی حصہ آیات 9 تا 26 پر مشتمل ہے، جس میں قصہ بیان کیا گیا ہے، دوسرا ذیلی حصہ آیات 27 تا 31 پر مشتمل ہے، جس میں اس قصہ پر تبصرہ کر کے رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ کو ہدایات دی گئی ہیں۔

اَصحابِ کہف مُوَحِّد تھے۔ صحابہؓ کو ، انہیں ہی کی طرح ثابت قدمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔

(a) اِن مُوَحِّد نوجوانوں کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق تھا۔ (آیت نمبر:10)

(b) اللہ تعالیٰ نے ، ان نوجوانوں کو ہدایت کے اعتبار سے برگزیدہ کردیا تھا۔ ﴿ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ﴾ (آیت:13)

(c) اللہ نے ان کے دل مضبوط کردیئے تھے اور انہیں ثابت قدمی عطا کی تھی۔ ﴿ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ﴾ (آیت:14)

(d) یہ نوجوان شرک سے بیزار تھے۔ توحید پرست تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ زمین آسمان کا رب ہے۔ صاف کہہ دیا: ''ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے'' ﴿ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰـهًا ﴾ (آیت:14)

(e) یہ نوجوان اپنی مشرک قوم سے نالاں تھے۔ ان ہی کے انتقام سے ڈر کر ، غار میں پناہ لی تھی۔ (آیات: 15 تا 17) اَصحابِ کہف کو ، حکومتِ وقت سے جان کا خطرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مدتِ دراز تک سلائے رکھا اور اللہ کی طرف سے زندگی مابعد موت کا ثبوت فراہم کیا گیا ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قیامت آکر رہے گی۔

﴿ وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ، لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ، وَّ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(آیت:21) ان نوجوانوں کی موت کے بعد ، عیسائیوں میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا: ''دیوار چن دو''۔ کسی نے کہا: ''ان پر عبادت گاہ بناؤ۔'' (آیت:21)

ہدایت کی گئی کہ اصحابِ کہف کی تعداد کے بارے میں بحث میں نہ پڑو ! واقعے سے سبق حاصل کرو !نوجوانوں کی تعداد اور دیگر غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو مت الجھاؤ۔ (آیت:22)

(f) دوسرے ذیلی حصے میں، رسول اللہ ﷺ کو صحابہؓ پر مشتمل مومن صالح افراد کا ساتھ دینے، دنیا کی زینت کی طرف نہ دیکھنے اور قریش کی باغی اور فاسق قیادت کی اطاعت سے بچنے کی ہدایت کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ ایمان بھی آزمائش ہے۔اصحاب کہف کو بنیادی مذہبی حقوق (Fundamental Rights of Faith) میسر نہ تھے انہیں غار میں پناہ لینی پڑی۔ مسلمانوں کو یہ حق عطا کرنے کی تلقین کی گئی کہ اسلام میں دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔

3۔آیات 32 تا 59 : تیسرے پیراگراف میں، دو زمین داروں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ایک بڑا زمیندار تھا اور دوسرا چھوٹا زمیندار۔

یہ دو زندہ تاریخی کردار ہیں، ایک ﴿مادّہ پرست مُشرِك﴾، اور دوسرا ﴿آخرت کا قائل مُوَحِّد﴾ پہلا ناشکرا اور دوسرا شکرگذار تھا۔اس قصے کا مقصد، مال و دولت کی کمی بیشی کی آزمائش ثابت کرنا ہے۔

اس پیراگراف کے بھی دو ذیلی پیراگراف ہیں۔

پہلے ذیلی پیراگراف (آیات:32 تا 44) میں قصہ بیان کیا گیا ہے اور دوسرے ذیلی پیراگراف (آیات:45 تا 59) میں اس پر تبصرہ کیا گیا ہے۔

- ﴿بڑے زمیندار کی خصوصیات﴾

(a) بڑا زمین دار تفاخر کی بیماری میں مبتلا تھا ، دوسروں پر شان جتاتا تھا۔ ''میرے پاس تم سے زیادہ مال اور تم سے زیادہ بندے ہیں۔'' ﴿ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا ﴾ (آیت:34)

(b) یہ شخص دنیا پرست بھی تھا، سمجھتا تھا کہ یہ نعمتیں زائل نہ ہوں گی ، یہ دولت ہمیشہ رہے گی، میرے باغ کو فنا نہیں۔﴿ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ﴾ (آیت:35)

(c) یہ شخص منکرِ قیامت تھا۔کہتا تھا: ''میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت واقع ہوگی۔''

﴿ وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ﴾ (آیت:36)

(d) یہ شخص شک میں مبتلا تھا اور جھوٹی آرزوؤں نے اسے الجھا رکھا تھا۔سمجھتا تھا کہ ''بالفرض اگر قیامت واقع بھی ہو گئی تو اس کے بعد ، مجھے دنیا سے بھی زیادہ نعمتیں ملیں گی، وہاں بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔''

﴿ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (آیت:36)

(e) یہ شخص مشرک بھی تھا ،جب اس کا باغ تباہ کر دیا گیا ،تو اس کے لبوں پر یہی الفاظ تھے:

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

"کاش ! میں نے اپنے ربّ سے شرک نہ کیا ہوتا۔" ﴿ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴾ (آیت:42)

(f) نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا ، نہ کوئی اور ہستی اس کی مدد کر سکی۔ (غالباً یہ شفاعتِ باطلہ کا بھی قائل تھا)

﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴾ (آیت:43)

- ﴿ چھوٹے زمیندار کی خصوصیات ﴾

(a) چھوٹا زمین دار ، مُوحّد تھا۔ صاف کہتا تھا: "میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔"

﴿ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴾ (آیت:38)

(b) مبلغ بھی تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے پہلے شخص کو ٹوکا۔ اپنے محسن رب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم نے اپنے باغ میں ، داخل ہوتے وقت ﴿ مَا شَآءَ اللّٰهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ﴾ کے الفاظ کیوں ادا نہیں کیے؟ (آیت:39)۔

(c) اللہ کے دنیاوی قانونِ عذاب وثواب اور آخرت کی جزا وسزا دونوں پر یقین رکھتا تھا۔ (آیت:40 تا 41)

(d) بڑے زمین دار سے کہا : "تیرا باغ عارضی ہے ، تباہ ہو سکتا ہے۔"

باغ کی تباہی کے وقت معلوم ہوا کہ کارسازی ﴿ وَلَايَة ﴾ کا اختیار، اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر وثواب اور انجام ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ،هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ عُقْبًا ﴾ (آیت:44)

- ذیلی پیراگراف (آیات 45 تا 49) میں تبصرہ کیا گیا۔ ﴿ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ﴾ یعنی دنیوی زندگی کی تمثیل کھیتی سے دی گئی۔ واضح کیا گیا کہ اولاد اور اموال ﴿ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ﴾ کی زینت ہیں۔

آدمؑ وابلیس کے قصے سے، مشرکین مکہ کے ابلیسی رویے پر تنقید کی گئی کہ وہ اللہ کی تعلیماتِ وحی کا مذاق اُڑا رہے ہیں۔ انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔

> 4۔ آیات 60 تا 82 : چوتھے پیراگراف میں، قصہ موسیٰؑ وخضرؑ بیان کیا گیا۔ ثابت کیا گیا کہ ﴿ علم کی کمی بیشی ﴾ بھی آزمائش ہے۔

حضرت موسیٰؑ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت خضرؑ جیسے بعض اللہ کے بندوں کے پاس، اِن سے بھی زیادہ علم ہے اور اللہ کی ہر مشیت میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔

حضرت موسیٰؑ کی دریاؤں کے سنگم پر اللہ کے ایک بندے (غالباً فرشتے) حضرتِ خضرؑ سے ملاقات ہوئی۔

﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ﴾ (آیت:65)

حضرت موسیٰؑ نے کہا: "کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں؟ تاکہ آپ کو دی گئی دانائی سیکھ لوں۔"

﴿ هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓي اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ؟ ﴾ (آیت:66)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

علم کے لیے صبر ضروری ہے: "حضرت خضرؑ نے کہا: آپ میرے ساتھ صبر نہیں کرسکتے"۔

﴿ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ "جس چیز کا علم نہ ہو ، اس پر صبر کیسے کیا جاسکتا ہے؟" (آیت:67)

حضرت موسیٰؑ نے کہا: "میں صبر کروں گا ،آپ مجھے نافرمان نہ پائیں گے۔"

حضرت خضرؑ نے کہا: شرط یہ ہے کہ آپ سوال نہ کریں ،جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ پھر دونوں آگے چلتے گئے۔

﴿ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ (آیت:70)

﴿حضرت خضرؑ کے بعض عجیب وغریب افعال﴾

(a) حضرتِ خضرؑ نے ایک کشتی میں شگاف کردیا ۔حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے۔کیوں کیا؟

﴿ فَانْطَلَقَا ، حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ (آیت:71)

(b) حضرت خضرؑ نے ایک لڑکے کا قتل کیا ،حضرت موسیٰؑ فوراً بول پڑے۔ کیوں کیا؟

﴿ فَانْطَلَقَا ، حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ﴾ (آیت:74)

(c) حضرت خضرؑ نے ایک مقام پر حق میزبانی ادا نہ کرنے کے باوجود ، ایک گرتی ہوئی دیوار چن دی۔

حضرت موسیٰؑ فوراً بول پڑے۔ کیوں کیا؟

﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴾ (آیت:77)

حضرت خضرؑ نے کہا : اب میری اور آپ کی جدائی ہے۔﴿ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ (آیت:78)

﴿عجیب وغریب افعال کی پوشیدہ حکمتوں کا انکشاف﴾

(a) کشتی ،مزدوروں کی تھی ،ظالم بادشاہ سالم کشتی چھین لیتا ہے،عیب دار کردیا تاکہ بادشاہ چھین نہ لے۔(79)

(b) لڑکے کے والدین مؤمن تھے۔اندیشہ تھا سرکشی اور کفر سے تنگ کرے گا۔میں نے قتل کردیا تاکہ اللہ بہتر اولاد دے۔

(c) دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے،ان کا باپ نیک تھا۔(كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا) میں نے دیوار اٹھادی، تاکہ دونوں بالغ ہوکر یہ خزانہ نکال لیں۔یہ رب کی رحمت ہے،میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا ،یہ تاویل ہے ، ان کے افعال جس پر آپ صبر نہ کرسکے۔(آیت:82)

5۔آیات 83 تا 102 : پانچویں پیراگراف میں ﴿قصہ ذوالقرنین﴾ بیان کی گیا ہے۔ثابت کیا گیا ہے کہ اقتدار بھی آزمائش ہے۔

ذوالقرنینؒ ، ایک مثالی مسلمان حکمران تھے

(a) حضرت ذوالقرنینؒ کو ،اقتدار عطا کیا گیا تھا ۔﴿ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ﴾(آیت:84)

(b) حضرت ذوالقرنینؒ کو،اسباب و وسائل فراہم کیے گئے تھے۔ ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) حضرت ذوالقرنینؒ مبلغ تھے۔ اپنی رعایا کو توحید کی دعوت دی۔ اپنی قوت واقتدار کو ، دعوت کے لیے استعمال کیا۔

حضرت ذوالقرنینؒ فرمایا: ''ظالم کو میں دنیاوی سزا دوں گا، اُس کے بعد اللہ تعالیٰ شدید تر اُخروی سزا دے گا۔''

﴿قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ، ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ ، فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا﴾ (آیت:87)

لوگوں کو بتایا کہ مومنِ صالح کے لیے بہترین جزا ہوگی، آسانیاں فراہم ہوں گی۔

﴿وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى ، وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا﴾ (آیت:88)

(d) حضرت ذوالقرنینؒ نے ، مظلوم قوم کو ، ﴿یاجوج وماجوج﴾ کے حملوں سے محفوظ کردیا۔

(e) حضرت ذوالقرنین مال ودولت کی حرص سے پاک تھے۔ بلا اُجرت وخراج مفت بند تعمیر کردیا۔

قوم نے انہیں بند کی تعمیر کی قیمت ادا کرنا چاہی۔ انہوں نے انکار کردیا اور فرمایا:

''جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے ، وہ بہت ہے''۔ ﴿مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ﴾ (آیت:95)

بند کی تعمیر کے بعد ﴿یاجوج اور ماجوج﴾ دیوار میں نہ تو نقب لگا سکتے تھے اور نہ چڑھ سکتے تھے۔ (آیت:97)

(f) حضرتِ ذوالقرنینؒ نے ، بند کی تعمیر کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا ، وہ عاجز اور شکر گذار بندے تھے۔

﴿قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ﴾ (آیت:98)

(g) حضرت ذوالقرنینؒ ، قیامت کے عذاب سے ڈرتے تھے ۔ان کا عقیدہ تھا کائنات کی مضبوط ترین چیز بھی عارضی ہے۔ فرمایا: ''جب وعدے کا وقت آئے گا ، اللہ اس مضبوط دیوار کو بھی ریزہ ریزہ کردے گا ، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔''

﴿فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا﴾ (آیت:98)۔

(h) حضرت ذوالقرنینؒ کے پاس دماغ بھی تھا اور ٹیکنالوجی (Technology) بھی تھی ، لیکن مزدور کم تھے۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے مدد لی۔ اس مضبوط دیوار اور بند کی تعمیر سے یہ سبق ملتا ہے کہ کافروں کے شر سے بچنے کے لیے، دماغی ، ذہنی اور عقلی وسائل کے ساتھ، جسمانی، مادی اور روحانی وسائل کا امتزاج شرط ہے۔

6۔ آیات 103 تا 110: چھٹا اور آخری پیراگراف ،اختتامیہ ہے اور خلاصے پر مشتمل ہے۔ اس میں مادہ پرستی کا ابطال کیا گیا ہے۔

﴿الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ یعنی دنیوی زندگی کی سرگرمیوں میں مگن لوگوں کی خوش فہمی کی تردید کی گئی (آیت:104)

جو ﴿لِقَآء﴾ ملاقات رب کے منکر بھی ہیں اور اللہ کی آیات اور رسولوں کا مذاق اُڑاتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

اس کے برخلاف ، ایمان لاکر عملِ صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ (آیت:108)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

آخری آیت میں، ﴿توحید، رسالت اور آخرت﴾ تینوں چیزوں کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ جو شخص اللہ کو ﴿واحد﴾ مان کر، رسول اللہ ﷺ کو ﴿بشر اور رسول﴾ تسلیم کر کے، ﴿لِقاء﴾ یعنی ملاقاتِ رب پر یقین کامل رکھتا ہو اُسے ﴿شِرك فِی العِبَادة﴾ سے بچتے ہوئے ﴿عملِ صالح﴾ کرنا چاہیے۔ (آیت:110)

مرکزی مضمون

زمین پر موجود تمام اشیاء کی رنگا رنگی ﴿زِینت﴾ کا مقصد، حسنِ عمل کا امتحان اور آزمائش ﴿لِنَبْلُوَهُمْ﴾ ہے، چاہے وہ توحید پر استقامت کی آزمائش ہو، چاہے وہ علم، دولت، عزت اور افراد کی کثرت کی آزمائش ہو، چاہے اموال واولاد کی آزمائش ہو، یا پھر اقتدار کی آزمائش ہو۔ ان تمام آزمائشوں کے پیچھے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان کو دنیا پرستی اور مادہ پرستی سے بچ کر، قرآن کی دعوتِ توحید و آخرت قبول کر کے اور حسنِ عمل کے لیے سرگرم ہو جانا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

19- سُوْرَةُ مَرْيَمَ

آیات : 98...... مَكِّيَّةٌ ...... پیراگراف : 6



زمانہ نزول:

سورت ﴿مَرْيَم﴾ ایک مکی سورت ہے۔ ہجرتِ حبشہ (رجب 5 نبوی) سے پہلے نازل ہوئی، جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے۔ حبش کے عیسائیوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لئے صحابہؓ کرامؓ کی تربیت ضروری تھی، چنانچہ اہل کتاب سے ﴿مُجَادَلَہ﴾ کرنے کے لیے یہ سورت نازل کی گئی۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفرؓ بن ابی طالب نے اس سورت کی تلاوت کی تھی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ مریم کا کتابی ربط:

1۔ پچھلی سورت ﴿الکہف﴾ کی آخری آیت میں ، توحید کی وضاحت ﴿اَنَّمَا اِلٰـهُكُمْ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ﴾ کے الفاظ سے کی گئی تھی اور پھر عبادت کے شرک سے منع کیا گیا تھا۔ ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا﴾۔
یہاں سورت ﴿مریم﴾ کا مرکزی مضمون ہی تثلیث (Trinity) کی تردید اور اثباتِ توحید کے مفہوم پر مشتمل ہے۔

2۔ پچھلی سورت ﴿الکہف﴾ کی تمہید ہی میں نزولِ قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بتایا گیا کہ عیسائیوں کو ان کے عقیدے پر تنبیہ کرنا بھی مقصود ہے ﴿وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا﴾ (آیت:4)
یہاں سورت ﴿مریم﴾ میں یہ مضمون بار بار آیا ہے۔ ﴿مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ﴾ (آیت:35) اور ﴿وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا﴾ (آیت:92)۔

3۔ دنیا کی عارضی زینت اور باقی رہنے والے اعمال:
پچھلی سورت ﴿الکہف﴾ میں کہا گیا تھا ﴿اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا﴾ (آیت:46)۔
سورت ﴿مَرْيَم﴾ میں یہی مضمون ﴿وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا﴾ کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔

4۔ سورت ﴿مَرْيَم﴾ میں عقیدۂ توحید کو حضرت عیسیٰؑ اور کچھ دیگر انبیاء کی زندگی سے ثابت کیا گیا ہے۔
اگلی سورت ﴿طٰهٰ﴾ میں حضرت موسیٰؑ کی دعوتی زندگی سے توحید کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ و مضامین

1۔ سورت ﴿مریم﴾ میں دلائل کے لیے ایک عجیب و غریب اسلوب:
سورۃ ﴿مَرْيَم﴾ کا ایک عجیب و غریب اسلوب یہ بھی ہے کہ یہاں دلیلِ توحید کے لیے ﴿بُرھان﴾ یا ﴿آيَة﴾ کے بجائے ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ﴾ اور ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ﴾ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس طرح کے اسلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اور دلیل پیش کیجیے۔

﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا﴾ (آیت:2)

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ﴾ (آیت:16)۔

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ﴾ (آیت:41)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ﴾ (آیت:51)۔

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾(آیت:54)۔

﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ﴾ (آیت:56)۔

2- **مشرکینِ مکہ کے شرک کی اصل وجہ:** شرک کے اسباب کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ مشرکین مکہ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کو خدا بنا کر، اپنے خداؤں ﴿ آلِهَةً ﴾ کو طاقتور، عزیز اور بااختیار سمجھتے تھے اور ان کی حمایت اور پشتی بانی حاصل کرنے کے لیے اُن کی عبادت کیا کرتے تھے۔

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾(آیت:81)۔

3- **سورت ﴿مریم﴾ میں توحید کی ایک عقلی دلیل:** ایک عقلی دلیل بھی فراہم کی گئی اور پوچھا گیا ہے کہ جس خدا نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے، کیا وہ حضرت عیسیٰؑ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔

﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ (آیت:9)اور

﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ (آیت:67)

4- **بنی اسرائیل نے نماز ضائع کردی:** اہلِ کتاب پر واضح کیا گیا کہ حضرت اسماعیلؑ کے زمانے سے لے کر بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰؑ تک نماز فرض تھی۔ تمام انبیاء اس کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے اس اہم عبادت کو ضائع کر دیا۔ حضرت اسماعیلؑ (2,000 ق م) اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔﴿كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ﴾(آیت:55)۔نماز اور زکوۃ کے بارے میں خود حضرت عیسیٰؑ (33ء) کی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اللہ نے اس کی نصیحت کی تھی۔

﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾(آیت:31)،لیکن بنی اسرائیل میں ناخلف جانشین پیدا ہوئے، جنہوں نے شہوات کی پیروی کرتے ہوئے صدیوں پرانی یہ مخصوص عبادت یعنی نماز ضائع کردی۔

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ﴾ (آیت:59)

5- **سورت ﴿مریم﴾ میں ہلاکتِ اقوام کے سلسلے کا ایک اہم اُصول:** اس سورت میں ایک اُصول یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین اثاثے اور اعلیٰ شان وشوکت رکھنے والی نافرمان قوموں کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دینے کے بعد ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ بات دو مرتبہ آیت نمبر 74 اور آیت نمبر 98 میں بیان کی گئی۔

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ﴾(آیت:74)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ (آیت:98)

سورۃ مریم کا نظمِ جلی

سورت مریم چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔حضرت عیسیٰؑ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔پہلے پیراگراف میں حضرت یحییٰؑ کی معجزانہ پیدائش سے حضرت عیسیٰؑ کی معجزانہ پیدائش پر استدلال ہے، جس کا ذکر دوسرے پیراگراف میں ہوا۔تیسرے پیراگراف میں حضرت ابراہیمؑ کی توحید سے استدلال ہے۔چوتھے پیراگراف میں چند انبیاء کی توحید کا ذکر ہے، جنہیں یہودی اور عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں۔پانچویں پیراگراف میں توحیدِ عبادت کا حکم ہے اور آخری پیراگراف میں رسول اللہ ﷺ کے لیے تسلی اور عیسائیوں کے لیے ہلاکت کی دھمکی ہے۔

1- آیات 1 تا 15: پہلے پیراگراف میں ﴿حضرت زکریاؑ﴾ کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے انہیں معجزانہ طور پر بڑھاپے میں حضرت یحییٰؑ جیسا بیٹا عطا کیا۔

دراصل یہاں اس پیراگراف میں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ عام قاعدے سے ہٹ کر بھی معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ تصرف کرنے پر قادر ہے۔جس خدا نے حضرت زکریاؑ کو بڑھاپے میں اولاد دی ، اُسی خدا نے حضرت مریمؑ کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا۔یہاں عیسائیوں کو خود اُن کی اپنی تاریخ سے ایک دلیل توحید فراہم کی گئی ہے۔

حضرت یحییٰؑ کو اللہ تعالیٰ نے نرم خو، پاکیزہ اور متقی بنایا اور اپنے والدین کا مطیع بنا دیا، وہ جبار اور نافرمان نہیں تھے۔

﴿وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً وَكَانَ تَقِيًّا ۝ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ (آیت:13،14)

2- آیات 16 تا 40: دوسرے پیراگراف میں ﴿حضرت مریمؑ﴾ اور ﴿حضرت عیسیٰؑ﴾ کا قصہ تفصیل سے بتا کر ان کی معجزانہ پیدائش اور پیدائش کے فوراً بعد ان کی معجزانہ گفتگو کو نقل کر کے عقیدۂ تثلیث (Trinity) کی تردید کی گئی۔

حضرت عیسیٰؑ نے خود فرمایا:

﴿اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا﴾ (آیت:30) ”میں اللہ کا بندہ ہوں ، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا دیا ہے“ حضرت عیسیٰؑ کی بشریت اور نبوت ثابت کرنے کے بعد فرمایا:

﴿ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ”یہ ہے حضرت عیسیٰؑ ابن مریم کی سچی تصویر“ ! (آیت:35)۔

پھر حضرت عیسیٰؑ کے الفاظ نقل کیے گئے: ﴿اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ﴾

”یقیناً اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی ،لہٰذا صرف اسی کی عبادت کرو ! یہی (توحید کا) سیدھا راستہ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہے“۔(آیت:36)

3- آیات 41 تا 50 :تیسرے پیراگراف میں ﴿حضرت ابراہیمؑ﴾ کی دعوت توحید کا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔

عیسائی اور یہودی دونوں حضرت ابراہیمؑ کو اپنا جدِ اَمجد تسلیم کرتے ہیں۔یہ لوگ محض باپ دادا کی تقلید میں آخری رسول محمد ﷺ کی دعوت توحید کا انکار کررہے ہیں۔ان لوگوں کے لیے حضرت ابراہیمؑ کی زندگی میں ایک نمونہ ہے ،جن کے والد مشرک تھے،لیکن حضرت ابراہیمؑ نے باپ دادا کی تقلید کے بجائے، توحید پر عزیمت واستقامت کا مظاہرہ کیا۔

(a)اس سورت میں ﴿دعوت کے آداب﴾ بھی بتائے گئے۔حضرت ابراہیمؑ نے نہایت درمندی سے اپنے والد آزر سے مباحثہ کیا۔عقلی دلیلوں سے کام لیا اوران سے پوچھا: آپ سماعت وبصارت سے محروم بتوں کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟

﴿يَآ أَبَتِ لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِي عَنكَ شَيۡـًٔا﴾(آیت:42)

حضرت ابراہیمؑ نے نہایت شفقت اور پیار سے اپنے والد آزر کو توحید کی دعوت دی۔

(b)اس سورت میں﴿يَآ أَبَتِ﴾ کالفظ چار(4) مرتبہ استعمال ہوا ہے۔آزر نے سختی کا مظاہرہ کیا اور بیٹے ابراہیمؑ کو سنگسار کردینے کی دھمکی دی۔﴿لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ لَأَرۡجُمَنَّكَ وَاهۡجُرۡنِي مَلِيًّا﴾ (آیت:46)۔

اس کے جواب میں حضرت ابراہیمؑ نے انتہائی احترام سے فرمایا : ﴿سَلَٰمٌ عَلَيۡكَ﴾”آپ پر سلامتی ہو“ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔(آیت:47)

4- آیات 51 تا 63:چوتھے پیراگراف میں عقیدۂ توحید کو﴿دیگر انبیاء﴾ کی دعوت اوراُن کے کردار سے ثابت کیا گیا۔

اس حصے میں حضرت موسیٰؑ ،حضرت ہارونؑ ،حضرت اسماعیلؑ ،حضرت ادریسؑ ،حضرت نوحؑ ،حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسرائیلؑ (یعقوبؑ) کا ذکر کرکے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ سب انسان تھے اوراللہ کے نبی تھے ،لیکن خدائی میں شریک نہیں تھے۔یہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے۔یہ سب جنت کے وارث ہیں۔

یہ سب نبی ،خدائے رحمٰن کی آیات سن کرروتے ہوئے سجدے میں گرجاتے تھے۔(آیت:58)۔

﴿إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّواْ سُجَّدٗا وَبُكِيّٗا﴾، لیکن ان انبیاء کے جانشین بڑے ناخلف ثابت ہوئے۔انہوں نے نماز ضائع کردی اورشہوات کی پیروی کرنے لگے۔﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ﴾(آیت:59)۔

5- آیات 64 تا 83:پانچویں پیراگراف میں،صرف اورصرف ﴿اللہ تعالیٰ کی عبادت﴾ کرنے اوراُسی پر جمے رہنے کا حکم دیا گیا۔

”اللہ ہی کی عبادت کرواوراُسی کی عبادت پر جمے رہو“﴿فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦ﴾(آیت:65)

مشرک سرداروں کو دوزخ کے اَحوال سنا کرخبردار کیا گیا کہ وہ اپنے اثاثوں اوراپنی عالیشان مجلسوں پر نہ اترائیں۔تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان وشوکت رکھنے والی قوتوں کو بھی ہلاک کرکے رکھ دیا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ایک مشرک سردار کا قول نقل کیا گیا، جو یہ سمجھتا تھا کہ اول تو آخرت برپا نہیں ہوگی اور بالفرض ہوگی بھی تو وہاں بھی میں "مال واولاد سے ضرور نوازا جاتا رہوں گا" ﴿لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا﴾ (آیت:77)

مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر خود ساختہ معبود بھی ان کے حمایتی اور پشتی بان ہو سکتے ہیں۔ ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ (آیت:81)۔ مشرکین اپنے خداؤں کو نہایت طاقت ور اور بااختیار سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نقصان سے بچا سکتے ہیں۔

6- آیات 84 تا 98: چھٹے اور آخری پیراگراف میں، رسول ﷺ کو تسلی دی گئی ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾ (آیت:84)

آخری پیراگراف میں تثلیث (Trinity) کے قائل عیسائیوں بالخصوص اور مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ ان کے شرک کی سزا دنیا میں ہلاکت کی صورت میں بھی مل سکتی ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو صبر کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس آخری حصے میں شرک پر اللہ تعالیٰ کے غیض وغضب اور جلال کا اظہار بھی ہوا ہے اور توحید پرستوں کے لیے اپنی محبت اور جمال کا اظہار بھی۔

(a) ﴿اہلِ شرک کے لیے ﴿الرحمٰن﴾ کا غیض وغضب اور جلال﴾

﴿تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ (آیت:90)

"قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں"

﴿أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا﴾ (آیت:91)

"اس بات پر کہ لوگوں نے ﴿الرَّحْمٰن﴾ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا"۔ پھر وضاحت کی گئی کہ

﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ (آیت:92)

"﴿الرَّحْمٰن﴾ کی یہ شان نہیں ہے، کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔"

(b) ﴿اہلِ توحید کے لیے اللہ کی محبت، رحمانیت اور اس کا جمال﴾

توحید پرستوں کے لیے خدائے رحمٰن کی جانب سے محبت کا اظہار ہوا۔ چنانچہ فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا﴾

"البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اُن کے لیے خدائے رحمٰن مہر ومحبت پیدا کر دے گا۔"

آخری آیت میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ دونوں کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا؟﴾

"اور ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے چھوڑا۔ کیا تم میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو؟ یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟"

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یہ سورت ایک سوال پر ختم ہوتی ہے اور دعوتِ فکر دیتی ہے کہ انسان کو غور وفکر سے کام لے کر ہلاکت سے بچنے کے لیے تاریخ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور شرک سے بچ کر توحید اختیار کرنا چاہیے۔

مرکزی مضمون

عیسائیوں کو تثلیث (Trinity) کا عقیدہ ترک کر کے خالص توحید اختیار کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

20- سُوْرَةُ طٰهٰ

آیات : 135 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 7



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول اور پسِ منظر

1- سورت ﴿ طٰہٰ ﴾، سورت ﴿ مَرْیَم ﴾ کے بعد ہجرتِ حبشہ (رجب 5 نبوی) سے پہلے اور ذوالحجہ 6 نبوی کے درمیان کسی وقت نازل ہوئی۔ حضرت عمرؓ کی بہن کے پاس سورۃ ﴿ طٰہٰ ﴾ لکھی ہوئی تھی، جس سے متاثر ہو کر وہ ذوالحجہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے۔

اس مرحلے پر سورت ﴿ طٰہٰ ﴾ کے نزول کا مقصد، قریش کو رسالت کے مقصد اور طریقۂ کار کو سمجھانا اور حضرتِ موسیٰؑ کی زندگی سے نوجوان صحابہؓ کی تربیت کرنا تھا۔ علاوہ ازیں قرآن کی دعوتِ توحید و آخرت کی حقانیت پر قریش کے عقل مندوں ﴿ اُولِی النُّھٰی ﴾ کو قائل کرنا تھا (آیات 54,128)۔

2- آیت: 114 غالباً آغازِ نبوت کے فوراً بعد نازل ہوئی، جب آپ ﷺ دورانِ وحی جلد از جلد قرآن یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

3- مشرکینِ مکہ کی قیادت کو بتایا گیا کہ اُن کے طاغوتی رویے بھی فرعون جیسے ہیں۔ حضرت موسیٰؑ نے بھی رسول اللہ ﷺ کی طرح توحید، آخرت اور نماز ہی کی دعوت دی تھی اور قرآن کی یہ دعوت بھی اللہ کی معرفت اور آخرت کی معرفت کے لیے ہے۔ اس سے ﴿ اِعراض ﴾ (آیات 100، 124) کا انجام بھی فرعون اور اُس کے لشکروں کی طرح دنیا اور آخرت کی رسوائی کی صورت میں ہوگا۔

سورۃ طٰہٰ کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿ مریم ﴾ میں عیسائیوں کو قائلِ توحید کرنے کے لیے ﴿ حضرتِ عیسیٰؑ ﴾ کی زندگی سے استدلال تھا۔ اس سورت ﴿ طٰہٰ ﴾ میں یہودیوں کو قائل کرنے کے لیے ﴿ حضرتِ موسیٰؑ ﴾ کی زندگی سے استدلال ہے، اہلِ کتاب میں دعوت و تبلیغ کے لیے سامانِ تربیت دونوں سورتوں میں موجود ہے، جو کہ ہجرتِ حبشہ سے پہلے مطلوب تھا۔

2- اگلی سورت ﴿ الانبیاء ﴾ میں ﴿ سولہ (16) انبیاء ﴾ کی تاریخ اور ان کے کردار اور ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی رسول اللہ ﷺ کو حضرت ابراہیمؑ کی میراث کا وارث اور ﴿ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴾ ثابت کر کے دنیا کو آخری رسول ﷺ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔

اہم کلیدی الفاظ و مضامین

1- قرآن کا تعارف سورۃ ﴿ طٰہٰ ﴾ کے آغاز میں بھی ہوا ہے اور اختتام پر بھی۔

(a) قرآن بوجھ نہیں ہے۔ ﴿ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ﴾ (آیت: 2)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(b) قرآن، اہلِ خشیت کے لیے یاددہانی اور نصیحت ہے ۔ ﴿ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴾ (آیت:3)

(c) عربی زبان میں قرآن کی تنزیل اور وعید کی ﴿تصریف﴾ کا مقصد ﴿غضب﴾ سے بچانا اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔

﴿وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ (آیت:113)

(d) قرآن سے ﴿اعراض﴾ کی سزا ، روزِ قیامت کی رسوائی ہے ، وہ ایک بھاری بوجھ اُٹھائیں گے۔

﴿ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴾ (آیت100)۔

(e) قرآن سے ﴿اعراض﴾ کی سزا ، دنیا میں معیشت کی تنگی کی صورت میں ظاہر ہوگی اور قیامت کے دن اُنہیں اندھا بنا کر اُٹھایا جائے گا۔(آیت:124)

﴿ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴾

2- اثباتِ توحید ﴿ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ﴾ کے سلسلے میں دو(2) آیات اہم ہیں۔

(a) قرآن کی دعوت کا مقصد، اثباتِ توحید اور صفاتِ حسنیٰ کی اشاعت ہے۔

﴿ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ، لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ﴾ (آیت:8)

(b) اللہ ہی ﴿اِلٰہ﴾ ہے، اُسی کی عبادت کرنی چاہیے۔﴿ اِنَّنِيْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا ، فَاعْبُدْنِيْ ﴾ (آیت:14)۔

3- اللہ کے ذکر اور اُس کی یاد کے قیام کے لیے ہی نماز قائم کرنی چاہیے۔

﴿وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴾ (آیت:14)

4- ﴿اُولِي النُّهٰى ﴾ عقل مند لوگ:

(a) ﴿اُولُوا النُّهٰى ﴾ عقل مند لوگ جامع توحید (یعنی توحیدِ ربوبیت اور توحیدِ اسماء وصفات) کے قائل ہوتے ہیں۔(آیت 54)

حضرت موسیٰؑ نے کہا کہ پچھلے لوگوں کے بارے میں علم ، میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے، نہ بھولتا ہے۔اُسی نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لئے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر بارش کی وجہ سے ہم مختلف قسم کی پیداوار حاصل کرتے ہیں۔

لہٰذا اس پیداوار سے خود ہمیں بھی استفادہ کرنا چاہیے اور اپنے جانوروں کو بھی کھلانا چاہیے۔

یقیناً اس میں ﴿ اُولِي النُّهٰى ﴾ عقلمندوں کے لئے بہت سی نشانیاں اور دلائل ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(b) ﴿ اُولُوا النُّهٰى ﴾ یعنی عقل مند لوگ، ہلاکتِ اقوام کی تاریخ اور آثار سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔

﴿ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ، يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ، اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴾ (آیت 128)

سُورۃ طٰـہٰ کا نظمِ جلی

سورۃ طٰـہٰ سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 8: پہلے پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ سے خطاب کر کے انہیں تسلی دی گئی ہے۔ نزولِ قرآن کے مقاصد بیان کر کے ﴿ قرآن اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ﴾ بیان کیا گیا ہے۔

قرآن ایک نصیحت ﴿ تذکرہ ﴾ ہے ، بوجھ نہیں۔ اللہ کی تنزیل ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور اُن کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ جہری اور سری قول کو جان لیتا ہے۔ اُس کے علاوہ کوئی ﴿ اِلٰہ ﴾ نہیں۔ حسین و جمیل صفات پر مشتمل اُس کے حسین و جمیل نام ﴿ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ﴾ ہیں۔

2- آیات 9 تا 47: دوسرے پیراگراف میں، حضرت موسیٰؑ سے ﴿ اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو ﴾ اور ابتدائی ہدایات کی تفصیل بیان کی گئی۔

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ﴿ توحید ﴾ کا ذکر کیا، اس کے بعد اپنی ﴿ عبادت ﴾، ﴿ ذکر ﴾ اور ﴿ نماز ﴾ کا حکم دیا۔

﴿ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا، فَاعْبُدْنِيْ، وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴾ (آیت:14)۔

پھر قیامت کی حقانیت ثابت کر کے ﴿ قیامت کا مقصد ﴾ بیان کیا۔

﴿ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا، لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ﴾ (آیت:15)

پھر حضرت موسیٰؑ اور ان کے بھائی کو دلائل کی روشنی میں دعوت پہنچانے کا حکم دیا اور ذکر میں سستی نہ کرنے کی ہدایت کی۔

3- آیات 48 تا 79: تیسرے پیراگراف میں ﴿ فوجی ڈکٹیٹر فرعون کے دربار میں ﴾ حضرت موسیٰؑ کی دعوت اور پھر اس کے ساتھ مستقل کشمکش کی داستان بیان کر کے فرعون اور اس کی فوج کی ہلاکت کے سچے واقعات نقل کیے گئے۔

﴿ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴾ (آیت:57)

فرعون کہنے لگا: ”اے موسیٰ! کیا تو اسی لئے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے۔“

﴿ فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴾ (آیت:60)

پھر فرعون پلٹا اور اس نے اپنے ہتھکنڈے جمع کیے، پھر (مقابلے پر) آ گیا۔

﴿ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰىنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴾ (آیت:63)

فرعون کے معاونین کہنے لگے: ''یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مثالی نظام کو برباد کریں۔''

فرعون نے حضرت موسیٰؑ کو شکست دینے کے لیے جادوگر جمع کیے۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور ڈنڈے پھینکے۔ پھر حضرت موسیٰؑ نے اپنی لاٹھی پھینکی۔ اللہ کے معجزے کے آگے جادوگروں کا جادو نہ چل سکا۔ پھر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور دربار میں علی الاعلان کہہ دیا کہ ہم ہارونؑ اور موسیٰؑ کے رب پر ایمان لائے۔

﴿فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴾ (آیت:70)۔

فرعون جادوگروں کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا تھا۔ وہ غضب ناک ہوا کہ تم میری اجازت کے بغیر کس طرح مسلمان ہو گئے اس نے انہیں تعذیب کے ساتھ قتل کی دھمکی دی۔ اس موقع پر اسلام قبول کرنے والے نو مسلم جادوگروں نے بے مثال جرأت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ (آیت:71)۔

جادوگروں نے فرعون سے صاف کہہ دیا: ''جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے'' ﴿فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ﴾۔

عقیدے اور عمل کا تزکیہ حاصل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔

﴿وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴾ (آیت:76)۔ پھر فرعون اور اس کی فوجوں کے غرق کیے جانے کا ذکر کیا گیا۔

4- آیات 80 تا 98: چوتھے پیراگراف میں، مصر کی سرزمین سے بنی اسرائیل کے خروج (Exodus) کے بعد کے حالات اور ﴿فتنہ سامری﴾ کا ذکر کیا گیا۔

سامری نے لوگوں کے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا۔ لوگوں کو دھوکہ دیا کہ یہ تم لوگوں کا بھی خدا ہے اور حضرت موسیٰؑ کا بھی خدا ﴿اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ﴾ (آیت:89) حضرت ہارونؑ نے انہیں ہر چند سمجھایا، لیکن وہ فتنے میں گرفتار ہو گئے۔

5- آیات 99 تا 114: پانچویں پیراگراف میں رسول اللہ ﷺ سے خطاب کر کے احوالِ قیامت بیان کیے گئے۔

پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ٥ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ﴾

قرآن کو نازل کرنے والی ہستی برحق بادشاہ یعنی ﴿الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ کی ہے، جو بلند و برتر ہے۔

6- آیات 115 تا 129: چھٹے پیراگراف میں ﴿قصہ آدم و ابلیس﴾ نقل کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانونِ جزا و سزا کی وضاحت کی گئی ہے۔

ابلیس بنی آدم کا دشمن ہے۔ وہ فرعونوں کا دوست ہوتا ہے۔ ہر نبی اور رسول کی تعلیمات میں رکاوٹ ہے، قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو لوگ قرآن کی دعوت سے اعراض کریں گے، ان کے لیے دنیا میں معیشت کی تنگی اور آخرت کا عذاب بھی ہے، انہیں روزِ قیامت اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ (آیت:124)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴾

7- آیات 130 تا 135: ساتویں اور آخری پیراگراف میں بھی، پہلے پیراگراف کی طرح رسول اللہ ﷺ کو مشرکینِ مکہ کے فرعونی اور طاغوتی رویوں کے خلاف ﴿ صبر اور نماز کی تلقین ﴾ کے ساتھ تسلی اور ﴿ روشن مستقبل ﴾ کی بشارت دی گئی ہے۔

دنیا کی زینت کی طرف (جو دوسروں کو دی گئی ہے) آنکھ اُٹھا کر بھی نہ دیکھنے کی ہدایت کی گئی۔

﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ (آیت: 131، 132)۔

آخر میں تسلی اور دھمکی دی گئی کہ ہر شخص انتظار کر رہا ہے۔ آپ ﷺ بھی انتظار کیجئے۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط؟ مستقبل قریب میں صراطِ مستقیم پر چلنے والے نمایاں ہوتے جائیں گے۔

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

مسلمانوں کو حضرت موسیٰؑ کی دعوتی زندگی سے سبق لے کر، قرآن کے سائے میں، ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے وقت کے فرعون کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

21- سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاء

آیات : 112 ...... مَکِّيَّة ...... پیراگراف : 8



تاریخ نبوت و کارِ نبوت

قصۂ ابراہیمؑ (50 تا 71) ، اسحٰقؑ ویعقوبؑ اور کارِ رسالت (72 تا 73) ، قصۂ لوطؑ (74,75) ، قصۂ نوحؑ (76,77) ،
قصۂ سلیمانؑ وداؤدؑ (78 تا 82) ، قصۂ ایوبؑ (83,84) ، اسمٰعیلؑ، ادریسؑ وذوالکفلؑ (85,86) ، ذوالنون یونسؑ (87,88)،
زکریاؑ ویحییٰؑ (89,90) ، مریم وعیسیٰؑ (91) ، رسولوں کی دعوت توحید (92,93)، رسول اللہ ﷺ (107)

زمانۂ نزول: سورت ﴿الانبیاء﴾ غالباً 9 یا 10 نبوی میں، مکۃ المکرمہ میں سورۃ ﴿المؤمنون﴾ کے ساتھ نازل ہوئی، جب رسول اللہ ﷺ پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے تھے کہ یہ شاعر ہیں، ﴿مُفتَرِی﴾ ہیں، رسول نہیں، محض بشر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان حالات میں تاریخ انبیاء اور منصب نبوت کے بارے میں تعلیم ضروری تھی ۔ یہ وہی دور تھا، جب اہلِ توحید اور اہلِ شرک کے درمیان سخت کشمکش برپا تھی، چنانچہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا گیا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الانبیاء کا کتابی ربط

1۔ سورۃ ﴿مریم﴾ میں عیسائیوں سے ﴿مجادلہ﴾ کرکے انہیں عقیدۂ تثلیث ترک کرنے اور خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔

2۔ سورۃ ﴿طٰہٰ﴾ میں یہودیوں سے ﴿مجادلہ﴾ ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی سے استدلال کرکے انہیں دعوتِ اسلام دی گئی تھی۔

3۔ پچھلی دو سورتوں میں حضرتِ عیسیٰؑ اور حضرتِ موسیٰؑ کے حوالے تھے۔ یہاں سورت ﴿الانبیاء﴾ میں کئی پیغمبروں کا اجمالی اور حضرت ابراہیمؑ کا تفصیلی ذکر کرکے، اس سلسلے کی آخری کڑی ﴿رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ﴾ محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔

4۔ یہاں سورت ﴿الانبیاء﴾ میں مشرکین کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کی زمین تنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا۔

5۔ اگلی سورۃ ﴿حج﴾ میں ان کے خلاف دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ سورۃ الانبیاء میں کئی نبیوں کا نام لے کر بتایا گیا کہ یہ سب نیک انسان اور اللہ کے ﴿منتخب بندے﴾ ہوتے ہیں، جن پر ﴿وحی﴾ کی جاتی ہے۔

موسیٰ (آیت:48)، ہارونؑ (آیت:48)، ابراہیمؑ (آیت:51)، اسحٰقؑ (آیت:72)، یعقوبؑ (آیت:72) لوطؑ (آیت:74) نوحؑ (آیت:76)، داؤدؑ (آیت:78) سلیمانؑ (آیت:78)، ایوبؑ (آیت:83) اسمٰعیلؑ (آیت:85)، ادریسؑ (آیت:85)، ذاالکفل (آیت:85)، ذالنون یونسؑ (آیت:87) زکریاؑ (آیت:89) یحییٰؑ (آیت:90)، عیسیٰ ابن مریمؑ (آیت:91) اور رسول اللہ ﷺ (آیت:107)۔

2۔ اس سورت میں، مختلف انبیاء کا نام لے کر، اجمالاً ﴿انبیاء کی دعوت﴾ اور اُن کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔

(a) تمام انبیاء بشر تھے۔ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ انہیں بھی موت آتی تھی، انہیں ﴿خلود﴾ عطا نہیں کیا گیا۔

﴿وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ، وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ﴾ (آیت:8)

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ (آیت:34)

(b) تمام انبیاء کو وحی کی گئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی اور ﴿الٰہ﴾ نہیں ہے، لہٰذا صرف ایک اللہ ہی کی ﴿عبادت﴾ کی جائی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

چاہیے۔ (آیت:25)

﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْٓ اِلَیْهِ ، اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا ، فَاعْبُدُوْنِ﴾

(c) تمام انبیاء ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لوگوں کے امام اور لیڈر بن کر ان کی ہدایت کیا کرتے تھے۔

﴿ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً یَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا ﴾ (آیت 73)

(d) تمام انبیاء، نیکیوں پر مشتمل کام کیا کرتے تھے اور نیکی کے کاموں ﴿الخیرات﴾ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ ﴿ وَاَوْحَیْنَآ اِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرٰتِ ﴾ (آیت:73)، ﴿ اِنَّهُمْ كَانُوْا یُسٰرِعُوْنَ فِی الْخَیْرٰتِ ﴾ (آیت:90)

(e) تمام انبیاء کو نماز اور زکاۃ کا حکم دیا گیا تھا اور وہ ان پر عامل تھے۔

﴿ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِیْتَآءَ الزَّكٰوةِ ﴾ (آیت:73)

(f) اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو نیک اور ﴿صالح﴾ بناتا ہے، وہ اعلیٰ کردار کے حامل ہوتے ہیں۔

﴿ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِیْنَ ﴾ (آیت:72)۔ ﴿ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴾ (آیت: 86)۔

(g) تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے سچے اور وفادار بندے اور پکے ﴿عبادت گذار﴾ ہوتے ہیں۔ ﴿ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِیْنَ ﴾ (آیت:73)

(h) تمام انبیاء انتہائی شوق ورغبت اور خوف ورہبت کے ساتھ اللہ کے حضور ﴿دعائیں﴾ مانگتے تھے۔

﴿ وَیَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ﴾ (آیت:90)

(i) تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے ﴿خاشعین﴾ ہوتے ہیں۔

﴿خشوع﴾ دل ودماغ میں عاجزی کی وہ کیفیت ہے، جس کے اثرات بدن پر نمایاں ہوتے ہیں۔

﴿ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِیْنَ ﴾ (آیت:90)

(j) تمام انبیاء صبر واستقامت کا پیکر ہوتے ہیں۔ مشکل حالات میں اعلیٰ درجے کے صبر وتحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور توحید پر ڈٹ جاتے ہیں۔

﴿ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِیْنَ ﴾ (آیت:85)

(k) تمام انبیاء کی ایک ہی ملت ہے۔ ان کا ایک ہی خاندان ہے، سب اللہ کے بندے اور اس کی حکومت کے نمائندے اور سفیر ہوتے ہیں۔

3۔ ﴿رسول اللہ ﷺ کا مذاق﴾

(a) مشرکینِ مکہ کو خبردار کیا گیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو دیکھتے ہی مذاق بنا لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بھلا کہتے ہیں۔

﴿وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا، اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ؟﴾ (آیت:36)۔

(b) رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ وہ دل جمعی رکھیں۔ تمام پچھلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔

﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ﴾ (آیت:41)۔

4۔ ﴿رسول اللہ پر الزامات﴾

(a) رسول اللہ ﷺ پر مشرکین نے یہ طنز کیا کہ یہ تو آپ لوگوں کی طرح کے ایک انسان کے علاوہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ﴿هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ؟﴾ (آیت:3)۔

(b) رسول اللہ ﷺ کی زبان سے وحی مبارک کو سن کر مشرکین نے کہا کہ یہ پراگندہ خواب ہیں۔

﴿بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ﴾ (آیت:5)۔ وہ کہتے ہیں ”بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں

(c) آپ ﷺ پر الزام عائد کیا گیا کہ اس قرآن کو نعوذ باللہ آپ نے گھڑ لیا ہے۔ ﴿بَلِ افْتَرٰىهُ﴾ (آیت:5)۔

(d) آپ ﷺ پر الزام عائد کیا گیا کہ آپ ایک شاعر ہیں۔ ﴿بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ (آیت:5)۔

(e) مشرکینِ مکہ کو جواب دیا گیا کہ کوئی رسول بھی کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہوتا اور کوئی رسول بھی ابدی زندگی لے کر نہیں آتا۔ ﴿وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ﴾ (آیت:8)۔

اُن رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں ، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔

5۔ ﴿تخلیقِ کائنات اور تخلیقِ انسان کا ایک خاص مقصد ہے﴾

انسان کی تخلیق کا مقصد خیر و شر کی آزمائش ہے۔ انسان کو خیر و شر کی آزادی (Freedom of Choice) عطا کی گئی ہے۔

(a) سورۃ الانبیاء میں وضاحت کی گئی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے عین مطابق ہے۔

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ﴾ (آیت:16)۔

(b) انسان کی تخلیق کا مقصد خیر و شر کی آزمائش ہے، اسے سکھ دکھ میسر ہوں گے۔ لہٰذا مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہو کر جواب دینا ہوگا۔ (آیت:35)۔

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ، وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ، وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6۔ ﴿زمین وآسمان کے بارے میں عجیب وغریب انکشاف﴾

زمین وآسمان کے بارے میں یہ عجیب وغریب انکشاف کیا گیا کہ یہ دونوں پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جدا کر دیا۔

چودہ سو سال پہلے کیا گیا یہ انکشاف، ہمارے دور کے سائنس دانوں کے نظریہ Big Bang Theory سے کس قدر مشابہ ہے؟ (آیت:30)۔

﴿اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا ، فَفَتَقْنٰهُمَا﴾

7۔ ﴿پانی کے بارے میں عجیب وغریب انکشاف﴾

پانی کے بارے میں یہ عجیب وغریب انکشاف کیا گیا کہ ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، انسانوں سے ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ، اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ؟﴾ (آیت:30)۔

سورۃ الانبیاء کا نظمِ جلی

سورۃ الانبیاء آٹھ (8) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 15: پہلے پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ پر جھوٹے الزامات عائد کرنے والوں کو ﴿ہلاکت کی دھمکی﴾ دی گئی

(a) اس حصے میں غافل اور لاپروا مشرکینِ مکہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کے محاسبے کا وقت آچکا ہے۔ وہ رسول اللہ ﷺ پر طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے تھے کہ محض ایک ﴿بشر﴾ ہیں (بھلا ایک بشر رسول کیسے ہوسکتا ہے؟) کبھی کہتے کہ یہ ﴿پراگندہ خواب﴾ ہیں۔ کبھی کہتے کہ اس قرآن کو آپ نے گھڑ لیا ہے۔ کبھی کہتے کہ یہ ﴿شاعر﴾ ہیں اور مطالبہ کرتے کہ پچھلے رسولوں کی طرح کا کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔

(b) مشرکینِ مکہ کو منصبِ رسالت کی نوعیت کو سمجھاتے ہوئے بتایا گیا کہ سابقہ تمام رسول انسان ہی تھے، اہلِ کتاب کے علماء سے دریافت کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ تمام رسول کھاتے پیتے تھے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ تھے۔ آمدِ رسول سے کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے والوں کو بچا کر مسرفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔

(c) قریشِ مکہ کو بتایا گیا کہ اب اللہ نے ایک کتاب اتاری ہے، جس میں خود ان کے لیے یاددہانی ہے۔

﴿وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ﴾۔ پھر انہیں ظالم لوگوں کی ہلاکت کا نقشہ کھینچ کر ڈرایا گیا۔

2- آیات 16 تا 29: دوسرے پیراگراف میں، ﴿توحید کا اثبات﴾ اور ﴿شرک کی تردید﴾ کی گئی۔

(a) اس حصے میں بتایا گیا کہ تخلیقِ کائنات کا ایک مقصد ہے، اسے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ حق کو

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

باطل پر دے مارے گا۔ باطل مٹ جائے گا۔ دنیا کو کھیل تماشا سمجھنے والوں کے لیے تباہی ہے۔

(b) فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھنے والے اللہ سے غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کے فرشتے اور اللہ کے مقرب فرشتے دم لیے بغیر اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی عبادت سے نہیں تھکتے۔ زمین کو سیراب کرنے والے خدا الگ نہیں ہیں۔

(c) توحید کی عقلی دلیل پیش کی گئی اور فرمایا گیا کہ اگر زمین کے خدا الگ ہوتے اور آسمان کے خدا الگ ہوتے تو زمین وآسمان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ عرش کا مالک اللہ ان منسوب کردہ غلط صفات سے پاک ہے۔ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں۔ بلکہ سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ اللہ کے علاوہ دیگر خداؤں کو ماننے والوں کو دلیل پیش کرنا چاہیے۔

(d) ہر رسول توحید عبادت کی دعوت دیتا ہے: ماضی میں جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں ان سب پر اللہ نے یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے۔

(e) فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینے والے مشرکین سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان الزامات سے پاک ہے۔ فرشتے تو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرشتے صرف ان لوگوں کی شفاعت کریں گے، جنہیں اللہ پسند فرمائے گا۔ فرشتے اللہ کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں۔ جو کہے ﴿میں الٰہ ہوں﴾ اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔

3- آیات 30 تا 41: تیسرے پیراگراف میں، ﴿توحید کی آفاقی دلیلیں﴾ ہیں اور رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑانے والوں کو دھمکی دی گئی ہے۔

(a) اس حصے میں توحید کی آفاقی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ آسمان، زمین، پانی، پہاڑ اور پہاڑی دروں سے استدلال کیا گیا کہ وہی رات دن اور چاند سورج کا ﴿خالق﴾ ہے۔ ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔

(b) رسولوں کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ انہیں لافانی زندگی عطا نہیں کی جاتی۔ ہر انسان کو موت کا مزا چکھنا ہے۔ انسان کو خیر اور شر کے امتحان سے آزمایا جا رہا ہے اور موت کے بعد اللہ کے ہاں واپسی ہوگی۔

(c) مشرکین پر فردِ جرم عائد کی گئی کہ وہ رسولِ کریم ﷺ کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں اور طنز کرتے ہیں کہ آپ معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں ﴿يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُم﴾۔ اور خود ان کا یہ حال ہے کہ خدائے رحمان کے ذکر کا انکار کر رہے ہیں۔

(d) منکرینِ قیامت اس کا وقت پوچھتے ہیں۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ یہ دوزخ کی آگ سے نہ اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں کو۔ ان کی مدد کہیں سے نہ ہوگی۔ قیامت کی آفت اچانک آئے گی اور انہیں حیران کر

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دے گی یہ نہ تو اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مزید مہلت ملے گی۔

(e) رسول کریم ﷺ کو تسلی دی گئی کہ پچھلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، پھر وہ عذاب میں گھر گئے۔

4- آیات 42 تا 47: چوتھے پیراگراف میں، مشرکین کے خودساختہ خداؤں ﴿ آلِهَة ﴾ کی بے بسی بیان کر کے انہیں تنبیہ کی گئی کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ﴿مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا﴾۔

(a) اس حصے میں مشرکینِ مکہ سے ﴿ مجادلہ ﴾ ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کون سا خدا اللہ کی گرفت سے تمہاری حفاظت کر رہا ہے؟ کیا کوئی دوسرا خدا ان کو بچا سکتا ہے؟ وہ تو خود اپنی مدد کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ مشرکینِ مکہ پر فردِ جرم عائد کی گئی کہ یہ موروثی اور خاندانی امارت پر نازاں ہیں، لیکن اب اسلام پھیل رہا ہے اور مشرکینِ کی زمین تنگ ہوتی جارہی ہے۔ یہ بہت دیر تک غالب نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا۔

(b) رسول اللہ ﷺ وحی کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، ﴿إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ﴾ لیکن بہرے اس پکار کو کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ پچھتائیں گے۔

قیامت کے دن عدل ہوگا۔ رائی کے برابر عمل بھی لا کر دکھایا جائے گا اور محاسبے کے لیے اللہ کافی ہے۔

5- آیات 48 تا 49: پانچویں پیراگراف میں، یہ بات ثابت کی گئی کہ تورات اور قرآن دونوں کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں ﴿عقیدۂ توحید﴾ اور ﴿عقیدۂ آخرت﴾ اختیار کر لینا چاہیے۔

اس حصے میں بتایا گیا کہ پہلے حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کو فرقان ﴿تورات﴾، روشنی اور یاددہانی سے نوازا تھا اور اب ایک بابرکت ذکر (قرآن) محمد ﷺ پر نازل کیا گیا تو کیا مشرکینِ مکہ اس کا انکار کریں گے؟ تقویٰ رکھنے والے لوگ تو اللہ غیب اور قیامت پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتے ہیں اور خوفِ قیامت سے لرزاں رہتے ہیں۔

6- آیات 50 تا 93: چھٹے پیراگراف میں، ﴿کئی انبیاء﴾ کا ذکر کر کے ان کے کردار اور ان کی دعوت پر روشنی ڈالی گئی

(a) ﴿حضرت ابراہیمؑ کی توحیدی خدمات ﴾ اس حصے کی ابتدائی چوبیس آیات (50 تا 73) میں مشرکین کے جدامجد حضرت ابراہیمؑ کے عقیدۂ توحید کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ عقیدۂ توحید کے سلسلے میں انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے مناظرہ کیا، جو باپ دادا کی اندھی تقلید میں مبتلا تھی۔ عقلی دلیلیں پیش کیں۔ خود غور و فکر سے کام لیا اور دوسروں کو غور و فکر کی دعوت دی۔ ان سے پوچھا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ جو فائدہ اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتیں۔ عزیمت اور جرأت سے کام لیا۔ بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ چنانچہ آگ میں جھونکے گئے۔ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ مشرکین کی سازشیں ناکام ہوئیں۔ حضرت لوطؑ کے ساتھ ارضِ مقدس کی طرف ہجرت کی۔ آزمائش سے گزرے۔ اللہ نے ان پر انعام کیا اور بیٹے اسحاقؑ اور پوتے یعقوبؑ سے نوازا۔

حاصلِ کلام یہ ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(b) ﴿دیگر انبیاء کا کردار اور ان کی خدمات﴾ اس کے بعد آیات (74 تا 93) میں کئی انبیاء کا ذکر اختصار کے ساتھ کر کے بتایا گیا کہ یہ سب اللہ کے نیک، صالح، شاکر، صابر اور خاشع بندے تھے۔

- حضرت لوطؑ خبائث میں مبتلا ایک قوم سے برسرِ پیکار رہے۔ بالآخر اللہ نے نجات دی اور رحمت میں داخل ہوئے۔
- حضرت نوحؑ بھی اپنی قوم میں مسلسل دعوت کا کام کرتے رہے۔ اللہ سے مدد طلب کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالی نے انہیں اور ان کے پیروکاروں کو بچالیا۔
- حضرت داودؑ و سلیمانؑ کو علم و حکم کی نعمتیں عطا کی گئیں۔ حضرت داودؑ کو خوش الحانی عطا کی پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے۔ انہیں ہنر سکھایا کہ فوج کے لیے آہنی لباس تیار کرتے تھے۔
- حضرت سلیمانؑ کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ جنات ان کے تابع تھے۔
- حضرت ایوبؑ کو تکلیف سے نجات دی۔ ان کی دعائیں قبول کیں۔
- حضرت اسماعیلؑ و ادریسؑ و ذوالکفلؑ کو ان کی صبر و استقامت اور نیک چلنی کے سبب اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔
- مچھلی والے حضرت یونسؑ کو نجات دی، جب انہوں نے اپنی لغزش کا اعتراف ان الفاظ میں کیا۔
﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنتَ، سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظّٰلِمِينَ﴾۔
- حضرت زکریاؑ کی دعا قبول فرما کر بڑھاپے میں حضرت یحییٰؑ جیسا بیٹا عطا فرمایا، ان سب کا اللہ سے مضبوط تعلق تھا۔ یہ سب بزرگ شوق اور خوف کے ملے جلے جذبات اور خشوع کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔
- پھر اللہ تعالی نے حضرت مریمؑ جیسی پاک دامن خاتون کو حضرت عیسیٰؑ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔

(c) حاصلِ کلام یہ ہے کہ تمام پیغمبر بشر ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے۔ لغزشوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ صابر و شاکر ہوتے ہیں۔ توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جرأت و عزیمت سے کام لیتے ہوئے قوم کی مخالفتوں کا سامنے کرتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالی سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ ان پر اعتراضات اور الزامات کے بجائے ان کی قدر و منزلت پہچاننے کی کوشش کی جائے۔

اس حصے کے آخر میں بتایا گیا کہ ان تمام انبیاء کی ایک ہی امت ہے ﴿اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً﴾ اور ان سب کا خدا بھی ﴿اللہ﴾ ہی ہے اور اُسی کی ﴿عبادت﴾ کی جانی چاہیے، لیکن بعد میں لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ نیک کوششیں کرے گا، اس کی محنت بیکار نہیں ہوگی۔

7- آیات 94 تا 106 : ساتویں پیراگراف میں، بتایا گیا کہ ﴿اہلِ توحید﴾ اور ﴿اہلِ شرک﴾ کا انجام یقیناً مختلف ہوگا

(a) اہلِ شرک کا انجام: اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ ضدی لوگ عذاب الٰہی سے پہلے رجوع نہیں کرتے۔ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کافر اس وقت پچھتائیں گے۔ مشرکین

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے کہا گیا وہ بھی اور ان کے بت بھی (اور اُن کے وہ لیڈر بھی، جو خدائی میں شریک ہونا چاہتے تھے) ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ یعنی دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ دوزخ میں وہ اس طرح چلائیں گے کہ کوئی فریاد نہیں سن سکے گا۔

(b) اہلِ توحید کا انجام: نیک لوگ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ دل پسند عیش میں ہوں گے۔ ان پر گھبراہٹ طاری نہ ہوگی۔ فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے۔

(c) قیامت کی عقلی دلیل پیش کی گئی کہ جس نے تخلیق کا ﴿آغاز﴾ کیا تھا، وہی اللہ ﴿اعادہ﴾ کرے گا۔ قیامت ہو کر رہے گی۔ ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ﴾ (آیت:104)

8- آیات 107 تا 112: آٹھویں اور آخری پیرا گراف میں، رسول اللہ ﷺ کو ﴿ساری کائنات کے لیے رحمت﴾ قرار دے کر آپ ﷺ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا۔

(a) آخری حصے میں مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی کہ ﴿انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا﴾ یہ بشارت زبور میں لکھ دی گئی تھی ﴿إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾

(b) مشرکینِ مکہ کو سمجھایا گیا کہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی قدر پہچانیں۔ آپؐ سلسلۂ رسالت کی آخری کڑی ہیں اور تمام اہلِ عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾۔ آخری پیغمبر کے بعد قیامت ہی کا انتظار کیا جاسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہو یا پھر فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مہلت ہو۔ ساری دنیا سے مطالبہ کیا گیا کہ کیا وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ؟﴾

(c) آخری آیت: توحید و شرک کی کشمکش کے ماحول میں رسول اللہ ﷺ کی دعا نقل کی گئی: ''اے میرے رب! حق کے ساتھ فیصلہ کردے۔ مشرکینِ مکہ کے خود ساختہ شرک پر ہم اپنے رحمٰن رب ہی سے مدد طلب کرسکتے ہیں۔''

﴿رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾

مرکزی مضمون

تمام انبیاء، توحید اور آخرت کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ آخری رسول محمد مصطفیٰ ﷺ ﴿رَحمَةً لِّلعالَمین﴾ ہیں۔ جدِ امجد ابراہیمؑ کی میراث کے صحیح وارث ہیں اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ قرآنی دلیلوں کی روشنی میں اس رحمتؐ کو جھٹلانے اور اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں انہیں ہلاک کیا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

22- سُوْرَةُ الْحَجِّ

آیات : 78 ...... مَدَنِيَّة" ...... پیراگراف : 6



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول اور پس منظر

1- سورت ﴿الحج﴾ مکی بھی ہے اور مدنی بھی۔ چنانچہ اس سورت میں مدنی رنگ اور مکی رنگ دونوں کا امتزاج ملتا ہے۔ ابتدائی چوبیس (24) آیات غالباً ہجرت سے پہلے 13 نبوی میں نازل ہوئیں۔ اور بقیہ 54 آیات ہجرت کے فوراً بعد مدینۂ منورہ میں نازل ہوئیں۔

پہلی ہجری میں سورۃُ الحج کے علاوہ، سورۃُ التغابن نازل ہوئی۔ دوسری ہجری میں سورۃُ البقرہ اور سورۃُ الطلاق نازل ہوئیں۔ رمضان دو ہجری یعنی جنگِ بدر سے پہلے سورۃُ محمد نازل ہوئی اور جنگِ بدر کے بعد سورۃُ الانفال۔

یہ وہ دور تھا، جب اسلامی تحریک ایک نئے اور حساس دور میں داخل ہو رہی تھی۔ 13 سال کی دعوت و تبلیغ اور اُس کے نتیجے میں ہونے والے ظلم و ستم اور رسول اللہ ﷺ کے شہرِ مکہ سے اِخراج اور قتل کے منصوبوں کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینۂ منورہ میں ایک ٹھکانہ فراہم ہو رہا تھا، جہاں اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ رہی تھی۔

2- یہ وہ پہلی سورت ہے، جس میں مسلمانوں کو قتال کی پہلی قسم دفاعی جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مسلم نوجوانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ روکے رکھیں ﴿ كُفُّوٓا أَيْدِيَكُمْ ﴾ (النساء:77)۔

3- اس سورت میں، قریش کی قیادت کے خلاف فردِ جرم (Charge Sheet) بھی عائد کی گئی ہے اور ان کے خلاف قتال و جہاد کا جواز (Legistimacy of War) بھی پیش کیا گیا ہے۔ قریش کی متکبر قیادت، اپنے جدِ امجد حضرت ابراہیمؑ کی میراث کھو چکی تھی۔ توحید کے بجائے شرک، آخرت پر یقینِ کامل کے بجائے ریب اور شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نماز، طواف اور دیگر مناسکِ حج میں بدعتوں کو جگہ دے چکی تھی۔ حلال و حرام کے خود ساختہ قوانین وضع کر کے اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کر رہی تھی۔ ان تمام غلط عقائد کے باوجود، یہ خانہ کعبہ کی متولی بھی تھی۔ تمام بلادِ عرب میں قریش کی ساکھ اسی گھر کی نسبت سے تھی۔ ان کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا، جس کے فروغ کی بنیادی وجہ ان کا مذہبی مرتبہ تھا۔ دراصل قریشی قیادت اُن پیرزادوں پر مشتمل تھی، جن کے اندر خوفِ خدا اور خوفِ آخرت دونوں کا فقدان تھا، یہ ایک ایسا ڈھانچہ تھا، جس میں صحیح ابراہیمی مذہبی رُوح عنقا ہو چکی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود، وہ کسی عقلی اور نقلی دلیل و برہان کے بغیر، محض تکبر کی بنیاد پر رسول اللہ ﷺ سے بحث و تکرار اور ﴿ مُجادلہ ﴾ پر اُتر آئے تھے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سُورۃُ الحجّ کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿الانبیاء﴾ میں بتایا گیا تھا کہ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ محمد ﷺ اس سلسلے کی آخری کڑی اور رحمت للعالمین ہیں۔ اپنے جدِّ امجد حضرت ابراہیمؑ کے سچے وارث ہیں۔ آپ ﷺ کو جھٹلانے والوں کی شامت آئے گی۔ پچھلی سورت میں جس شامت کا الٹی میٹم تھا، اُس کی عملی تعبیر کے لیے یہاں سورۃ الحج میں، تحریک کے ابتدائی مرحلے میں مظلوم مسلمانوں کو ظالم مشرکین کے خلاف دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی۔

﴿اُذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِیْرُ﴾ (آیت 39)

"اُن لوگوں کو (جہاد کی) اجازت دے دی گئی، جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے"۔ چنانچہ جب اگلے سال بدر میں ان کا مقابلہ کافروں سے ہوا تو مسلمانوں سرخرو ہوگئے۔

2۔ اگلی سورت ﴿المؤمنون﴾ میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اگلے مراحل میں مشرکین پر فتح حاصل کرنے کے لیے پختہ ایمان اور عملِ صالح ضروری ہے۔

● اہم کلیدی الفاظ اور مضامین:

1- ﴿دو قسم کی قیادتوں (Leadership) کا تقابل﴾

اس سورت میں مشرکینِ مکہ کی قیادت اور رسول اللہ ﷺ کی قیادت میں اسلام قبول کرنے والے نوجوانوں کے کردار کا تقابل بھی ہے اور دونوں گروہوں ﴿هٰذٰنِ خَصْمٰنِ﴾ (آیت 19) کے موقف کی وضاحت بھی۔ قریش کی قیادت اور مسلمانوں کی قیادت کے اس تقابل کو مندرجہ ذیل جدول میں ملاحظہ فرمائیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

موضوع اور حوالہ جات	قریش کی مشرک قیادت	مسلمان قیادت
ظُلِمُوْا (39)، اُخْرِجُوْا (40)	ظالم اور مُخْرِج	مظلوم اور مہاجر
آخرت پر شک، ریب (5,7)	جنت ودوزخ ، آخرت (بعث) اور جزاوسزا پر شکوک وشبہات	آخرت اور اُس کی جزاوسزا پر کامل یقین وایمان
توحیدِ عبادت آیات: 11، 71، 77	اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ مِن دُون اللّٰہ کی عبادت	صرف اللہ واحد کی عبادت
توحیدِ دعا آیات: 12، 13	مِن دُون اللّٰہ سے دُعا	صرف اللہ ہی سے دُعا
ولایت، اور سرپرستی آیات: 13 ، 78	لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ (13) برے مرجع اور برے ساتھی	لَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ (78) بہترین مرجع اور بہترین مددگار اللہ
امانتِ توحید میں خیانت آیت: 38	﴿خَوَّان﴾ بدعہد ، خائن اور ﴿كَفُور﴾ ناشکری قیادت ، جو خانہ کعبہ کی تولیت کا استحقاق نہیں رکھتی تھی۔	دینِ ابراہیمی اور توحید کی وارث قیادت، جو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا استحقاق رکھتی تھی۔
بلاعلم بحث وتکرار يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ آیات: 3، 8 ، 68	علم ، دلیل ، برہان ، ہدایت اور کتاب سے محروم قیادت ، جو بے جا بحث وتکرار اور ﴿مُجادلہ﴾ پر اُتر آئی تھی	عقلی اور نقلی دلیلوں سے مسلح قیادت، جو وحی کی روشنی میں اعلیٰ اخلاق وکردار کی حامل تھی۔
حق وباطل آیت: 62	یہ قیادت باطل کی پیروکار اور باطل کی علمبردار تھی۔ ﴿مِن دُونِ اللّٰہ﴾ باطل ہیں	یہ قیادت حق کی پیروکار اور حق کی علمبردار تھی۔ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- ﴿مشرکینِ مکہ کا بلا علم اور بلا دلیل مُجادَلَہ﴾

سورۃ الحج میں اس طرزِ عمل اور بحث و تکرار ﴿مُجادَلَہ﴾ کا تین (3) مرتبہ ذکر کیا گیا (آیات 3، 8 اور 68)

a۔ قریش کو صاف بتا دیا گیا کہ وہ کسی پختہ علم کے بغیر، رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے، ہر سرکش شیطان ﴿كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ﴾ کی پیروی کرتے ہوئے ﴿مُجادَلَہ﴾ یعنی بحث و تکرار پر اتر آئے ہیں۔ (آیت 3)

b۔ قریش کو صاف بتا دیا گیا کہ وہ علم، کتاب اور دلیل و برہان کے بغیر، رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ﴿مُجادَلَہ﴾ یعنی بحث و تکرار پر اتر آئے ہیں۔ (آیت 8)

c۔ رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ قریش پر واضح کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مجادلانہ طرزِ عمل سے خوب واقف ہے اور وہ روزِ قیامت فیصلہ کرے گا۔ (آیت 68)

3- ﴿اِمکانِ آخرت پر شک﴾

آخرت اور بعثت کو شک ﴿ریب﴾ کی نگاہ سے دیکھنے والوں اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو ایک آفاقی دلیل کے ذریعے مطمئن کیا گیا کہ قبروں سے ضرور اٹھایا جائے گا۔ قیامت برپا ہو کر رہے گی (آیات 5 تا 7)۔

منکرین کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قیامت تک شک ﴿مِرية﴾ ہی میں مبتلا رہیں گے (آیت 55)۔

4- ﴿توحید فی الدعاء کے سلسلے میں دو (2) رویے﴾

a۔ پہلا رویہ شدید گمراہ مشرکینِ مکہ کا تھا۔ وہ اُن ہستیوں کو پکارتے تھے، جو انہیں نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھیں۔

﴿يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ﴾ (آیت 12)

b۔ اس کے برخلاف رسول اللہ ﷺ کو ہدایت دی گئی کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکاریں اور اللہ ہی سے دعا کریں۔

﴿وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ﴾ (آیت 67)

5- ﴿بہترین اور بدترین سرپرست﴾ اس سورت میں دو قسم کی ولایتوں کا ذکر ہوا ہے۔

نِعمَ المَولٰی (آیت 78) اور بِئسَ المَولٰی (آیت 13):

a۔ سورۃ الحج کی اس آخری آیت نمبر 78 میں ﴿نِعمَ المَولٰی﴾ کے لفظ سے دراصل، آیت 13 میں بیان کردہ ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ﴾ کا جواب دیا گیا ہے۔

b۔ انسان جب ﴿مِن دُونِ اللّٰه﴾ سے دعا کرتا ہے تو وہ گمراہی کی انتہاء پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایسی مخلوق سے دعا کرتا ہے، جو ﴿بِئْسَ الْمَوْلٰى وَبِئْسَ الْعَشِيْرُ﴾ یعنی بدترین ساتھی اور رفیق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ﴿نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ﴾ یعنی بہترین مددگار ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6- ﴿اللہ تعالیٰ کے دو (2) اہم اصول اور قوانین۔ پہلے مہلت، پھر گرفت﴾

اس سورت کی آیات نمبر 44 اور 48 میں اللہ تعالیٰ کے دو (2) قوانین کی وضاحت کی گئی ہے۔

a۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو مہلت دیتا ہے، عذاب کو موخر کر دیتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ اِس اصول کی وضاحت کے لیے ﴿اَمْلَيْتُ﴾ ''میں نے مہلت دی'' کا لفظ استعمال کیا گیا۔

b۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ مہلت کی مدت گزر جانے پر پکڑ لیتا ہے۔ اِس اصول کی وضاحت کے لیے ﴿اَخَذْتُ﴾ ''میں نے پکڑ لیا'' کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ﴿فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ﴾ (آیت:44)

﴿وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ﴾ (آیت:48)

7- ﴿مظلوم مومنین مہاجرین کے لیے خوشخبری﴾

a۔ اس سورت میں اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے مظلوم مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ کے دین کے قیام کی کوشش اور کریں گے تو اللہ تعالیٰ اُن کی ضرور مدد کرے گا۔

﴿اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ .... وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ﴾ (آیت:40)

b۔ ہجرت کے دوران میں شہید ہونے والوں اور مرنے والوں کو رزقِ حسن کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ (آیت:58)

﴿وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ﴾ (آیت:58)

8- ﴿بھرپور جہاد کے مختلف اور جامع پہلو﴾

اس سورت کی آخری آیت میں بھرپور مجاہدے کا حکم دیا گیا ہے۔ ﴿وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ﴾

''اللہ کی راہ میں جہاد (جدوجہد) کرو! جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے''۔

a۔ ﴿جہاد﴾ میں نہ صرف ﴿قتال﴾ بلکہ ہر قسم کی کوشش اور جدوجہد شامل ہے۔ جہاد زبان وقلم سے بھی ہوتا ہے اور تلوار سے بھی۔ عدل وقسط کا اہتمام بھی جہاد ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ افضل مومن کون سا ہے؟ فرمایا: ﴿مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ ''ایسا مومن جو اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے'' (صحیح مسلم:4995)

b۔ جہاد کا آغاز، قبولیتِ اسلام اور صحیح عقیدۂ توحید سے ہوتا ہے، پھر یہ تعلق باللہ اور صبر کی منزلوں سے ہوتا ہوا ہجرت کی منزلیں طے کرتا ہے، پھر نوبت قتال اور اِقامتِ دین کی آتی ہے، تا کہ اسلامی حکومت کے ذریعے قیام

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

عدل کو یقینی بنایا جا سکے۔

c۔ ﴿حَقَّ جِهَادِهٖ﴾ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی خودساختہ رائے کے مطابق جدوجہد نہ کرے، بلکہ قرآن وسنت اور صحابہؓ کے راستے اور طریقہ کار کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام جسمانی، ذہنی، فکری، مالی، مادی اور روحانی صلاحیتوں کو شہادتِ دین کے لیے وقف کر دے۔

d۔ حق پرست گروہ قیامت تک ﴿جہاد﴾ یعنی ﴿قتال﴾ بھی کرتا رہے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (صحیح مسلم 412)

"میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہتے ہوئے مسلسل لڑتا رہے گا اور غالب ہوگا"

e۔ ﴿حَقَّ جِهَادِهٖ﴾ میں علماء اور مجتہدین کا اجتماعی اجتہاد بھی شامل ہے، جو نئے پیش آمدہ مسائل کا حل قرآن وسنت کے واضح نصوص کی روشنی میں تلاش کر سکیں۔

f۔ غلبۂ اسلام کے لیے دین اور دنیا کا صحیح اور پختہ علم حاصل کرنا بھی ﴿جہاد﴾ ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ﴾

"جو علم کی تلاش میں نکلا، وہ اللہ کی راہ میں ہے، یہاں تک کہ وہ واپس آجائے" (ترمذی: 2647، ضعیف)

9- ﴿اسلامی حکومت کی چار اہم ذمہ داریاں﴾

اس سورت میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ جہاد وقتال کا اصل مقصد، عادلانہ اسلامی ریاست کا قیام ہے۔ آیت نمبر 41 میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی ریاست کے چار (4) بنیادی فرائض ہیں۔

(1) نماز کا قیام (2) نظامِ زکوٰۃ کا قیام (3) معروف کا حکم (4) منکرات کی روک تھام۔

10- ہمارا ازلی نام ﴿مُسلمین﴾ ہے:

اس سورت کی آخری آیت نمبر 78 میں، ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کا نام مسلمان ﴿الْمُسْلِمِيْنَ﴾ رکھا ہے، انہیں قیامت تک کے لیے، ساری دنیا کی ہدایت وامامت کے لیے چن لیا گیا ہے ﴿هُوَ اجْتَبٰكُمْ﴾۔ انہیں اپنے جدِ امجد حضرت ابراہیمؑ کی میراثِ توحید کی حفاظت کرتے ہوئے، دنیا کی بقیہ آبادی تک دعوت وتبلیغ اور شہادتِ حق کا فریضہ بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔

﴿تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ﴾

11- ﴿مسلمانوں کے اتحاد اور جمعیت کی اصل بنیاد﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے اعتصام باللہ ﴿ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ﴾ کا حکم دیا گیا، تاکہ وہ تعلق باللہ کی بنیاد پر اپنی جمعیت اور تنظیم کو مضبوط اور مستحکم کر سکیں۔

سُورَةُ الْحَجّ کا نظمِ جلی

سورۃ الحج چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 24: پہلے پیراگراف میں، منکرینِ توحید و قیامت و آخرت سے ﴿ مُجَادَلَه ﴾ ہے کہ وہ بلادلیل بحث و تکرار میں مبتلا ہیں۔

a۔ سب سے پہلے مناظرِ قیامت کی ہولناکی سے قریشِ مکہ کو تخویف کی گئی۔ مشرکین کسی علم اور دلیل کے بغیر ہر سرکش شیطان ﴿ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ ﴾ کی پیروی کر رہے ہیں اور اللہ کے معاملے میں فضول بحث و تکرار اور ﴿ مُجَادَلَه ﴾ میں گرفتار ہیں۔ (آیات: 1 تا 4)

b۔ وہ منکرِ آخرت بھی ہیں۔ دلائلِ تخلیق اور دلائلِ خزاں و بہار کے ذریعے ان پر اتمامِ حجت کی گئی کہ وہ تکبر ترک کر دیں اور ہدایت، کتابِ مبین اور پختہ علم کے بغیر ﴿ مُجَادَلَه ﴾ یعنی بحث و تکرار نہ کریں۔ (آیات: 5 تا 10)

c۔ مشرکین کنارے کنارے رہتے ہوئے اللہ کی جزوی عبادت کرتے ہیں۔ ﴿ شرک فی الدعا ﴾ کے مرتکب ہیں۔ ان کے خدا اور اِن کے رفیق بدترین سرپرست اور بدترین ساتھی ہیں۔ آفاقی دلیلوں سے شرک کا ردّ اور توحید کا اثبات کیا گیا۔

d۔ دو مخالف گروہوں ﴿ خَصْمَانِ ﴾ مشرکینِ مکہ اور مسلمانوں کا مختلف کردار اور انجام واضح کیا گیا۔ (آیات: 19 تا 24)

2- آیات 25 تا 38: دوسرے پیراگراف میں واضح کیا گیا ہے کہ قریش نہیں، بلکہ مسلمان خانہ کعبہ کے جائز متولی (Legitimate Custodian) ہیں۔

a۔ مسجدِ حرام کے حقوق اور احکامِ حج کی تفصیلی وضاحت کی گئی (آیات: 25 تا 37)۔

b۔ قریش کی خوّان (خائن اور بدعہد) و کفور (ناشکری) قیادت کے مقابلے میں، مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا۔

3- آیات 39 تا 41: تیسرے پیراگراف میں، اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بتا کر، ﴿ مظلوم مسلمانوں کو قتال کی اجازت ﴾ دی گئی۔

a۔ مظلوم مسلمانوں کو دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی۔ (آیت: 39)

b۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں سے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ﴾

c۔ جہاد کا مقصد اسلامی ریاست کا قیام ہے اور اسلامی ریاست کے چار (4) اہم ترین بنیادی بنیادی فرائض گنوائے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

گئے۔نماز کا قیام، اہتمام زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (آیت:41)۔

4- آیات 42 تا 62 : چوتھے پیراگراف میں، تکذیب کرنے والی قوموں کی تاریخ بتا کر، کافروں کو راست (Direct) یا مسلمانوں کے ذریعے بالواسطہ (Indirect) ہلاکت کی دھمکی دی گئی (آیات:42 تا 48)

a۔ اللہ تعالیٰ کے دو (2) قوانین کی وضاحت کی گئی۔ پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو مہلت دیتا ہے، عذاب کو موخر کرتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ اِس قانون کی وضاحت کے لیے ﴿اَمْلَیْتُ﴾ "میں نے مہلت دی" کا لفظ استعمال کیا گیا۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ وہ مہلت کی مدت گزر جانے پر پکڑ لیتا ہے۔ اِس قانون کی وضاحت کے لیے ﴿اَخَذْتُ﴾ "میں نے پکڑ لیا" کا لفظ استعمال کیا گیا۔ (آیات:44 تا 48)

b۔ ایمان لانے والوں سے مغفرت اور رزقِ کریم کا وعدہ اور کافروں کو دوزخ کی وعید سنائی گئی۔ (آیات:49 تا 61)

c۔ ہجرت کے دوران میں شہید ہونے والوں اور مرنے والوں کو رزقِ حسن کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔
﴿لَیَرْزُقَنَّھُمُ اللّٰہُ رِزْقًا حَسَنًا﴾۔ (آیت:58)

d۔ دلائل کے ذریعے مشرکین پر واضح کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ﴾ یعنی دوسروں سے دعا کرنا باطل ہے۔ (آیت:62)

5- آیات 63 تا 76 : پانچویں پیراگراف میں، دلائلِ توحید سے واضح کیا گیا ہے کہ ﴿خالق اور مخلوق﴾ برابر نہیں ہو سکتے

a۔ دلائلِ ربوبیت اور دلائلِ قدرت بیان کر کے آخر میں رسول اللہ ﷺ کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ (آیات:63 تا 68)

b۔ مشرکین پر واضح کیا گیا کہ ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ﴾ کی عبادت بلا دلیل ہے۔ ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ (آیات:69 تا 72)

c۔ عقیدۂ توحید کی وضاحت اور اِبطالِ شرک کے لیے ایک خوبصورت تمثیل بیان کی گئی۔ مکھی کی مثال سے ثابت کیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ﴾ یعنی دوسروں سے مانگ کر کوئی معمولی چیز بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ طالب اور مطلوب دونوں ناتواں ہیں یعنی انسان بھی کمزور ہے اور ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ﴾ بھی کمزور (آیت:73)۔

d۔ مشرکین پر افسوس کا اِظہار کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہ پہچانی۔ ایسا اللہ کی صفات سے لاعلمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (آیات:74 تا 76)

6- آیات 77 تا 78 : چھٹے اور آخری پیراگراف میں، مسلمانوں کے لیے دس (10) نکاتی ہدایت نامہ عطا کیا گیا۔

رکوع، سجدہ، عبادت، افعالِ خیر، جہاد و قتال، دینِ ابراہیمی کی پیروی، شہادتِ دین کی انجام دہی، اہتمامِ نماز، اہتمامِ زکوٰۃ اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی بنیاد پر اجتماعیت کی تشکیل۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

a۔ امتِ مسلمہ کی فلاح کا دارومدار، صحیح عقیدے، صحیح عبادات واطاعات اور صحیح اجتماعی رویوں پر موقوف ہے۔

b۔ مسلمانوں کو اپنی تمام تر جسمانی، ذہنی، فکری، مالی، مادّی اور روحانی صلاحیتوں کو شہادتِ دین کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔

c۔ مسلمانوں کو صحیح عقیدۂ توحید، شہادتِ دین، اِقامتِ دین، امامت وقیادت، جہاد اور عدلِ اجتماعی کے لیے منتخب کرلیا گیا ہے۔

d۔ دینِ اسلام میں رہبانیت اور تصوف کی سختیاں نہیں رکھی گئیں ہیں۔ان کا نام مسلمان رکھا گیا ہے، انہیں فرقہ پرستی سے بچنا چاہیے۔شہادتِ دین کے بارے میں نہ صرف رسول اللہ ﷺ بلکہ امتِ مسلمہ سے بھی باز پرس ہو گی۔آخر میں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ کو ﴿نِعمَ المَولیٰ﴾ اور ﴿نِعمَ النَّصِیر﴾ مان کر تعلق باللہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنا چاہیے۔(آیت:78)

مرکزی مضمون

مشرکینِ مکہ کے خلاف فردِ جرم اور اُن کے خلاف جہاد وقتال کے جواز (Legitimacy of War) کے دلائل۔مسلمانوں کو اِطاعت عبادت، شہادت، دین، تعلق باللہ، دعوت وتبلیغ، جہاد وقتال، مضبوط اجتماعیت اور اسلامی حکومت کے قیام کے مقاصد کو یاد رکھنے کی ہدایت۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

23- سُوْرَۃُ الْمُؤْمِنُوْنَ

آیات : 118 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 8



زمانۂ نزول:

سورۃ ﴿المؤمنون﴾ ، سورۃ ﴿الفرقان﴾ کے ساتھ، غالباً سات (7) نبوی کے قحط کے زمانے میں، رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) میں حضرت عمرؓ کے قبولِ اسلام (ذوالحجہ 6 نبوی) کے بعد نازل ہوئی، جب آپ ﷺ پر ﴿مجنون﴾ ہونے کا الزام تھا (آیت:70)۔ جنون کا یہی الزام حضرت نوحؑ پر بھی عائد کیا گیا تھا۔ (آیت:25)

آخری آیت:118 میں رحم کی دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قریشِ مکہ کو ہلاک نہ کرے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ المُؤمِنُون کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورۃُ ﴿الحَجّ﴾ میں اللہ کی طرف سے مظلوموں کو جہاد کی اجازت دی گئی تھی (آیت: 39)۔ یہاں سورۃُ ﴿المُؤمِنُون﴾ میں ظالموں کو بتایا گیا کہ نجات کا راستہ ایمان اور عملِ صالح ہے تا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔

2۔ اس سورۃ ﴿المُؤمِنُون﴾ میں، مسلمانوں سے ایمان کے بعد اخلاقی، عبادتی اور مالی جامع اعمالِ صالحہ کا مطالبہ ہے، جو انفرادی اہمیت کی حامل ہیں۔

3۔ اگلی سورۃ ﴿النُّور﴾ میں اسلامی ریاست اور اُس کے اداروں کی تنظیم کے لیے، قانونی، معاشرتی اور فوجداری قوانین کے نفاذ کا مطالبہ ہے۔

اہم الفاظ ومضامین

1۔ سورۃ المؤمنون میں ﴿فلاح﴾ یعنی کامیابی کے لیے دو (2) شرائط کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان اور عملِ صالح

(a) ایمان لا کر جامع صفات پر مشتمل کردار سازی کی کوشش کرنے والے لوگ ہی ﴿فلاح﴾ پائیں گے۔

﴿ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴾ (آیت:1)

(b) اللہ کے ساتھ ساتھ ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ سے دعا کرنے والوں کے پاس کسی قسم کی دلیل نہیں ہے، وہ ﴿فلاح﴾ نہیں پا سکیں گے۔

﴿وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ، لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ، فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ، اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴾ (آیت:117)۔

2- سورۃ المؤمنون میں ﴿توحیدِ خالقیت﴾ کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں۔

(a) توحید کی ﴿انفسی دلیلیں﴾ بیان کرتے ہوئے واضح کی گیا کہ اللہ تعالی نے انسان کی ﴿تخلیق﴾ مٹی سے کی ہے۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ﴾۔ (آیت:12)

(b) اللہ تعالی نے انسان کی ﴿تخلیق﴾ کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں۔ پہلے نطفہ، پھر لٹکنے والا جرثومہ، پھر لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت اور پھر وہ ایک بھرپور انسان بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نہ صرف خالق ہے، بلکہ نہایت بابرکت فیض رساں ﴿احسن الخالقین﴾ ہے۔

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا، فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا، ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ، فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ﴾۔ (آیت:14)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) توحید کی ﴿ آفاقی دلیلیں ﴾ بیان کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان تہہ بہ تہہ ﴿ تخلیق ﴾ کیے، وہ اپنی ﴿ تخلیق ﴾ سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ﴾ (آیت:17)

3- سورۃ المؤمنون میں ﴿ توحید ﴾ کی ﴿ نقلی دلیلیں ﴾ اور ﴿ عقلی دلیلیں ﴾ بھی فراہم کی گئیں۔

(a) نقلی دلیل یہ کہ حضرت نوحؑ کے بعد سارے پیغمبروں نے ﴿ اللہ کی عبادت ﴾ کی دعوت دی، شرک سے روکا، لہٰذا شرک سے بچنا چاہیے۔ (آیت:32)

﴿فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ، اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ، مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ، اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ؟﴾

(b) رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بھی یہ وضاحت کی گئی کہ وہ بھی توحید کے سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ﴿وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾ (آیت:73)

(c) توحید کی عقلی دلیلیں فراہم کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس کے ساتھ ﴿ الوہیت ﴾ اور ﴿ خالقیت ﴾ میں کوئی شریک نہیں ہے، ورنہ ہر ﴿ خالق ﴾، اپنی اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر ﴿ خالق ﴾ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔

﴿مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ، وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ، اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ، وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ﴾ (آیت:91)

(d) آخر میں صاف کہہ دیا گیا کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے گا تو اس کے پاس کسی قسم کی دلیل اور ﴿ برھان ﴾ نہیں ہے۔ ﴿وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ، لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ، فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ، اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴾ (آیت:117)

4- سورۃ المؤمنون میں ﴿ آخرت اور انکارِ آخرت ﴾ کے سلسلے میں قریش کے رویے بھی بیان کیے گئے ہیں۔

(a) مشرکینِ مکہ میں سے بعض لوگ ﴿ آخرت کا انکار ﴾ کرتے تھے۔ انہیں تعجب تھا کہ قبر کی مٹی بن جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟

﴿ قَالُوْا: ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ؟﴾ (آیت:82)

(b) مشرکینِ مکہ میں سے بعض لوگ خالص دہریے اور مادہ پرست ﴿ منکرِ آخرت ﴾ تھے۔ دنیاوی زندگی ہی کو حتمی زندگی سمجھتے تھے، جس میں وہ مرتے اور جیتے ہیں۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔

﴿اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ﴾۔ (آیت:37)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) ان ﴿منکرینِ آخرت﴾ کافرین کا موقف یہ تھا کہ رسول کریم ﷺ عام انسانوں کی طرح ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ یہ چونکہ عام آدمیوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے ان کا یہ رویہ ان کے غرور اور ان کی مادّی خوشحالی کی وجہ سے تھا، جسے قرآن نے ﴿اِتـــراف﴾ کا نام دیا ہے۔ چنانچہ یہ کافر ملاقاتِ رب کا بھی انکار کرتے تھے اور رسالتِ محمدیؐ کا بھی۔

﴿وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ ، وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ، يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ ، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ﴾۔(آیت:33)

(d) اللہ تعالیٰ نے ان ﴿منکرینِ آخرت﴾ پر واضح کر دیا کہ تم لوگ بھی ضرور بہ ضرور روزِ قیامت دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔﴿ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ﴾۔(آیت:16)

(e) اللہ تعالیٰ نے ان ﴿منکرینِ آخرت﴾ پر یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔

﴿وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ﴾ (آیت:74)

(f) قیامت کا نقشہ کھینچ کر بتایا گیا کہ اس دن وہ درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اس مرتبہ وہ نیک عمل کر کے دکھائیں گے۔اللہ نے وضاحت کی کہ کہنے والا جان بچانے کے لیے اس طرح کی بات کرے گا ۔﴿منکرینِ آخرت﴾ کو یہ بھی بتایا گیا کہ موت اور قیامت کے درمیان عالمِ برزخ ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے تک انہیں برزخ میں رہنا ہوگا۔

﴿لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ ، كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ، وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ﴾ (آیت:100)

5۔ سورہ المؤمنون میں مشرک قیادت کے برے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔

اس سورت میں کافر قیادت کے لیے ﴿مُسْتَكْبِر﴾ ، ﴿عَالِىْ﴾ اور ﴿مُتْرِفِين﴾ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

(a) فرعون اور اُس کے فوجی سرداروں نے ﴿استکبار﴾ سے کام لیا، وہ اپنے آپ کو سب سے بلند ﴿عَالِين﴾ سمجھتے تھے۔

﴿اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ﴾ (آیت:46)

(b) یہ لوگ ﴿تکبر﴾ سے اللہ کی آیات سے اسی طرح اعراض کرتے ہیں ، جیسے کسی افسانہ گو کو ترک کیا جاتا ہے۔

﴿قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ o مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ﴾ (آیت:67)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) قوم کے کافر اور منکرینِ آخرت ﴿مُتۡرَفِين﴾ یعنی خوشحال لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا اور کہا کہ یہ ہماری ہی طرح کھانے پینے والا محض بشر ہے ، رسول نہیں۔

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ (آیت:33)

(d) بالآخر اللہ تعالیٰ نے بستی کے ﴿مُتۡرَفِين﴾ یعنی خوشحال لوگوں کو عذاب میں جکڑ لیا۔

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ﴾ (آیت:64)

6۔ سورۃ المؤمنون میں ﴿استبدال اقوام﴾ (Law of Replacement) کا قانون بھی بیان کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے دو قانون ہیں۔

پہلا قانون یہ ہے کہ وہ وقفے وقفے سے مجرم قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے، یہ (Law of Annihilation) قانونِ ہلاکت ہے۔

دوسرا قانون یہ ہے کہ ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے بعد وہ دوسری قوم کو اٹھاتا ہے، یہ قانونِ استبدال (Law of Replacement) ہے۔

(a) قومِ نوحؑ کی ہلاکت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو میدانِ امتحان میں لا کھڑا کیا۔

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ (آیت:31)

(b) اسی طرح اس نے دوسری قوموں کی ہلاکت کے بعد کچھ اور لوگوں کو میدانِ امتحان میں لا کھڑا کیا۔

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ﴾ (آیت:42)

7۔ سورۃ المؤمنون میں مجرم قوموں کی ہلاکت کا اصول بھی بیان کیا گیا ہے۔

مشرکینِ مکہ رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ تکذیب کے مجرم تھے۔ اپنی خوشحالی پر مغرور اور متکبر تھے۔ وہ اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اللہ کے حضور عاجزی اور تضرّع اختیار کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان بداعمالیوں کے سبب انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔

(a) اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے، لیکن انہوں نے سب کی ﴿تَكْذِيب﴾ کی بالآخر ایمان نہ لانے والوں کو افسانہ بنا کر رکھ دیا گیا۔

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (آیت:44)

(b) ﴿تاریخی دلیل﴾ دی گئی کہ ماضی میں ﴿تَكْذِيب﴾ یعنی جھٹلانے کی وجہ سے لوگ ﴿مُهْلَك﴾ یعنی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہلاکت یافتہ بنے۔﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾ (آیت:48)

(c) اللہ کا یہ اصول ہے کہ وہ خوشحال لوگوں یعنی ﴿ مترفین ﴾ کو حکم دیتا ہے، وہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالی انہیں اپنے عذاب میں جکڑ لیتا ہے۔

﴿حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْــَٔرُوْنَ ﴾ (آیت:64)

(d) اللہ تعالی نے ان مجرموں کو اپنے عذاب میں جکڑا۔ یہ لوگ نہ تو جھکنے والے تھے اور نہ تضرع اختیار کرنے والے لوگ تھے۔

﴿وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ ، فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ ، وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴾ (آیت:76)

8۔ سورۃ المؤمنون میں رحمت اور مغفرت کی دعائیں:

(a) اللہ کے نیک بندے، اللہ سے مغفرت بھی چاہتے ہیں اور وہ اس کی رحمت کے طلب گار بھی ہوتے ہیں۔

﴿اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴾ (آیت:109)

(b) آخری آیت میں رسول اللہ ﷺ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مغفرت اور رحمت کے طلب گار بن جائیں۔ قریش پر عذاب نازل ہوسکتا ہے۔

﴿وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴾ (آیت:118)

سُورَةُ الْمُؤْمِنُوْن کا نظمِ جلی

سورۃ الْمُؤْمِنُوْن آٹھ (8) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 11 : پہلے پیراگراف میں، مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔

﴿فلاح ﴾ یعنی کامیابی کے لیے سب سے پہلے ایمان اور اس کے بعد نیک اعمال لازمی ہیں۔ چند نیک اعمال یہ ہیں۔

(1) نماز میں خشوع۔ (2) لغویات سے پرہیز۔ (3) زکوۃ اور تزکیہ نفس پر عمل۔

(4) جنسی پرہیزگاری۔ (5) امانت کا پاس۔ (6) عہد کا لحاظ۔ (7) نمازوں کی حفاظت۔

2- آیات 12 تا 22 : دوسرے پیراگراف میں، توحید کی انفسی اور آفاقی دلیلوں سے اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے۔

سب سے پہلے انسان کی اپنی تخلیق کے مراحل بیان کر کے اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کو واضح کیا۔ یہ ﴿ انفسی دلیل ﴾ تھی۔ اس کے بعد سات آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کر کے ﴿ آفاقی دلیل ﴾ فراہم کی۔ پھر مختلف پھلوں کی نعمتوں کا ذکر فرمایا پھر مویشیوں کا ذکر کیا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالی انسانوں کو دودھ اور گوشت فراہم کرتا ہے اور ان جانوروں کو سواری کا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ذریعہ بھی بنادیتا ہے۔

3- آیات 23 تا 31 : تیسرے پیراگراف میں، حضرت نوحؑ کی دعوت اوران کی قوم کی ہلاکت کا بیان ہے۔

قوم نے حضرت نوحؑ کو جھٹلایا۔ سرداروں نے مخالفت کی۔ حضرت نوحؑ نے اللہ سے فریاد کی ﴿رب انصرنی﴾۔
اللہ کے حکم پر انہوں نے کشتی بنائی پھر طوفان کے بعد کشتی والوں کو بچالیا گیا اور جھٹلانے والوں کو غرق کردیا گیا۔
قوم نوحؑ کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو اُٹھایا۔ ﴿ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ م بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ﴾
قوم نوحؑ کی ہلاکت کے انجام سے قریشی قیادت کو متنبہ کیا گیا ہے۔

4- آیات 32 تا 44 : چوتھے پیراگراف میں، نوحؑ کے بعد کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے۔

قوم نوحؑ کے بعد اٹھائی جانے والی قومیں بھی آخرت کا انکار کرتی تھیں۔ انہوں نے رسولوں کی بشریت پر اعتراض کر کے انہیں جھٹلایا۔ ان میں خالص دنیادار مادہ پرست دہریے بھی موجود تھے، جو یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مردوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پے درپے رسول بھیجے۔ انکار اور تکذیب کی پاداش میں انہیں بھی ہلاک کیا گیا۔ پھر اُن کی ہلاکت کے بعد دوسری قومیں اُٹھائی گئیں۔
﴿ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ م بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ﴾ (آیت:42) ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔

5- آیات 45 تا 69 : پانچویں پیراگراف میں، نیک لوگوں اور بدکردار لوگوں کا موازنہ پیش کیا گیا۔

سب سے پہلے حضرت موسیٰؑ وھارونؑ کے مقابلے میں فرعون اوراس کے معاونین کا ذکر کیا گیا، جو نہ صرف متکبر تھے بلکہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے۔ دونوں پیغمبروں کے بارے میں انہوں نے تکبر سے کہا کہ ہم ان کی پیروی کیسے کرسکتے ہیں، جب کہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰؑ ابن مریم کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ تمام رسولوں کا ایک ہی خاندان ہے۔ ﴿وَاِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً﴾ (آیت:52)
پھر لوگوں نے فرقے بنالیے اور ہر فرقہ اپنے آپ میں مگن ہے۔
نیک لوگوں کے اوصاف بیان کر کے ان کا موازنہ بدکردار، مغرور، خوشحال لوگوں سے کیا گیا، جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوجاتے ہیں۔

6- آیات 70 تا 77 : چھٹے پیراگراف میں، رسول ﷺ پر اعتراضات کا جواب دیا گیا اور مشرکینِ مکہ کو دعوتِ اسلام دی گئی

رسول ﷺ پر جنون کے اعتراض کا ذکر کیا گیا (آیت:70) اور مشرکین کو دعوت دی گئی کہ وہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں بلکہ حق کا راستہ اختیار کریں۔ رسول کریم ﷺ توحید کی صراطِ مستقیم کی طرف ہی دعوت دے رہے ہیں۔

7- آیات 78 تا 92 : ساتویں پیراگراف میں، توحیدِ قدرت واختیار کی دلیلیں ہیں اور شرک کا رد بھی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان اور آنکھیں دی ہیں۔ اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ بادشاہ ہے۔ ایسا طاقت ور ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔

شرک کی تردید کی گئی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ﴿عقلی دلیل﴾ پیش کی گئی کہ اگر ایک سے زیادہ ﴿الٰہ﴾ ہوتے تو ہر ﴿الٰہ﴾ اپنی اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے، جو اس کی ذات سے منسوب کیے جاتے ہیں۔

8- آیات 93 تا 118: آٹھویں اور آخری پیراگراف میں، دعوت کے آداب بیان کر کے شرک کی تردید کی گئی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو ہدایت کی گئی کہ وہ ظالم مشرکین کے بارے میں جلدی نہ کریں۔

(1) برائی کو نیکی سے دفع کریں۔ (آیت:96)، (2) شیطان کی اکساہٹوں سے بچیں (آیت:97 ، 98)

قیامت کے مناظر پیش کیے گئے کہ اس دن حسب ونسب کام نہیں آئے گا۔ دوزخ کی آگ چہروں کا گوشت چاٹ لے گی۔ ظالم درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ اگر انہوں نے دوبارہ یہی کام کیا تب وہ ظالم ہوں گے۔

صاف بتا دیا گیا کہ انسانوں کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ برحق بادشاہ ہے اور عرشِ کریم کا مالک ہے۔

جو شخص اللہ کے ساتھ کسی ہستی سے دعا یا فریاد کرتا ہے اس کے پاس اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔

آخری آیت میں ہلاکت سے حفاظت کے لیے، مغفرت اور رحمت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ (آیت:118)

مرکزی مضمون

صحیح عقیدۂ توحید اور عقیدۂ آخرت پر ایمان لا کر، محمد ﷺ کی دعوت کو قبول کرنے والے، باعمل ﴿مؤمنون﴾ ہی فلاح پائیں گے اور جنت کے وارث ہوں گے۔ کافر فلاح نہیں پا سکیں گے۔ قریشی قیادت کو ، قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا اور رسول اللہ ﷺ کو مغفرت ورحمت کی دعا مانگتے ہوئے، دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

24- سُوْرَةُ النُّوْرِ

آیات : 64 ...... مَدَنِيَّة ...... پیراگراف : 5



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سورت ﴿الاحزاب﴾ ذوالعقدہ 5 ھ میں نازل ہو چکی تھی۔ غزوۂ بنی المصطلق شعبان 6ھ میں ہوا۔
سورت ﴿النُّور﴾ غالباً شعبان، یا رمضان 6 ھ میں غزوۂ بنی المصطلق کے سفر سے واپسی پر، سورۃ الاحزاب کے نزول کے ایک سال بعد نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا، جب منافقین رسول اللہ ﷺ کی ذاتی زندگی پر جھوٹے الزامات کے ذریعے لاف زنی کر رہے تھے۔ پہلے حضرت زینبؓ سے نکاح کے خلاف پروپیگنڈہ کیا گیا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کر لی۔ پھر حضرت عائشہؓ پر الزام لگایا گیا۔
اس سورت میں بشارت دی گئی کہ دو سال کے اندر اندر فتحِ مکہ ہوگی۔ ﴿اِستِخلاف فِی الاَرض﴾ کا وعدہ پورا ہوگا۔ (آیت:55)
یہ پیش گوئی رمضان 8ھ میں پوری ہوئی۔

سورۃُ النُّور کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿المُؤمِنُون﴾ میں مومنین سے ایمانی، اخلاقی، عبادتی اور مالی جامع اوصاف کا مطالبہ تھا، جو انفرادی اہمیت کے حامل تھے۔ یہاں سورت ﴿النُّور﴾ میں ریاست کی تنظیم اور اُن کے اداروں کے ذریعے ان اوصاف کی تنفیذ اور قانونی، معاشرتی اور فوجداری قوانین (Criminal Code) کے نفاذ کا مطالبہ ہے۔

اہم کلیدی الفاظ ومضامین

1- سورۃُ النُّور کے اَحکام کی فرضیت : ﴿سُورَةٌ اَنزَلنٰهَا وَفَرَضنٰهَا﴾ (آیت:1) کے الفاظ سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ محض سفارشات نہیں ہیں، بلکہ فرض اَحکام ہیں۔

2- واضح غیر مبہم دلائل واحکام: اس سورت میں ﴿آیات﴾ کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ ﴿آیات﴾ کا لفظ اَحکام کے معانی میں آیا ہے۔ ﴿آیاتٍ بیّنٰتٍ﴾ (آیت:1)، ﴿یُبَیِّنُ﴾ (آیات:18 ، 58 ، 59 اور 61) مُبِین (آیت 54) ، ﴿آیاتٍ مُبَیِّنٰتٍ﴾ (آیات:34 اور 46)
صرف آیت نمبر 46 میں ﴿آیاتٍ مُبَیِّنٰتٍ﴾ کا لفظ، دلائل (Evidece) کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

3- ﴿یَرمُونَ﴾ کا لفظ تین (3) مرتبہ استعمال کیا گیا۔
پاک دامن عورتوں پر بہتان طرازی کی سزا (قذف)، اسی (80) کوڑے بتائی گئی۔ (آیت:4)
پاکدامن عورتوں پر الزام لگانے والوں کے لیے، دنیا اور آخرت میں لعنت ہوگی۔ (23)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4- ﴿ زِينَتَ ﴾ کا لفظ دو مرتبہ (آیات: 31 اور 60) میں استعمال ہوا۔ جن مردوں کے سامنے عورتوں کے لیے زینت اور مقاماتِ زینت کا اِظہار جائز ہے، اُن کی تفصیل بیان کی گئی۔ بوڑھی عورتوں کو چادر سے مستثنٰی کیا گیا، لیکن ﴿ تَبَرُّج ﴾ اور ﴿ زینت ﴾ کی پابندی برقرار رکھی گئی۔

5- مُؤْمِنِينَ (آیات: 17، 47 اور 51)، الْمُؤْمِنُونَ (آیت: 31) کے الفاظ سے، یہ بات واضح کی گئی کہ اَحکام وہی نافذ کر سکتے ہیں، جو صاحبِ ایمان ہوں۔

6- تزکیہ : زَكّٰى (آیت: 21)، اَزْكٰى (آیت: 29).

فحاشی، عریانی اور منکرات سے بچنے کے حکم کی علّت، پاکیزگی ﴿ تزکیہ ﴾ بیان کی گئی۔

بلا اِجازت گھر میں داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا اور اسے نفس کے ﴿ تزکیہ ﴾ کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔

7- اس سورت میں ﴿ سَلِّمُوْا ﴾ (آیت: 61)، ﴿ تُسَلِّمُوْا ﴾ (آیت: 27) کے الفاظ کے ذریعے دو (2) مرتبہ ﴿ سلام ﴾ کا حکم دیا گیا۔ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے، اجازت لینے اور سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ (آیت: 27)۔

اپنے گھروں اور اپنے رشتے داروں کے گھروں میں داخلے سے پہلے بھی، سلامتی کی دعا کرنے حکم دیا گیا۔ (آیت: 61)

8- اِستِئذان ﴿ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ ﴾۔ (آیت: 62)

اس سورت میں، مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب سکھائے گئے کہ ﴿ اَمرِ جَامِعٍ ﴾ کے لیے اِجازت ﴿ اِستِئذان ﴾ ضروری ہے۔ (آیت: 62)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سُورَةُ الاَحزَاب اور سُورَةُ النُّور کا تقابلی جائزہ

مضمون	33- سُورَةُ الاَحزَاب	24- سُورَةُ النورٌ
زمانۂ نزول	غزوۂ الاحزاب کے بعد ، 5 ھ میں نازل ہوئی، حالانکہ کتابی ترتیب میں اسے بعد میں (یعنی 33 نمبر پر) رکھا گیا ہے۔	غزوۂ بنی المصطلق کے بعد ، شعبان 6 ھ میں ، سورۃ الاحزاب کے ایک سال بعد نازل ہوئی ، حالانکہ کتابی ترتیب میں اسے پہلے رکھا گیا ہے۔
مرکزی مضمون	اَمانت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، کفرو منافقت چھوڑ کر، اِخلاص کے ساتھ اسلام کے عائلی ، معاشرتی ، سماجی ، عسکری ، سیاسی اور دیگر اجتماعی اَحکام پر عمل کرو !	کفرو نفاق چھوڑ کر ، اسلام کے عائلی ، معاشرتی فوجداری اور دیگر اجتماعی قوانین پر عمل کرو ! استخلاف اور اقتدار کا وعدہ ہے۔
منافقین کی سرگرمیاں	منافقین، رسول اللہ ﷺ کی ذات پر حملے کررہے تھے کہ اُنہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہؓ کی مطلقہ بیوی حضرتِ زینبؓ سے، یعنی اپنی بہو سے نکاح کرلیا ہے۔ منافقین کی اذیت رسانیاں (آیت 53،57،48،59،69)	منافقین ، رسول اللہ ﷺ کی بیوی حضرتِ عائشہؓ کے خلاف زہریلا پروپیگنڈہ کررہے تھے۔ واقعۂ اِفک (آیت 11 تا 26)
کافروں کی سرگرمیاں	پہلی اور آخری آیت میں منافقین اور کافرین سے نہ دبنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا ، جب مدینے کی نوزائیدہ حکومت کو خارجی (External) اور داخلی (Internal) دشمنوں کا سامنا تھا۔	....

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مضمون	33- سُورۃُ الاَحزَاب	24- سُورۃُ النُّور
فوجداری اَحکام	....	غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کو سو(100) کوڑے مارنے کا حکم۔ پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والوں کو اَسی (80) کوڑے مارنے کا حکم۔
عائلی اَحکام	نبی ﷺ کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ (آیت53) عائلی زندگی میں سادگی ضروری ہے۔ خاندان کے ہر فرد کے پیشِ نظر دارُ الآخرہ ہو۔(آیت28)	گھروں میں اجازت لے کر اور سلام کر کے داخل ہونے کا حکم (آیت27تا29 ، 61) بیڈروم کے احکام (آیت58،59) بوڑھی عورتوں کے احکام (آیت60)
معاشرتی اَحکام	بڑی چادر ﴿جلباب﴾ استعمال کرنے کا حکم(59) گھروں پر پردے ﴿حجاب﴾ لٹکانے اور پردے کے پیچھے سے مانگنے کا حکم (53) غیر مدخولہ کی کوئی عدت نہیں ہے (آیت49) عورتیں دبی زبان سے بات نہ کریں (آیت 32) جاہلیت کا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں (آیت33) کھانے کی دعوت کے بغیر شرکت نہ کی جائے ۔عشاء کے کھانے کے بعد گپ شپ نہ کی جائے۔(آیت53)	لعان کے احکام (آیت10) مردوں اور عورتوں کو غضِ بصر کا حکم (30,31) زینت چھپانے اور گردن پر دوپٹہ رکھنے کی ہدایات (آیت31) بارہ(12) قسم کے مردوں کو زِینۃ دکھائی جاسکتی ہے بجتا ہوا زیور پہننے کی ممانعت (آیت31) مجرد عورتوں اور مردوں کا نکاح کر دینے کا حکم (آیت32)
اجتماعی اَحکام	....	نظمِ جماعت کی پابندی کرنے اور اجازت لے کر جانے کا حکم ۔منافقین بلا اجازت مجلس رسولؐ سے کھسک جایا کرتے تھے۔(آیت62تا64)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سیاسی اور عسکری اَحکام	داخلی اور خارجی دشمنوں، یعنی منافقین اور کافرین سے دبنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (آیت 1، 48)	....
سماجی اَحکام	ظہار کرنے سے، بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ (آیت 4) منہ بولا بیٹا ، کبھی سگا بیٹا نہیں بن سکتا۔ (آیت 4) منہ بولے بیٹے کو، سرپرست کے بجائے، اُس کے اصلی باپ کے نام سے پکارنے کا حکم۔ (آیت 5) منافقانہ پروپیگنڈے کے بجائے ذکرِ الٰہی کیا جائے۔ (آیت 41)	....

سورۃُ النُّور کا نظمِ جلی

سورۃُ النُّور پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1۔ آیات 1 تا 34 : پہلے پیراگراف میں، فوج داری اَحکامات اور معاشرتی اَحکامات بیان کیے گئے ہیں۔

آیاتِ بینات کی فرضیت کی توضیح کرتے ہوئے، غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے سو سو (100) کوڑوں کی سزا بتائی گئی اور اسلام کا فوجداری قانون ثابت کیا گیا۔ نفاذِ قانون میں رأفت کی ممانعت کی گئی۔ (آیات: 1 تا 3)

قانونِ قذف کی وضاحت کی گئی کہ پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کی سزا اَسّی (80) کوڑے ہیں۔

زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے چار (4) مردوں کی گواہی ضروری ہے۔

اگر شوہر، بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے تو ایسے مقدمے کا فیصلہ ﴿لِعان﴾ کے ذریعے ہوگا۔ (آیت: 6)

واقعۂ اُفک پر تبصرہ:

حضرت عائشہؓ پر الزام لگانے والوں کو ﴿عذابِ عظیم﴾ کی بشارت دی گئی۔

مسلمانوں کو جھوٹے پروپیگنڈے سے بچنے اور ہیجان انگیز خبروں میں دلچسپی لینے سے منع کر دیا گیا۔ فحاشی اور عریانی کی اشاعت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا ہے۔ (آیت: 19) اہلِ وسعت اور صاحبِ ثروت لوگوں کو، غلط

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پروپیگنڈہ کرنے والے رشتے داروں کی مالی امداد جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی اور گندے کاموں اور گندی باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ (آیات: 11 تا 26)

عائلی اور معاشرتی احکام:

پاکیزگی نفس کے لیے، گھروں میں اجازت لے کر اور ﴿سلام﴾ کر کے داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔

البتہ غیر مسکونہ عمارتوں میں، بلا اجازت داخلے پر ممانعت نہیں ہے۔ (آیات: 27 تا 29)

مردوں اور عورتوں دونوں کو غضِ بصر کا حکم دیا گیا۔

عورتوں کو اپنی (زِینت) چھپانے اور گریبان پر دوپٹہ رکھنے کی ہدایات کی گئی۔

بارہ (12) قسم کے مردوں کو (زِینت) دکھائی جا سکتی ہے۔ بجتا ہوا زیور پہننے کی ممانعت کی گئی۔ (آیات: 30 تا 31)

معاشرے میں موجود ﴿مُجَرَّد﴾ عورتوں اور مردوں کو رشتۂ ازدواج میں منسلک کر دینے کی ہدایت کی گئی۔

نکاح ہونے تک، پاک دامن رہنا ضروری ہے۔ (آیات: 32 تا 34)

2۔ آیات 35 تا 40: دوسرے پیراگراف میں، مومنین اور کافرین کے اعمال کو، نہایت خوبصورت تمثیلوں سے واضح کیا گیا ہے

مومنین کے پاس ﴿نُور" علی نُور﴾ ہوتا ہے۔ یعنی روشنی پر روشنی۔

اور کافرین کے پاس ﴿ظُلُمات" بَعضُهَا فَوقَ بَعضٍ﴾ یعنی اندھیروں پر اندھیرے۔ (آیات: 35 تا 40)

نیکیوں اور برائیوں، دونوں کے خاندان ہوتے ہیں۔

3۔ آیات 41 تا 46: تیسرے پیراگراف میں، پرندوں، بادلوں، اولوں، بجلیوں اور بارش کے علاوہ، مختلف قسم کے جانوروں کی ساخت سے توحید کے آفاقی دلائل دیے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اُس کی صفات سے کرایا گیا ہے، تاکہ عقل مندوں ﴿اُولُوا الاَلبَاب﴾ پر اتمامِ حجت کی جا سکے۔ صحیح عقیدۂ توحید کے بغیر اَحکام پر عمل درآمد ممکن نہیں۔

4۔ آیات 47 تا 57: چوتھے پیراگراف میں، مؤمنین اور منافقین کی صفات بیان کر کے تقابل پیش کیا گیا ہے۔

اِطاعتِ رسول ﷺ اور اطاعتِ امیر کی ہدایت کی گئی کہ سچے اہلِ ایمان ہی اَحکام نافذ کر سکتے ہیں۔ (آیت: 55)۔

سچے ایمان اور عملِ صالح سے ﴿اِستِخلَاف فِی الاَرضِ﴾ کا وعدہ کیا گیا۔

نماز، زکوٰۃ اور اطاعتِ رسولؐ کا حکم پر مداومت کی ہدایت کی گئی۔ (آیات: 47 تا 57)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

5۔آیات 58 تا 64 : پانچویں اور آخری پیراگراف میں، دوبارہ پہلے پیراگراف کی طرح ،متفرق اجتماعی اور معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔

بیڈروم کے اَحکام کے سلسلے میں گھر کے بچوں اور ملازمین کو تین (3) اوقات میں اِجازت لے کر بیڈروم میں داخل ہونے کی ہدایت کی گئی۔(آیات:58 تا 59)

بوڑھی عورتوں کے لیے رخصت پر مبنی استثنائی اَحکام دیے گئے، وہ ﴿تَبَرُّج﴾ اور ﴿زِينَت﴾ کے بغیر چادر اتار سکتی ہیں۔(آیت: 60)۔

اندھے، لنگڑے اور بیمار لوگوں کو بھی کھانے کے آداب کی تعلیم دی گئی۔اُن گیارہ (11) لوگوں کا ذکر کیا گیا، جن کے گھروں سے کھانا کھایا جاسکتا ہے۔﴿سلام﴾ کرنے کی تاکید مکرّر ہوئی۔(آیت:61)

نظمِ جماعت کی پابندی کرنے اور اجازت لے کر جانے کا حکم۔

اُن منافقین پر تنقید کی گئی، جو بلا اجازت ، آڑ لے کر مجلسِ رسول ﷺ سے کھسک جایا کرتے تھے۔

خام مسلمانوں اور خالص مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ اِطاعتِ رسول ﷺ اور اِطاعتِ امیر ہی سے اُخروی کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے اور انہیں قیامت کے محاسبے سے تخویف کی گئی۔(آیات:62 تا 64)

مرکزی مضمون

صحیح عقیدۂ توحیدِ ذات وصفات کے ساتھ، کفر و نفاق چھوڑ کر، اسلام کے عائلی، معاشرتی، فوجداری اور دیگر اجتماعی قوانین پر عمل کرو! استخلاف اور اقتدار کا وعدہ ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — MACRO-STRUCTURE

ترتیبی نقشہ ربط — نظمِ جلی

25- سُوْرَةُ الْفُرْقَان

آیات : 77 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 6



زمانۂ نزول:

سورۃ ﴿الفُرقان﴾ سورۃ ﴿المُؤمِنُون﴾ کے ساتھ رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) میں حضرت عمرؓ کے قبولِ اسلام (ذوالحجہ 6 نبوی) کے بعد غالباً سات (7) نبوی میں نازل ہوئی، جب آپؐ پر ﴿مسحور﴾ اور ﴿مفتری﴾ ہونے کا الزام تھا۔ چنانچہ اس سورت میں آپ ﷺ اور قرآن پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب نومسلم صحابہؓ کی تربیت مقصود تھی۔ اس سورت میں رسول اللہ ﷺ کو ساری دنیا کے لیے نذیر ﴿لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ٹھیرایا گیا۔ یہ وہی زمانہ ہے، جب سورۃ الانبیاء اور سورۃ المُؤمِنُون نازل ہوئیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الفرقان کا کتابی ربط

1۔ سورۃ ﴿المومنون﴾ میں جن جامع ایمانی صفات کا ذکر تھا، یہاں سورۃ ﴿الفُرقان﴾ میں اُنہیں ﴿عباد الرحمن﴾ کی صفات کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی جس جامع دعوت کا ذکر سورۃ ﴿النُّــــور﴾ میں تھا، اُس کی حقانیت کے دلائل، یہاں سورۃ ﴿الفُرقان﴾ میں بھی ہیں۔

2۔ سورۃ ﴿النُّور﴾ میں رسول اللہ ﷺ کی زوجہ محترمہ پر منافقین کی طرف سے عائد کردہ بے ہودہ الزامات کی تردید ﴿هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ﴾ کے الفاظ سے کی گئی تھی اور ﴿مُحْصَنَات﴾ پر الزام تراشی سے منع کیا گیا تھا۔

یہاں سورۃ ﴿الفُرقان﴾ میں رسول اللہ ﷺ کی ذات پر کافرین کی طرف سے عائد کردہ الزامات کی تردید ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

-1 سورۃ ﴿الفُرقان﴾ میں تین (3) آیات ﴿تَبٰرَكَ﴾ سے شروع ہوتی ہیں۔ ﴿تَبٰرَكَ﴾ مبالغہ ہے۔ مراد اللہ کی ہستی نہایت بابرکت اور فیض رساں ہے۔

(a) اللہ کے فیض اور بے پایاں برکت کی پہلی دلیل خود قرآن ہے۔

﴿تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لِیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا﴾ (آیت: 1)

(b) اللہ کے فیض اور بے پایاں برکت کی دوسری دلیل نظامِ کائنات (یعنی چاند، سورج وغیرہ) ہے۔

﴿تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِیْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِیْرًا﴾ (آیت: 61)

(c) اللہ کے فیض اور بے پایاں برکت کی تیسری دلیل آخرت کی نعمتیں، جنت اور وہاں کے محلات ہیں۔

﴿تَبٰرَكَ الَّذِیْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَیَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا﴾ (آیت: 10)

-2 ﴿رسول اللہ ﷺ کی ذمہ داریاں﴾

(a) رسول اللہ ﷺ سارے جہاں والوں کے لیے ﴿نذیر﴾ ہیں۔

﴿تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لِیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا﴾ (آیت:1)

(b) رسول اللہ ﷺ کو صرف اور صرف ﴿نذیر﴾ اور ﴿بشیر﴾ بنا کر مبعوث کیا گیا۔

﴿وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِیْرًا﴾ (آیت: 56)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) رسول اللہ ﷺ اپنی خدمات کے لیے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں۔

﴿قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا﴾ (آیت: 57)

3- ﴿نزولِ قرآن کے مقاصد﴾

(a) قرآن یعنی فرقان کو محمد ﷺ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے ﴿انذار﴾ یعنی (Warning) ہو۔

﴿تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا﴾ (آیت: 1)۔

(b) رسول اللہ ﷺ کو ہدایت کی گئی کہ کافروں سے نہ دبتے ہوئے، وہ قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا جہادِ کبیر کریں۔

﴿فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا﴾ (آیت:52)

(c) چیلنج کیا گیا کہ دنیا کی کوئی ہستی ایسا قرآن پیش نہیں کر سکتی۔

﴿وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا﴾ (آیت: 33)

(d) قرآن میں تذکیر و نصیحت کے لیے، اسلوب بدل بدل کر مختلف دلائل سے منکرین کو سمجھایا گیا ہے، جسے تصریف القرآن کہتے ہیں۔

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا﴾ (آیت: 50)

رسول اللہ ﷺ کی بشریت پر اعتراضات کا جواب:

ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ یہ کیسا رسول ہے، جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔

﴿وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ﴾ (آیت:7)

اس کا جواب یہ دیا گیا کہ پچھلے تمام رسول بھی انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔

﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ﴾ (آیت: 20)

4- ﴿مشرکین و کفارِ مکہ کے الزامات و اعتراضات و اقوال﴾

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ﴾ کے الفاظ کے ذریعے اس سورت میں انکار کرنے والوں کے اعتراضات نقل کیے گئے ہیں۔

(a) ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن ایک جھوٹ ہے، جسے محمد ﷺ نے گھڑ لیا ہے اور ایک قوم نے ان کی معاونت کی ہے۔

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ افْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ﴾ (آیت:4)

(b) دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے اوپر (اللہ کی طرف سے) فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے؟۔

(c) تیسرا اعتراض یہ تھا کہ ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟۔ (آیت:21)

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(d) چوتھا اعتراض یہ تھا کہ قرآن کو ایک ہی وقت سارے کا سارا کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ بتدریج کیوں نازل ہو رہا ہے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کا مقصد رسول کریم ﷺ کے دل کی تثبیت یعنی دل جمعی ہے۔

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا﴾ (آیت: 32)۔

(e) رسول اللہ ﷺ پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ یہ قرآن آپ ﷺ کی افتریٰ ہے۔ آپ ﷺ نے اسے خود گھڑ لیا ہے۔

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ اِفْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ﴾ (آیت:4)

(f) ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ آپ ﷺ پر کنز یعنی خزانے کیوں نازل نہیں کیے گئے؟۔

﴿اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ﴾

(g) ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ آپ ﷺ کو باغات کیوں نہیں عطا کیے گئے؟۔

﴿اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا﴾

(h) ایک الزام یہ بھی عائد کیا گیا کہ آپ ﷺ ایک سحرزدہ انسان ہیں یعنی آپ ﷺ جادو اور آسیب ہے؟۔

﴿وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا﴾ (آیت: 8)۔

(i) رسول اللہ ﷺ پر ایک الزام یہ بھی عائد کیا گیا کہ یہ ہمارے معبودوں ﴿آلھۃ﴾ سے ہمیں برگشتہ کر دیں گے اگر ہم ثابت قدم نہ رہیں۔

﴿اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَاۤ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ (آیت:42)۔

(j) رسول اللہ ﷺ اور قرآن پر ایک الزام یہ بھی عائد کیا گیا کہ یہ پچھلے زمانوں کی کہانیاں ہیں، ایک شخص صبح و شام جنہیں لکھواتا ہے۔

﴿وَقَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا﴾ (آیت:5)۔

5- مشرکین مکہ کے جرائم:

(a) مشرکینِ مکہ ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو انہیں نہ تو نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ فائدہ۔

﴿وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا﴾ (آیت: 55)

(b) مشرکینِ مکہ منکرینِ قیامت تھے۔

﴿بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا﴾ (آیت: 11)

(c) مشرکینِ مکہ ملاقاتِ رب کی امید نہیں رکھتے تھے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ﴾ (آیت: 21)

(d) مشرکینِ مکہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔

﴿ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا﴾ (آیت: 40)

(e) مشرکینِ مکہ متکبر ،سرکش اور ضدی لوگ تھے۔

﴿ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴾ (آیت:21)

(f) مشرکینِ مکہ مجرم تھے اور رسول اللہ ﷺ کے دشمن تھے۔

﴿ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴾ (آیت:31)

(g) مشرکینِ مکہ رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے: اچھا! کیا یہ وہی شخص ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے ؟

﴿ وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴾ (آیت:41)

(h) روزِ قیامت ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ کے بندوں کو گمراہ کیا ؟ یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے؟

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴾ (آیت: 17)

(i) مشرکینِ مکہ کی قیادت نے ، اپنی خواہشات اور اپنے نفس کو اپنا خدا ﴿اِلٰہ﴾ بنالیا تھا۔

﴿ اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ ﴾ (آیت:43)

(j) مشرکینِ مکہ نے، ان ہستیوں کو خدا ٹھہرالیا تھا، جو کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتی تھیں، جو اپنے آپ کو بھی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتی تھیں اور جو نہ تو زندگی اور موت کا اختیار رکھتی تھیں اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار۔

﴿ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا﴾ (آیت:3)

-6 انسان کو آزادیٔ اختیار (Freedom of Choice) عطا کی گئی ہے ،جو چاہے شکر گزار بن کر اللہ کے راستہ اختیار کر لے۔

(a) ﴿ مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴾ (آیت:57)

(b) ﴿لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴾ (آیت:62)

-7 رسول ﷺ کو ہدایات:

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(a) رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ وہ کافروں کے آگے ہرگز نہ جھکیں۔

﴿ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ ﴾ (آیت: 52)

(b) رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ قرآن کے ذریعے دعوت وتبلیغ کا جہادِ کبیر کریں۔

﴿ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴾ (آیت: 52)

(c) رسول اللہ ﷺ کو ان مشکل حالات میں اللہ ہی پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا، ایسی بے عیب ہستی جسے موت نہیں آتی۔

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ ﴾ (آیت: 58)

(d) رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں یعنی اس کی بے عیبی کا اعتراف بھی کرتے رہیں۔

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ﴾ (آیت: 58)

سورة الفرقان کا نظمِ جلی

سورة الفرقان چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 3 : پہلے پیراگراف میں، ﴿اللہ تعالیٰ﴾ کی قدرت کا تعارف کرایا گیا اور ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ کی بے بسی پر روشنی ڈالی گئی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد ﷺ پر قرآن اسی لیے نازل کیا ہے کہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے ایک تنبیہ ہو۔

﴿ تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ﴾ (آیت:1)

اللہ زمین وآسمان کا بادشاہ ہے، اسی کی کوئی اولاد نہیں ہے ،اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی تقدیر مقرر کر دی ہے۔

اس کے برخلاف ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ نہ تو خالق ہیں ،نہ تو اپنے آپ کو کوئی فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی زندگی، موت اور موت کے بعد کی زندگی کا اختیار رکھتے ہیں۔

2- آیات 4 تا 34 : دوسرے پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ اور قرآن پر الزامات واعتراضات کے مسکت جوابات دیئے گئے۔

مشرکینِ مکہ کے غلط عقائد کی تفصیل بیان کی گئی اور ان کی تردید کی گئی۔ مشرکینِ مکہ قیامت کا انکار کیا کرتے تھے ،انہیں دوزخ کی بشارت دی گئی۔

﴿ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴾ (آیت: 11)

مشرکینِ مکہ اپنے خودساختہ خداؤں کو ﴿ولی﴾، سرپرست اور کارساز سمجھتے تھے۔ ان کی گرفت کی گئی۔

﴿ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مَتَّعْتَهُمْ وَآبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا﴾ (آیت: 18)
مِن دون الله کی عبادت کرنے والے ، دوزخ کے مستحق ہوں گے۔

3- آیات 35 تا 44 : تیسرے پیراگراف میں، مشرکینِ مکہ کو انبیاء کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔

سب سے پہلے حضرت موسیٰ وہارونؑ پھر قومِ نوحؑ ، پھر عاد وثمود ، پھر اصحاب الرس اور پھر قومِ لوطؑ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی مشرکینِ مکہ کی طرح منکرینِ قیامت تھے اور رسولوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، انہیں ہلاک کیا گیا۔
﴿بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا﴾ (آیت:40)
قریش کے لیڈر نبی کریم ﷺ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کی بیماری کی تشخیص کی گئی کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشاتِ نفس کو اپنا خدا بنالیا ہے ﴿اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ﴾ (آیت:43)۔ انہیں جانوروں سے تشبیہ دی گئی۔

4- آیات 45 تا 54 : چوتھے پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو قرآن کے آفاقی وانفسی دلائل سے، دعوت وتبلیغ کا جہادِ کبیر برپا کرنے کی ہدایت دی گئی۔ کافروں کے آگے نہ جھکنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ دلائلِ آفاق سے توحید وآخرت پر استدلال کیا گیا۔

﴿فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا﴾ (آیت: 52)

5- آیات 55 تا 62 : پانچویں پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو توکّل ، حمد اور تسبیح وسجود کے ساتھ شرک کی تردید اور توحید کے اِثبات کا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا﴾ (آیت:58) آزادیٔ اختیار Freedom of Choice کی وضاحت کی گئی۔ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ جو چاہے قرآن کی نصیحت کو قبول کرسکتا ہے اور شکر گزار بن سکتا ہے۔ ﴿لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا﴾ (آیت: 62)

6- آیات 63 تا 77 : چھٹے اور آخری پیراگراف میں، بدکردار مشرکینِ مکہ کو بتایا گیا کہ وہ اپنے کردار پر غور کریں اور رسول اللہ ﷺ اور ان کے مخلص صحابہؓ کے کردار پر غور کریں۔ ایمان لاکر اپنے اندر جنت کے مستحق ﴿عباد الرحمن﴾ کی صفات پیدا کریں۔

خدائے مہربان کے نیک بندوں ﴿عِبَادُ الرَّحْمٰنِ﴾ کی بارہ (12) جامع صفات گنوائی گئیں۔ ان کی عبادات، ان کا طرزِ تبلیغ ، ان کا خوفِ قیامت ، مالی معاملات میں ان کا اعتدال ، توحید پر ان کی ثابت قدمی ، زنا، قتل ، جھوٹی گواہی اور لغویات جیسے بڑے گناہوں سے ان کا اجتناب، آیاتِ الٰہی پر غور وفکر اور توجہ اور اپنے اہلِ وعیال کے بارے میں ان کی فکرمندی پر روشنی ڈالی گئی۔

(a) زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ ﴿يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا﴾ (آیت:63)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(b) جاہل لوگوں کے الجھنے پر سلام کرکے رخصت ہوجاتے ہیں۔

﴿وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا﴾ (آیت:63)

(c) سجدے اور قیام میں راتیں گذارتے ہیں۔

﴿وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا﴾ (آیت: 64)

(d) دوزخ کے عذاب سے پناہ کی دُعائیں کرتے رہتے ہیں۔

﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ (آیت: 65)

(e) مالی معاملات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بخل اور اسراف سے بچتے ہیں۔

﴿لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا﴾ (آیت:67)

(f) اللہ کی دُعا کے ساتھ، کسی اور سے دُعا نہیں کرتے۔

﴿لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ﴾ (آیت:68)

(g) ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔

﴿وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (آیت:68)

(h) زنا نہیں کرتے۔ ﴿وَلَا يَزْنُوْنَ﴾ (آیت:68)

(i) جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ﴿لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ﴾ (آیت: 72)

(j) لغو اور بے ہودہ باتوں سے باوقار طریقے سے اجتناب کرتے ہیں۔

﴿وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا﴾ (آیت: 72)

(k) اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اندھے اور بہرے نہیں بنتے۔

﴿اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا﴾ (آیت: 73)

(l) اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے لیے دُعا کرتے رہتے ہیں۔

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا﴾ (آیت:74)

آخری آیت میں انہیں صاف صاف بتادیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، لیکن جو لوگ قرآن اور رسول ﷺ کی دعوت مسترد کرکے، دوزخ میں جانا چاہتے ہوں تو اللہ بھی بے نیاز ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

رسول اللہ ﷺ کو آپ ﷺ کی ذات اور قرآن پر الزامات واعتراضات کے مسکت جوابات دینے، منکرینِ توحید و آخرت مشرکینِ مکہ کے خلاف اتمامِ حجت کرنے، جنت کے مستحق ﴿عباد الرحمن﴾ کی صفات بتا کر، کسی بھی مرعوبیت کے بغیر، قرآنِ مجید کے آفاقی اور انفسی دلائل کی روشنی میں، دعوت وتبلیغ کا جہادِ کبیر کرنے کی ہدایات دی گئیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ ربط | نظمِ جلی

26- سُوْرَۃُ الشُّعَرَاءِ

آیات : 227...... مَکِّیَّۃ" ...... پیراگراف : 10



زمانہ نزول:

1۔ سورت ﴿الشُّعَرَاء﴾ رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) میں نازل ہوئی جب عربی قرآن پر شک کے ساتھ اعتراض کیا جا رہا تھا اور رسول ﷺ پر ﴿مجنون﴾ کا الزام عائد کیا گیا اور جب قریشی قیادت کو چھ (6) قوموں (قومِ نوحؑ، عاد، ثمود، اقوام لوطؑ و شعیبؑ و موسیٰؑ) کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔

2۔ آیت 214 ﴿وَ اَنْذِرْ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ﴾ اعلانِ عام سے ذرا پہلے 4 نبوی میں نازل ہوئی، جس کے بعد آپ ﷺ نے کوہِ صفا پر چڑھ کر بانگِ دہل دعوتِ توحید دی۔

(صحیح بخاری: کتاب التفسیر، باب سورۃ الشعراء، حدیث 4,492)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الشُّعَرَاء کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿ الفرقان ﴾ میں رسول اللہ ﷺ کی دعوت اور قرآن مجید کی حقانیت کے عقلی ، آفاقی اور انفسی دلائل تھے، اعتراضات اور الزامات کا مسکت جواب دیا گیا تھا۔

2۔ یہاں سورۃ ﴿ الشُّعراء ﴾ میں اللہ تعالیٰ کے دو (2) صفاتی نام ﴿عزیز﴾ اور ﴿رحیم﴾ سے توحید اختیار کے تاریخی دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔

3۔ اگلی تین (3) سورتوں ﴿ سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور سورۃ القصص ﴾ میں دو (2) باتیں مشترک ہیں۔

(a) تینوں سورتوں میں حضرت موسیٰؑ اور فرعون کی کشمکش کی سچی داستان سنا کر، قریش کی طاغوتی قیادت کو فرعونی رویے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(b) تینوں سورتوں میں قریش کی طاغوتی قیادت کو، مختلف قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ، مضامین اور آیاتِ ترجیع:

1- سورۃ الشعراء میں ﴿اَلَا یَتَّقُوْنَ ؟﴾ کیا یہ لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ اور ﴿ اَلَا تَتَّقُوْنَ ؟ ﴾ کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ کے الفاظ کئی مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ﴿ تقویٰ ﴾ کا بنیادی مطلب بچنا ہے۔ حرام سے بچنا، منکرات سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا اور برائیوں کے دنیوی اور اُخروی برے انجام سے بچنا ہے۔

(a) ﴿حضرت نوحؑ کی دعوتِ تقویٰ﴾

اَلَا تَتَّقُوْن ؟ (آیت 106) کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں قومِ نوحؑ اور اُن کے سرداروں کو دعوتِ تقویٰ ہے کہ وہ پانچ بتوں کی پرستش کے شرک سے بچیں۔ حضرت نوحؑ کو سنگسار کرنے کی دھمکیوں سے باز رہیں عام انسانوں کو گھٹیا ﴿ اَرَاذِل ﴾ سمجھنے سے بچیں۔ نبی کی رسالت کے انکار سے بچیں ، تاکہ اِس تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیوی اور اُخروی عذاب سے بچ سکیں۔

(b) ﴿حضرت ھودؑ کی دعوتِ تقویٰ﴾

اَلَا تَتَّقُوْن ؟ (آیت:124) کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں قومِ عاد اور اُن کے سرداروں کو دعوتِ تقویٰ ہے کہ وہ شرک سے بچیں، آباء پرستی سے بچیں۔ اِنکارِ قیامت کے عقیدے سے توبہ کرلیں۔ اپنے پیغمبر حضرت ھودؑ کو جھوٹا اور بیوقوف کہنے سے بچیں۔ ﴿استکبار فی الارض ﴾ سے بچیں اور ﴿مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں۔ جبّاری اور کفر وعناد کو ترک کردیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دوسری قوموں پر ﴿جبّار﴾ بن کر حملہ آور نہ ہوں ، تاکہ اِس تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیوی اور اُخروی عذاب سے بچ سکیں۔

(c) ﴿حضرت صالحؑ کی دعوتِ تقویٰ﴾

اَلا تَتَّقُون ؟ (آیت:142) کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں قومِ ثمود کو دعوتِ تقویٰ ہے کہ وہ اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کرنے سے بچیں، قیامت کے انکار سے بچیں، آباء پرستی اور شرک سے بچیں، اپنے نو(9) فسادی لیڈروں کی پیروی سے بچیں، جو بہت متکبر ،سرکش اور طاغی تھے۔اپنے رسول صالحؑ کو ﴿مَسحُور﴾ کہنے سے بچیں، حضرت صالحؑ اور اُن کے گھروالوں پر شب خون مارنے کے ارادے سے باز رہیں اور اُن پر ایمان لے آئیں، تاکہ اِس تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیوی اور اُخروی عذاب سے بچ سکیں۔

(d) ﴿حضرت لوطؑ کی دعوتِ تقویٰ﴾

اَلا تَتَّقُون ؟ (آیت:161) کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں قومِ لوطؑ اور اُن کے سرداروں کو دعوتِ تقویٰ ہے کہ وہ فساد، بدفعلی، بدعملی، سرکشی، ڈاکہ زنی، شہوانیت اور ہم جنس پرستی (Homosexuality) سے بچیں اور پیغمبروں کی تکذیب سے بچیں، تاکہ اِس تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیوی اور اُخروی عذاب سے بچ سکیں۔

(e) ﴿حضرت شعیبؑ کی دعوتِ تقویٰ﴾

اَلا تَتَّقُون ؟ (آیت:177) کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں قومِ شعیبؑ اور اُس کے سرداروں کو دعوتِ تقویٰ ہے کہ وہ شرک، ناپ تول میں کمی، ڈاکہ زنی، فساد اور رزقِ حرام سے بچیں، تاکہ اِس تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیوی اور اُخروی عذاب سے بچ سکیں۔

(f) ﴿حضرت موسیٰؑ کی دعوتِ تقویٰ﴾

اَلا یَتَّقُون ؟ (آیت 11) کیا یہ لوگ تقویٰ اختیار کرنا نہیں چاہتے؟ یعنی کیا یہ لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں فرعون اور اُس کی فوجی حکومت کو دعوتِ تقویٰ ہے کہ وہ ظلم وستم کرنے سے بچیں۔ نسل پرستی کی بنیاد پر، بنی اسرائیل کے قتل سے بچیں۔ ﴿عُلُوّ فِی الارض﴾ اور ﴿فساد﴾ سے بچیں، تاکہ اِس تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیوی اور اُخروی عذاب سے بچ سکیں۔

2- سورت ﴿الشُّعَرَاء﴾ میں بعض آیاتِ ترجیع آئی ہیں، جو باربار دہرائی گئی ہیں۔: ﴿اَلَا تَتَّقُون o اِنِّی لَکُم رَسُول" اَمِین o فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَاَطِیعُون o مَا اَسئَلُکُم عَلَیہِ من اَجرٍ اِن اَجرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ العَالَمِین﴾۔ (آیات:109 ، 127 ، 145 ، 164 ، 180)۔

ان آیاتِ ترجیع سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(a) تمام چھ(6)انبیاء نے ﴿ تقویٰ ﴾ کی دعوت دی، یعنی انہیں شرک و بدعات اور اپنے اپنے دور کے فتنوں سے بچنے کی دعوت دی۔

(b) تمام چھ(6)انبیاء نے اعلان کیا کہ وہ نہ صرف اللہ کے پیغام بر ہیں، بلکہ امین بھی ہیں، یعنی دیانت دار ہیں۔

(c) تمام چھ(6)انبیاء نے ﴿ فَاتَّقُوا اللّٰهَ ﴾ یعنی ﴿ اُعْبُدُوا اللّٰهَ ﴾ اللہ کی عبادت کرو، کی دعوت دی اور ﴿ وَاَطِيْعُوْنِ ﴾ کی دعوت دی، یعنی میری اطاعت کرو، (میں رسولِ وقت ہوں)۔

(d) تمام چھ(6)انبیاء نے اپنی اپنی قوم پر واضح کر دیا کہ وہ قوم سے پیسہ نہیں مانگتے۔ چندہ طلب نہیں کرتے۔ وہ قوم کو دینے کے لیے آتے ہیں اور قوم سے لینے کے لیے نہیں آتے۔ پیغمبر اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ ہی سے اجر کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دیتے ہیں۔

3- ﴿ ربُّ العالمین ﴾

(آیات: 16، 23، 47، 77، 98، 109، 127، 145، 164، 180، 192)

اس سورت میں ﴿ رَبُّ الْعَالَمِين ﴾ (یعنی تمام عالموں کا ربّ) کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے۔ ربّ کے پانچ (5) مفہوم ہیں۔

(a) پرورش کرنے والا، نشوونما دینے والا بڑھانے والا۔ (b) دیکھ بھال اور خبر گیری کرنے والا۔

(c) مالک اور آقا۔ (d) مرکزی حیثیت رکھنے والا، جمع کرنے والا، سمیٹنے والا۔ (e) سردار، صاحب اقتدار، غلبہ رکھنے والا، صاحب تصرف، اختیارات رکھنے والا۔

لفظ ﴿ ربُّ العالمین ﴾ کی اس تکرار سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(a) تمام انبیاء اور رسول سب سے پہلے توحید ربوبیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، توحید ربوبیت سے ہی توحید الوہیت کا سراغ ملتا ہے۔

(b) مشرکینِ مکہ توحیدِ ربوبیت کے قائل تھے، لیکن الوہیت اور عبادت کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تشریع میں شرک کیا کرتے تھے۔

4- سورت الشّعراء میں نو(9) مرتبہ نو(9) رسولوں کے سچے واقعات بیان کرنے کے بعد مندرجہ ذیل آیت بھی بطور ترجیع آئی ہے، جو بار بار دہرائی گئی ہے۔ ﴿ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

(آیات 9، 68، 104، 122، 140، 159، 175، 191، 217)

اس آیتِ ترجیع سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(a) تمام نو (9) انبیاء کے سچے واقعات میں ﴿ اٰيَةً ﴾ ہے یعنی دلائلِ قدرت ہیں، دلائلِ جزاوسزا ہیں، اللہ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تعالیٰ رسولوں کی نافرمانی کرنے والی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور رسول اور اُن کے ساتھیوں کو بچالیتا ہے۔

(b) ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ سخت دل لوگ تاریخ کے سچے واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے۔

5- سورۃُ الشُّعَرَاء میں نو (9) مرتبہ نو (9) رسولوں کے سچے واقعات بیان کرنے کے بعد مندرجہ ذیل آیت بھی بطورِ ترجیع آئی ہے، جو بار بار دہرائی گئی ہے۔ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

(آیات: 9، 68، 104، 122، 140، 159، 175، 191 اور 217)

اس آیتِ ترجیع سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(a) پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو ﴿ربّ﴾ ہے، وہی کافروں کے لیے ﴿عَزِيز﴾ بھی ہے اور مومنوں کے لیے ﴿رَحِيم﴾ بھی ہے۔

(b) ہر پیغمبر نے اللہ کی صفات کے ذریعے، اللہ کا تعارف کرایا۔

(c) ہر قوم کی تاریخِ ہلاکت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پالنے والا ﴿ربّ﴾، انسانوں کی دیکھ بھال (Monitor) بھی کر رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ انسانوں میں سے کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا ہے؟

(d) ہر قوم کی تاریخِ ہلاکت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پالنے والا ﴿ربّ﴾، ناشکرے اور فسادی انسانوں کے لیے ﴿عزیز﴾ ہوتا ہے۔ انہیں دنیا میں سزا سے دوچار کرتا ہے۔ یہی تاریخ کا سبق ہے اور اُنہیں آخرت میں بھی سزا سے دوچار کرے گا۔

(e) ہر قوم کی تاریخِ ہلاکت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پالنے والا ﴿ربّ﴾، ﴿رَحِيم﴾ کی صفت بھی رکھتا ہے۔ وہ اپنے شکر گزار بندوں کو دنیاوی اور اُخروی عذاب سے بچالیتا ہے۔

5- سورۃ الشعراء میں، جادوگروں نے اپنی طلسماتی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکنے سے پہلے ﴿ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ ﴾ فرعون کی عزت واقتدار کی قسم یعنی فرعون کی طاقت، عزیزیت، آمریت، غلبہ اور اقتدار کی قسم کا نعرہ لگایا۔ (آیت:44) یہی جادوگر بعد میں سچے اور پکے مسلمان بن گئے، بلکہ ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہو گئے وہ فرعون کی ﴿عزیزیت﴾ کے بجائے، اللہ تعالیٰ کو ﴿عزیز﴾ مان کر، اُس کی ﴿عزیزیت﴾ کے قائل ہو گئے

6- ﴿تکذیب﴾: سورۃ الشُّعَرَاء میں، ماضی کی مختلف قوموں کی تکذیب اور اُن کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔

(a) قومِ نوحؑ نے بھی رسولوں کی ﴿تکذیب﴾ کی۔ یعنی رسولوں کو جھٹلایا۔

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (آیت:105)

(b) قومِ عاد نے بھی رسول کی ﴿تکذیب﴾ کی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ كَذَّبَتْ عَادُ ِالْمُرْسَلِيْنَ ﴾ (آیت:123)

(c) قومِ ثمود نے بھی رسولوں کی ﴿تکذیب﴾ کی۔

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ (آیت:141)

(d) قومِ لوطؑ نے بھی رسولوں کی ﴿تکذیب﴾ کی۔

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِالْمُرْسَلِيْنَ ﴾ (آیت:160)

(e) اصحاب الایکہ یعنی قومِ شعیبؑ نے بھی رسولوں کی ﴿تکذیب﴾ کی۔

﴿ كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْــَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ (آیت:176)

(f) قریش نے آخری رسول محمد ﷺ کی ﴿تکذیب﴾ کی اور اُن کا مذاق اُڑایا۔

﴿ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴾ (آیت: 6)

سورۃ الشُّعَرَاء کا نظمِ جلی

سورۃ الشُّعَرَاء دس (10) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 6 : پہلا تمہیدی پیراگراف دلائلِ ربوبیت اور تعارفِ قرآن پر مشتمل ہے ، آخری حصہ بھی تعارفِ قرآن پر مشتمل ہے۔

محمد ﷺ کی دردمندی کا ذکر کیا گیا کہ اگر یہ مشرکین ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنی جان کھو دیں گے؟ (آیت3)

رسول اللہ ﷺ کی تکذیب اور آپ ﷺ کے استہزا پر قریش کو دھمکی دی گئی۔

﴿ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴾ (آیت: 6)

2- آیات 7 تا 9: دوسرا پیراگراف اللہ تعالیٰ کی دو (2) صفات، ﴿عزیزیت﴾ اور ﴿رحیمیت﴾ کے ارضی دلائل پر مشتمل ہے۔

انسان کو دعوتِ فکر دی گئی ہے کہ وہ زمین پر غور کرے۔ زمین انسان کو نباتات کے ذریعے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل فراہم کرتی ہے اور یہی زمین انسان کی قبر بن جاتی ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ﴿صفتِ عزیزیت﴾ اور ﴿صفتِ رحیمیت﴾ کے دلائل فراہم کر رہی ہے۔

3- آیات 10 تا 68 : تیسرا پیراگراف، قصۂ موسیٰؑ و فرعون کے تاریخی دلائل پر مشتمل ہے۔

فرعون اور آلِ فرعون کی ہلاکت سے اللہ تعالیٰ کی ﴿عزیزیت﴾ کا تاریخی ثبوت فراہم کیا گیا اور حضرت موسیٰؑ اور بنی اسرائیل کی نجات سے اللہ تعالیٰ کی ﴿رحیمیت﴾ ثابت ہوگئی۔

اللہ نے حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ دونوں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر کہہ دینا کہ ہم دونوں اللہ رب العالمین

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کے پیامبر ہیں۔﴿فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾ (آیت:16)

فرعون نے پوچھا: ربّ العالمین کیا ہوتا ہے؟﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ (آیت:23)

حضرت موسیٰؑ نے اپنی تقریر جاری رکھی، لیکن فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جو رسول تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے وہ تو پاگل ﴿مجنون﴾ ہے۔

﴿قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِیْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ﴾ (آیت:27)

فرعون نے حضرت موسیٰؑ کو دھمکی دی کہ اگر میرے سوا کسی کو ﴿اِلٰہ﴾ بناؤ گے تو میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔

﴿قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِیْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴾ (آیت:29)

فرعون نے درباریوں کو اپنی رائے دی کہ یہ ایک بڑا ماہر جادوگر ہے۔

﴿ قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴾ (آیت: 34)

یہ تم لوگوں کو اپنے جادو کے زور سے تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے ؟

﴿يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ﴾ (آیت: 35)

فرعون نے حضرت موسیٰؑ سے مقابلے کے لیے سارے شہروں سے جادوگر بلوائے۔ ایک دن مقرر ہوا۔ جادوگروں نے انعام کی ضمانت مانگی۔ فرعون نے نہ صرف انعام کی ضمانت دی بلکہ یہ بھی کہا کہ میں دربار میں تمہیں ﴿مقرب﴾ بنا کر رکھوں گا۔﴿ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴾ (آیت: 42)

جادوگروں نے <u>فرعون کے اقتدار و عزت کی قسم کھا</u> کر اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور کہا کہ ہم غالب رہیں گے۔

﴿ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴾ (آیت:44)

لیکن حضرت موسیٰؑ کا عصا سانپ بن گیا اور ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر مسلمان ہو گئے۔

﴿ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ رَبِّ مُوْسٰی وَهٰرُوْنَ ۝ ﴾

فرعون غضب ناک ہوا اور کہنے لگا: میری اجازت کے بغیر تم کس طرح ایمان لے آئے؟

﴿قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ﴾ وہ Freedom of Faith کا قائل نہ تھا۔

پھر فرعون نے دھمکی دی کہ یہ تم جادوگروں کی باہمی سازش تھی۔ تمہارے بڑے جادوگر موسیٰؑ نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے۔

﴿اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِیْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾

میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹواؤں گا۔

﴿ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴾

اور تم سب کو پھانسی پر لٹکاؤں گا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جادوگروں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے: کوئی مسئلہ نہیں ! ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔

﴿قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ﴾ (آیت:47 تا 50)۔

4- آیات 69 تا 104: چوتھے پیراگراف میں قصۂ ابراہیمؑ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی دو (2) صفات ﴿عزیزیت﴾ اور ﴿رحیمیت﴾ ثابت کی گئیں۔

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے والد اور اپنی قوم سے مباحثہ کیا اور پوچھا کیا پوجتے ہو مورتیاں؟ سوال کیا، کیا یہ مورتیاں کان رکھتی ہیں؟ کیا نفع ونقصان کی قدرت رکھتی ہیں؟ (آیت 69-73)

جواب ملا: نہیں! لیکن باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے۔

﴿قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ﴾ (آیت:74)۔

حضرت ابراہیمؑ نے ان بتوں کو اپنا 'دشمن' قرار دیا ﴿فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ (آیت:77)۔

اللہ تعالیٰ کی صفات گنوائیں۔ میرا رب، خالق وہادی ہے، مطعم ہے، ساقی ہے، شافی ہے، شفاء دیتا ہے۔

﴿مُحیی﴾ اور ﴿مُمیت﴾ ہے۔ اسی سے قیامت کے دن خطاؤں کی معافی کی امید رکھتا ہوں۔

حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی: مجھے حکم عطا کر! اور صالحین کے ساتھ ملا دے!

بعد والوں میں سچی ناموری عطا کر! جنت کا وارث بنا! میرے والد کو معاف کر دے۔

﴿وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ﴾ وہ گمراہ ہیں۔ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا!

قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ﴾ (آیت: 88)

قیامت کے دن عقیدۂ توحید پر یکسو رہنے والا ﴿قَلْبٍ سَلِيْمٍ﴾ ہی کام آئے گا۔

﴿اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ﴾ (آیت:89)

اُس دن، جنت متقین کے قریب ہوگی اور دوزخ ﴿غاوین﴾ یعنی بہکے ہوؤں کے لیے کھول دی جائے گی۔

5- آیات 105 تا 122: پانچویں پیراگراف میں قصۂ نوحؑ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی دو (2) صفات ﴿عزیزیت﴾ اور ﴿رحیمیت﴾ ثابت کی گئیں۔

قومِ نوحؑ مشرک تھی۔ پانچ (5) بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ سیاسی طور پر بڑی بااثر تھی۔

اُس نے حضرت نوحؑ کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔

﴿قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ﴾ (آیت:116)

اللہ نے حضرت نوحؑ اور اُن کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی۔ یہ اللہ کی ﴿رحیمیت﴾ تھی۔

﴿فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ﴾ (آیت:119)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اور بقیہ تمام کافروں کو غرق کر دیا۔

﴿ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ﴾ (آیت:120)۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ﴿عزیز﴾ ہے۔

6- آیات 123 تا 140: چھٹے پیراگراف میں قصۂ قوم عاد اور حضرت ہود ؑ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی دو (2) صفاتِ ﴿عزیزیت﴾ اور ﴿رحیمیت﴾ ثابت کی گئیں۔

قومِ عاد بدعمل تھی۔ حضرت صالح ؑ کی تکذیب کی، یعنی اُن کی تعلیمات کو جھٹلایا، چنانچہ ہلاک کی گئی۔

﴿فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ﴾ (آیت:139)

7- آیات 141 تا 159: ساتویں پیراگراف میں قصۂ قوم ثمود اور حضرت صالح ؑ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی دو (2) صفاتِ ﴿عزیزیت﴾ اور ﴿رحیمیت﴾ ثابت کی گئیں۔

قومِ ثمود کے لیڈر ﴿مُسرِف﴾ تھے۔ اختیارات میں حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ (Abuse of Power)

حضرت صالح ؑ نے انہیں ان مفسد لیڈروں کی پیروی سے روکا۔

﴿وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ﴾۔ لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ چنانچہ ہلاک کی گئی۔

8- آیات 160 تا 175: آٹھویں پیراگراف میں قصۂ قوم لوط ؑ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی دو (2) صفاتِ ﴿عزیزیت﴾ اور ﴿رحیمیت﴾ ثابت کی گئیں۔

قومِ لوط ؑ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دی، بجز بڑھیا بیوی کے، لیکن ﴿مُنذَرین﴾ یعنی جن کو پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا، انہیں ہلاک کیا گیا تھا، اُن پر بُری بارش برسائی گئی۔

9- آیات 176 تا 191: نویں پیراگراف میں قصۂ قوم شعیب ؑ (اَصحابُ الایکہ) بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی دو (2) صفاتِ ﴿عزیزیت﴾ اور ﴿رحیمیت﴾ ثابت کی گئیں۔

قومِ شعیب ؑ نے اپنے نبی پر الزام لگایا کہ یہ سحر زدہ اور آسیب زدہ ہیں۔ ﴿قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ﴾

ان پر اعتراض تھا کہ یہ محض ہماری طرح کے بشر ہیں، رسول نہیں، بلکہ جھوٹے ہیں۔

﴿وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ﴾ (آیت:186)

اس قوم کو بھی ہلاک کیا گیا۔

10- آیات 192 تا 227: دسواں اور آخری پیراگراف اختتامیہ ہے۔ اس میں پہلے پیراگراف کی طرح قرآن کا مزید تعارف ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو ہدایات اور تسلی دی گئی اور قریشِ مکہ کو پچھلی قوموں کی طرح کے عذاب کی دھمکی دی گئی۔

(1) یہ (قرآن) ﴿رَبُّ العَالَمین﴾ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ﴿وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

روح الامین اسے لے کر آئے ہیں ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴾ (آیت:193)۔

وہی ﴿رَبُّ العَالَمین﴾ ہے، جو ﴿عزیز﴾ ہے، جس نے ماضی میں کئی ناشکری قوموں کو ہلاک کیا،

وہی ﴿رَبُّ العَالَمین ﴾ ہے، جو ﴿رحیم ﴾ بھی ہے، جس نے اپنے پیغمبروں اوران پر ایمان لانے والے شکرگزار بندوں کو بچالیا۔

(2) یہ قرآن کوئی شیطانی کلام نہیں ہے۔﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴾ (آیت:210)۔رسول اللہ ﷺ جیسی شخصیت پر کیسے اُتر سکتے ہیں؟ ﴿هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴾ (آیت:221)شیاطین تو صرف﴿ اَفَّاكٍ ﴾جعل سازوں اور﴿ اَثِيْمٍ ﴾بدکار لوگوں پر صرف اُترتے ہیں۔

(3) یہ قرآن شاعری بھی نہیں ہے، شاعر لوگ تو ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، وہ کہتے ہیں، جو کرتے نہیں ﴿ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴾۔(آیت:226)رسول اللہ ﷺ جیسی شخصیت شاعر کیسے ہوسکتی ہے؟ وہ تو ﴿مُنذِر ﴾ ہیں، یعنی خبردار کرنے والے ہیں۔لہٰذا جلد سے جلد ایمان لے آؤ۔

(4) رسول اللہ ﷺ کو ہدایت دی گئی کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خبردار کریں، ایمان لانے والوں پر شفقت کریں اوراللہ ہی پر توکل کریں، جو﴿عزیز ﴾ اور ﴿رحیم ﴾ بھی ہے۔(آیت:214)

(5) ہلاکتِ اقوام کا ایک اصول بیان کیا گیا کہ ﴿مُنذِر ﴾خبردار کرنے والے رسولوں کی بعثت کے بغیر،قومیں ہلاک نہیں کی جاتیں۔﴿وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴾ (آیت:208)۔

﴿مُنذِرین ﴾یعنی ڈرانے والے رسولوں کی بعثت کے بغیر، ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی۔"

(6) محمد ﷺ کو توحیدِ دعا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔دُعا میں شرک کرنے والے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوجاتے ہیں۔

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴾ (آیت:213)

مرکزی مضمون

تمام انبیاء نے ﴿اللہ ربُّ العَالَمین ﴾ کی عبادت اوراپنی اطاعت کی دعوت دی۔ارضی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں،اللہ کو﴿عزیز﴾اور ﴿رحیم ﴾ تسلیم کرکے،لوگوں کو قرآن کی دعوتِ جزا وسزا پر ایمان لانا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط | نظمِ جلی

27- سُوْرَةُ النَّمْلِ

آیات : 93...... مَکِّیَّة" ...... پیراگراف : 8



زمانۂ نزول:

سورت ﴿النَّمل﴾، سورت ﴿الشُّعَرَاء﴾ کے بعد رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) میں نازل ہوئی، جب شک وریب کے ساتھ رسول ﷺ پر ﴿سَاحِر﴾ ہونے کا الزام عائد کیا جا رہا تھا اور جب مکے کی بت پرست قریشی قیادت کو یمن کی سلطنت سبا کی ملکہ کے قبولِ اسلام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا، جو اسلام لانے سے پہلے سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ النّمل کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿الشُّـعَـرَاء﴾ میں ہلاک شدہ قوموں کے منفی رویوں سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ تھا، جنھوں نے دعوت کو جھٹلا کر مسترد کر دیا تھا۔ یہاں سورۃ ﴿النَّمل﴾ میں تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ یمن کی ملکہ نے دعوت کو قبول کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی۔ یہاں مثبت رویوں کو اپنانے کا مشورہ ہے۔

2- وہاں سورۃ ﴿الشُّعَرَاء﴾ میں توحیدِ اختیار اور توحیدِ صفات ﴿عزیز و رحیم﴾ کا ذکر تھا، یہاں سورۃ ﴿النَّمل﴾ میں ﴿ءَ اِلٰـہٌ مَّعَ اللّٰہِ ؟﴾ کے سوال کے ذریعے توحیدِ اُلوہیت و حاکمیت کا تذکرہ ہے۔

اہم کلیدی الفاظ و مضامین

1- اس سورت میں آیتِ ترجیع ﴿ءَ اِلٰـہٌ مَّعَ اللّٰہِ ؟﴾ پانچ (5) مرتبہ آئی ہے۔ شرک کی تردید کے لیے پانچ (5) مرتبہ سوال کیا گیا ہے ﴿ءَ اِلٰـہٌ مَّعَ اللّٰہِ ؟﴾ ”کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ﴿اِلٰہ﴾ بھی اُلوہیت میں شریک ہے؟“۔ یہاں معبودِ حقیقی اللہ کے لیے ﴿اِلٰـہ﴾ کا لفظ، قدرت، طاقت، اِختیار اور قوت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

آیت 60 میں زمین اور آسمان کی تخلیق کی طاقت و قدرت کی دلیل دی گئی اور بارش کے ذریعے نباتات اُگانے کی طاقت و قدرت کا ذکر کر کے سوال کیا گیا ﴿ءَ اِلٰـہٌ مَّعَ اللّٰہِ ؟﴾۔ (آیت:60)

اگلی آیت 61 میں زمین کی تخلیق اور پھر اُس میں پہاڑوں اور نہروں کے نظام کی دلیل فراہم کر کے سوال کیا گیا ﴿ءَ اِلٰـہٌ مَّعَ اللّٰہِ ؟﴾۔ اگلی آیت میں انسان کو اپنی ذات کے اندر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہی بے قرار اور مضطر کی فریاد سنتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے انسانوں کو خلیفہ اور جانشین بناتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ ﴿ءَ اِلٰـہٌ مَّعَ اللّٰہِ ؟﴾۔ (آیت:62) اگلی آیت میں یہ دلیل دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی اندھیروں میں راستہ دکھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہواؤں کو بھیجنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ کسی اور اِلٰہ کا عقیدہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ ﴿ءَ اِلٰـہٌ مَّعَ اللّٰہِ ؟﴾ (آیت:63)۔ اس سلسلے کی آخری اور پانچویں آیت میں بتایا گیا کہ اللہ ہی تخلیق کا آغاز کرتا ہے اور اُس کا اِعادہ بھی کرے گا۔ وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ پھر اللہ کو چھوڑ کر ﴿مِـن دُونِ اللّٰہِ﴾ کو اُلوہیت، قدرت، طاقت، ربوبیت اور حاکمیت میں شریک کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔

﴿ءَ اِلٰـہٌ مَّعَ اللّٰہِ ؟﴾ (آیت:64)۔

2- سورت النمل میں ﴿عرش﴾ یعنی تخت کا لفظ بھی چار (4) مرتبہ استعمال ہوا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(a) ایک ملکۂ سبا کا عرش (تخت) تھا ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ﴾ (آیت:23)۔

(b) لیکن ایک اللہ تعالیٰ خالقِ کائنات اور فرمان روائے کائنات کا عرش ہے، جس کے علاوہ کوئی ﴿اِلٰـه﴾ نہیں اور جو عرشِ عظیم کا مالک ہے

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ﴾ (آیت:26)۔

3- ﴿عُلُوّ﴾ سورت النمل میں دو (2) قسم کی بالادستی ﴿عُلُوّ﴾ کا ذکر ہے۔

(a) حضرت سلیمانؑ نے یمن کی ملکہ کو خط لکھا: مجھ پر بالادستی ﴿عُلُوّ﴾ کی کوشش نہ کرنا۔ سیدھی طریقے سے مسلمان بن کر حاضر ہو جانا!

یہ ریاست کی قوت سے دعوتِ اسلام تھی۔ ﴿اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ﴾ (آیت:31)۔

(b) آلِ فرعون نے ظلم اور بالادستی ﴿عُلُوّ﴾ کے غرور میں حضرت موسیٰؑ کی دعوت کا انکار کیا۔

﴿وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا﴾۔ (آیت:14)

4- ﴿ظلم﴾ اس سورت میں قومِ ثمود اور قومِ فرعون کے مظالم کا ذکر ہے۔

(a) فرعون کی فاسق قوم نے اللہ کی آیات کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اسلام پر مطمئن ہو چکے تھے۔

﴿وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا﴾ (آیت:14)۔

(b) قومِ ثمود ایک ظالم قوم تھی، ان کے ظلم کے سبب ان کی بستیاں اوندھی کر دی گئیں۔

﴿فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا﴾۔ (آیت:52)

5- ﴿فساد﴾ اس سورت میں قومِ ثمود کے نو (9) لیڈروں اور فرعون کے فساد کا تذکرہ ہے۔

(a) فرعون اور اُس کے لشکر ﴿مفسد﴾ تھے۔ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔

﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ﴾ (آیت:14)

(b) قومِ ثمود کے نو (9) لیڈر بھی مفسد تھے، ان میں اِصلاح کا کوئی جذبہ موجود نہ تھا۔

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ﴾ (آیت:48)

6- ﴿قرآن﴾ قرآن کے تعارف کے سلسلے میں مندرجہ ذیل باتیں بتائی گئیں۔

(a) قرآن ایک واضح کتاب ہے۔

﴿طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ﴾ (آیت:1)

(b) دانا حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے محمد ﷺ پر قرآن نازل کیا گیا ہے۔

﴿وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ﴾ (آیت:6)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) قرآن بنی اسرائیل کے اختلافی مسائل میں صحیح اور بے لاگ بات بتاتا ہے۔

﴿ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴾ (آیت:76)

(d) اللہ کی ذات ہی قابلِ تعریف اور قابلِ شکر ہے، وہ بہت جلد ایسی علامات ظاہر کرے گا کہ مشرکینِ مکہ جان لیں گے۔

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ﴾ (آیت:93)

7- ﴿اسلام﴾ اسلام کے سلسلے میں سورۃ النمل کی چار (4) باتوں پر غور فرمایئے۔

(a) حضرت سلیمانؑ نے ملکۂ سبا اور اہلِ سبا کو دھمکی دی۔ مجھ پر اپنی بڑائی نہ جتاؤ۔ سیدھے طریقے سے مسلم بن کر حاضر ہو جاؤ۔ ﴿ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ﴾ (آیت:31)

(b) ملکۂ سبا نے اسلام کا اقرار کر لیا اور حضرت سلیمانؑ کے ساتھ، کائنات کے رب کے آگے جھک گئی۔

﴿ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾ (آیت:44)

(c) جو لوگ اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں، وہی ﴿مُسْلِمِين﴾ یعنی فرمان بردار ہوتے ہیں۔

﴿ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴾ (آیت:81)

(d) رسول اللہ ﷺ کی زبان سے اعلان کرایا گیا کہ مجھے تو ﴿مُسْلِمِين﴾ یعنی فرماں برداروں ہی میں شامل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔

﴿ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ (آیت:91)

سورۃُ النَّمل کا نظمِ جلی

سورۃ ﴿النَّمل﴾ آٹھ (8) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 6: پہلا پیراگراف تمہید (Introduction) ہے۔ اس میں مؤمنین اور کافرین کی صفات بیان کر کے ﴿قرآن کا تعارف﴾ پیش کیا گیا ہے۔

طٰس، یہ قرآن اور کتابِ مبین کی آیات ہیں۔ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔

﴿ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (آیت:2) مومنین نماز قائم کرتے ہیں، زکوۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کو نہ ماننے والوں کے لیے، ان کے اعمال کو خوش نما بنا دیا گیا ہے۔ اندھے ہیں، بھٹکے پھرتے ہیں۔ ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ﴾ (آیت:4)

ان کے لیے بری سزا ہے۔ آخرت کا خسارہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو بتایا گیا کہ آپ ﷺ یہ قرآن علیم وحکیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ (آیت:6)

2- آیات 7 تا 14: دوسرے پیراگراف میں قصہ موسیٰ بیان کیا گیا ہے، دعوتِ توحید حاکمیت دی گئی ہے اور طاغوت کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔

حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا: مجھے آگ نظر آئی ہے۔ کوئی خبر یا آگ لاتا ہوں، تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔

وہاں پہنچے تو آواز آئی: مبارک ہے وہ شخص! جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے اردگرد ہیں۔ (آیت:8)

''میں اللہ ہوں، زبردست اور دانا''۔ لاٹھی پھینکو۔ وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ بھاگے اور مڑ کر نہ دیکھا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لَا تَخَفْ، إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ (آیت 10)

ڈرو نہیں! میرے پاس پیغمبر نہیں گھبراتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو۔ جیب میں ہاتھ داخل کرو! چمکتا ہوا نکلے گا۔ نو (9) نشانیاں عطا فرمائیں۔

فرعون اور اس کی فاسق قوم کی طرف نو (9) آیات کے ساتھ جانے کا حکم دیا گیا۔

آلِ فرعون نے کھلی کھلی نشانیوں کو جادو کہا۔ ظلم اور غرور سے انکار کیا، حالانکہ دل قائل ہو چکے تھے۔

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا﴾

یہ مفسد قوم تھی وہ برے انجام سے دوچار ہوئی۔ ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (آیت:14)

3- آیات 15 تا 44: تیسرے پیراگراف میں حضرت سلیمانؑ کی خلافتِ ارضی اور اُن کی حکومتِ الٰہیہ، توحیدِ حاکمیت اور اُن کے جذبۂ تبلیغِ اسلام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ کو علم دیا۔ دونوں نے اس فضیلت پر شکر ادا کیا۔ حضرت داؤدؑ کے وارث حضرت سلیمانؑ ہوئے۔ انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئیں۔

حضرت سلیمانؑ کے لیے جن، انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ ضبط میں رکھے جاتے تھے۔

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (آیت:17)

ایک دن کوچ کر رہے تھے۔ چیونٹی کی بل پر پہنچے۔ ایک چیونٹی ﴿نَمْلَةٌ﴾ نے باقی چیونٹیوں سے کہا: بل میں گھس جاؤ! کہیں سلیمانؑ کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں!

حضرت سلیمانؑ مسکرائے اور کہا: اے اللہ! مجھے قابو میں رکھ! ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾ تاکہ تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو مجھ پر اور میرے والدین پر ہوا۔ ایسا عمل کروں، جو تجھے منظور ہو

﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ﴾

دعا فرمائی کہ اپنی رحمت سے صالحین میں شامل فرما!

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَاَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ ﴾ (آیت:19)

حضرت سلیمانؑ نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ ایک جاسوس ﴿ هُدهُد ﴾ کو غائب پایا۔ فرمایا: میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ اگر معقول وجہ نہ بتائی تو ذبح کردوں گا۔

ہدہد نے کہا: میں نے (یمن کی) قومِ سبا کے متعلق، وہ معلومات حاصل کی ہیں، جو آپ کے علم میں نہیں (حضرت سلیمانؑ کے پاس بھی علمِ غیب نہ تھا) ہدہد نے بتایا کہ وہاں ایک عورت حکمران ہے۔ ہر قسم کے سروسامان اور تخت ﴿ عرشِ عظیم ﴾ کی مالک ہے، وہ اور اُس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے اور راہ سے بھٹکی ہوئی ہے اور عرشِ عظیم تو اللہ کا ہے۔

﴿ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ (آیت:24)

درحقیقت عرشِ عظیم کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، جس کے سوا کوئی ﴿ اِلٰه ﴾ نہیں۔

﴿ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴾ (آیت:26)

حضرت سلیمانؑ نے ہدہد سے کہا: دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا نہیں (یعنی دوسرے ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں)۔

یہ میرا خط لے جاؤ! انجان طریقے سے ڈال دو! پھر اُن کا ردِعمل دیکھو۔ خط میں اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی

"یہ خط سلیمانؑ کی طرف سے ہے۔ ﴿ بسم اللہ ﴾ سے آغاز ہوا۔

﴿ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ (آیت:30)

"مجھ پر بالادستی ﴿ عُلُوّ ﴾ نہ جتاؤ اور مسلم ہوکر حاضر ہوجاؤ!

﴿ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَیَّ وَاْتُوْنِیْ مُسْلِمِيْنَ ﴾ (آیت:31)

ملکہ سبا نے سردارانِ قوم سے مشورہ مانگا، انہوں نے کہا: ہم طاقتور ہیں لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ملکہ نے کہا: بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں۔

میں ایک تحفہ ﴿ ہدیہ ﴾ بھیج کر دیکھتی ہوں۔

حضرت سلیمانؑ نے کہا: مال سے میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ ﴿ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ﴾ (آیت:35)

میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے۔

فَمَآ اٰتٰنِیَ اللّٰهُ خَیْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ ﴾ (آیت:36)

تمہارا تحفہ ﴿ هَدِيَّه ﴾ تمہیں مبارک ہو۔

﴿ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴾ (آیت:36)

یہ تحفہ واپس کرو، حضرت سلیمانؑ نے دھمکی دی۔ ہم ایسے لشکر لے آئیں گے، جس کا وہ مقابلہ نہیں کرسکیں گے۔

﴿ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴾ (آیت:37)

درباریوں سے پوچھا: کون ملکہ سبا کا تخت لاتا ہے ؟ایک عفریت جن نے کہا: میں قوی اور امین ہوں۔اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اسے لاسکتا ہوں۔

﴿ قَالَ عِفْرِيْتٌ" مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ" اَمِيْنٌ" ﴾ (آیت:39)

لیکن ایک دوسرے صاحبِ علمِ کتاب (عفریت جن) نے کہا: میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔

﴿قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ" مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾

﴿عرش﴾ یعنی تخت یمن سے فوراً فلسطین لایا گیا۔حضرت سلیمانؑ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا: یہ میرے لیے شکر، اور ناشکری کا امتحان ہے۔﴿هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ﴾ (آیت:40)

ملکہ سبا یمن سے فلسطین آئی۔حضرت سلیمانؑ کے محل میں داخل ہوئی۔شیشے کے فرش کو پانی کا حوض سمجھ کر پائینچے چڑھا لیئے۔بالآخر سورج کی پرشش کرنے والی یہ ملکہ سبا، اپنے شرک وظلم کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاتی ہے۔

﴿ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾ (آیت:44)

4- آیات 45 تا 53 :چوتھے پیراگراف میں حضرت صالحؑ اور اُن کی قوم ثمود کا تذکرہ ہے اور اُن کے ظلم کے انجام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

قوم ثمود کے پاس حضرت صالحؑ بھیجے گئے۔دعوتِ توحید دی۔اختلاف ہوا۔دو گروہ بن گئے۔

حضرت صالحؑ نے کہا: استغفار کیوں نہیں کرتے؟ رحم ہوگا۔جواب ملا: ہم نے تم کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔

اس شہر میں نو (9) جھتے دار فسادی لیڈر تھے، جنہیں اصلاح سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔

﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴾ (آیت:48)

انہوں نے باہم قسم کھائی کہ حضرت صالحؑ اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے ہم موقعہ واردات پر موجود نہ تھے۔انہوں نے چال چلی، لیکن اللہ کی چال اپنی ہوتی ہے۔سب کو تباہ کر دیا۔انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔﴿وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ﴾ (آیت:50)

قوم ثمود کو ہلاک کر دیا گیا اور حضرت صالحؑ اور اہلِ ایمان متقین کو بچا لیا گیا۔

5- آیات 54 تا 58 :پانچویں پیراگراف میں حضرت لوطؑ کی قوم کی بداعمالیوں اور اُن کی ہلاکت کا ذکر ہے۔

حضرت لوطؑ نے اپنی قوم کو فحاشی اور بدکاری سے روکا۔عورتوں کے بجائے، مردوں سے شہوت رانی پر گرفت کی ،لیکن قومِ لوطؑ نے حضرت لوطؑ اور اُن پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو جلاوطنی (Deportation) کا حکم دیا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

"لوطؑ اور اس کے گھر والوں کو بستی سے نکال دو ! یہ بڑے پاکباز بنتے ہیں"۔

﴿ اَخْرِجُوْآ اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ﴾ (آیت:56)۔

اور حضرت لوطؑ پر پاکبازی کی پھبتی کسی۔ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ" يَّتَطَهَّرُوْنَ﴾ (آیت:56)

اللہ نے حضرت لوطؑ اور ان کے گھر والوں کو بچالیا۔ بدکاروں پر مٹی کے پتھروں کی بارش کی گئی۔

6- آیت 59: چھٹے پیراگراف میں انبیاء کی خدمات توحید کی تعریف کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔

دعوتِ توحید کو عام کرنے میں اُن کی خدمات بے مثال ہیں۔

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ" عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ءَآللّٰهُ خَيْرٌ" اَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾ (آیت:59)۔

ان میں پہلے توحید حمد کا ذکر ہے پھر اوپر ذکر کردہ حضرت موسیٰؑ ، حضرت داوٗدؑ وسلیمانؑ ، حضرت صالحؑ اور حضرت لوطؑ جیسے منتخب بندوں ﴿عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ﴾ کو خراج تحسین ہے۔

آخر میں مشرکوں کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے سوال کیا گیا۔ کیا اللہ بہتر ہے؟ یا نام نہاد معبود اور شریک؟ (آیت:59)

یہی مضمون سورۃ الصافات کی آخری آیات میں بیان ہوا ہے، جو اُس سورت کا خلاصہ بھی ہے۔

7- آیات 60 تا 69 : ساتویں پیراگراف میں دلائلِ توحیدِ اُلوہیت وحاکمیت ہیں اور دلائلِ ردِ شرکِ اُلوہیت وحاکمیت ہیں

قدرت ، طاقت ، ربوبیت اور اختیار کی دلیلیں فراہم کرنے کے بعد ، پانچ (5) مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستی بھی اُلوہیت میں شریک ہے؟ ﴿ءَ اِلٰـهٌ" مَّعَ اللّٰهِ ؟﴾ ۔ اس طرح شرکِ اُلوہیت ، شرکِ حاکمیت ، شرکِ اختیار، شرکِ ربوبیت وغیرہ کی دلیلوں سے تردید کی گئی۔

مشرکین کو صاف صاف خبردار کردیا گیا کہ آخرت کا علم اُن سے کھو گیا ہے ، اسی لیے وہ شک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اسی لیے وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارے باپ دادا قبروں سے کس طرح اُٹھائے جائیں گے۔ یہ آخرت کو افسانہ قرار دیتے ہیں۔

﴿بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴾(آیت:66)

مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پچھلی قوموں کے مجرمین کی طرح ہلاک کرسکتا ہے۔

8- آیات 70 تا 93 : آٹھویں اور آخری پیراگراف اختتامیہ ہے۔ رسول ﷺ کو تسلی دے کر مناظرِ قیامت بیان کیے گئے ہیں اور شرک کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکینِ مکہ کی سازشوں سے دل گرفتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴾ (آیت:70)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

وعدے کا دن کب ہے؟ شاید قریب ہو۔

تمہارا رب فضل فرمانے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ ہر چیز کتاب میں درج ہو رہی ہے۔

آخری کتاب قرآن کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح صحیح موقف بیان کرتی ہے۔

﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (آیت:76)

مومنین کے لیے قرآن، ہدایت اور رحمت ہے۔

﴿وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (آیت:77)

رسول اللہ ﷺ کو اللہ پر ہی بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم دیا گیا کہ مشرکین دعوتِ قرآن کے سلسلے میں مردہ ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ ظاہر ہے آپ ﷺ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بھاگنے والے بہروں کو نہیں سنا سکتے، نہ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں۔ ہاں اہل ایمان فرماں برداروں کو قرآن سنا سکتے ہیں، جو اس آخری ہدایت پر توجہ دینے کے لیے تیار ہیں۔

یہاں قربِ قیامت کی تیسری نشانی بتائی گئی: (پہلی نشانی حضرت عیسیٰ کا نزول، دوسری نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہے) جب قیامت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک ایسا ﴿دَابَّة﴾ یعنی جانور پیدا کرے گا، جو لوگوں سے بات چیت کرے گا۔

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ (آیت:82)

قیامت کے دن، آیات کی تکذیب کرنے والوں کو، فوج در فوج منظم طور پر گھیر لیا جائے گا۔

قیامت کے دن سب سے پہلے ایک صور پھونکا جائے گا، جو زمین و آسمان کے مکینوں پر گھبراہٹ طاری کر دے گا۔

﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ (آیت:87)

کافر اوندھے منہ آگ میں جھونکے جائیں گے اور نیک لوگ قیامت کے دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔

سورت کے آخر میں رسول اللہ ﷺ کو مندرجہ ذیل باتوں کے اعلان کا حکم دیا گیا۔

(a) مجھے بلدِ حرام کے رب کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے۔

(b) مجھے مسلم بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ (آیات: 91 تا 92)

(c) اے محمد ﷺ! قرآن سناتے جائیے! (آیات: 91 تا 92)

(d) میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں! اسی کی حمد ہے! (آیت: 93)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(e) جلد اللہ تعالیٰ ایسی علامات ظاہر کرے گا کہ لوگ حق کی معرفت حاصل کرلیں گے۔

﴿ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ﴾

کافروں کو دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (آیت:93)

مرکزی مضمون

توحیدِ ﴿ اُلوہیت ﴾ اور ﴿ توحیدِ حاکیت ﴾ کے دلائل فراہم کردیئے گئے ہیں۔رسول اللہ ﷺ کی قرآنی دعوتِ توحید وآخرت قبول کرکے اسلام لانا چاہیے۔اقتدار کو دعوتِ توحید کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

28- سُوْرَةُ الْقَصَصِ

آیات : 88...... مَكِّيَّة"...... پیراگراف : 9



زمانۂ نزول:

1۔ سورت ﴿الْقَصَص﴾، سورت ﴿الشُّعراء﴾ اور سورت ﴿النَّمل﴾ کے بعد، رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) میں نازل ہوئی، جب قریشی قیادت کو فرعون، ہامان اور قارون کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ اور رسول اللہ ﷺ کو قریش کے مجرمین کا مددگار بننے سے روک دیا گیا۔

2۔ آیت:56 ﴿اِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ﴾ رجب 10 نبوی میں، حضرت ابوطالب کے انتقال کے موقع پر نازل ہوئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ القصص کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿النّمل﴾ میں دعوتِ توحید کے سلسلے میں ملکہ سبا کے مثبت رویوں کا ذکر تھا، سورج کی پوجا کرنے والی ملکہ نے اسلام قبول کرلیا یہاں سورۃ ﴿القصص﴾ میں فرعون، ہامان اِن دونوں کے لشکروں اور قارون کے منفی رویوں کا ذکر ہے، ان سب کو عبرت بنا کر ہلاک کردیا گیا۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿عُلُوّ فِی الْاَرْضِ﴾ اِس سورت کا مرکزی مضمون ہے اور قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے، جو متکبر حکمرانوں اور آمروں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ لوگ خوفِ خدا اور قانونِ خدا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر زمین پر خود خدا بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔

(a) سورت کے آغاز ہی میں فرعون کے خلاف فردِ جرم عائد کرتے ہوئے اُسے ﴿عُلُوّ فِی الْاَرْضِ﴾ کا مجرم قرار دیا گیا۔ ﴿اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْاَرْضِ﴾ (آیت:4)

(b) سورت کے اختتام پر یہ بتایا گیا کہ ﴿عُلُوّ فِی الْاَرْضِ﴾ کے جرم کے سبب ہی یہ دنیا میں ہلاک کیا گیا اور آخرت میں جنت کے گھر سے بھی محروم رہے گا۔

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِی الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾ (آیت:83)

(c) اس آیت میں ﴿الْمُتَّقِيْنَ﴾ کا ایک خاص مطلب ہے۔ یہاں وہ حکمران مقصود ہیں، جو اللہ کے ﴿خلیفہ﴾ بن کر اللہ کے قانون کے ماتحت حدود وقیود میں رہتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں اور اختیارات کے ناجائز استعمال (Abuse of Power) اور فساد سے بچتے ہیں۔

(d) اس سورت میں ﴿عُلُوّ فِی الْاَرْضِ﴾ ابتدا میں بھی آیا ہے اور اختتام پر بھی۔ یہ قرآن مجید کی اکثر سورتوں کا ایک خاص اسلوب ہے۔ ابتدا میں مقدمہ بیان کیا جاتا ہے، درمیان میں تفصیل ہوتی ہے اور آخر میں مقدمے کا اعادہ (Re-cap) کیا جاتا ہے۔

2- ﴿اِستِکبار فِی الارض﴾ بھی قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ یہ سرکش اور طاغی افراد اور اُن کے باطن کا وہ رویہ ہے، جو اُن کے باطن سے ہو کر خارج ﴿الارض﴾ پر اثر انداز ہوتا ہے۔

"فرعون اور اُس کے لشکروں نے زمین پر ناحق تکبر سے کام لیا۔"

﴿وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِی الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (آیت:39)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یہاں ﴿جُنُوْد﴾ کا لفظ بھی قابلِ توجہ ہے، یہ ﴿استکبار﴾ انفرادی نہیں تھا، بلکہ پوری فوج اور اس کے اہم ترین کمانڈروں کی اجتماعی ذہنیت تھی۔ فوجی اور عسکری قوت کا نشہ انسان کو دوسرے لوگوں کی تذلیل پر اکساتا ہے۔

3- فرعون اور اُس کے عسکری اور سیاسی معاونین ﴿ مَلَأ ﴾ کو قرآن نے ﴿فاسق﴾ یعنی بدکار ، بدعمل اور نافرمان کہا ہے۔ ﴿ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴾ (آیت:32)

4- سورت القصص میں دو (2) قسم کی قیادت اور امامت (Leadership) کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ امام کی جمع ﴿ اَئِمَّة ﴾ ہے ، امام اور لیڈر جنتی بھی ہوسکتے ہیں اور دوزخی بھی۔

(a) حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کی قیادت ایک صالح قیادت تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے اِن ضعیف مظلوموں پر احسان کرے اور انہیں دنیا میں امام ﴿ اَئِمَّة ﴾ اور وارث بنائے۔ چنانچہ آیت:5 میں کہا گیا: ﴿وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ﴾

(b) اس کے برخلاف فرعون کی امامت اور قیادت لوگوں کو 'دوزخ کی طرف دعوت دینے والی' فاسق اور بدعمل امامت تھی۔ ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا لیڈر بنا دیا، جو دوزخ کی آگ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ﴿وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ﴾ (آیت:41)۔

5- سورت القصص میں ﴿جُنُوْد﴾ اور ﴿جُنُوْدهُمَا﴾ کے الفاظ دو دو بار استعمال کیے گئے ہیں۔ ﴿جُنُوْدهُمَا﴾ کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج کی کمان دو (2) کمانڈروں کے ہاتھ میں تھی۔ فرعون کی حیثیت غالباً صدر اور آرمی چیف کی سی تھی اور ہامان کی حیثیت وزیرِ اعظم ، وزیرِ دفاع یا ڈپٹی آرمی چیف کی سی تھی۔

(a) اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ فرعون اور ہامان دونوں کے لشکروں ﴿جُنُوْدهُمَا﴾ کو وہ انجام دکھادے ، جس کا خود انہیں اندیشہ تھا۔ ﴿ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ﴾ (آیت:6)۔

(b) اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ہامان دونوں کے لشکروں ﴿جُنُوْدهُمَا﴾ کو ﴿ خٰطِئِيْنَ ﴾ یعنی خطا کار کہا۔ "یقیناً فرعون، ہامان اور ان دونوں کے ماتحت فوجیں خطا کار تھیں۔" ﴿ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ﴾

(c) فرعون اور اُس کی پوری فوج نے بلا کسی استحقاق کے زمین پر تکبر کا مظاہرہ کیا۔ ﴿وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (آیت:39)

(d) اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی جکڑ لیا اور اُس کی فوج ﴿ جُنُوْد﴾ کو بھی ، پھر یہ سب موجوں کے حوالے کر دیئے گئے۔ ﴿فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ﴾ (آیت:40)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6- سورت القصص میں ﴿ اِلٰـه ﴾ کا لفظ بھی کامل اختیارات (Sovereignity) کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فرعون نے ﴿ اُلوھیت ﴾ کا دعویٰ بھی کیا اور ﴿ رُبوبیت ﴾ کا دعویٰ بھی کیا، اس نے ﴿ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴾ کا دعویٰ بھی کیا تھا، حالانکہ وہ خود کئی خداؤں ﴿ آلِـهَـة ﴾ کی پرستش کرنے والا ایک مشرک آمر (Dictator) تھا۔

(a) وہ اپنے فوجی کمانڈروں سے کہتا: "میں اپنے علاوہ کسی اور کو تم لوگوں کا ﴿اِلٰـه﴾ حاکم (Sovereign) نہیں گردانتا" ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ﴾ (آیت:38)

(b) مندرجہ ذیل آیت میں ﴿اِلٰـه﴾ کا لفظ، ایک ایسی صاحبِ قوت معبود ہستی کے لیے استعمال ہوا ہے، جو روشنی فراہم کرسکتی ہے۔" ﴿ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ ﴾ (آیت:71)

(c) مندرجہ ذیل آیت میں ﴿اِلٰـه﴾ کا لفظ، ایک ایسی صاحبِ قوت معبود ہستی کے لیے استعمال ہوا ہے، جو رات کا سکون فراہم کرسکتی ہے۔" ﴿ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ﴾ (آیت:72)۔

7- سورت القصص میں ﴿ ھلاکت ﴾ کا لفظ بھی بار بار استعمال ہوا ہے۔

(a) حضرت موسیٰ ؑ کو (1,300 ق م میں) کتاب عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک شدہ اقوام قومِ نوح ؑ، قومِ عاد، قومِ ثمود، قومِ لوطؑ اور قومِ شعیبؑ وغیرہ، ان کا ذکر بطورِ بصیرت تورات میں کر دیا۔

﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى ﴾ (آیت:43)

(b) اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کیا، جنہیں اپنے طرزِ زندگی، اپنے رہن سہن اور اپنی معیشت پر ناز تھا۔ تاریخ کے اس منظر میں اکیسویں صدی عیسوی کی امیر قوموں کے لیے اور قیامت تک آنے والی مادہ پرست تہذیبوں کے لیے سامانِ عبرت ہے۔

﴿وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ﴾ (آیت:58)

(c) اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکتِ اقوام کے دو (2) اُصول بتائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ رسول کی بعثت اور اُس کی دعوت و اتمامِ حجت کے بغیر قوموں کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ﴾

دوسرا اصول یہ ہے کہ صالح اور نیک افراد پر مشتمل بستیوں کو ہلاک نہیں کیا جاتا، بلکہ ظالم بستیوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ﴾ (آیت:59)۔

(d) فرعون کا دستِ راست اور سرمایہ دار یہودی قارون یہ سمجھتا تھا کہ اُسے دولت اُس کے علم کی بنیاد پر عطا کی گئی ہے، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس سے زیادہ علم، اُس سے زیادہ قوت اور اُس سے زیادہ جمعیت رکھنے والے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بڑے بڑے گناہ گار مجرموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔

﴿ قَالَ اِنَّمَا اُوْتِیْتُهٗ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِیْ اَوَلَمْ یَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا یُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴾ (آیت:78)

(e) اللہ تعالیٰ نے قارون کو اُس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ کے علاوہ کوئی قوت اور کوئی جمعیت اُس کی مدد کے لیے موجود نہ تھی۔

﴿ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ یَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِیْنَ ﴾ (آیت:81)

(f) سورت القصص کی آخری آیت میں توحیدِ دعا، توحیدِ اختیار، توحیدِ حیات اور توحیدِ تشریع کی تفصیلی وضاحت کر کے آمروں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ دنیوی عذاب سے بھی دوچار کیے جا سکتے ہیں اور آخرت کی سزا سے بھی۔ تمام مخلوق کے لیے فنا ہے اور صرف خالق اللہ کے لیے ہے بقا ہے۔ اس لیے نہ تو اُس کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا چاہیے اور نہ کسی اور کو ﴿ حاکم ﴾ (Soveriegn) تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ خیال ہمیشہ دامن گیر ہو کہ ہمیں اُسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ، لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ، كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ، لَهُ الْحُكْمُ ، وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴾ (آیت:88)

8- اس سورت میں ﴿ ظَهِیْر ﴾ یعنی مددگار کا لفظ دو (2) مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ ان دو آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو مجرموں اور کافروں کا ﴿ ظَهِیْر ﴾ یعنی مددگار نہیں بننا چاہیے اور اگر نادانستہ طور پر کبھی ان سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ سے استغفار کر کے آئندہ ظالموں، فاسقوں اور کافروں کے ﴿ ظَهِیْر ﴾ یعنی مددگار بننے سے باز آ جانا چاہیے، خواہ وہ مجرم اور گناہ گار افراد اُن کی اپنی قوم، اپنے خاندان، یا اپنے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں، بالخصوص فرعونی ذہنیت رکھنے والے آمروں (Dictators) کی حمایت سے بچنا چاہیے۔

(a) حضرت موسیٰؑ نے نادانستہ قتل پر استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی۔ اس معافی پر احسان مندی کے طور پر حضرت موسیٰؑ نے یہ عہد کیا کہ وہ آئندہ کسی مجرم کے ﴿ ظَهِیْر ﴾ یعنی مددگار نہیں بنیں گے۔

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِیْرًا لِّلْمُجْرِمِیْنَ ﴾ (آیت:17)

(b) اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول ﷺ پر کی جانے والی وحی کو رحمت قرار دیا۔ دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ خود رسول اللہ ﷺ رسالت اور نبوت کے خواہش مند نہیں تھے۔ وحی کی اس احسان مندی کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا کہ وہ ہرگز ہرگز کافروں کے ﴿ ظَهِیْر ﴾ یعنی مددگار نہ بنیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ﴾ (آیت:86)

سورۃُ القَصَص کا نظمِ جلی

سُورۃُ القَصَص نو (9) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 6 :سورت القصص کا پہلا پیراگراف سورت کی غایت اور سورت کی تمہید پر مشتمل ہے

کتابِ مبین میں حضرت موسیٰؑ اور فرعون کا سچا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کردیا گیا ہے۔اس حصے میں فرعون کے خلاف فردِ جرم (Charge Sheet) عائد کی گئی ہے۔

(a) فرعون ایک متکبر اور سرکش حکمران تھا زمین پر بڑا بنتا تھا۔﴿اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ﴾۔

(b) فرعون اپنے شہریوں کو تقسیم کرتا تھا ﴿وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا﴾ (Divide & Rule) کی پالیسی پر عمل کرتا تھا۔

(c) فرعون نسل پرست تھا۔﴿يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ﴾ ایک گروہ (یعنی بنی اسرائیل) کو کمزور کرتا تھا۔

(d) فرعون ایک نسل کش حکمران تھا ۔﴿يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ﴾ لڑکوں کو ہلاک کر کے لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ (Ethenic Cleansing) کے جرم کا مرتکب تھا۔

(e) فرعون ایک فسادی حکمران تھا ﴿اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ﴾ (آیت:4)

اس سورت کے آغاز (آیت:4) میں بھی ﴿عَلَا فِي الْاَرْضِ﴾ کا ذکر ہے،اور اختتام پر بھی (آیت نمبر 83 میں) ان دونوں کے درمیان سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہی اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔

اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ مظلوم اور ضعیف بنی اسرائیل پر احسان کیا جائے اور ان کے حوالے دنیا کی اِمامت سپرد کی جائے۔چنانچہ حضرت موسیٰؑ کے تین سو (300) سال بعد، حضرت طالوتؒ ،حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ کو حکومت عطا کی گئی اور اس خاندان میں بڑے بڑے انبیاء اور رسول پیدا کیے گئے ، جو توحید کی میراث کے علمبردار تھے۔﴿وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ﴾ (آیت:5)

2- آیات 7 تا 13: دوسرے پیراگراف میں حضرت موسیٰؑ کے بچپن کی سچی داستان رقم کی گئی۔

حضرت موسیٰؑ کی والدہ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اُسے دودھ پلا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا جائے اور یہ تسلی بھی دی کہ یہ لڑکا تمہاری گود میں لوٹا دیا جائے گا۔دریا کی موجوں نے بچے کو فرعون کے محل

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تک پہنچا دیا۔فرعون کی بیوی نے بچے کے قتل سے روک دیا اور محل کی عورتوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا،لیکن حضرت موسیٰ ؑ کسی اور خاتون کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔اس طرح انہیں دوبارہ اپنی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا۔

﴿فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ﴾ (آیت:13)

فرعون کے محل والے اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ یہی نومولود مستقبل میں فرعون اور اُس کے فوجی اقتدار کے لیے دشمن ثابت ہوگا اور ان کے رنج کا باعث بنے گا ﴿لِیَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا﴾ (آیت:8)۔

3- آیات 14 تا 21 : تیسرے پیراگراف میں حضرت موسیٰ ؑ کی جوانی کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔

ابتدائی جوانی کے ایام میں ان سے ایک نادانستہ قتل ہوگیا۔حضرت موسیٰ ؑ کو فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔انہوں نے فوراً استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں فوراً معاف کردیا۔﴿قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ ، فَغَفَرَ لَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ﴾ (آیت:16)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا مژدہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ نے احسان مندی کے اعتراف میں عہد کیا۔

''آئندہ ہرگز کبھی مجرموں کا حمایتی نہ بنوں گا'' (آیت:17)۔ حکومت کے ایک آدمی نے حضرت موسیٰ ؑ کو یہ اطلاع دی کہ حکمران اِن کے قتل کی سازش کررہے ہیں ،چنانچہ حضرت موسیٰ ؑ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی۔

4- آیات 22 تا 28 : چوتھے پیراگراف میں حضرت موسیٰ ؑ کی دس (10) سالہ مدینی زندگی کے سچے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔

یہاں حضرت موسیٰ ؑ کی فطری قائدانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔مدین پہنچ کر انہوں نے محض اللہ کی خوشنودی اور خدمتِ خلق کے جذبے کے تحت دو کمزور لڑکیوں کی مدد کی۔ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔پھر ان دونوں سے بے نیاز ہو کر ایک سائے کی طرف رُخ کیا۔﴿ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ﴾ ۔پھر ایک اجنبی مقام پر دیارِ غیر میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے کہ اے میرے پالنے والے ! جو بھی خیر تو نے میرے لیے مقدر کر رکھا ہے ،اُس کا میں محتاج ہوں ﴿رَبِّ اِنِّیْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ﴾ (آیت:24)۔دعا قبول ہوئی۔ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی۔کہا: میرے والد آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں۔حضرت موسیٰ ؑ نے ان لڑکیوں کے والد کو مصر کے حالات تفصیل سے بتائے اور بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کی داستان سنائی۔لڑکی کے والد نے کہا: ﴿نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ﴾ (آیت:25)۔ان دو لڑکیوں میں سے ایک ذہین لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ حضرت موسیٰ ؑ کو ملازم رکھ لیا جائے اور اس کے لیے اپنی طرف سے دو مضبوط دلیلیں بھی دیں۔اچھے ملازم میں دو (2) بنیادی اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔(1) طاقت اور قوت (2) امانت و دیانت۔(آیت:26)﴿قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا یٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْاَمِیْنُ﴾ (آیت:26) وہ حضرت موسیٰ ؑ کی جرأت اور ان کے تقویٰ کے علاوہ، ان کے تعلق باللہ کا مشاہدہ کرچکی تھی۔آٹھ یا دس سال کی ملازمت پر ایک لڑکی سے ان کے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نکاح پر اتفاق ہو گیا۔ ﴿ ذٰلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ ﴾ (آیت:28)

5- آیات 29 تا 42 : پانچویں پیراگراف میں ، حضرت موسیٰؑ کی منصب نبوت پر سرفرازی اور اُس کے بعد ان کی فرعون سے معرکہ آرائی اور فرعون اور اُس کی فوجوں کے انجام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

ملازمت کے معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت موسیٰؑ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے خطاب کیا اور فرمایا: ''اے موسیٰ ! میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں''۔ ﴿ يٰمُوْسٰى اِنِّيْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾ (آیت:30)۔ دو (2) معجزات سے نوازا۔ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی اور ہاتھ جیب سے نکلتے ہی چمکنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو حکم دیا کہ ان دو معجزات کے ساتھ کر فرعون کے دربار میں جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ یہ لوگ بڑے ہی بدکار ہیں۔ (آیت 32)

حضرت موسیٰؑ نے درخواست کی کہ حضرت ہارونؑ کو بھی معاون بنایا جائے۔ یہ درخواست قبول کی گئی۔ حضرت موسیٰؑ نے اِس خدشے کا اظہار کیا کہ فرعون ان کے نادانستہ قتل کا انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم تم دونوں بھائیوں کو ایسی طاقت عطا کریں گے کہ فرعون اور اُس کے کمانڈر تم دونوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے ﴿ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ﴾ (آیت:35)۔

حضرت موسیٰؑ نے فرعون کے دربار میں دعوت دی، اُس نے انہیں جادوگر اور مفتری ٹھہرایا، تکبر سے کام لیا اور اپنے کامل اقتدار و اختیار کا دعویٰ ﴿ اُلوہیت ﴾ کی شکل میں کیا۔ ''میں اپنے سوا تم لوگوں کے لیے کوئی اور حاکم ﴿ الٰہ ﴾ نہیں گردانتا''

﴿ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ﴾ (آیت:38)۔

فرعون اور اُس کی فوجوں نے آخرت کا انکار کر کے تکبر کا مظاہرہ کیا اور حضرت موسیٰؑ کو مسترد کر دیا۔

﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴾ (آیت:39)

اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی پکڑ لیا اور اُس کی ظالم فوجوں کو بھی دریا کی موجوں کے حوالے کر کے ہلاک کر دیا۔

﴿ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴾ (آیت:40)

یہ دوزخ کی آگ کی طرف بلانے والے لیڈر اور امام تھے ﴿ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ﴾ (آیت:41)۔

ان پر دنیاوی لعنت بھی ہوئی اور اُخروی عذاب بھی ہوگا۔ (آیت:42)

6- آیات 43 تا 60 : چھٹے پیراگراف میں ، رسول اللہ ﷺ سے خطاب ہے اور قریش کو وارننگ دی گئی ہے کہ اُن کے رویے بھی فرعونی ہیں اور اِنہیں بھی شاید اِسی انجام سے دوچار ہونا پڑے۔

قریشِ مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو جادوگر کہا تھا ، بالکل اُسی طرح ، جس طرح حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کو جادوگر کہا گیا تھا۔ (آیت:48)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

قریش کے سرداروں کو چیلنج کیا گیا کہ ان سے صاف کہہ دیا جائے: قرآن سے بہتر کتاب لا کر دکھاؤ ! (اور ایسا ممکن نہیں ہے) میں خود اُس کتاب کی پیروی کروں گا۔ ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگ خواہشاتِ نفس کے پیرو ہو (آیات:49 تا 50)۔ اللہ تعالیٰ نے اِتمامِ حجت کر دی ہے ،امید ہے کہ یہ لوگ نصیحت قبول کریں گے۔

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (آیت:51)۔

قریشِ مکہ کو غیرت دلائی گئی کہ تم سے تو بعض اہلِ کتاب (جیسے حبش کے عیسائی بادشاہ نجاشی وغیرہ) زیادہ بہتر ہیں۔ وہ ایمان لا چکے ہیں۔ ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں،﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ جاہلوں کو سلام کہتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں،﴿ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِينَ﴾ (آیت:55)۔

مشرکین کو احساس دلایا گیا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اِس شہر کو ایک پر امن جائے قیام بنایا۔ ہر قسم کے پھلوں اور رزق پہنچانے کا بندوبست کیا ہے۔ (آیت:57)

مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم سے پہلے کتنی ہی مغرور تہذیبیں اور مضبوط معیشتیں (Sound Economies) بھی تباہ کر دی گئیں۔

7- آیات 61 تا 75 :ساتویں پیراگراف میں، دلائلِ توحید پیش کیے گئے ہیں۔

توحید کی مختلف دلیلوں کو پیش کرنے کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی ﴿ إِلٰـهٌ ﴾ نہیں ہے۔ اول وآخر وہی تعریف کا مستحق ہے ،وہی حاکم اور شارع (Law giver) ہے۔ دنیا میں فرعونوں کا قانون نہیں ، بلکہ خالق ﴿اللہ﴾ کا قانون ہی چلے گا۔ آیت:70 کا یہ مضمون، آخری آیت:88 میں دہرایا گیا۔

﴿وَهُوَ اللّٰهُ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولٰى وَ الْأٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (آیت:70)

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے دلائل پیش کیے گئے کہ وہی دن اور رات کے نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اُسی کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ قیامت کے دن ہر امت سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا۔ ہر ایک سے دلیل طلب کی جائے گی۔ اُس وقت ثابت ہو جائے گا کہ توحید برحق ہے اور شرک کا عقیدہ جھوٹ اور افتریٰ ہے ،جو کوئی بنیاد نہیں رکھتا۔﴿ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓا أَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ ، وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (آیت:75)۔

8- آیات 76 تا 82 :آٹھویں پیراگراف میں ،ایک موقع پرست سرمایہ دار قارون کی، فرعون کی طاغوتی حکومت سے تعاون کی سچی داستان رقم کی گئی۔

قارون، بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰؑ کا چچا زاد بھائی تھا، موسیٰؑ کے والد ہارون اور قارون کے والد

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یُصہر دونوں بھائی تھے اور ﴿ قاہت ﴾ کی اولاد تھے، لیکن مفادات کی خاطر قارون، فرعون اور اُس کی آمرانہ مشنری سے جاملا۔ اُس نے اپنی قوم کے خلاف بغاوت کی۔﴿فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ﴾ (آیت:76)

قارون اس قدر دولت مند تھا کہ اُس کے خزانوں کی کنجیاں بھی ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔

﴿وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِي الْقُوَّةِ ﴾ (آیت:76)۔

قوم کے مخلص لوگوں نے قارون سے کہا کہ اُسے اپنی دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔﴿ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴾ (آیت:76)۔ اُسے مشورہ دیا گیا کہ (غریبوں پر خرچ کرتے ہوئے) اللہ کی دی گئی دولت سے آخرت کا گھر (یعنی جنت) تعمیر کر لے۔

﴿وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ ﴾

البتہ دنیا کا حصہ فراموش نہ کر ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾

(لوگوں پر فیاضی کے ساتھ) احسان کر! جس طرح اللہ نے تجھ پر (اتنی دولت دے کر) احسان کیا ہے ﴿وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ﴾ (آیت:77)۔

قارون بھی، اپنے چیف فرعون کی طرح فسادی تھا۔ اسی لیے اُسے زمین میں فساد کرنے سے منع کیا گیا۔

﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ﴾

اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا!﴿ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾ (آیت:77)۔

قارون اپنی دولت کو، اللہ کے احسان سمجھنے کے بجائے، اپنے ذاتی علم کا نتیجہ سمجھتا تھا۔

﴿ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ ﴾ (آیت:78)۔

ایک روز قارون، ٹھاٹھ باٹھ سے نکلا تو دنیا پرستوں نے اُس کی دولت اور اُس کی شان و شوکت کو دیکھ کر کہا کہ کاش ہمیں بھی اس طرح نوازا جاتا۔ قارون تو بہت ہی خوش قسمت آدمی ہے۔﴿ يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴾ (آیت:79)، لیکن اہلِ علم دھوکہ نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی دولت سے، اللہ کا اجر وثواب زیادہ بہتر ہے۔

بالآخر قارون اپنے گھر کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فرعون کی سیاسی اور فوجی دوستی اُس کے کسی کام نہ آئی۔ اللہ کی قوت کے سامنے فرعونوں اور ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ کی قوت کی بھلا کیا حیثیت ہے؟

﴿فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴾ (آیت:81)۔

وہی لوگ جو کل تک قارون کی دولت پر رشک کیا کرتے تھے، قارون کے زمین میں دھنسا دیئے جانے کے بعد قارون

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کے انجام پر افسوس کرنے لگے۔ یہ کچے اور خام عوام الناس کا حال تھا ، جو اپنا موقف فوراً بدل لیتے ہیں۔ اِقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دولت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔

﴿وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ﴾

اقرار کیا کہ کافر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اِحسان کیا ہے ، ورنہ ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھنسا دیئے جاتے۔ ﴿لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴾۔

9- آیات 83 تا 88 :نواں اور آخری پیراگرف اختتامیہ پر مشتمل ہے۔ اس میں فرعون کے جرم ﴿عُلُوٌّ فِي الْاَرْضِ﴾ کا اِعادہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیوی عذاب پانے والا یہ متکبر فوجی حکمران، آخرت کے گھر سے بھی محروم رہے گا۔ وہ متقی نہیں تھا۔

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ (آیت:83)۔

رسول اللہ ﷺ کو ہدایات دی گئیں کہ بھلائی کا بدلہ اس سے بہتر بھلائی اور برائی کا بدلہ، برائی کے برابر ہی دیا جائے گا۔ قرآن کو فرض کیا گیا ہے، یہ بہترین انجام کو پہنچانے والی کتاب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو شرک سے بچتے ہوئے اپنے رب کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ قریشِ مکہ کے سرداروں کی معاونت سے منع کیا گیا۔

﴿وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ ، وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ، وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ (آیت:87)۔

آخری آیت میں پانچ (5) باتوں کی طرف اشارہ کر کے حاصلِ کلام رکھ دیا گیا۔

(a) اللہ کے علاوہ ، اللہ کے ساتھ ساتھ ، کسی اور ہستی سے دعا نہیں کی جا سکتی ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ﴾ یہ ﴿توحیدِ دعا﴾ کا مضمون ہے۔

(b) اللہ کے علاوہ ، کوئی اور ہستی ﴿اِلٰه﴾ نہیں ہے۔ ﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ ۔ یہ ﴿ توحیدِ اُلوہیت ، توحیدِ اختیار اور توحیدِ عبادت﴾ کا مضمون ہے۔

(c) اللہ خالق ہے، اُس کے علاوہ جو کچھ ہے، وہ مخلوق ہے۔ صرف اللہ ہی کے لیے ﴿بقا﴾ ہے اور باقی تمام مخلوقات کے لیے ﴿فنا﴾ ہے۔ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ﴾۔ یہ ﴿توحیدِ ذات﴾ کا مضمون ہے۔

(d) اللہ تعالیٰ ہی حاکمِ حقیقی ہے۔ کسی فرعون کو زمین پر اللہ تعالیٰ کے قانون سے بے نیاز ہو کر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ﴿ لَهُ الْحُكْمُ ﴾۔ یہ ﴿توحیدِ تشریع﴾ کا مضمون ہے۔

(e) اللہ تعالیٰ آخرت برپا کرے گا، نیک لوگوں کو جزا اور فرعونوں کو سزا سے دوچار کرے گا ﴿ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴾۔ یہ توحیدِ قدرت اور توحیدِ اختیار کا مضمون ہے۔ (آیت:88)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

انسان کو تکبر، ﴿عُلُوّ فِی الْاَرْض﴾ اور ﴿فَسَادُ فِی الْاَرْضِ﴾ سے بچنا چاہیے، ورنہ فرعون اور قارون کی طرح، وہ دنیوی عذاب سے بھی دوچار کیا جا سکتا ہے اور اُخروی عذاب سے بھی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

29- سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوتِ

آیات : 69 ...... مَکِّیَّہ ...... پیراگراف : 8



زمانہ نزول:

1- سورت ﴿ العَنکبوت ﴾، سورت ﴿لُقمَان﴾ کے بعد ہجرتِ حبشہ (رجب 5 نبوی) سے پہلے، 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی، جب مسلمان منکرینِ آخرت مشرکین کے ظلم وستم کا شکار تھے۔ مسلمانوں کو ہجرت اور دیگر آزمائشوں کے لئے تیار کیا گیا۔

2- ﴿اِنَّ اَرضِی وَاسِعَۃٌ﴾ کے ذریعے ہجرتِ حبشہ کا حکم دیا گیا (آیت56)۔

3- اُن کمزور مسلمانوں اور منافقینِ مکہ کو تنبیہ کی گئی ، جو ہجرتِ حبشہ کے لئے متردد تھے (آیت10 تا 11)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ العنکبوت کا کتابی ربط

-1 پچھلی سورۃ ﴿القصص﴾ میں فرعون کی فوجی حکومت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی مظلومیت کا ذکر تھا۔ یہاں سورت ﴿العنکبوت﴾ میں مکے کے نومسلموں کی مظلومیت کا ذکر ہے۔ انہیں ہجرت اور آزمائشوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

-2 اس سورت میں ﴿توحیدِ ولایت﴾ کو ثابت کرنے کے لیے مکڑی کے گھر سے ایک خوبصورت تمثیل بیان کی گئی ہے۔

-3 اگلی سورۃ ﴿الرُّوم﴾ میں اِثباتِ آخرت اور اثباتِ قیامت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ ومضامین

-1 اس سورت میں ﴿یُفْتَنُوْن﴾ کے لفظ سے مسلمانوں کو آزمائشوں کے اُصول بتائے گئے۔

(a) مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ توحید پر ایمان لانے کے بعد، آزمائشیں آکر رہیں گی۔

﴿ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ یُّتْرَكُوْۤا اَنْ یَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُوْنَ ﴾ (آیت:2)۔

(b) دعوتِ توحید کی تاریخ آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾

(c) آزمائشوں کا مقصد سچے مسلمانوں کو چھانٹنا ہوتا ہے۔

﴿ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلَیَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِیْنَ ﴾ (آیت:3)۔

-2 ملاقاتِ ربّ یعنی ﴿لِقاء اللّٰہ﴾ کا مضمون اس سورت میں تین (3) بار آیا ہے۔

(a) اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ ﴿اجل﴾ آکر رہے گی۔

﴿ مَنْ كَانَ یَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ﴾ (آیت:5)

(b) ملاقاتِ ربّ اور آیاتِ الٰہی کا انکار کرنے والوں کو عذابِ الیم کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ (آیت:23)

﴿وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ یَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِیْ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴾

(c) حضرت شعیبؑ نے بھی اپنی قوم کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی ہدایت کی اور فساد سے روکا۔

﴿وَاِلٰى مَدْیَنَ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ ، وَارْجُوا الْیَوْمَ الْاٰخِرَ ، وَلَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ﴾ (آیت:36)

-3 ﴿مجاہدہ﴾: اس سورت میں جدوجہد اور کوشش کا ذکر دو (2) مرتبہ ہوا ہے۔

(a) پہلی بات یہ کی گئی کہ ﴿مجاہدہ﴾ خود انسان کی اپنی ذات کے لیے فائدہ بخش ہے۔

﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ﴾ (آیت:6)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(b) دوسری بات یہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ خود بخود مستقبل کے راستے دکھاتا جائے گا۔﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (آیت:69)

4- سورت ﴿العنکبوت﴾ میں ہجرت کا ذکر دو (2) بار ہوا ہے۔

(a) حضرت ابراہیمؑ پر صرف اُن کے بھتیجے حضرت لوطؑ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف ہجرت کا اعلان کیا۔﴿ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ﴾ (آیت:26)

(b) اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اپنے خاص بندوں کو حکم دیا کہ اگر مکہ کی زمین تم پر تنگ ہوگئی ہے تو کیا غم ہے۔ میری زمین بہت وسیع ہے۔ کسی بھی دوسرے ملک میں جاؤ ، لیکن میری ہی عبادت و اطاعت کرنا ضروری ہے۔

﴿ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴾ (آیت:56)

5- ﴿سبیل﴾ :اس سورت میں دو (2) راستوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

(a) کافر لیڈروں کا راستہ : کافروں کے لیڈروں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارے راستے پر چلو۔ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اُٹھالیں گے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ۭ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴾ (آیت:12)

(b) اللہ کا راستہ: اللہ تعالیٰ نے محسنین مسلمانوں کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم میری راہ میں کوشش کر رہے ہو۔ میں تمہیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا رہوں گا۔﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ (آیت:69)

6- احکامات وہدایات :

نو مسلم صحابہ کی تربیت کی گئی کہ اپنے کافر والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں، لیکن اگر وہ ﴿شرک﴾ پر مجبور کریں تو اُن کی اطاعت ہرگز نہ کی جائے۔﴿ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۭ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ (آیت:8)

7- رسول اللہ ﷺ کو وحی کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز کے سلسلے میں دو (2) اہم باتیں بتائی گئیں۔

﴿ اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴾ (آیت:45)

(a) نماز بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(b) نماز کی اصل روح ﴿ذکر﴾ یعنی اللہ کی یاد ہے اور یہ ﴿ اَکْبَر ﴾ ہے یعنی زیادہ بڑی چیز ہے۔

8۔ ہجرتِ حبشہ کرنے والے مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ حبش کی سرزمین پر تمھیں اہلِ کتاب میں دعوت وتبلیغ کا کام کرنا ہے۔ یقیناً تم ان سے عقیدۂ توحید پر بحث وتکرار کر سکتے ہو، لیکن یہ ﴿ مُجَادَلَہ ﴾ اور یہ بحث وتکرار خوبصورتی اور احسان پر مشتمل ہو۔

﴿وَلَا تُجَادِلُوٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ﴾ (آیت:46)

سورۃ العَنکبُوت کا نظمِ جلی

سورۃ العَنکبُوت نو(9) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 7 : پہلے پیراگراف میں نومسلم صحابہؓ کو بتایا گیا ہے کہ آزمائش آکر رہیں گی۔ وہ محض ﴿آمَنَّا﴾ کہنے پر چھوڑ نہیں دیئے جائیں گے۔

پچھلے مسلمان بھی آزمائش سے گذرے ہیں۔ مقصدِ آزمائش، سچوں اور جھوٹوں کی پہچان کرنا ہے۔ برے اعمال کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ www.KitaboSunnat.com

اللہ سے ملاقات ﴿لقاءُ اللهِ﴾ کی امید رکھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقررہ وقت آنے والا ہے۔

ایمان لا کر جدوجہد کرنے والوں کی محنت رنگ لائے گی اور خود اُن کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی ﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ﴾۔ ان کی برائیاں محو کی جائیں گی اور انہیں نیکی کی جزا ملے گی۔

2- آیات 8 تا 13 : دوسرے پیراگراف میں نومسلم صحابہؓ کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرک سرداروں کے دباؤ میں نہ آئیں۔

والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے، لیکن شرک پر اصرار اور دباؤ ہو تو والدین کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔

اس موقع پر اُن کمزور مسلمانوں کے نفاق پر گرفت کی گئی، جو ہجرتِ حبشہ میں متردّد اور سردارانِ قریش سے خوف زدہ تھے۔ منافق ﴿آمَنَّا﴾ کہتا ہے، لیکن لوگوں کے فتنے کو، عذابِ الٰہی کی طرح اللہ سمجھتا ہے۔ کامیابی ہو تو اپنی رفاقت کا احسان جتاتا ہے۔ سینے کے رازوں سے واقف، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق؟ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ﴾ (آیت:10)

کافروں کے سردار کمزور مسلمانوں پر دباؤ ڈالتے تھے کہ روزِ قیامت ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ انہیں جھوٹا کہا گیا۔

روزِ قیامت یہ اپنا اور دوسروں کا دوہرا بوجھ اٹھائیں گے۔ اُس دن اُن کی افتراء پردازیوں کے بارے میں بازپرس ہوگی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3- آیات 14 تا 40: تیسرے پیراگراف میں آزمائشوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت شعیبؑ آزمائشوں سے سے گزرے۔

(a) حضرت نوحؑ کو اپنی قوم کے درمیان 950 سال رہے:

ان کی قوم کو طوفان سے ہلاک کیا گیا۔ یہ ظالم لوگ تھے۔ اللہ نے کشتی والوں کو بچالیا اور سارے جہاں والوں کے لیے عبرت کا سامان فراہم کردیا۔ (آیت:15)

(b) حضرت ابراہیمؑ نے توحید وتقویٰ کی دعوت دی: ﴿ اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ﴾ (آیت:16)

حضرت ابراہیمؑ نے بت پرستی کو جھوٹ قرار دیا اور ﴿ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ کا پول کھول دیا کہ یہ رزق نہیں دے سکتے۔

﴿اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا﴾

لہٰذا لوگوں کو اللہ کے پاس رزق تلاش کرنا چاہیے۔ اُسی کی عبادت کرنی چاہیے، اُس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اُسی کی طرف لوٹنا ہے۔ فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴾ (آیت:17)

پچھلی قوموں نے بھی تکذیب کی۔ رسول کا کام تو صرف بلاغِ مبین ہوتا ہے۔

﴿وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ﴾ (آیت:18)

حضرت ابراہیمؑ نے توحید کے متعدد عقلی دلائل پیش کیے۔

اللہ ہی خلق کی ابتداء اور اعادہ کرتا ہے؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔

اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

اللہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو رحم کرے۔ اللہ کو زمین و آسمان میں عاجز نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ کے غضب سے بچانے والا، کوئی ﴿ولی﴾ اور ﴿نصیر﴾ نہیں ہے۔ (آیت:21 تا 22)

کافرین اور منکرین آخرت، رحمتِ الٰہی سے مایوس ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ (آیت:23)

حضرت ابراہیمؑ کی قوم نے انہیں قتل کرنے یا زندہ جلا دینے کا مشورہ کیا ﴿ اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ ﴾۔ اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی۔ اس واقعے سے اہلِ ایمان آزمائشوں کی تاریخ جان کر اپنے اندر حوصلہ پیدا کرسکتے ہیں۔

(c) حضرت ابراہیم پر صرف اُن کے بھتیجے حضرت لوطؑ ایمان لے آئے۔

اعلان کیا: میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ (آیت 26)

﴿ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ﴾ (آیت:26)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حضرت لوطؑ نے اپنی قوم سے کہا: فحش کام نہ کرو! جو دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیا، یعنی مردوں کے ساتھ لواطت۔ (آیت: 28 تا 29)
یہ لوگ اس قدر بے شرم تھے کہ مجالس میں منکر افعال کیا کرتے تھے (آیت: 29)۔ قوم نے عذاب کو دعوت دی۔ حضرت لوطؑ نے دعا کی ﴿ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾

(d) اللہ نے مدین کی طرف حضرت شعیبؑ کو بھیجا۔ انہوں نے تین (3) باتوں کی دعوت دی۔ (1) اللہ کی بندگی کرو! (2) قیامت کے دن کی امید رکھو! (3) فساد نہ کرو! (آیت: 36)۔

﴿ (1) اُعْبُدُوا اللّٰهَ (2) وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ (3) وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴾

قوم نے تکذیب کی۔ ایک سخت زلزلے ﴿ الرَّجْفه ﴾ نے آلیا۔ وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔

(e) عاد و ثمود کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ اُن کے اعمال کو، شیطان نے خوش نما بنا دیا تھا۔ (آیت: 38)
اللہ تعالیٰ نے قارون، فرعون اور ہامان کو ہلاک کیا۔ یہ ﴿ اِستِكبَار فِي الارْض ﴾ کے مجرم تھے۔ (آیت: 39)

(f) آخر میں قوموں کی ہلاکت کے چار (4) مختلف طریقے بیان کیے گئے۔ ہلاکت گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔

﴿ فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ ﴾

(1) فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا	1- تیز آندھی سے
(2) وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ	2- ﴿ الصَّيْحَة ﴾ دھماکے سے
(3) وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ	3- ﴿ خسف ﴾ زمین میں دھنسا کر
(4) وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا	4- غرق کرکے (آیت: 40)

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴾ (آیت: 40)

4- آیات 41 تا 43: چوتھے پیراگراف میں مکڑی کی تمثیل سے عقیدہ ولایت کا ابطال کیا گیا۔ توحید ولایت محقق ہے۔

اللہ ہی ﴿ ولی ﴾، کارساز، سرپرست اور تحفظ فراہم کرنے والی ہستی ہے۔
﴿ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ اور ﴿ غیرُ اللّٰه ﴾ کی ولایت کا عقیدہ، مکڑی کے کمزور گھر کی طرح ہے، جو نہ سکون پہنچا سکتا ہے اور نہ تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ اللہ کا سہارا مضبوط ہے اور ﴿ غیرُ اللّٰه ﴾ کا سہارا انتہائی کمزور ہے۔ جن لوگوں نے ﴿ اولیاء ﴾ بنائے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ گھر بنایا۔

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ کو ولی، کارساز اور محافظ سمجھنے والے مکڑی کے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ ایک کمزور گھر ہے۔ اس گھر میں انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا۔

﴿ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴾ (آیت:41)

ان خوبصورت قرآنی تمثیلوں سے اہلِ علم ہی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴾ (آیت43)

5- آیات 44 تا 55: پانچویں پیراگراف میں دلائلِ توحید دیئے گئے ، اعتراضات کا مسکت جواب دیا گیا اور عیسائیوں میں ﴿ احسان ﴾ کے ساتھ دعوتِ توحید دینے کے آداب سکھائے گئے۔

رسول اللہ ﷺ کو ہدایت کی گئی کہ وہ قرآن سے تبلیغ کرتے رہیں اور نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کرتے رہیں۔

یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن نماز میں اصل چیز ﴿ ذکر ﴾ ہے۔

﴿ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ﴾ (آیت:45)

اہلِ کتاب کے ساتھ، خوبصورتی سے بحث و مجادلہ کرنا چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ اسی طرح کی چیز ہمارے پاس بھی بھیجی گئی ہے۔ ﴿ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ﴾

اُن سے کہنا چاہیے "ہمارا تمہارا خدا ایک ہے! اور ہم اسی کے فرماں بردار ﴿ مسلم ﴾ ہیں" (آیت:46)

وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ " وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴾

رسول اللہ ﷺ پر اعتراض کا جواب دیا گیا کہ یہ قرآن خود آپ ﷺ کا تصنیف کردہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔

رسول ﷺ نہ تو پہلے پڑھتے تھے، نہ ہاتھ سے لکھتے تھے، پھر باطل پرست شک میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں۔

6- آیات 56 تا 60: چھٹے پیراگراف میں ہجرت کا حکم دیا گیا اور رزق کا وعدہ کیا گیا

اگر مقامی جگہ پر دین پر عمل درآمد ممکن نہ ہو تو مسلمانوں کو کسی دوسرے مقام کی طرف ہجرت کرنا ضروری ہے۔

﴿ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ " فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴾ (آیت:56)

ایمان لا کر عمل صالح اور ہجرت کرنے والوں کے لیے، جنت کی بلند و بالا عمارتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے، اُن لوگوں کے لیے، جنہوں نے مشکل حالات صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ مسلمانوں کو یقین دلایا گیا کہ ہجرت کے بعد انہیں رزق ملتا رہے گا۔

"کتنے ہی جانور ہیں، جو رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔"

﴿ وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ، اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا ، وَاِيَّاكُمْ ﴾ (آیت:60)

7- آیات 61 تا 68: ساتویں پیراگراف میں قریش کے خلاف فردِ جرم ہے۔ حرم کی نعمت کے باوجود، یہ لوگ ناشکری میں مبتلا ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دنیا کی زندگی کھیل اور دل کے بہلاوے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل گھر آخرت کا ہے۔

یہ مشرک کشتی پر سوار ہو کر ﴿موحد﴾ بن جاتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کو خالص کر کے دعا کرتے ہیں، لیکن نجات کے بعد شرک کرنے لگتے ہیں۔ انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔

اللہ نے مکے کو پرامن جگہ بنایا ہے، جب کہ گرد و پیش میں لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔

(آلھة نے یہ امن قائم نہیں کیا) یہ باطل کو مانتے ہیں، حق کو نہیں ! ایسے کافروں کے لیے جہنم کی سزا ہے۔

8۔ آیت 69: آخری پیراگراف ، آخری آیت پر مشتمل ہے۔ نو مسلم نوجوانوں سے ہجرت حبشہ کے بعد حمایت کا وعدہ کیا گیا

جو اللہ کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ محسن ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔

﴿وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ (آیت:69)

"جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔"

اس آیت میں یہ بشارت پوشیدہ ہے کہ ہجرتِ حبشہ کے بعد، ہجرتِ مدینہ اور پھر بدر ، احد ، احزاب، صلح حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ ، تبوک کے مراحل آئیں گے اور پھر اُس کے بعد مشرق و مغرب میں اسلام کی دعوت کی توسیع ہو گی۔ ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ ﴿مُحسِن﴾ مسلمانوں کو اپنے ﴿سُبُل﴾ یعنی راستوں کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا۔

مرکزی مضمون

اہلِ توحید کو آزمائشوں سے گذرنا پڑتا ہے، ہجرت کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

30- سُوْرَةُ الرُّوْم

آیات : 60 ...... مَكِّيَّة" ...... پیراگراف : 8



زمانۂ نزول:

سورت ﴿ الرُّوْم ﴾ ہجرتِ حبشہ (رجب 5 نبوی۔ 615ء) سے پہلے، 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں پیش گوئی کی گئی کہ ایرانیوں کی بڑھتی ہوئی فتوحات رُک جائیں گی اور ایرانیوں پر رومی غالب آجائیں گے۔ اور اسی سال مسلمان بھی فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ 8، 9 سال بعد، سورت ﴿ الرُّوْم ﴾ کی یہ بشارت، رومیوں کی فتح اور رمضان 2ھ (624ء) میں جنگِ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خصوصیت

سورت ﴿ الرُّوم ﴾ میں سات مرتبہ ﴿ وَمِنْ آيٰاتِہٖ ﴾ کے اسلوب کے ذریعے توحید کے دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔

سورۃ الرُّوم کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿ العَنكَبُوت ﴾ میں اسلام پسندوں کی آزمائشوں اور ہجرت کا ذکر تھا۔ یہاں سورت ﴿ الرُّوم ﴾ میں ان دو چیزوں کے نتیجے ہی میں، فتح و نصرت کا وعدہ ہے، جو فتح بدر کی صورت میں پورا ہوا۔

2- سورت ﴿ الرُّوم ﴾ کا مرکزی مضمون ہی قیامت اور آخرت کا اثبات ہے اور اس سورت کا اختتام ﴿ لَا يُوقِنُونَ ﴾ کے الفاظ پر ہوا ہے۔ اگلی سورت ﴿ لقمان ﴾ کے پہلے تمہیدی حصے ہی میں محسنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ﴿ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ﴾

3- یہاں سورت ﴿ الرُّوم ﴾ میں بھی طرح طرح دلائلِ توحید کے علاوہ امکانِ آخرت اور اثباتِ آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں، جب کہ اگلی سورت ﴿ لقمان ﴾ میں توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کے دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- آخرت اور ﴿ لِقَاء ﴾ یعنی اللہ سے ملاقات سورت ﴿ الرُّوم ﴾ کا اہم مضمون ہے۔

(a) اس سورت میں وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت کا منکر ہے اور اپنے ربّ سے ملاقات کا اِنکار کرتا ہے ﴿ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴾ (آیت:8)۔

(b) ﴿ لِقَاء ﴾ یعنی ملاقاتِ ربّ کا اِنکار کرنے والے اہلِ تکذیب کو عذاب کا مژدہ سنایا گیا۔
﴿ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴾ (آیت:16)۔

(c) آخرت کی دلیل: بارش سے دلیل فراہم کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس سے مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ﴿ فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ﴾ (آیت:50)

(d) آخرت کی عقلی دلیل فراہم کی گئی کہ وہ زندہ سے مردہ اور مردہ چیزوں سے زندہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ درخت پر بیج اُگتے ہیں، بیج سے درخت۔ مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی۔ اسی طرح انسان بھی قبروں سے زندہ کیے جائیں گے۔
﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴾ (آیت:19)

(e) انسان کی غفلت کا پول کھولا گیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں کھو گیا ہے اور آخرت سے غافل ہے۔

﴿يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴾ (آیت:7)

2- قریش کے لیڈروں کو بتایا گیا ہے کہ تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ﴿مُجرِمِين﴾ سے انتقام لیا اور مؤمنین کی مدد کی۔

(a) وہ آخری رسول حضرت محمد ﷺ پر ایمان لانے والوں کی لازماً مدد کرے گا۔ مشرکینِ مکہ شکست سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ ﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاۗءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ۭ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (آیت:47)

(b) دنیا میں مگن اور آخرت سے غافل ﴿مجرم﴾ لوگ روزِ قیامت قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ تو دنیا میں صرف ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں۔ ﴿وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ڏ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ (آیت:55)

3- اس سورت میں ﴿وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ ﴾ کے الفاظ سے شروع ہونے والی سات (7) آیات ہیں۔ اس اسلوب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید، اُس کی قدرت، طاقت، اُس کی حکمت ثابت کی گئی ہے اور آخرت پر دلیلیں قائم کی گئی ہیں۔

(a) (آیت:20) میں انسان کی مٹی سے تخلیق کی حقیقت بیان کر کے توحید قدرت و اختیار کو ثابت کیا گیا ہے۔

﴿ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴾ (آیت:20)

(b) آیت 21 میں انسانی نسل کے جوڑوں کی پیدائش ، ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرنے کی قدرت کی دلیل ہے۔ ﴿ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴾ (آیت:21)۔

(c) آیت 22 میں ارض و سماء کی تخلیق اور مختلف انسانی زبانوں اور رنگوں کے اختلاف سے بھی توحید قدرت کی دلیل فراہم کی گئی ہے۔

﴿وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ﴾(آیت:22)

(d) آیت 23 میں رات اور دن کی تخلیق اور اُن کے مقاصد (نیند آرام اور روزگار) سے دلیلِ حکمت مہیا کی گئی ہے۔

﴿ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۗؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ﴾ (آیت:23)۔

(e) آیت 24 میں بجلیوں اور بارشوں سے دلیلِ آخرت ہے، جو دلیلِ قدرت بھی ہے۔

﴿وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾(آیت:24)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(f) آیت 25 میں قیامِ ارض وسماء کی قدرت وطاقت بیان کی گئی۔ یہ دلیلِ قدرت اور دلیلِ آخرت ہے۔

﴿وَمِنْ اٰیٰتِہٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِہٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاکُمْ دَعْوَۃً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ﴾ (آیت:25)۔

(g) آیت 46 میں ہواؤں اور کشتیوں سے دلیلِ قدرت اور آخرت فراہم کی گئی ہے۔ اسبابِ ربوبیت کا ذکر کر کے شکر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

﴿وَمِنْ اٰیٰتِہٖٓ اَنْ یُّرْسِلَ الرِّیَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِیُذِیْقَکُمْ مِّنْ رَّحْمَتِہٖ وَلِتَجْرِیَ الْفُلْکُ بِاَمْرِہٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ﴾ (آیت:46)۔

4- ﴿اَنفُس﴾

(a) توحید کی انفسی دلیل: ایک تمثیل کے ذریعے عقل مندوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے مملوکوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تو پھر خالق مخلوق کی طرح کیسے ہوسکتا ہے؟ ﴿ضَرَبَ لَکُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِکُمْ ھَلْ لَّکُمْ مِّنْ مَّا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ مِّنْ شُرَکَآءَ فِیْ مَا رَزَقْنٰکُمْ فَاَنْتُمْ فِیْہِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَھُمْ کَخِیْفَتِکُمْ اَنْفُسَکُمْ کَذٰلِکَ نُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ﴾ (آیت:28)

(b) آخرت کی انفسی دلیل: اپنے اندر جھانک کر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بلا مقصد پیدا نہیں کی۔ یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس لیے آخرت کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے ﴿اَوَلَمْ یَتَفَکَّرُوْا فِیْٓ اَنْفُسِھِمْ مَا خَلَقَ اللّٰہُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّی وَاِنَّ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآیِٔ رَبِّھِمْ لَکٰفِرُوْنَ﴾ (آیت:8)

سورۃُ الرُّوم کا نظمِ جلی

سورۃُ ﴿الرُّوم﴾ آٹھ (8) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلے اور آخری پیراگراف میں فتح کی بشارت ہے۔ چوتھے اور چھٹے پیراگراف میں دعوتِ اسلام ہے۔ درمیانی پیراگرافوں میں دلائلِ توحید، دلائلِ آخرت اور شرک کی تردید ہے۔

1- آیات 1 تا 7: پہلے پیراگراف میں چند سالوں کے اندر اندر، رومیوں کی فتح اور جنگِ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی بشارت دے کر بتایا گیا ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کا وعدہ بھی سچا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔

﴿سَیَغْلِبُوْنَ o فِیْ بِضْعِ سِنِیْنَ لِلّٰہِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾

چنانچہ رمضان 2ھ بمطابق 624ء میں جنگِ بدر کی فتح کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ آخرت بھی واقع ہو کر رہے گی، جس سے مشرکینِ مکہ غافل ہیں۔ ﴿یَعْلَمُوْنَ ظَاھِرًا مِّنَ الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَھُمْ عَنِ الْاٰخِرَۃِ ھُمْ غٰفِلُوْنَ﴾ (آیت:7)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- آیات 8 تا 27 : دوسرے پیراگراف میں دلائلِ توحید اور دلائلِ آخرت فراہم کیے گئے ہیں۔

آخرت پر ایمان لانے کے لیے آفاق وانفس کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

طاقتور قوموں کی ہلاکت کے تین اسباب تھے: (1) رسولوں کا انکار۔ (2) تکذیبِ آیات اور (3) اِستہزاء یعنی رسولوں کی دعوت کا مذاق۔ اللہ ظالم نہ تھا، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ (آیات: 10 تا 11)

اللہ ہی تخلیق کی ابتداء اور اعادہ کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن ﴿مجرم﴾ منکرینِ آخرت ناامید ہو جائیں گے۔

﴿وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ﴾ (آیت: 12)۔

روزِ قیامت کوئی سفارشی نہ ہوگا۔ سارے سفارشی منکر ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگ بٹ جائیں گے۔

اس کے برخلاف ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے باغوں میں شاداں وفرحاں ہوں گے۔ منکرینِ آخرت اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انسان کو خوفِ آخرت کے ماتحت حمد کے ساتھ صبح وشام تسبیح کرنا چاہیے۔

اِمکانِ آخرت کی عقلی دلیل فراہم کی گئی کہ اللہ مردہ چیز میں سے زندہ چیز اور زندہ چیزوں میں سے مردہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے۔

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ﴾ (آیت: 19)

اس کے بعد ﴿وَمِنْ آيَاتِهٖ﴾ کے اسلوب کے ذریعے دلائلِ توحید فراہم کیے گئے ہیں۔ (آیات 20 تا 23)

اس کے بعد ﴿وَمِنْ آيَاتِهٖ﴾ کے اسلوب ہی ذریعے دلائلِ آخرت فراہم کیے گئے ہیں۔ (آیات 24 اور 25)

زمین وآسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، سب تابع ہیں، وہی تخلیق کا آغاز اور اعادہ کرتا ہے (آیات: 26 تا 27)۔

آخرت برپا کرنا اللہ کے لیے آسان تر ہے ﴿وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ ۔

سب سے برتر صفات اللہ ہی کی ہیں ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى﴾ وہ عزیز وحکیم ہے (آیت: 27)۔

3- آیات 28 تا 29 : تیسرے پیراگراف میں کچھ مزید انفسی دلائلِ توحید بیان کیے گئے ہیں۔

خود مخلوقات اور انسانوں کے اندر درجات کا تفاوت ہے تو پھر انسان ﴿خالق﴾ اور ﴿مخلوق﴾ یعنی ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ کے فرق کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے؟ ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے غلام، کیا تمہاری دولت میں برابر کے شریک ہیں؟ کیا تم غلاموں سے اسی طرح ڈرتے ہو! جس طرح اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟

مشرکین کی گمراہی کے اصل سبب پر روشنی ڈالی گئی کہ یہ ظالم ﴿اَهْوَاءَ﴾ یعنی اپنے تخیلات، قیاسات اور خواہشات کے غلام ہیں۔ (آیت نمبر 29)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4- آیات 30 تا 39 : چوتھے پیراگراف میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ اسلام دینِ فطرت ہے اور سید ھا دین ہے۔

(a) انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا رخ کامل یکسوئی کے ساتھ دینِ فطرت اسلام کی طرف کرلے۔

﴿ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ (آیت:30)۔ اللہ نے انسانوں کو جس فطرت پر قائم کیا ہے، اسی پر قائم ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جاسکتی۔

(b) دعوت دی گئی کہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی انابت اختیار کرتے ہوئے نماز کے قیام کا اہتمام کیا جائے، ورنہ ان کا شمار مشرکین میں سے ہوگا۔

﴿ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ (آیت:31)

مشرکین گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر گروہ اپنے پاس کی چیز پر مگن ہے ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴾

انسانی نفسیات: انسان نفسیات پر روشنی ڈالی گئی کہ وہ مصیبت میں (منیب) بن کر اللہ کی طرف رجوع کرلیتا ہے (کیونکہ توحید اُس کے دل کی فطری آواز ہے) لیکن رحمت کے نزول کے بعد شرک شروع کردیتا ہے۔

مشرکین پر واضح کیا گیا کہ شرک کے لیے کوئی دلیل اور سند نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔

(c) اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ﴿ وَجْهَ اللّٰهِ ﴾ حاصل کرنے کے لیے رشتے داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی لوگ فلاح پائیں گے۔

﴿ فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴾ (آیت:38)

(d) انفاق کی ترغیب دی گئی۔ سود اور زکوۃ کے فرق کی وضاحت کی گئی۔ اللہ کے نزدیک سود نہیں بڑھتا، لیکن اللہ کی خوشنودی ﴿ وَجْهَ اللّٰهِ ﴾ کے لیے دی جانے والی زکوۃ میں اضافہ کیا جاتا ہے۔

﴿ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴾ (آیت:39)

(e) یہ ایک مکی سورت ہے، لیکن یہاں زکوۃ اور حقوق العباد کی تمہید باندھی گئی ہے۔

5- آیات 40 تا 42 : پانچویں پیراگراف میں شرک کی تردید ہے اور مشرکین کی ہلاکت کی دھمکی ہے۔

(a) مشرکین سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے شریک، ﴿ آلهه ﴾، ﴿ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ نے کوئی چیز اللہ کی طرح تخلیق کی ہے؟ پھر تمہیں اشتباہ کیسے ہو گیا؟ انسان شرک کا مجرم ہے، بحر و بر کے فساد کا ذمے دار خود وہ ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾

(b) انسانوں کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ بعض اعمال کی سزا پانے کے بعد، شاید وہ برے اعمال سے باز آئیں۔

﴿لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (آیت:41)

(c) مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ انہیں زمین میں چل پھر کر دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہلاک ہونے والے اکثر مشرک تھے۔ ﴿كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ﴾ (آیت:42)۔ ان کی بھی شامت آسکتی ہے۔

6- آیات 43 تا 45 : چھٹے پیراگراف میں بھی، چوتھے پیراگراف کی طرح دعوتِ اسلام دی گئی ہے۔

آیت 30 کی دعوت ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ کا اعادہ آیت 43 میں کیا گیا اور قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ عقیدۂ توحید پر مشتمل دینِ قیم کی طرف رُخ کرنے کے لیے ہی یکسو ہو جانا ضروری ہے۔

قیامت کا عذاب ٹلنے والا نہیں۔ قیامت کا مقصد جزا و سزا ہے۔ ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ لہٰذا قرآن مجید کی دعوتِ توحید اور دعوتِ آخرت پر ایمان لا کر، دینِ اسلام قبول کر لینا چاہیے۔

7- آیات 46 تا 53 : ساتویں پیراگراف میں دوسرے اور تیسرے پیراگراف کی طرح کچھ مزید دلائلِ توحید اور دلائلِ آخرت بیان کیے گئے۔

(a) دلیلِ توحیدِ قدرت بیان کی گئی کہ اللہ ہی بشارت اور رحمت بنا کر ہوائیں بھیجتا ہے، جس سے بارش ہوتی ہے، کشتیاں چلتی ہیں، تاکہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، لیکن اللہ کے چند اُصول ہیں۔ (1) رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجتا ہے۔ (2) ناشکری اور مجرم قوموں سے انتقام لیتا ہے۔ (3) اور مؤمنین کی مدد کر کے انہیں بچا لیتا ہے

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آیت:47)

(b) دلیلِ توحید و آخرت بیان کی گئی کہ اللہ اپنی رحمت سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے۔ اسی طرح وہ مردوں کو زندگی دینے والا ہے۔ وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔

﴿فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آیت:50)

رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ آپ بحسنِ خوبی تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن آپ ﷺ اِن مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ بہروں اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے۔ (آیت:52)

ہاں اہلِ ایمان کو اور مُسلِمُون (جھکنے والوں) کو سمجھا سکتے ہیں۔ (آیت نمبر 53)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

8- آیات 54 تا 60 : آٹھویں اور آخری پیراگراف میں رسول اللہ ﷺ کو فتح بدر کی بشارت اور تسلی دی گئی اور ﴿مجرم﴾ مشرکین کو، جو منکرینِ آخرت بھی تھے، دھمکی دے کر اِتمامِ حجت کی گئی۔

انفسی دلیل: اللہ کی قدرت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے ایک انفسی دلیل دی گئی کہ اللہ نے کمزوری کی حالت میں انسانوں کو پیدا کیا، پھر قوت بخشی، قوت کے بعد ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ وہ علیم وقدیر ہے (آیت: 54)۔ انسانی زندگی کے یہ مراحل شہادت دے رہے ہیں کہ اس کے بعد کی منزلیں موت اور آخرت ہے۔ قیامت کے دن نہ معذرت نفع دے گی، اور نہ ظالموں سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ (آیت 57) مشرکین کو بتایا گیا کہ وہ ضدی ہیں۔ اللہ نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے، لیکن خواہ کوئی نشانی لائی جائے، منکرین اسے باطل ہی کہیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بے علم لوگوں کے دلوں پر ٹھپہ لگا دیتا ہے۔

آخری آیت میں رسول اللہ ﷺ کو صبر کی نصیحت کی گئی۔ منکرینِ آخرت کو دھمکی دی گئی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے رسول اللہ ﷺ کو ہلکا خیال نہ کریں۔

﴿فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ﴾ (آیت:60)

چند سالوں میں مشرکینِ مکہ شکست سے دوچار ہوں گے اور مسلمانوں میدانِ بدر میں کامیاب وکامران ہوں گے۔

مرکزی مضمون

دلائلِ توحید اور دلائلِ آخرت دے کر مشرک مجرم منکرینِ آخرت کو ڈرایا گیا ہے کہ اُن کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ اسلام قبول کرلیں، ورنہ چند سالوں میں شکست سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ فتح بدر پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

31- سُورَۃُ لُقْمَانَ

آیات : 34 ...... مَکِّیَّۃ" ...... پیراگراف : 4



زمانۂ نزول:

سورت ﴿لقمان﴾، سورت ﴿العنکبوت﴾ اور ہجرت حبشہ (رجب 5 نبوی) سے پہلے، 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی۔ نو مسلم نوجوانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اُنہیں اپنے مشرک والدین کے ساتھ حسنِ سلوک تو لازماً کرنا چاہیے، لیکن شرک کے مسئلے پر اُن کی اطاعت جائز نہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ لقمان کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿الرُّوم﴾ میں دلائلِ توحید اور دلائلِ آخرت تھے۔ بدر میں فتح و نصرت کی بشارت تھی۔ یہاں سورت ﴿لُقمان﴾ میں شرک کو ﴿ظلمِ عظیم﴾ کہا گیا ہے، شکر کا مطالبہ کیا گیا اور آباء پرستی سے بچنے کی ہدایت دی گئی۔

یہاں سورۃ ﴿لقمان﴾ میں حضرت لقمانؑ کی جامع نصیحتیں بیان ہوئی ہیں، جو دراصل مومنین کی صفات ہیں۔ اگلی سورت ﴿السجدہ﴾ میں بھی ﴿مومن﴾ اور ﴿فاسق﴾ کا فرق بتا کر مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ حمد و تسبیح کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کا خوف اور اللہ سے اُمید کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ اللہ تعالیٰ بھی ﴿حَكِيم﴾ ہے اور اُس کی کتاب بھی ﴿حَكِيم﴾ ہے۔ دنیا کی آزمائشیں اور آخرت میں جزاء وسزا کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی ﴿حِکمت﴾ پر مبنی ہے۔

(a) اللہ تعالیٰ ﴿حکیم﴾ ہے۔ ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آیت:9)

(b) اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ﴿حکیم﴾ ہے۔ ﴿تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيمِ﴾ (آیت:2)

(c) حضرت لقمانؑ کو بھی حکمت عطا کی گئی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ﴾ (آیت:12)

(d) جنت اور دوزخ کی سزا بھی حکمت پر مبنی ہے۔ (آیات: 7 تا 9)

2- ﴿شکر﴾ کا حکم دیا گیا ہے۔ احساسِ شکر کے نتیجے میں توحید جنم لیتی ہے۔ ﴿شکر﴾ وفادار بندوں کا طرۂ امتیاز ہے۔

(a) اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ حکمت عطا کی کہ اللہ کا ﴿شکر﴾ ادا کرنا ضروری ہے ﴿اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ﴾ (آیت:12)

(b) ﴿شکر﴾ خود انسان کے لیے مفید ہے۔ ﴿وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ﴾ (آیت:12)

(c) بے وفا اور ناشکرے لوگ صرف مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن وفادار اور ﴿شکرگزار﴾ لوگ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ (آیت:32)

3- سورۃ لقمان میں ﴿آباء پرستی﴾ سے بچتے ہوئے توحید کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

(a) اگر والدین اپنی اولاد کو شرک پر مجبور کریں تو ان دونوں کی اطاعت بھی نہیں کی جا سکتی، البتہ دنیا میں معروف کے مطابق اُن سے بھلا سلوک کیا جائے گا ﴿وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا﴾ (آیت:15)۔

(b) مشرکینِ مکہ سے قرآن کی پیروی کا مطالبہ کیا گیا تو اُنہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم تو اُسی راستے پر چلیں گے، جس

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ ﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا﴾ (آیت:21)۔

(c) روزِ قیامت نہ باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ دے سکے گا اور نہ بیٹا اپنے والد کی طرف سے۔ اس لیے ہر انسان کو آباء پرستی سے بچ کر اپنے مستقبل کی خود فکر کرنی چاہیے ﴿وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا﴾ (آیت:33)۔

4- اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے ﴿خَالِق﴾ ہونے کی کئی دلیلیں بیان کر کے توحیدِ الوہیت کا مطالبہ کیا گیا۔

(a) اللہ تعالیٰ آسمانوں کا ﴿خالق﴾ ہے ﴿خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ (آیت:10)۔

(b) مشرکین سے چیلنج کرتے ہوئے پوچھا گیا کہ کیا ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ نے بھی کوئی چیز ﴿تخلیق﴾ کی ہے؟ ﴿هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ﴾ (آیت:11)۔

(c) مشرکینِ مکہ اللہ تعالیٰ کو ﴿خالق﴾ مانتے تھے، لیکن عبادت اور اطاعت میں شرک کیا کرتے تھے۔ ﴿وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ﴾ (آیت:25)۔

(d) ساری انسانیت کی ابتدائی تخلیق اور انہیں دوبارہ زندہ کر دینا، اللہ کے نزدیک محض ایک آدمی کی ﴿تخلیق﴾ کے برابر ہے۔

﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ﴾ (آیت:28)۔

5- اس سورت میں ﴿توحیدِ علم﴾ کے دلائل ہیں، جس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایسا مکمل علم ہے، جو اُس کی کسی مخلوق میں نہیں پایا جاتا۔

(a) حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعے سے توحیدِ علم اور توحیدِ اختیار کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ ایسا باریک بین خبیر ہے کہ وہ زمین آسمان میں پوشیدہ رائی کے دانے برابر چیز کا بھی علم رکھتا ہے اور اُسے لے آنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ دلیلِ آخرت بھی ہے۔

﴿يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ﴾ (آیت:16)۔

(b) اللہ تعالیٰ ایسا ﴿علیم﴾ ہے، جو سینوں کے رازوں کو بھی جان لیتا ہے۔

﴿اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ﴾ (آیت:23)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ لُقمان کا نظم جلی

سورۂ لُقمان چار (4) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 9 : پہلے پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ اللہ بھی حکیم ہے اور اُس کا کلام بھی حکمت سے معمور ہے۔ جزاء وسزا میں بھی حکمت ہے۔

قرآن مجید کی آیات محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ محسنین نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہدایت پر ہیں اور فلاح پائیں گے (آیات: 4 تا 5)۔

﴿ لَهْوَ الحدیث ﴾ یعنی کلامِ دل فریب سے کام لے کر اللہ کی راستے سے رکنے اور روکنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ موسیقی ناجائز ہے۔ (آیت نمبر 6) دنیادار لیڈر، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں اور دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دعوت سن کر منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر سے کام لیتے ہیں، جیسے وہ بہرے ہیں اور انہوں نے سنا ہی نہیں۔ انہیں عذاب ہوگا۔ اس کے برخلاف ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے نعمت بھرے باغات ہوں گے۔

2- آیات 10 تا 13: دوسرے پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ شرک ظلمِ عظیم ہے اور توحید سراپا عدل ہے۔

(a) ﴿ توحید کی دلیلیں ﴾ فراہم کی گئیں کہ اللہ نے تو آسمان کو بلاستون پیدا کیا۔ پہاڑ جما دیئے، تاکہ وہ انسانوں کو لے کر ڈھلک نہ جائیں۔ زمین پیدا کر کے اُس میں طرح طرح کے جانور پھیلا دیئے۔ آسمان سے بارش برسائی قسم قسم کی عمدہ نباتات اُگا دیں۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ چیلنج کیا گیا کہ مشرکین بتائیں کہ ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ نے کیا پیدا کیا ہے؟

(b) اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمانؑ کو حکمت عطا کی اور حکم دیا کہ وہ (1) اللہ کا شکر ادا کریں شکر اپنے آپ کے لیے مفید ہے۔ اللہ غنی حمید ہے۔ (2) شرک نہ کریں۔ یہ ظلم عظیم ہے۔

﴿ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴾ (آیت:13)

3- آیات 14 تا 19 : تیسرے پیراگراف میں، حضرتِ لقمانؑ کی ﴿ جامع نصیحتیں ﴾ بیان کی گئیں، جو دراصل ﴿ صفات المؤمنین ﴾ ہیں۔

عقائد میں شرک سے روکا گیا۔ اللہ کی صفات بیان کر کے توحیدِ علم اور توحیدِ اختیار کی وضاحت کی گئی۔ عبادات میں نماز کا حکم دیا گیا۔ معاشرت میں والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دے کر اطاعت کی حدود کا تعین کر دیا گیا۔ آدابِ دعوت بتائے گئے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اخلاقیات میں صبر کی نصیحت کی گئی۔ میانہ روی کا حکم دیا گیا۔ گفتگو کے آداب سکھائے گئے۔ چیخنے چلانے کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی۔ سیاسیات اور اجتماعی زندگی کا ادب سکھایا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

گیا کہ صرف اُن لیڈروں کی پیروی کی جائے، جن میں اللہ کی اِنابت پائی جاتی ہے۔

(1) اللہ کا شکر ادا کریں۔

(2) شرک نہ کریں یہ ظلمِ عظیم ہے۔

(3) والدین کے ساتھ احسان کی ہدایت کی گئی، بالخصوص ماں کے ساتھ احسان کے وہ تکلیف پر تکلیف اٹھا کر، پیٹ میں رکھتی ہے۔2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اللہ کا شکر اور والدین کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کر کے بتایا گیا کہ والدین بھی شرک پر مجبور کریں، تو اُن کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں! معروف میں اُن کا ساتھ دیا جاسکتا ہے۔﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ (آیت:14)

(3) خداترس صالح لیڈروں کی پیروی کا حکم دیا گیا﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴾ (آیت:15)

(4) حضرت لقمان نے ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے اپنے بیٹے کو توحیدِ علم اور توحیدِ اختیار سمجھا کر آخرت کی دلیل فراہم کی۔ (آیت:16)

(4) بیٹا! نماز قائم کر! ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ (آیت:17)

(5) نیکی کا حکم دے! ﴿ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (آیت:17)

(6) بدی سے منع کر! ﴿ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (آیت:17)

(7) مصیبت پر صبر کر! ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ﴾ (آیت:17) یہ وہ باتیں ہیں، جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے (حوصلے کے کام ہیں)

(8) لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہ کر! ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ (آیت:18)

(9) زمین میں اکڑ کر مت چل! ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ (آیت:18) اللہ خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (آیت:18)۔

(10) اپنی چال میں اعتدال اختیار کر!﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ (آیت:19)

(11) آواز پست رکھ! سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ (آیت:19)

4- آیات 20 تا 34: چوتھے اور آخری پیراگراف میں ﴿توحید کی دلیلیں﴾ دے کر اس کا اثبات اور ﴿شرک کا ابطال﴾ کیا گیا

مکہ کے مشرک نوجوانوں کو سمجھایا گیا کہ وہ دلائل پر غور کریں اور آباء پرستی سے بچ کر اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں۔

(a) ﴿آفاقی دلیلیں﴾ پیش کی گئیں کہ اللہ نے زمین آسمان کی ساری چیزیں، انسانوں کے لیے مسخر کردی ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کھلی اور چھپی نعمتیں تمام کر دی ہیں ۔ لیکن لوگ اللہ کے بارے میں علم، ہدایت، روشنی اور کتاب کے بغیر فضول بحث کرتے ہیں اور جھگڑنے لگتے ہیں (آیت:20)۔

(b) ﴿مشرکینِ مکہ کی ضد﴾ کی تصویر کھینچی گئی کہ وہ قرآن کی دعوتِ توحید پر غور کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اُن کی زبان پر تو بس یہی رٹ ہے: ہم باپ دادا کی روایات پر چلیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا اُس صورت میں بھی، جب شیطان دوزخ کی آگ کی طرف بلائے؟ (آیت:21)

(c) صاف بتا دیا گیا کہ اسلام قبول کر کے اچھا عمل کرنے والا ایک مضبوط سہارے کو تھام لیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ وہ ان ناشکروں کے غم میں مبتلا نہ ہوں ۔ یہ سب اللہ کی طرف پلٹیں گے اور پھر انہیں اعمال دکھائے جائیں گے۔

(d) ﴿توحید اسماء وصفات﴾ بیان کی گئی کہ اللہ ہی تعریف کا مستحق ہے! اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائے۔ سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی کلماتُ اللہ (اللہ تعالیٰ کی صفات جو اُس کے ناموں کے ذریعے بیان ہوئی) ختم نہ ہوں گے۔ اللہ عزیز وحکیم ہے۔ (آیت:27)

(e) ایک ﴿عقلی دلیل﴾ دے کر ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور مارنا، ایک شخص کی پیدائش اور موت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع وبصیر ہے (آیت:28)۔ یہ دلیلِ قدرت بھی ہے اور دلیلِ آخرت بھی۔

توحید کی دلیلیں پیش کی گئیں کہ اللہ ہی رات میں دن اور دن میں رات پروتا ہے۔ اُسی نے شمس وقمر کی تسخیر کی ہے۔ اللہ ﴿حق﴾ ہے اور اللہ کے علاوہ باقی تمام مخلوقات جن سے دعائیں مانگی جاتی ہیں ﴿باطل﴾ ہیں۔ اللہ ہی بلند وبالا ہے۔ ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ﴾ (آیت:30)۔

(f) ﴿توحید کی انفسی دلیلیں﴾ انسان کو کشتیوں اور جہازوں پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ صابر وشاکر لوگ ان آیات ودلائل سے نصیحت اور عبرت حاصل کر لیتے ہیں ۔ توحید فطرت کی آواز ہے۔ مصیبت کے وقت انسان ملاوٹ اور آمیزش کے بغیر اللہ ہی سے فریاد کرتا ہے، لیکن ساحل پر اترنے کے بعد اپنی فطری آواز کو دبا دیتا ہے۔ غدار اور ناشکرے افراد ہی اللہ کی آیات اور دلیلوں کا انکار کرتے ہیں۔

قیامت کے دن سے ڈرایا گیا کہ وہاں آباء پرستی کام نہ آئے گی ۔ اُس دن، باپ بیٹے کی طرف سے، نہ بیٹا باپ کی طرف سے بدلا دے سکے گا۔

اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دنیا کی زندگی انسانوں کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے اور شیطان دھوکہ نہ دینے پائے ۔ (آیت:33)

(g) ﴿توحید علم﴾ پانچ (5) چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ ان سب چیزوں کا علم بھی صرف خالق کے پاس ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(1)﴿ اِنَّ اللّٰهَ عِنۡدَهٗ عِلۡمُ السَّاعَةِ ﴾ قیامت کی گھڑی کا علم، صرف اللہ ہی کو ہے۔(2)﴿ وَيُنَزِّلُ الۡغَيۡثَ ﴾ وہی بارش برساتا ہے۔(3)﴿ وَيَعۡلَمُ مَا فِى الۡاَرۡحَامِ ﴾ وہی جانتا ہے کہ اَرحام میں کیا ہے؟(4)﴿ وَمَا تَدۡرِىۡ نَفۡسٌ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدًا ﴾ کوئی نفس، کل کی کمائی سے باخبر نہیں۔(5)﴿ وَمَا تَدۡرِىۡ نَفۡسٌ بِاَىِّ اَرۡضٍ تَمُوۡتُ ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ ﴾ کوئی نفس اپنی سرزمینِ موت سے باخبر نہیں۔ اللہ علیم وخبیر ہے۔(آیت:34)

مرکزی مضمون

سب سے بڑی انصاف کی بات توحید ہے اور سب سے بڑا ظلم شرک۔ جذبۂ شکر سے توحید کا سراغ ملتا ہے۔ عقیدۂ توحید پر ایمان لا کر دین کی جامع تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، یہی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ لقمانی حکمت ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشۂ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

32- سُوْرَةُ السَّجدَة

آیات : 30 ...... مَکِّیَّۃٌ ...... پیراگراف : 5



زمانۂ نزول:

سورۃُ ﴿السَّجدَة﴾ اعلانِ عام کے بعد رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب آپ ﷺ پر ﴿مُفْتَرِی﴾ ہونے کا الزام تھا۔ ابھی مسلمانوں پر ظلم وستم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قریش کے نام نہاد دانشور مشرکین وفاسقین کو ان کے مخالف ﴿مُؤْمِنِیْن﴾ کے کردار پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ السَّجدَة کے فضائل

اس سورت کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے:

جمعہ کے روز رسول اللہ ﷺ نمازِ فجر میں سورت ﴿السَّجدَة﴾ اور سورت ﴿الدَّهر﴾ کی تلاوت فرماتے تھے۔(صحیح مسلم: کتاب الجمعة ، باب ما یقرأ فی یوم الجمعة ، حدیث 2,068)

سورۃُ السَّجدَة کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿لقمان﴾ میں قریش کے سرداروں کے خلاف فردِ جرم تھی کہ یہ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے ﴿لَهوَ الحَدِيث﴾ سے کام لے رہے ہیں۔ تکبر میں مبتلا ہیں ، دعوت کو توجہ سے سننا نہیں چاہتے۔ ﴿مَا اَنزَلَ اللّٰهُ﴾ کے بجائے ﴿مَا وَجَدنَا عَلَيهِ آبَاءَنَا﴾ یعنی آباء پرستی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ منکرِ آخرت ہیں، شرک میں گرفتار ہیں، جو ﴿ظُلمِ عظیم﴾ ہے۔

یہاں سورت ﴿السَّجدَة﴾ میں ان فاسق و مجرم افراد کے برعکس ، نیک اور صالح مؤمنین کے اوصاف بیان کیے گئے۔ متکبر نہیں ہوتے، حمد و تسبیح کرتے ہیں ، تہجد گزار ہیں، خوف اور امید سے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور فیاض ہیں۔

﴿اِنَّمَا يُؤمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوا بِحَمدِ رَبِّهِم وَهُم لَا يَستَكبِرُونَ ۝ تَتَجَافٰى جُنُوبُهُم عَنِ المَضَاجِعِ يَدعُونَ رَبَّهُم خَوفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقنٰهُم يُنفِقُونَ﴾

2- سورۃ ﴿السَّجدَة﴾ میں باکردار ﴿مؤمنین﴾ اور بدکردار ﴿فاسقین﴾ کے درمیان موازنہ ہے کہ یہ ایک جیسے نہیں ہوسکتے اور ان کا انجام بھی مختلف ہوگا۔

3- اگلی سورت ﴿الاحزاب﴾ میں مخلص صحابہؓ اور منافقین کے درمیان تقابل کر کے بتایا گیا کہ ان کے کردار میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- فاسقوں کے بارے میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہوگی۔

﴿وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَاوٰهُمُ النَّارُ﴾ (آیت:20)۔

2- سورۃ السجدہ میں ﴿لِقَاء﴾ کا لفظ تین (3) مرتبہ استعمال ہوا۔ (آیات 14 ، 10 ، 23)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(a) مشرکینِ مکہ دراصل آخرت کے منکر تھے۔ ﴿لِقَاء﴾ یعنی ملاقاتِ رب کا انکار کیا کرتے تھے۔

﴿ءَ اِنَّا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ﴾ (آیت:10)۔

(b) تورات میں حضرت موسیٰؑ کے ذریعے بھی صاف صاف بتادیا گیا تھا کہ اپنے رب سے ملاقات ﴿لِقَاء﴾ کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہونا۔ ﴿فَلَا تَكُنْ فِیْ مِرْیَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ﴾ (آیت:23)۔

(c) منکرینِ آخرت کو روزِ قیامت اسی طرح فراموش کردیا جائے گا، جس طرح یہ دنیا میں ﴿لِقَاء﴾ یعنی ملاقاتِ رب کا انکار کیا کرتے ہیں۔

﴿فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِیْتُمْ لِقَآءَ یَوْمِكُمْ هٰذَا اِنَّا نَسِیْنٰكُمْ﴾ (آیت:14)۔

3۔ اس سورت میں منکرینِ آخرت کے لیے ﴿فاسقین﴾ کے علاوہ ﴿مجرمین﴾ کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہی انسان بدکردار، بدعمل، فاسق، فاجر اور مجرم بن جاتا ہے۔

(a) اللہ تعالیٰ منکرینِ آخرت ﴿مجرم﴾ اور فاسق لوگوں سے انتقام لے کر رہے گا۔

﴿اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِیْنَ مُنْتَقِمُوْنَ﴾ (آیت:22)۔

(b) روزِ قیامت منکرینِ آخرت ﴿مجرم﴾ اور فاسق افراد اللہ کے حضور سر جھکائے شرمندہ کھڑے ہوں گے۔

﴿اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (آیت:12)۔

سورۃ السّجدۃ کا نظمِ جلی

1- آیات 1 تا 6 : پہلے پیراگراف میں، ﴿اللہ تعالیٰ کی صفات﴾ بیان کر کے اُس کا تعارف کرایا گیا ہے۔

وہ رب العالمین ہے۔ اسی نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ قرآن رسول اللہ ﷺ کی افترا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ولی ہے، شفیع ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی اور شفیع نہیں۔ وہی مدبر ہے۔

﴿یُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ﴾۔ عالمِ غیب و شہادت ہے اور عزیز و رحیم ہے۔

2- آیات 7 تا 14 : دوسرے پیراگرف میں ﴿دلائلِ آخرت﴾ بیان کر کے منکرینِ آخرت مجرمین کا انجام بتایا گیا ہے

اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے ست سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور قوتِ سماعت، قوتِ بصارت اور قوتِ فہم و ادراک عطا فرمائے۔

لیکن انسانوں میں بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہو۔ (آیت نمبر 7 تا 9)۔ منکرِ آخرت ہو جاتے ہیں۔ لیکن روزِ قیامت یہ بدکردار مجرم پچھتائیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ دنیا میں انہیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے، تاکہ اچھا عمل کرسکیں۔ ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ﴾ (آیت 12) یہ ممکن نہ ہوگا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اللہ تعالیٰ روزِ قیامت کامل انصاف کرے گا اور دوزخ کو انسانوں اور جنات سے بھر کر رہے گا۔

﴿لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ﴾ (آیت 13)

روزِ قیامت کو فراموش کردینے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی فراموش کردے گا۔

3- آیات 15 تا 22 : تیسرے پیراگراف میں، قرآن پر ایمان لانے والے ﴿مؤمنین کی صفات﴾ بیان کی گئیں۔

اہلِ ایمان اللہ کی آیات سن کر سجدے میں گر پڑتے ہیں، حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ (آیت 15)

تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف و طمع سے پکارتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ (آیت 15 تا 16)۔ ان خوش نصیبوں کے لیے حیران کن قسم کے انعامات ہوں گے۔

صاف بتا دیا گیا کہ ﴿مومن﴾ اور ﴿فاسق﴾ ہرگز ہرگز برابر اور ایک جیسے نہیں ہوسکتے۔

﴿اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوٗنَ﴾ (آیت نمبر 18)۔

ایمان اور عملِ صالح کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔

فاسقوں کے لیے دوزخ ہے۔ یہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ﴿مجرم﴾ ہیں، جن سے انتقام لیا جائے گا۔

4- آیات 23 تا 27 : چوتھے پیراگراف میں، جزا و سزا کے ﴿تاریخی دلائل﴾ بھی ہیں اور ﴿دلائلِ ربوبیت﴾ بھی۔

(a) حضرت موسیٰؑ کو دی جانے والی کتاب میں بھی صاف بتا دیا گیا تھا کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات کے بارے میں ہرگز ہرگز شک نہ کیا جائے۔ ایمان اور صبر کے نتیجے ہی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت عطا کی تھی۔

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۗ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ﴾ (آیت 24)

لہٰذا مشرکینِ مکہ کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ایمان اور صبر و تقویٰ ہی وہ دو ہتھیار ہیں، جن سے کام لے کر مسلمان کامیاب و کامران ہوسکیں گے۔

(b) ﴿منکرینِ آخرت﴾ کو قوموں کی ہلاکت سے ڈرایا گیا۔

﴿آخرت کی دلیل﴾ ربوبیت سے فراہم کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے بارش کے ذریعے بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے۔ انسانوں اور جانوروں کو کھلاتا ہے۔ یہی خدا قبروں کو زندہ کر کے آخرت برپا کرے گا۔

5- آیات 28 تا 30 : پانچویں اور آخری پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو ان ﴿منکرینِ آخرت﴾ سے اعراض کرنے کی ہدایت دی گئی۔

منکرینِ آخرت سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟

﴿فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ﴾ (آیت 30)

منکرینِ آخرت بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ بھی انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد فیصلہ کرے گا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس میں یہ بشارت بھی پوشیدہ ہے کہ بالآخر مسلمان ہی غالب رہیں گے۔

مرکزی مضمون

قرآنی دلائل پر غور کر کے اللہ اور آخرت پر ایمان لانا چاہیے۔ ﴿مومن﴾ اور ﴿فاسق﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔
مسلمانوں کو آزمائشوں پر صبر و استقامت اختیار کرنا چاہیے تاکہ غلبہ اور کامرانی حاصل ہو سکے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART
ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE
نظمِ جلی

33- سُورَةُ الاَحزَابِ

آیات : 73 ...... مَدَنِيَّة ...... پیراگراف : 12 (زمانۂ نزول:5ھ)



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سورت ﴿الاحزاب﴾ غزوۂ احزاب (شوال 5 ھ)، غزوۂ بنی قریظہ اور نکاحِ زینبؓ ذوالقعدہ 5 ھ میں نازل ہوئی۔ ایک سال بعد 6 ھ میں سورت ﴿النُّور﴾ نازل ہوئی، اگرچہ کتابی ترتیب میں سورت ﴿الاحزاب﴾ بعد میں اور سورت ﴿النُّور﴾ پہلے ہے۔

پہلی ہی آیت میں منافقین اور کافرین سے نہ دبنے کا حکم دیا گیا۔

غزوۂ احزاب کو ﴿غزوۂ خندق﴾ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ پر یہ نہایت کڑا وقت تھا۔ قریش اور ان کی تمام حلیف قوتوں نے مل کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مدینہ کے اندر منافقین رسول اللہ ﷺ کی ذات پر حملے کر کے آپ ﷺ کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے تھے۔ دباؤ کے اس ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ نہ تو ﴿بیرونی دشمنوں﴾ یعنی قریش اور ان کے حلیف کے آگے جھکیں اور نہ اندرونی دشمنوں ﴿مُنَافِقِین﴾ کے سامنے سپر ڈالیں۔ ﴿وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ﴾ (آیت:1)

یہی بات دوبارہ آیت:48 میں دہرائی گئی۔

سورۃُ الاَحزَاب کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿السَّجدۃ﴾ میں ﴿مؤمنین اور فاسقین﴾ کا اجمالی ذکر تھا۔ یہاں سورت ﴿الاحزاب﴾ میں مخلص صحابہؓ اور منافقین کے کردار سے ان ﴿مُؤمِنِین اور فَاسِقِین﴾ کی تفصیلی وضاحت کی گئی ہے۔

2- یہاں سورۃ ﴿الاحــزاب﴾ میں رسول اللہ ﷺ پر منافقین کے بیہودہ اعتراضات کا تذکرہ ہے اور اگلی سورت ﴿سبا﴾ میں مشرکینِ مکہ کے اعتراضات کا ذکر ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ کو غزوۂ احزاب کے موقع پر نہایت مشکل حالات کا سامنا تھا۔ ان مشکل حالات میں، جب کہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں یعنی منافقین اور کافرین دونوں طرف سے دباؤ تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ وہ اسی پر ﴿توکّل﴾ کریں۔

توکّل کی یہ نصیحت ابتدائی تین (3) آیات کے بعد بھی دی گئی اور اعادے کے طور پر آیت:48 میں بھی۔

2- ﴿سورۃ کا آغاز اور اختتام﴾

پہلی آیت میں کفر و منافقت سے ترکِ تعلق کا حکم دیا گیا ہے اور آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ امانت کی ذمے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جہالت اور ظلم کا رویہ ترک کیا جائے، ورنہ کفر و منافقت کی سزا بھگتنی پڑے گی۔

3- اس سورت میں، دوزخی کافر و مشرک و منافق قیادت (Leadership) کے لیے، ﴿سَادَتَنَا﴾ ہمارے لیڈر، ﴿كُبَرَاءَنَا﴾ ہمارے بڑے اور بزرگ (آیت: 67) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

4- ﴿سیاسی احکام اور مشرک و کافر و منافق قیادت﴾

منافقین اور کافرین کی اطاعت نہ کی جائے۔(آیت: 1، 48)، یہ دوزخ میں جائیں گے۔(آیت:68)

5- ﴿لِ سے شروع ہونے والی تین (3) آیات کا امانت سے ربط﴾

اس سورت میں، بعض آیات لامِ علت ﴿ لِ ﴾ سے شروع ہوتی ہیں۔ جیسے: لِيَسْئَلَ (آیت 8)، لِيَجْزِيَ، وَيُعَذِّبَ، اَوْيَتُوبَ (آیت 24)، لِيُعَذِّبَ، وَ يَتُوبَ (آیت:73)

a- ﴿ امانت ﴾ دراصل ایک عظیم ذمے داری اور امتحان ہے۔ ﴿صَادِقِين ﴾ اس کو تسلیم کر کے اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں۔

کافرین، مشرکین اور منافقین اس ذمے داری کے بارے میں ظلم اور جہالت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔

نہ صرف رسول اللہ ﷺ، بلکہ تمام انبیاء سے ﴿ میثاق ﴾ لیا گیا۔(آیت:17)

b- اَمانت کی ذمے داریوں کا مقصد یہ ہے کہ سچوں کو اُن کی سچائی کا اجر دیا جائے، اور کافروں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے۔(آیت:8)

c- میثاق اور اَمانت کا مقصد یہ بھی ہے کہ ﴿صَادِقِين ﴾ کو جزا اور ﴿مُنَافِقِين ﴾ کو سزا دی جائے۔(آیت:24)

d- اَمانت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مرد و خواتین منافقین و مشرک کافرین کو سزا اور مرد و خواتین مومنین پر مہربانی کی جائے۔(آیت:73)

6- ﴿منافقین کی اَذِيَّت رسانی﴾

اس سورت میں ﴿ اِيذاء ﴾ کے مادے ﴿ اَذَى ﴾ سے نکلنے والے کئی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

a- منافقین کے بعض رویوں سے رسول اللہ ﷺ کو اَذِيَّت پہنچی۔(آیت:53)

b- مخلص مسلمانوں کے لیے زیبا نہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو ﴿اَذِيَّت﴾ پہنچائیں۔(آیت:53)

c- اللہ اور رسول کو ﴿ اَذِيَّت ﴾ پہنچانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور اُن کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے۔(آیت:57)

d- منافقین کی ﴿ اَذِيَّت ﴾ سے بچنے کے لیے مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لمبی چادر استعمال کریں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(آیت:59)

e۔ منافقین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو ﴿اَذِیّت﴾ نہ پہنچائیں، جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ کو ﴿اَذِیّت﴾ دی تھی۔ (آیت:69)

f۔ کافرین اور منافقین کی ﴿اَذِیّت﴾ رسانیوں سے درگزر کرنے کی ہدایت۔ (آیت:48)

7۔ ﴿مخلص صحابہؓ اور منافقین کا تقابل﴾

اس سورت میں دو کردار پیش کیے گئے ہیں۔

پہلا کردار مخلص صحابہؓ کا ہے، جن کا ایمان، دشمن کی فوجوں کو دیکھ کر بڑھ گیا۔ (آیت:22) اور (آیات:31 تا 36)

دوسرا کردار اُن منافقین کا ہے، جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ (آیات:12 تا 21)

8۔ ﴿عائلی اَحکام﴾

عائلی زندگی میں سادگی کا اہتمام ضروری ہے، خاندان کے ہر فرد کے پیشِ نظر ﴿ دارُ الآخرۃ ﴾ ہو۔ (آیت:28)

رسول اللہ ﷺ کے لیے عائلی ہدایات دی گئیں۔ (آیات:50، 51 اور 52)

9۔ ﴿معاشرتی اَحکام﴾

a۔ مسلمان عورتیں بڑی چادر ﴿جِلباب﴾ استعمال کریں۔ (آیت:59)

b۔ گھروں پر پردے لٹکائیں۔ عورتوں سے مانگنا بھی ہو تو ﴿حِجاب﴾ پردے کے پیچھے سے مانگنا چاہیے۔ (آیت:53)

c۔ عورتیں دبی زبان سے گفتگو نہ کریں اور جاہلیت کا بناؤ سنگھار نہ ﴿تَبرُّج﴾ دکھائیں۔ (آیت:33)

d۔ حضرت زینبؓ سے رسول اللہ ﷺ کے نکاح کی حکمت یہ تھی کہ ﴿مُتَبنّٰی﴾ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں مسلمانوں پر قیامت تک کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ (آیت:37)

e۔ غیر مدخولہ طلاق یافتہ عورت کی کوئی عدّت نہیں ہے۔ (آیت:49)

f۔ گھروں میں اِجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ (آیت:53)

g۔ دعوت کے بغیر کھانے کی محفل میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ (آیت:53)

h۔ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھالیا تو گپ شپ میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ (آیت:53)

10۔ ﴿سماجی اَحکام﴾

a۔ ﴿ ظِهار ﴾ سے بیوی نہ تو ماں بنتی ہے اور نہ کبھی ﴿ مُتَبنّٰی ﴾ یعنی (منہ بولا بیٹا) سگا بیٹا بن سکتا ہے۔ (آیت:4)

b۔ سماجی عدل کے لیے رشتے داروں کا صحیح تعین ضروری ہے۔ یہ ﴿ اَقسَطُ عِندَ اللّٰہ ﴾ ہے۔ (آیت:5)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

c۔ منہ بولے بیٹوں کو، اُن کے اصل باپوں کے نام سے پکارنا ضروری ہے۔ (آیت:5)

d۔ منافقانہ غلط پروپیگنڈے کے بجائے، ذکرِ الٰہی کیا جائے۔ (آیت:41)

e۔ رسول اللہ ﷺ کے لیے درود وسلام کا اہتمام کیا جائے۔ (آیت:56) یہ دینِ اسلام اور رسول اللہ ﷺ سے خیر خواہی کا تقاضا ہے۔

﴿اہم نوٹ﴾: سورۃ ﴿الاحزاب﴾ کو سورۃ ﴿النور﴾ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔

سورۃُ الاَحزَاب کا نظمِ جلی

سورۃ الاحزاب بارہ (12) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے، دوسرے ساتویں اور نویں پیراگراف میں اَحکام دیئے گئے۔ بقیہ میں تذکیر کی گئی۔

1- آیات 1 تا 3: پہلے پیراگراف میں، غزوۂ احزاب کے موقع پر، بیرونی دشمنوں یعنی کافروں سے اور اندرونی دشمنوں یعنی منافقوں سے نہ دبنے اور اُن کے آگے نہ جھکنے اور ان مشکل حالات میں اللہ ہی پر بھروسہ ﴿توکّل﴾ کرنے کی ہدایت کی گئی۔

2- آیات 4 تا 6: دوسرے پیراگراف میں، سماجی عدل کے قیام کے لیے وضاحت کی گئی کہ ﴿ظِھار﴾ سے بیوی ہرگز ماں نہیں بنتی۔ اسی طرح منہ بولا بیٹا کبھی سگا بیٹا نہیں بن سکتا۔ منہ بولے بیٹوں کو (سرپرست کے بجائے) اُن کے اصلی باپوں کے نام سے پکارنے کا حکم دیا گیا۔

3- آیات 7 تا 8: تیسرے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ تمام انبیاء سے (دعوت وتبلیغ کا) جو ﴿عہد ومیثاق﴾ لیا گیا ہے، اُس کا مقصد ﴿صادِقین﴾ کو اُن کی سچائی کی جزا اور ﴿کافِروں﴾ کو اُن کی تکذیب کی سزا دینا ہے۔

4- آیات 9 تا 21: چوتھے پیراگراف میں، جنگِ اَحزاب کے موقع پر منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی اور قریش اور اُن کے حلیفوں کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔

منافقین جھوٹے بہانے بنا کر جنگ سے رخصت لے رہے تھے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی سے کام لے رہے تھے۔

جنگ میں ان کی شرکت برائے نام تھی۔ اُن سے کہا گیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہوسکتا ہے، بشرطیکہ تم اللہ سے ملاقات پر ایمان لا کر، یومِ آخرت پر یقین کرکے اور کثرت سے ذکر کا اہتمام کرتے رہو۔

5- آیات 22 تا 25: پانچویں پیراگراف میں، جنگِ اَحزاب میں مخلص صحابہؓ کا کردار بتایا گیا ہے کہ دشمن کو دیکھ کر ان کا ایمان اور اُن کا جذبۂ اِطاعت وتسلیم بڑھ گیا۔ ان کے عزم وحوصلہ میں کمی نہیں آئی۔ کچھ نے اپنا عہد پورا کر دکھایا اور کچھ منتظر ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6- آیات 26 تا 27 : چھٹے پیراگراف میں، یہودی قبیلے غزوہ بنی قریظہ کا انجام بتایا گیا۔

عہد شکنی کی سزا، میں ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں کو قیدی بنالیا گیا۔ ان پر رعب کے ذریعے فتح حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کو ان کے اموال اور زمینوں کا مالک بنادیا گیا۔

7- آیات 28 تا 40 : ساتویں پیراگراف میں، عائلی اور معاشرتی اَحکام دیے گئے۔

اللہ، رسول اور دارِ آخرت کے طالبین کے لیے اجرِ عظیم ہے۔

دبی زبان سے گفتگو کرنے کی ممانعت کی گئی۔ تبرج جاہلیت سے منع کردیا گیا۔ مومنین کو صاف بتادیا گیا کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد، انہیں کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اللہ اور رسول ﷺ کی مخالفت صریح گمراہی ہے۔

حضرت زینب ؓ کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ سماجی عدل کا عین تقاضا ہے۔

8- آیات 41 تا 48 : آٹھویں پیراگراف میں مخلص صحابہ ؓ کو نصیحت کی گئی کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔

صبح وشام اس کی بے عیبی کا اعتراف کریں۔ رسول اللہ ﷺ کے مرتبے اور مقام کو سمجھیں کہ وہ ﴿شاھد، مُبَشِّر، نَذِیر، داعِی اور سِراجِ مُنِیر﴾ بناکر مبعوث کیے گئے ہیں۔ پہلے پیراگراف کے مضمون کا اعادہ کیا گیا کہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں یعنی ﴿منافقین﴾ اور ﴿کافرین﴾ سے دبنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پر ہی ﴿توکّل﴾ کیا جائے۔

9- آیات 49 تا 59 : نویں پیراگراف میں کچھ اور معاشرتی اور عائلی اَحکام بیان کیے گئے۔

غیر مدخولہ مطلقہ خاتون کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی عائلی زندگی کے بارے میں خصوصی احکام دیے گئے۔ بغیر دعوت کے کھانے میں شریک نہ ہونے اور دیر تک گفتگو کرنے سے روکا گیا۔ سچے مومن رسول اللہ ﷺ کے لیے درود (صلاۃ) یعنی دعائے رحمت کرتے ہیں اور منافقین آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔

10- آیات 60 تا 68 : دسویں پیراگراف میں ہیجان انگیز خبریں اور افواہیں پھیلانے والے منافقین کو نوٹس دیا دے گیا کہ وہ شاید مدینے میں پڑوسی بن کر نہ رہ سکیں۔ انہیں قتل بھی کیا جاسکتا ہے۔

انہیں دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ دوزخ میں وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے لیڈروں ﴿کُبَرَاء اور سَادة﴾ کو دگنا عذاب دیا جائے۔

11- آیات 69 تا 71 : گیارہویں پیراگراف میں خام مسلمانوں اور منافقین کو قومِ موسیٰ ؑ کی طرح اپنے رسول کو اذیت دینے سے منع کیا گیا۔

﴿قول سَدید﴾ اور مخلصانہ اطاعت سے کام لینے کی صورت میں ﴿مغفرت﴾ اور فوزِ عظیم کا وعدہ کیا گیا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

12- آیات 72 تا 73 :بارہویں اور آخری پیراگراف میں ﴿ اَمانت ﴾ کا مقصد بتایا گیا۔

انسان کو اس ذمے داری کو اُٹھانے کے بعد ظلم اور جہالت کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ ﴿ اَمانت ﴾ کے امتحان میں مشرک اور منافق ناکام ہو کر، عذاب کے مستحق بنیں گے اور مومن کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے فیض یاب ہوں گے۔

مرکزی مضمون

﴿ اَمانت ﴾ کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، کفر و منافقت چھوڑ کر، اِخلاص کے ساتھ اسلام کے عائلی، معاشرتی، سماجی، عسکری، سیاسی اور دیگر اجتماعی اَحکام پر عمل کرو !

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

34- سُوْرَۃُ سَبَأٍ

آیات : 54 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 7



زمانہ نزول:

سورت ﴿سبا﴾ اعلانِ عام کے بعد رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب آپ ﷺ پر شک و ریب کے ساتھ الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، جیسے: ﴿مَجنُون، سَاحِر، مُفتَرِی﴾ وغیرہ لیکن مخالفت نے شدت پیدا نہیں کی تھی۔ آلِ داؤدؑ سے جس شکر کا مطالبہ کیا گیا تھا، وہی قریش سے کیا گیا ہے اور اُنہیں قومِ سبا کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ جنات اور ملائکہ کی عبادت کے عقیدے کو ترک کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

● سورۃ سَبَأ کا کتابی ربط:

1- پچھلی سورت ﴿الاحزاب﴾ میں ﴿خاتم النبیین﴾ محمد ﷺ پر رحمت اور سلامتی کا مضمون تھا، یہاں سورۃ ﴿سبأ﴾ میں آپ ﷺ کو ﴿بشیر و نذیر﴾ بتا کر مشرکین کے الزامات سے بری کیا گیا ہے۔

2- پچھلی سورت ﴿الاحزاب﴾ میں رسول اللہ ﷺ پر منافقین کے اعتراضات نقل کیے گئے تھے۔ یہاں سورت ﴿سبا﴾ میں مشرکینِ مکہ کے اعتراضات نقل کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ یہ افتراء ہے۔ افک ہے اور کھلا جادو ہے۔

● اہم کلیدی الفاظ اور مضامین:

1- سورت سبا میں ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴾ کے الفاظ سے بار بار مشرکینِ مکہ کے اعتراضات و الزامات نقل کیے گئے۔

(a) مشرکینِ مکہ کہتے تھے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ انہیں اللہ کی صفات کی تفصیل بیان کر کے جواب دیا گیا کہ یہ آ کر رہے گی۔

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ عٰلِمِ الْغَيْبِ ﴾ (آیت:3)۔

(b) مشرکینِ مکہ کو رسولِ کریم ﷺ کی دعوت پر حیرت تھی کہ جب انسان زمین میں تحلیل ہو جائے گا تو نئے سرے سے کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴾ (آیت:7)

(c) مشرکینِ مکہ کے ظالم اور متکبر لیڈر صاف کہتے تھے کہ وہ قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ انہیں قیامت کے مناظر سے ڈرایا گیا۔ قیامت کے دن ان مغرور لیڈروں سے اُن کے کمزور کیے گئے پیروکار کہیں گے: "اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے"

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ (آیت:31)۔

(d) مشرکینِ مکہ کا رسولِ کریم ﷺ پر یہ اعتراض تھا کہ وہ لوگوں کو اُن کے باپ دادا کے طریقۂ عبادت سے روک رہے ہیں اور قرآن ایک جھوٹ افتراء اور کھلا جادو ہے۔ ﴿ مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ " مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ " مُّبِيْنٌ " ﴾ (آیت:43)

2- رسول اللہ ﷺ پر اعتراضات کیے گئے کہ قرآن افتراء ہے (8) آپ پر جنون ہے (8) یہ جھوٹ ہے (43)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

آپ ﷺ صرف انسان ہیں(43) قرآن ایک کھلا ہوا جادو ہے۔(43)

(a) مشرکین کا الزام تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ پر جھوٹ گڑ لیا ہے، یا پھر آپ پر ﴿جنون﴾ یعنی دیوانگی طاری ہے۔ ﴿اَفْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ﴾ (آیت:8)۔

(b) اللہ تعالی نے مشرکین کو دعوت دی کہ وہ غور کریں کہ کیا محمد ﷺ کو جنون لاحق ہے؟ ایسا نہیں ہے ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ﴾۔ بلکہ محمد ﷺ کو تو ایک سخت عذاب سے متنبہ اور خبردار کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔
﴿قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۣ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ﴾ (آیت:46)۔

3- مشرکینِ مکہ ﴿آخرت پر شک﴾ کیا کرتے تھے۔ انہیں یقین نہیں تھا۔ وہ پوچھتے تھے کہ یہ کب آئے گی؟

(a) وہ منکرِ قیامت تھے۔ صاف کہتے تھے کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ ﴿لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ﴾ (آیت:3)۔

(b) وہ بار بار پوچھتے تھے کہ قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟
﴿وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ (آیت:29)۔

(c) آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے عذاب ہے۔
﴿بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ﴾ (آیت:8)۔

(d) اللہ چاہتا ہے کہ آخرت پر ایمان لانے والوں کو اور آخرت پر شک کرنے والوں کو ممیز کر دے۔ ابلیس کے پھندے سے بچا جا سکتا ہے۔ ﴿وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ۭ وَرَبُّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ﴾ (آیت:21)۔

(e) روزِ قیامت آخرت پر شک کرنے والوں اور اُن کے خواہشات کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ یہی معاملہ پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا جو شک میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرتے رہے۔
﴿وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ﴾ (آیت:54)۔

4- لیڈر اور اُن کے پیروکار: سورت ﴿سبا﴾ میں مغرور و متکبر لیڈروں کے لیے ﴿الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا﴾ اور پیروکاروں کے لیے ﴿الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا﴾ "کمزور کیے گئے یعنی دبائے گئے" لوگوں کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ انہیں ﴿مُترفین﴾ بھی کہا گیا۔

(a) قیامت کے دن یہی ﴿مُستضعفین﴾ اپنے متکبر لیڈروں سے کہیں گے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ایمان لاتے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ یعنی ہمارے ایمان کی راہ میں آپ ہی رکاوٹ تھے۔ (آیت:31)

(b) روزِ قیامت وہ پچھتائیں گے۔عذاب دیکھ کر نادم اور شرمسار ہوں گے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ﴾ (آیت:33)۔

(c) روزِ قیامت لیڈر اپنے پیروکاروں سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے۔تم نے اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ تم نے ہماری پیروی کیوں کی۔ثابت ہوا ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔(آیت:32)۔

﴿ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴾

(d) ﴿ مُتْرَفِيْن ﴾ یعنی خوشحال لوگوں کے بارے میں یہ تاریخی حقیقت بیان کی گئی کہ جب بھی کسی بستی میں کوئی رسول خبردار کرنے کے لیے آیا تو اُن کے ﴿ مُتْرَفِيْن ﴾ نے صاف کہہ دیا کہ جس چیز کو دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، ہم اُس کا انکار کرتے ہیں۔(آیت:34)

﴿ وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴾

5- ﴿ شکر ﴾ سورت ﴿ سبا ﴾ کا ایک اہم موضوع ہے۔

(a) آلِ داوٗد سے ﴿ شکر ﴾ کا مطالبہ کیا گیا کہ حضرت سلیمانؑ کے لیے جنات بہت سے کام کیا کرتے تھے۔جنات کو ان کا تابع کر دیا گیا تھا۔اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی کہ انسانوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو ﴿ شکر ﴾ ادا کرتے ہیں۔﴿ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۭ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴾ (آیت:13)

(b) قوم سبا سے کہا گیا تھا کہ اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا ﴿ شکر ﴾ ادا کریں۔وہ مغفرت فرمانے والا ہے۔

﴿ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۭ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴾ (آیت:15)۔

(c) قوم سبا کو اُن کی ﴿ ناشکری ﴾ کی سزا دی گئی۔یہ اُصول بتا دیا گیا ہے کہ ناشکروں ہی کو اس طرح کا بدلہ دیا جاتا ہے۔

﴿ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۭ وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴾ (آیت:17)۔

(d) قوم سبا ایک ناشکری قوم تھی، جس کے سبب انہیں دو سرسبز و شاداب باغوں کے بجائے بیر اور اثل کے جنگل دیے گئے۔اسے داستان بنا دیا گیا۔اِن کے انجام میں ہر ﴿ صابر و شاکر ﴾ آدمی کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔

﴿ فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴾ (آیت:19)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6- سورت ﴿سبا﴾ میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وضاحت کی گئی کہ وہ ﴿غیب﴾ کا مکمل علم رکھتا ہے۔

(a) زمین وآسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔وہ ﴿عالم الغیب﴾ ہے۔
﴿ عٰلِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴾ (آیت:3)۔اللہ تعالیٰ ﴿عَلَّامُ الْغُيُوْبِ﴾ (آیت:48)۔

(b) جنات بھی علمِ غیب نہیں رکھتے۔حضرت سلیمانؑ نے کھڑے کھڑے وفات پائی۔وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔جنات انہیں زندہ سمجھ کر اطاعت کرتے رہے،لیکن جب دیمک نے لاٹھی کو چاٹ لیا اور حضرت سلیمانؑ گر پڑے،تب یہ حقیقت کھلی کہ وہ علمِ غیب نہیں رکھتے ورنہ اس ذلت میں مبتلا نہ ہوتے۔﴿ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴾ (آیت:14)۔

سُورَةُ السَّبَا کا نظمِ جلی

1- آیات 1 تا 9 : پہلے پیراگراف میں، ﴿اللہ تعالیٰ کی صفات﴾ بیان کی گئیں اور ﴿عقیدۂ آخرت پر اعتراضات﴾ نقل کر کے جواب دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے،وہی قابلِ تعریف ہے۔آخرت میں بھی اُسی کی حمد ہے۔حکیم وخبیر ہے۔
اللہ کا علم: زمین میں جو داخل وخارج ہوتا ہے۔آسمان سے جو چڑھتا اترتا ہے،اُن سب کا علم رکھتا ہے وہ رحیم وغفور ہے۔منکرینِ آخرت اور منکرینِ قیامت کو بتایا گیا کہ قیامت آکر رہے گی۔اللہ سے،زمین وآسمان کی کوئی چھوٹی بڑی چیز مخفی نہیں۔ایک نمایاں کتاب میں درج ہے۔
قیامت کا مقصد،نیک لوگوں کو جزا دینا اور برے لوگوں کو سزا دینا ہے۔صاحب ایمان وعملِ صالح کے لیے مغفرت اور رزقِ کریم ہے۔آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے بدکاروں کے لیے عذاب ہے۔(آیت:4 تا 5) قرآن سراسر حق ہے۔خدائے عزیز وحمید کا راستہ دکھاتا ہے۔(آیت:6) جبکہ منکرین اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد ﷺ کو ﴿جنون﴾ لاحق ہے۔ نہیں بلکہ یہ خود گمراہ ہیں۔انہیں عذاب دیا جائے گا۔
اللہ کی طاقت اور قدرت سے ڈرایا گیا کہ اللہ وہ ہستی ہے جو انہیں زمین میں دھنسا سکتی ہے اور ان پر آسمان ٹوٹ سکتا ہے ہر منیب بندے کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔

2- آیات 10 تا 14 :دوسرے پیراگراف میں، ﴿حضرت داوٗدؑ اور حضرت سلیمانؑ کی شکر گزاری﴾ کی تفصیل ہے۔

(a) حضرت داوٗدؑ کو فضل عطا کیا گیا۔اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو،ان کے ساتھ ہم آہنگی کا حکم دیا۔ان کے لیے لوہا نرم کیا۔انہیں زرہیں بنانے،حلقے ٹھیک رکھنے اور نیک عمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(b) حضرت سلیمانؑ کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا۔ ایک ماہ کے سفر کا راستہ صبح کو، اور ایک ماہ کا شام کو طے ہوتا تھا۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، ان کے لیے جنات تابع کر دیئے گے۔

حضرت سلیمانؑ نافرمان جنوں کو آگ کا مزہ چکھاتے تھے۔ حضرت سلیمانؑ کے لیے جنات اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے لگن اور بڑی دیگیں بناتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا ﴿اِعۡمَلُوۡۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكۡرًا﴾ اے آلِ داؤد! شکر کے طریقے پر عمل کرو! (آیت: 12 تا 13) لیکن انسانوں میں بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں۔

(c) جنات غیب کا علم نہیں رکھتے: حضرت سلیمانؑ کی موت سے جنات لاعلم رہے۔ گھن عصا کو کھا رہا تھا۔ جب حضرت سلیمانؑ گر پڑے، تب جنات کو احساس ہوا کہ وہ غیب کے عالم نہیں ہیں، ورنہ یہ ذلت نہ اٹھاتے۔ (آیت: 14)

3- آیات 15 تا 20: تیسرے پیرا گراف میں، ﴿قوم سبا کی ناشکری اور انکارِ آخرت﴾ کا تذکرہ ہے۔

قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ اللہ تعالی نے انہیں باغات عطا کیے تھے۔ انہیں نعمتوں پر شکر کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی، نمک حرامی اور ناشکری سے کام لیا۔ (آیت: 15)

انہیں سزا دی گئی۔ سیلاب آیا۔ دو سرسبز و شاداب باغات کے بدلے میں دو خمط (کڑوے)، اَثْل (جھاؤ)، سِدْر (بیر) کے درخت اگا دیئے۔ اللہ تعالی نے سبا اور فلسطین کے درمیان نمایاں بستیاں بسائیں۔ تجارتی شاہراہیں اور منزلیں بنیں۔ پرامن سفر کی راہ ہموار ہوئی۔ لیکن انہیں آبادی کھلنے لگی۔ انہوں نے دعا کی کہ ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ ﴿رَبَّنَا بٰعِدۡ بَيۡنَ اَسۡفَارِنَا﴾ چنانچہ ان پر عذاب آیا۔ اللہ نے انہیں قصۂ پارینہ بنا دیا۔ تاریخ کے اس واقعہ میں ہر صابر و شاکر کے لیے سبق ہے۔

قوم سبا ابلیس کے دام میں گرفتار ہو کر رہے۔ اہلِ ایمان بچ نکلے۔ قومِ سبا آخرت کی منکر تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ منکرینِ آخرت سے مومنینِ آخرت کو ممیز اور ممتاز کر دے۔

4- آیات 21 تا 28: چوتھے پیرا گراف میں، ﴿دلائلِ توحید﴾ ہیں، ردِ شرک ہے اور منصب رسالت کی وضاحت ہے۔

(a) دلائلِ توحید: مشرکین کو چیلنج کیا گیا کہ ﴿مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ﴾ زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان کی سفارش بھی کام نہیں آسکتی۔ شفاعت اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ (روزِ قیامت) شافع پر بھی گھبراہٹ طاری ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ اللہ۔ ایسی صورت میں لامحالہ ہم میں اور تم میں، کوئی ایک ہدایت پر ہے۔ ہر آدمی کو اپنی بھلائی کے لیے سوچنا ہوگا۔ ہماری قصور کی باز پرس، تم سے نہ ہوگی اور نہ تمہارے قصوروں کی، ہم سے ہوگی۔ روزِ قیامت اللہ سب کو جمع کرے گا۔ عدل کرے گا۔ زبردست اور علیم ہے۔

(c) منصب رسالت کی تشریح: رسول اللہ ﷺ کو ساری دنیا کی طرف ایک خوشخبری دینے والے اور ایک خبردار کر دینے والے کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جاننا چاہتے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

5- آیات 29 تا 42: پانچویں پیراگراف میں، متکبر قیادت (Leadership)، شرک اور انکارِ آخرت کے اسباب کی وضاحت کی گئی۔

منکرینِ آخرت قیامت کا وقت پوچھتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ اس کا وقت مقرر ہے۔

(a) متکبر قیادت پر واضح کیا گیا کہ وہ عام لوگوں کی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ روزِ قیامت عوام کہیں گے کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ الٹا انہیں الزام دیں گے اور کہیں گے کہ تم خود مجرم تھے۔ دونوں شرمسار ہوں گے۔ ان کی گردنوں میں پھندا ہوگا۔

(b) ﴿مترفین﴾ کے بارے میں یہ اُصول بیان کیا گیا کہ انہوں نے ہمیشہ رسولوں کا انکار کیا۔ انہیں اپنی اولاد اور اپنے مال پر ناز تھا اور یہ خوش فہمی کہ ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّأَوْلَادًا﴾۔

رسول اللہ ﷺ کو ہدایت دی گئی کہ وہ انہیں بتا دیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تقرّبِ الٰہی، اموال واولاد سے نہیں، بلکہ ایمان اور عملِ صالح سے حاصل ہوتا ہے۔ ہماری آیات کو، نیچا دکھانے والوں کے لیے عذاب ہوگا۔

(c) مشرکینِ مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ بتایا گیا کہ روزِ قیامت فرشتوں سے سوال ہوگا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کریں گے کہ اللہ ہی اُن کا سرپرست ہے۔ بعض

(d) مشرکینِ مکہ جنات کی عبادت کرتے تھے یعنی جنات سے ڈر کر اُن کی پناہ لیا کرتے تھے۔ قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا کہ اُس دن فائدہ اور نقصان کسی کے اختیار میں نہ ہوگا۔

6- آیات 43 تا 46: چھٹے پیراگراف میں ﴿رسول ﷺ پر کیے گئے اعتراضات﴾ نقل کر کے اُن کا جواب دیا گیا۔

قرآن کی آیات کی تلاوت پر آپ ﷺ پر اعتراض کیا گیا کہ آپ محض ایک انسان ہیں، رسول نہیں ہیں، جو باپ دادا کے طریقۂ عبادت سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن جھوٹ ہے۔ گھڑا گیا ہے۔ جادو ہے۔ رسول کریم ﷺ کو ﴿جنون﴾ لاحق ہے۔ انہیں دعوتِ فکر دی گئی کہ وہ اکیلے یا مل کر غور و فکر کریں کہ کیا ﴿مجنونوں﴾ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں؟ آپ ﷺ تو صاف خبردار کر دینے والے ہیں۔

7- آیات 47 تا 54: ساتویں اور آخری پیراگراف میں ﴿دلائلِ رسالتِ محمدی ﷺ﴾ دیے گئے اور عذابِ قیامت سے ڈرایا گیا۔

(a) محمد ﷺ تو کسی اجر کے طالب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر حق وحی کرتا ہے۔ (آیت: 47)

حق آ گیا ہے۔ اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ ﷺ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اگر میں گمراہ ہوں

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تو اس کا وبال مجھ پر ہے۔ اگر میں ہدایت پر ہوں تو وحی کی بنا پر ہوں۔ اللہ دیکھتا ہے۔ سنتا ہے۔ وہ بہت قریب ہے۔

(b) کافر لوگ روزِ قیامت گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ بچ کر نہ جا سکیں گے۔ قریب کی جگہ پر پکڑ لیے جائیں گے۔ (آیت:51)

کہیں گے۔ "ایمان لائے ہیں۔" (لیکن اب ایمان نافع نہ ہوگا) (آیت:52)

دوزخیوں کا جرم یہ ہوگا کہ یہ رسالت کا انکار کرتے تھے۔ دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ تمناؤں میں اسیر تھے۔ پچھلی قوموں کی طرح ان کی اور ان کی خواہشات کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، کیونکہ یہ بھی خود شک میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کیا کرتے تھے۔

مرکزی مضمون

توحید، رسالت محمدی ﷺ اور آخرت پر سطحی اعتراضات سے بچنا چاہیے۔ قرآنی دلائل کی روشنی میں جائزہ لے کر ناشکری، مترف، متکبر قیادت کی پیروی سے بچنا چاہیے۔ تذبذب اور تشکیک سے بچ کر ایمان لانا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

35- سُوْرَةُ فَاطِر

آیات : 45 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 7



زمانہ نزول:

سورت ﴿فاطر﴾، رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) میں نازل ہوئی، جب شدتِ مخالفت میں آپ ﷺ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ قریش کی ﴿متکبر قیادت﴾ کو قانونِ جزاوسزا بتاکر ﴿ہلاکت کی دھمکی﴾ دی گئی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ فاطر کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿سَبَا﴾ میں ﴿جنات کی عبادت﴾ کی نفی تھی۔ اس سورت ﴿فاطر﴾ میں ﴿فرشتوں کی عبادت﴾ کی نفی ہے۔ دونوں سورتوں میں قریش کے ﴿استکبار﴾ پر مشتمل منفی رویوں کی طرف نشاندہی ہے۔

2۔ اگلی سورت ﴿یٰس﴾ میں مشرکین کے خلاف اللہ کا جلال ہے۔ اللہ کے اختیارات کی تفصیلی وضاحت ہے۔ دونوں سورتوں میں ہلاکت کی دھمکی ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿دلائل توحید﴾ سورت فاطر میں توحید کے دلائل شدومد کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔

(a) اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے ﴿شکر﴾ کا مطالبہ کیا گیا کہ میٹھا پانی اور کھارا پانی ایک جیسا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دونوں سے انسان کو سمندری غذا فراہم کرتا ہے اور وہ موتی بھی جو زیور بن جاتے ہیں۔ پانیوں میں وہ کشتیاں بھی ہیں جن سے اللہ کا فضل تلاش کیا جاتا ہے۔ (آیت:12)

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ هٰذَا عَذْبٌ" فُرَاتٌ" سَآئِغٌ" شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ" اُجَاجٌ" وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾

(b) ﴿توحید کی آفاقی دلیلیں﴾ پانی پر غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ اس سے رنگ برنگے پھل پیدا کیے جاتے ہیں۔ پہاڑوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ اُس کے رنگ بھی مختلف قسم کے ہیں۔ لہٰذا ایسی عظیم الشان قدرت رکھنے والے خدائے واحد ہی پر ایمان لانا چاہیے۔

﴿اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ" م بِيْضٌ" وَّحُمْرٌ" مُّخْتَلِفٌ" اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ"﴾ (آیت:27)

(c) انسانوں، جانوروں اور مویشیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ لیکن کائنات میں غور و فکر کر کے صحیح نتیجے پر صرف وہی بندے پہنچ سکتے ہیں جو اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ" اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا﴾ (آیت:28)

(d) ﴿توحید اختیار﴾ کی وضاحت کی گئی کہ رحمت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ اپنی رحمت کو روک لے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ وہ زبردست قوت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ (آیت:2)

(e) ﴿توحید کی انفسی دلیل﴾ انسان کو سمجھایا گیا کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں، جب کہ اللہ کو نہ تو مال کی ضرورت ہے اور نہ تعریف کی۔ وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴾ (آیت:15)

(f) ﴿آفاقی دلیل﴾ اللہ کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ وہی آسمانوں اور زمین کو سرکنے سے تھامے ہوئے ہے۔ اگر وہ سرکیں تو ﴿غیر اللہ﴾ اُنہیں تھام نہیں سکتے۔ اللہ حلیم اور بردبار ہے کہ اس قوت کے باوجود وہ مشرکوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔

﴿اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا، وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ﴾ (آیت:41)

(g) ﴿اللہ کی قدرت اور حکمت﴾ کی وضاحت کی گئی کہ اگر وہ انسانوں کے گناہوں کی سزا دینے پر آئے تو زمین کی پیٹھ پر کوئی باقی نہ بچے، لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک اسے ٹال دیتا ہے۔ جب مدت پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے۔

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴾ (آیت:45)

(h) ﴿توحیدِ اختیار﴾ اللہ کے اختیار کی وضاحت کی گئی کہ وہ انسانوں کو ہلاک کر کے دوسری قوم تخلیق کر سکتا ہے۔

﴿ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴾ (آیت:16)

-2 ﴿شرک کی تردید﴾ سورت فاطر میں شرک کی تردید بھی شدومد سے کی گئی ہے۔

(a) انسان اللہ کی نعمتیں یاد رکھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی ﴿غیر اللہ﴾ تمہیں رزق دیتا ہے؟ لہذا ﴿خالق﴾ ہی کو ﴿اللہ﴾ تسلیم کر لینا چاہیے۔

﴿ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴾ (آیت:3)۔

(b) ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ کی تحقیر کی گئی اور چیلنج کیا گیا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے دکھاؤ۔ کیا وہ آسمانی نظام میں شریک ہیں؟ (آیت:40)۔

﴿ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

شِرۡكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ﴾

(c) مشرکین کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ ﴿غیر اللہ﴾ کے پاس کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے۔ ﴿ مَنۡ كَانَ يُرِيۡدُ الۡعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الۡعِزَّةُ جَمِيۡعًا ﴾ اچھی باتیں اور اچھا عمل ہی اُس کے ہاں قبول کیا جاتا ہے۔ ﴿ اِلَيۡهِ يَصۡعَدُ الۡكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالۡعَمَلُ الصَّالِحُ يَرۡفَعُهٗ ﴾ سازشیں کرنے والے کے لیے سخت عذاب ہے اور اس کی چالیں ناکام ہو کر رہیں گی ﴿ وَالَّذِيۡنَ يَمۡكُرُوۡنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌ ؕ وَمَكۡرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوۡرُ ﴾ (آیت:10)

(d) ﴿اللہ﴾ اور ﴿مِن دُونِ اللّٰه﴾ کا موازنہ کر کے بتایا گیا کہ اللہ تو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے ۔ اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ ہے انسانوں کا پالنے والا۔ اُسی کے لیے کائنات کی بادشاہت ہے۔ ﴿مِن دُونِ اللّٰه﴾ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اس لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اُسی سے دعا کرنی چاہیے۔
﴿ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمۡ لَهُ الۡمُلۡكُ ؕ وَالَّذِيۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖ مَا يَمۡلِكُوۡنَ مِنۡ قِطۡمِيۡرٍ ﴾ (آیت:13)۔

(e) ﴿ شفاعت کے خود ساختہ تصور کی نفی کی گئی ﴾ قریبی رشتہ دار بھی روزِ قیامت کام نہیں آئیں گے۔ ہر آدمی کو خود اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ (آیت:18)
﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰى ؕ وَاِنۡ تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ اِلٰى حِمۡلِهَا لَا يُحۡمَلۡ مِنۡهُ شَىۡءٌ وَّلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبٰى ﴾

(f) ﴿ مشرکین کو تنبیہ ﴾ متکبر لیڈروں کو خبردار کیا گیا کہ وہ تاریخ کا سبق یاد رکھیں۔ انہوں نے رسولوں کی آمد کے بعد اپنی بیزاری اور اپنی سازشوں میں اضافہ کیا، لیکن بری چالوں اور سازشوں کی زد میں وہ خود آ جاتے رہے۔ یہ ہلاک ہو کر رہے یہی اللہ کی سنت ہے۔ کیا یہ بھی عذاب کے منتظر ہیں؟
﴿ وَّانِ۟ـهُمۡ اِلَّا نُفُوۡرَا ۙ اسۡتِكۡبَارًا فِى الۡاَرۡضِ وَمَكۡرَ السَّيِّئِ ؕ وَلَا يَحِيۡقُ الۡمَكۡرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهۡلِهٖ ؕ فَهَلۡ يَنۡظُرُوۡنَ ﴾ (آیت:43)

3- ﴿ دلیلِ آخرت ﴾ ہواؤں کے ذریعے بادل بھیجے جاتے ہیں، جو مردہ زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ اسی طرح مردے زندہ کیے جائیں گے۔
﴿ وَاللّٰهُ الَّذِىۡۤ اَرۡسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيۡرُ سَحَابًا فَسُقۡنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحۡيَيۡنَا بِهِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوۡرُ ﴾ (آیت:9)

4- ﴿ کافر و مومن کا فرق ﴾ واضح کیا گیا۔ مومن زندہ ہوتا ہے۔ قرآن کی دعوت کو سنتا ہے۔ جبکہ کافر مردہ ہوتا ہے اُس

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کی ضد اور غرور کی وجہ سے اُسے حق کی بات سنائی نہیں جاسکتی۔ وہ کان رکھتے ہوئے بہرہ ہوتا ہے۔ (آیت:22)

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾

5- ﴿خلافت اور وراثت﴾ کے سلسلے میں تین رویوں کی وضاحت کی گئی۔

(a) یہودیوں کو امامت سے معزول کر دیا گیا اور بنی اسمٰعیل میں آخری پیغمبر محمد ﷺ کو مبعوث کیا گیا۔ اب ان میں تین (3) گروہ ہو گئے ہیں۔ پہلا گروہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ دوسرا گروہ میانہ روی اختیار کر رہا ہے اور تیسرا گروہ نیکیوں میں سبقت حاصل کر رہا ہے۔ یہی سب سے بڑا فضل ہے۔

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (آیت:32)

(b) اللہ نے انسانوں کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو اُس کا وبال اُسی پر ہوگا۔ اُس کا کفر اُس کے ہی نقصان میں اضافہ کرے گا۔ (آیت:39)

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴾

6- ﴿ابلیس کو اپنا دشمن بنا لینے کی ہدایت﴾ انسانوں پر واضح کیا گیا کہ ابلیس اُن کا دشمن ہے۔ وہ اور اُس کی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ انسان دوزخ میں جائیں۔ اس لیے ابلیس کو اپنا دشمن بنانا ضروری ہے۔ (آیت:6)

﴿ إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيرِ ﴾

7- ﴿رسول اللہ ﷺ کو تسلی﴾ دی گئی کہ ماضی میں بھی رسولوں کو جھٹلایا جاتا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن سارے فیصلے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ (آیت:4 اور 26)

﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ فاطر کا نظمِ جلی

سورۃ فاطر سات (7) پیراگراف پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 18 : پہلے پیراگراف میں ، دعوتِ توحید اور دعوتِ آخرت کا بیان ہے۔

اللہ ﴿فاطر﴾ یعنی خالق ارض وسماء ہے۔ صاحب اختیار ہے۔ اُسی کے ہاتھ میں رحمت ہے۔
غیر اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ وہ خالق نہیں ہیں۔ اللہ ہی رازق ہے، لہذا اُسی کو ﴿الٰہ﴾ تسلیم کر لینا چاہیے۔
رسول کریم ﷺ کو تسلی دی گئی کہ جھٹلائے جانے پر آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ ماضی میں ہر رسول کو جھٹلایا گیا ہے۔
﴿ابلیس اور اُس کی پارٹی﴾ انسانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ابلیس کے دام میں نہ آئیں۔ ابلیس انسانوں کا دشمن ہے اس لیے اس کو دشمن بنا لینا چاہیے۔ وہ اور اُس کی پارٹی انسانوں کو دوزخ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔

- ﴿رسول اللہ ﷺ کو تسلی﴾ دی گئی کہ وہ ان لوگوں کی خاطر غم وافسوس میں نہ گھلیں، جو اپنے برے اعمال کو خوشنما دیکھتے ہیں۔ اللہ ان کی کارستانیوں سے واقف ہے۔ ﴿ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۭ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ڮ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴾ (آیت نمبر 8)

﴿آخرت کی دلیل﴾ ہواؤں، بادلوں اور بارش سے فراہم کی گئی۔ شرک کی تردید کی گئی کہ غیر اللہ کے پاس عزت نہیں ہے بلکہ تمام کی تمام صرف اللہ کے پاس ہے۔ ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ﴾
اللہ کے ہاں اچھی بات اور اچھا عمل ہی قبول کیا جاتا ہے ﴿ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ﴾ رسول اللہ ﷺ کے خلاف سازش کرنے والوں کے لیے عذاب ہے۔ ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔
وَ الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ، وَمَكْرُ اُولٰۗىِٕكَ هُوَ يَبُوْرُ ﴾ (آیت نمبر 10)
انسان کی اپنی ذات کی پیدائش سے اللہ کی قدرت اور علم پر دلیلیں قائم کی گئیں۔

- ﴿توحید کی آفاقی دلیل﴾ پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں۔ میٹھا پیاس بجھانے والا اور سخت کھاری تلخ۔ دونوں سے تروتازہ گوشت ملتا ہے۔ پہننے کے لیے سامانِ زینت (موتی) ملتے ہیں۔ کشتیاں سمندری رزق فراہم کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ دن کو رات میں، رات کو دن میں پروتا ہے۔ اُسی نے چاند اور سورج کو مسخر کیا۔ اُسی کی فرماں روائی ہے۔ غیر اللہ کے پاس ذرہ برابر اختیار بھی نہیں ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

- ﴿توحید دعا﴾ ﴿غیر اللہ﴾ نہ تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں اور بالفرض سن بھی لیں تو جوابی کاروائی نہیں کر سکتے۔ انسانوں سے کہا گیا کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ غنی وحمید ہے۔
- ﴿توحید اختیار﴾ اللہ کے پاس استبدالِ قوم کی قدرت ہے۔ (ایک قوم کو ہلاک کر کے) دوسروں کو اٹھانا دشوار نہیں۔ ﴿اِنْ یَّشَاْ یُذْهِبْكُمْ وَیَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِیْدٍ ۝ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ﴾ (آیت نمبر 16 تا 17)
- ﴿روزِ قیامت﴾ کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ تو صرف غیب پر ایمان لانے والوں کو خبردار کر سکتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تزکیہ انسان کے اپنے لیے مفید ہے۔

2- آیات 19 تا 23 : دوسرے پیراگراف میں ﴿مومن وکافر کا فرق﴾ بیان کیا گیا۔

مومن بینا اور کافر نابینا ہوتا ہے۔ رسول خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، وہ مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ اندھے اور بہرے ضدی لوگ اسلام کی دولت سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔

3- آیات 24 تا 26 : تیسرے پیراگراف میں ﴿تاریخِ ہلاکت﴾ سے استدلال ہے۔

آخری پیراگراف میں ہلاکت کی دھمکی ہے رسولوں کا انکار کرنے والوں کو اللہ نے اپنے عذاب میں جکڑ لیا۔

4- آیات 27 تا 28 : چوتھے پیراگراف میں ﴿توحید ربوبیت کے آفاقی دلائل﴾ ہیں۔

کافروں کو پانی، درختوں کے پھل، مختلف رنگوں کے پہاڑوں اور رنگ برنگے جانوروں، مویشیوں اور انسانوں پر غور کر کے اللہ کی خشیت اختیار کرنی چاہیے۔ وہ مغفرت کی قدرت رکھتا ہے۔

5- آیات 29 تا 39 : پانچویں پیراگراف میں ﴿قانونِ جزا وسزا﴾ بیان ہوا ہے۔

ایمان لا کر نماز کا اہتمام کرنے والوں اور انفاق کرنے والوں کی تجارت نقصان نہیں دے سکتی۔ یہودیوں کے بعد اب بنی اسماعیل امتحان میں ہیں۔ آپ ﷺ کی نبوت کے بعد کچھ ظلم یعنی شرک کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کچھ انتظار میں ہیں اور کچھ نیکیوں میں پہل کر رہے ہیں۔ یہی کامیابی ہے۔ ان کے لیے جنت ہے جہاں نہ کوئی ملال ہے نہ کلفت ومحنت اور نہ کوئی تھکان ہے۔

اس کے برخلاف انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ وہ فریاد کریں گے کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر اختیارات عطا کیے گئے ہیں لیکن اگر وہ انکار اور ناشکری کا رویہ اختیار کرے گا تو لازماً نقصان میں رہے گا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6- آیات 40 تا 41 : چھٹے پیراگراف میں ﴿شرک کی تردید﴾ اور ﴿توحید کے اثبات﴾ کے دلائل ہیں۔

مشرکین کو چیلنج کیا گیا کہ وہ بتائیں ﴿مِن دُونِ اللّٰهِ﴾ نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ اور کیا وہ آسمان کی بادشاہت میں شریک ہیں۔ اللہ ہی زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے۔

7- آیات 42 تا 45 : ساتویں اور آخری پیراگراف میں ﴿متکبر قیادت کو ہلاکت کی دھمکی﴾ ہے۔

پہلے تو انہوں نے کڑی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اگر کوئی نذیر آئے گا تو وہ اپنے آپ کو زیادہ ہدایت یافتہ ثابت کریں گے لیکن نذیر کے آنے کے بعد ان کی بیزاری، زمین پر ان کے تکبر میں اور ان کی سازشوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ قریش کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پہلی قومیں تو ان سے زیادہ طاقتور تھیں۔ ہلاک کر دیں گئیں ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً عذاب دے۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوٹتا۔ وہ وقت مقررہ پر پکڑ لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے۔

مرکزی مضمون

محکم دلائل کی روشنی میں توحید کی حقانیت ثابت کر کے شرک کی تردید کر دی گئی ہے۔ اسلام قبول کر لینا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ وقتِ مقررہ پر قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

36- سُورَةُ یٰسٓ

آیات : 83 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 6



زمانۂ نزول:

سورت ﴿یٰسٓ﴾، رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) میں نازل ہوئی، جب آپ پر ﴿شَاعِر﴾ ہونے کا الزام تھا۔ یہ ایک جلالی سورت ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

1- ضمیر جمع متکلم کے صیغے

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پینتالیس (45) سے زیادہ مرتبہ ضمیر جمع کا صیغہ (ہم) استعمال کیا ہے۔ (بطورِ ضمیرِ منفصل جیسے: اَنَا ، نَحنُ یا پھر ضمیر متصل جیسے: جَعَلنَا ، اَغشَینَا ، لَدَینَا ، نُحیِی ، نَشَا ، نُغرِق وغیرہ وغیرہ)۔اس طرح کا پیرایۂ بیان، شان، عظمت اور تفخیم کے لیے استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، البتہ صرف ایک مقام پر ضمیرِ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے:

﴿وَّاَنِ اعبُدُونِ﴾ (اور میری ہی بندگی کرو)۔ (آیت:61)

مضمون چونکہ توحید تھا، لہذا مضمون کی مناسبت سے یہی پیرایہ اس جگہ اس کے شایانِ شان تھا۔ سبحان اللہ!

2- سورت یٰس کی جلالی فضا

اس سورت کو سمجھ کر پڑھنے والا، ایک مرعوب کن جلالی فضا میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے، اس کے دل و دماغ پر سے غیر اللہ (الھہ) کا بھوت اتر جاتا ہے اور وہ اللہ کی قدرت و طاقت کا پوری طرح قائل ہو جاتا ہے۔ ہر اگلی آیت اس کیفیت کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے اور جب وہ اختتام پر پہنچتا ہے تو کن فیکونی اور ملکوتی صفات کی تلاوت و سماعت سے بلندیوں کو چھو لیتا ہے اور آخری ٹکڑے ﴿اِلَیهِ تُرجَعُونَ﴾ کو سن کر آخرت کی تیاری کے احساس سے سرشار اور سرگرم ہو جاتا ہے۔

سورۃ یٰس کے فضائل

سورت یٰس کی فضیلت (Virtues) کے بارے میں کوئی ﴿صحیح حدیث﴾ ثابت نہیں ہے، البتہ بعض ﴿ضعیف﴾ حدیثیں ملتی ہیں۔ بعض احادیث میں ﴿موضوع﴾ یعنی من گھڑت ہیں۔ اکثر لوگ محض ثواب یا پھر محض حاجت براری کے لیے اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔

سورۃ یٰس کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿فاطر﴾ میں ﴿اَشَدَّ مِنهُم قُوَّةً﴾ کے انجام کا ذکر تھا۔ یہاں سورۃ ﴿یٰس﴾ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، ملکوتیت اور کُن فیکونی صفات سے ﴿توحیدِ اختیار و توحیدِ تصرف﴾ کی تفصیل ہے۔

2۔ یہاں ﴿یٰس﴾ میں رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا کہ بلاشبہ آپ ﴿مرسلین﴾ میں سے ہیں۔ اگلی سورت ﴿الصافات﴾ میں ان کی خدمات کے اعتراف میں تمام ﴿مرسلین﴾ یعنی رسولوں کو ﴿سلام﴾ کہا گیا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- سورت ﴿یس﴾ میں ﴿سُبحان﴾ کا لفظ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ (آیات: 36، 83)

(a) ہر چیز کا جوڑا بنانے والی خالق ہستی بے عیب ہے۔ خود اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ کوئی بیوی نہیں۔

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ﴾ (آیت: 36)۔

(b) وہ ہستی جس کی ہر ذرے پر عظیم الشان سلطنت قائم ہے اور جس کی طرف لوٹنا ہے، ﴿وہ ہر قسم کے عیب سے پاک﴾ ہے۔

﴿فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ بِیَدِهٖ مَلَکُوْتُ کُلِّ شَیْءٍ وَّاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾ (آیت: 83)۔

2- اس سورت میں ﴿عزیز﴾ کا لفظ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ (آیات: 5، 38)

(a) قرآن مجید کی تنزیل کرنے والی ہستی عزیز بھی ہے۔ اُس کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کو دوزخ میں داخل کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ ﴿تَنْزِیْلَ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ﴾ (آیت: 5)۔

(b) سورج اپنے مستقر کی طرف گھوم رہا ہے۔ یہ عزیز یعنی طاقتور ہستی کا قائم کردہ نظام ہے۔ ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِیْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ﴾ (آیت: 38)۔

3- اس سورت میں ﴿رحیم﴾ کا لفظ بھی دو مرتبہ استعمال ہوا ہے (آیات: 5، 58)۔

(a) قرآن مجید کی تنزیل کرنے والی ہستی ﴿رحیم﴾ بھی ہے۔ اُس کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گی۔ ﴿تَنْزِیْلَ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ﴾ (آیت: 5)۔

(b) ﴿رحیم﴾ اللہ کی طرف سے اہلِ جنت کے لیے سلامتی کے احکامات جاری ہوں گے۔ ﴿سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ﴾ (آیت: 58)۔

سورت یٰس ایک جلالی سورت ہے۔ اس کے باوجود کئی مرتبہ ﴿رحمت﴾ اور ﴿رحمٰن﴾ کا ذکر کیا گیا ہے۔

4- اس سورت میں ﴿رحمٰن﴾ اور اُس کی رحمت کی دلیلیں ہیں، حالانکہ بحیثیتِ مجموعی یہ ایک جلالی سورت ہے۔

(a) کافروں نے رسولوں سے کہا کہ ﴿رحمٰن﴾ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم لوگ جھوٹے ہو۔

﴿قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَیْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَکْذِبُوْنَ﴾ (آیت: 15)۔

(b) ضدی لوگ نہ ماضی سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ﴿رحمٰن﴾ کی دعوتِ رحمت کو مسترد کر دیتے ہیں۔ (آیت: 45)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

(c) اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سمندری جہازوں کو غرق کر سکتا ہے۔ یا پھر اپنی خاص ﴿رحمت﴾ سے انہیں زندگی کی کچھ مزید مہلت عطا کر سکتا ہے۔ ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ (آیت:44)۔

(d) جنتی مومن نے توحید کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ﴿خدائے رحمٰن﴾ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو دوسرے نام نہاد خداؤں کی سفارش مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

﴿ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ﴾ (آیت:23)

(e) بن دیکھے ﴿رحمٰن﴾ سے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر کریم ہے۔

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ (آیت:11)۔

5- سورت ﴿یس﴾ میں اثباتِ توحید کے لیے ﴿غیر اللہ﴾ کی تحقیر کی گئی۔

(a) ﴿غیر اللہ﴾ کسی ڈوبنے والے کو نہیں بچا سکتے

﴿وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ﴾ (آیت:43)۔

(b) ﴿غیر اللہ﴾ کسی کی مدد کی استطاعت بھی نہیں رکھتے ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾ (آیت:75)۔

(c) ﴿غیر اللہ﴾ کی شفاعت غیر موثر ہو گی، اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے حق میں نقصان کا فیصلہ کر دے ﴿ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ﴾ (آیت:23)۔

6- مغفرت اور اجرِ کریم کا ذکر یہاں دو مرتبہ آیا ہے۔ بطور تمہید و اُصول بھی اور بطور عملی شہادت بھی۔

(a) غیب پر ایمان لا کر، رحمٰن سے ڈرتے ہوئے اللہ کی وحی کی پیروی کرنے والے کے لیے دو نعمتیں ہیں۔ مغفرت اور اجر کریم ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ (آیت:11)۔

(b) جنتی مومن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مغفرت سے نوازا، بلکہ اُسے اجر کریم دے کر ﴿مکرمین﴾ میں شامل کر دیا۔

﴿بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ (آیت:27)۔

7- توحیدِ اختیار کی وضاحت ﴿کن فیکونی﴾ اور ﴿ملکوتی﴾ صفات سے کی گئی۔

(a) اللہ تعالیٰ ﴿کن فیکونی صفات﴾ کا مالک ہے۔ کوئی کام کرنا ہو تو وہ بس ﴿کُن﴾ کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے ﴿إِنَّمَا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَیْـًٔا اَنْ یَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ ﴾ (آیت:82)۔

(b) اللہ تعالیٰ ملکوتی صفات کا مالک ہے۔ ہر شے اُس کے تصرف میں ہے ﴿فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ بِیَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَیْءٍ وَّ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴾ (آیت:83)۔ وہ دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اُس کی طرف لوٹنا ہے۔

سورۃ یٰس کا نظمِ جلی

سورۃ یٰس چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

سورت یٰس چھ (6) پیرگرافوں پر مشتمل ہے، اور پوری سورت توحید اختیار کے موضوع پر ایک ہی وحدت رکھتی ہے۔

1- آیات 1 تا 12 : پہلے پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کی ﴿رسالت کا اِثبات﴾ ہے اور اس کے لیے کتاب اَنذار قرآن کی حکمتوں کی شہادت پیش کی گئی ہے۔

اتباع ذکر (قرآن) کرنے والوں اور بن دیکھے ﴿رحمٰن﴾ پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ﴿رحیم﴾ ہوگا، جب کہ اس دعوت کو رد کرنے والوں کے لیے وہ ﴿عزیز﴾ ہوگا۔

اہلِ ایمان کے لیے مغفرت اور اجرِ کریم کی دو بشارتیں دی گئی ہیں۔ اللہ کی عزیزیت، اُس کی قدرت و طاقت اور قانونِ جزاوسزا (Law of Reward and Punishment) کی دلیل ہے۔

محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اثبات ہے اور اس کے لیے کتابِ انداز قرآن کی حکمتوں کی شہادت پیش کی گئی ہے،

اتباع ذکر (قرآن) کرنے والوں اور بن دیکھے رحمٰن پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہوگا، جب کہ اس دعوت کو رد کرنے والوں کے لیے وہ ﴿عزیز﴾ ہوگا۔

اہلِ ایمان کے لیے مغفرت اور اجرِ کریم کی دو بشارتیں ہیں۔ اللہ کی عزیزیت، اُس کی قدرت و طاقت اور قانونِ جزاوسزا کی دلیل ہے۔

2- آیات 13 تا 32 : دوسرے پیراگراف میں، ایک ﴿بستی کا واقعہ﴾ بیان کیا گیا ہے۔

جس نے تین رسولوں اور ایک ﴿مومن داعی﴾ کی باتوں کو درخورِ اعتناء نہ سمجھا اور داعی کو سنگسار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ بستی تباہ کر کے رکھ دی۔ مؤمن داعی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر کے ﴿مغفرت اور اجرِ کریم﴾ سے نوازا۔ بستی کی تباہی اور مؤمن کی مغفرت اللہ کی قدرت و طاقت اور اُس کے قانونِ جزاوسزا کی دلیل ہے۔

سچے جنتی مومن کی حسبِ ذیل دس (10) صفات بیان کی گئیں:

(1) سچا جنتی مومن، لیڈر، داعی اور مبلغ ہوتا ہے۔ ﴿اِتَّبِعُوْا﴾ پیروی کرو! (21)۔ ﴿فَاسْمَعُوْنِ﴾ مجھے سنو! (25)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(2) فعّال اور مستعد ہوتا ہے۔﴿رَجُلٌ يَّسۡعٰى﴾ دوڑتا شخص!(20)

(3) خود عامل ہوتا ہے۔﴿وَمَا لِيَ لَآ اَعۡبُدُ؟﴾ میں کیوں عبادت نہ کروں؟(22)

(4) پیروی کے لیے اس کے پاس دو(2) اہم معیار ہوتے ہیں۔ اخلاص اور کردار۔

a۔ جس کی پیروی کی جائے، وہ مخلص ہو، بندۂ زر اور مفاد پرست نہ ہو۔﴿لَّا يَسۡئَلُكُمۡ اَجۡرًا﴾ جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔(21)

b۔ جس کی پیروی کی جائے، وہ خود ہدایت یافتہ ہو۔ صاحب کردار ہو۔﴿وَهُمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ﴾ اور جو ٹھیک راستے پر ہیں۔(21)

(5) صاحب تدبُّر ہوتا ہے۔ غور و فکر کرتا ہے۔ جانچتا اور پرکھتا ہے۔ تولتا ہے، چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے، پختہ دلیل کی پیروی کرتا ہے:

a۔ ﴿وَمَا لِيَ لَآ اَعۡبُدُ الَّذِيۡ فَطَرَنِيۡ وَاِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ؟﴾(22) ''آخر کیوں نہ میں اُس ہستی کی بندگی کروں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ اور جس کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔''

b۔ ﴿ءَاَتَّخِذُ مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اٰلِهَةً ؟﴾ کیا اللہ کے علاوہ، خدا تراش لوں؟(23)

(6) کامل موحد ہوتا ہے، صفات الہیہ کا قائل ہوتا ہے اور شفاعتِ باطلہ کا منکر ہوتا ہے۔ اللہ کی صفتِ اختیار کا گہرا شعور رکھتے ہوئے، دوسرے تمام ﴿الھه﴾ کی بےبسی اور بے اختیاری کا قائل ہو جاتا ہے۔﴿اِنۡ يُّرِدۡنِ الرَّحۡمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغۡنِ عَنِّيۡ شَفَاعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا وَّلَا يُنۡقِذُوۡنِ﴾(23) ''اگر خدائے رحمٰن مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان ﴿الھه﴾ کی شفاعت میرے کسی کام آسکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں''

(7) اپنی ہدایت کے بارے میں فکر مند ہوتا اور گمراہ ہو جانے سے ڈرتا ہے۔﴿اِنِّيۡۤ اِذًا لَّفِيۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ﴾(24)
''ایسی صورت میں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا!''

(8) دعوت میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ یہ نہیں کہا:﴿اِنِّيۡۤ اٰمَنۡتُ بِرَبِّيۡ﴾ ''میں اپنے رب پر ایمان لایا'' بلکہ اس نے کہا:﴿اِنِّيۡۤ اٰمَنۡتُ بِرَبِّكُمۡ﴾ ''میں آپ لوگوں کے رب پر ایمان لایا''(25)
یعنی اُس رب اور اُس پالن ہار پر، جو آپ سب کافر لوگوں کو بھی پاس پوس رہا ہے۔

(9) دل دردمند رکھتا ہے، خود غرض نہیں ہوتا۔ صرف اپنی ہدایت پر قانع نہیں رہتا، بلکہ دوسروں کی ہدایت، مغفرت، جنت اور اجرِ کریم کے بارے میں بھی متفکر رہتا ہے۔ ایک بے قرار روح رکھتا ہے۔﴿يٰلَيۡتَ قَوۡمِيۡ يَعۡلَمُوۡنَ﴾ ''اے کاش! میری قوم جان لیتی!''(26)

(10) صاحب استقامت ہوتا ہے، دنیاوی عذاب سے نہیں ڈرتا۔ باطل سے ٹکرا جاتا ہے۔ دھمکیوں کی پروا نہیں کرتا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

موت سے بھی نہیں ڈرتا۔شہادت اور سنگساری کی سزا بخوشی قبول کرتا ہے۔

﴿لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (18)

”(کافروں نے دھمکی دی) اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے“

3- آیات 33 تا 50 : تیسرے پیراگراف میں، ﴿اسبابِ ربوبیت﴾ کا ذکر کر کے، انسان سے ﴿شکر گزاری﴾ کا مطالبہ کیا گیا اور ﴿توحیدِ اختیار﴾ کو تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

زمین کی دلیل پیش کی گئی کہ وہ موسمِ بہار میں سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ دلیلِ آخرت ہے۔ زمین میں غلے، کھجور، انگور کا انتظام ہے انسانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ رات سورج اور چاند کی دلیلیں پیش کی گئیں کہ یہ سب اللہ کی مرضی کے تابع ہیں کشتیوں کی دلیل پیش کی گئی کہ اُن کو منزل تک پہنچانا، یا غرق کر دینا، دونوں چیزیں اللہ کا اختیار ہے۔

کافروں کے اس مطالبے پر کہ قیامت کب آئے گی یہ جواب دیا گیا کہ وہ ایک دھماکہ ہوگی اور لوگوں کو نہ وصیت کرنے کا موقع ملے گا اور نہ اپنے گھروں کو پلٹنے کا۔

4- آیات 51 تا 68 : چوتھے پیراگراف میں، ﴿احوالِ قیامت﴾ اور ﴿جنت دوزخ﴾ کا ذکر کے اللہ تعالیٰ کی طاقت وقدرت اور اُس کے قانونِ جزاوسزا کی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں۔

قیامت کے مناظر پیش کیے گئے جب صور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اُس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جنت والے اور اُن کے شوہر یا بیویاں مزے میں ہوں گی۔ اُنہیں ہر قسم کا میوہ دیا جائے گا اور اُن پر اللہ کی طرف سے سلام ہوگا۔ اس کے برخلاف مجرم دوزخ میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی دعوت اور صراطِ مستقیم کو مسترد کر دیا تھا۔ ابلیس کی پیروی کی تھی۔ روزِ قیامت لوگوں کے مونہوں پر مہر لگا دی جائے گی، البتہ اُن کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ اللہ کا اختیار ثابت کیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو آنکھیں مونڈ سکتا ہے۔

5- آیات 69 تا 75: پانچویں پیراگراف میں، ﴿قرآنِ مجید اور محمد ﷺ کا مزید تعارف﴾ کرایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے شاعری نہیں، توحید ربوبیت کے دلائل پیش کر کے شرک کا اِبطال اور شکر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

بے ضمیر مردہ لوگ اِسلام کی دعوت کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، بلکہ صرف ہو باضمیر ہستیاں ہی قبول کر سکتی ہیں، جن کے دل بیدار ہیں۔ نزولِ قرآن کا مقصد ہر زندہ ضمیر رکھنے والے کو خبردار کرنا اور کافروں پر اتمام حجت قائم کرنا ہے۔

جانوروں کی دلیل پیش کی گئی کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہیں اور جن کے دیگر کئی فوائد ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6- آیات 76 تا 83 : چھٹے اور آخری پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ کافروں کی باتوں پر آزردہ ہونے کے بجائے دعوت کا کام جاری رکھیں۔

﴿نفسی دلیل﴾ دی گئی کہ انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا لیکن وہ اب متکبر ہو گیا ہے۔ اب سوال کرتا ہے کہ کون بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟

﴿عقلی دلیل﴾ پیش کی گئی کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی زندہ کرے گا۔ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اُس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ﴿کن﴾ کہتا تو چیز واقع ہو جاتی ہے

آخری آیت میں مطالبہ کیا گیا کہ ہر شے کا مکمل اختیار رکھنے والی بے عیب ہستی اللہ کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ اُسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔

مرکزی مضمون

غیر اللہ ﴿الِهَة﴾ کی بے اختیاری اور اللہ کی قدرت، طاقت اور اختیار کو تسلیم کر کے، محمد ﷺ کو رسول مان کر، آپ ؐ کی دعوتِ توحید و آخرت اور قرآن پر ایمان لانا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

37- سُوْرَۃُ الصّٰفّٰت

آیات : 182 ...... مَکِّیَّۃٌ ...... پیراگراف : 5



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الصّٰفّٰت﴾ غالباً رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 نبوی۔10 نبوی) کے آخری مرحلے میں نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب سُورۃ ﴿فاطر﴾ اور سُورۃ ﴿یٰس﴾ نازل کی گئی، جب مشرکینِ مکہ، جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، رسول اللہ ﷺ کی دعوتِ توحید کو مسترد کر کے اُن کا مذاق اُڑا رہے تھے۔ آپ کو ﴿ساحر﴾ کہہ رہے تھے اور یہ کہنے لگے تھے کہ ایک ﴿شاعرِ مجنون﴾ کے لیے ہم اپنے ﴿آلِهَة﴾ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔اس موقع پر مختلف مُخلَص ، مُؤمِن و مُحسِن انبیاء کی تاریخ سے ،انہیں کارِ رسالت اور منصبِ رسالتِ محمدی ﷺ کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے، تا کہ وہ بھی خالص توحید اختیار کر لیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خصوصیات

سورت ﴿الصّٰفّٰت﴾ میں بعض آیات ترجیع ہیں، جو بار بار دہرائی گئی ہیں۔ ﴿اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ O كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ O اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ O﴾ اس سورت میں ﴿سلام﴾ کے لفظ کی تکرار بھی ہے۔

سورۃ الصّٰٓفّٰت کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿یٰس﴾ میں ﴿اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ﴾ کہہ کر آپ ﷺ کو سلسلۂ رسالت کی آخری کڑی بتایا گیا تھا۔ یہاں سورت ﴿الصّٰٓفّٰت﴾ میں چند رسولوں کی خدماتِ توحید کا تذکرہ کر کے، یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سلامتی اللہ کے رسولوں کے لیے ہے۔ ﴿سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ﴾

2۔ سورۃ ﴿فاطر﴾ میں بیان کردہ ﴿فرشتوں کی عبادت﴾ کی نفی کے مضمون کو یہاں اور زیادہ کھول دیا گیا ہے۔

3۔ یہاں سورت ﴿الصّٰٓفّٰت﴾ میں نو انبیاء حضرات نوحؑ، ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحٰقؑ، لوطؑ، موسیٰؑ، ہارونؑ، الیاسؑ، یونسؑ کی خدمات کا ذکر ہے۔ اگلی سورت ﴿ص﴾ میں تین انبیاء حضرات داوٗدؑ، سلیمانؑ اور ایوبؑ کی ﴿اوابیت﴾ کا ذکر ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿صف بستہ فرشتے﴾ مشرکینِ مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہاں اس کی تردید کی گئی۔

(a) پہلی آیت ہی میں صف بستہ فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ وہ خدائی میں شریک نہیں ہیں بلکہ اللہ تو صرف ایک ہے۔ ﴿وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا﴾ (آیت:1)۔

(b) یہی بات آیات 164 تا 166 میں دہرائی گئی ہے۔ ﴿وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ﴾ (آیت:165)۔

2- اس سورت میں ﴿عقیدۂ توحید﴾ کو ثابت کیا گیا ہے۔ الوہیت میں فرشتوں کی شمولیت کی تردید کی گئی ہے۔

(a) چوتھی آیت ہی میں صاف کہہ دیا گیا کہ انسانوں کا خدا بس ایک ہی ہے۔

﴿اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ (آیت:4)۔

(b) مشرک سرداروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ﴿توحید کی دعوت﴾ پر تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

﴿اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ﴾ (آیت:35)۔

(c) مشرکین سے پوچھا گیا کہ حقیقی خدائے واحد ﴿اللہ﴾ کے علاوہ تم کیا کچھ مزید خداؤں کے خواہش مند ہو؟

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴾ (آیت:86)۔

3- اس سورت میں ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ کے الفاظ کے ذریعے مشرکین مکہ سے مجادلہ کیا گیا۔

(a) ان سے پوچھیے کہ انسان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا دیگر چیزیں؟ (جیسے: پہاڑ) انسان کو تو چکنی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ﴾ (آیت:11)

(b) ان سے پوچھیے کہ ان کے لیے تو لڑکے مناسب ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟ واہ واہ! کیا سوچ ہے؟

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ﴾ (آیت:149)۔

4- اس سورت میں مشرکینِ مکہ کے اس قول کو نقل کیا گیا کہ کیا ہم ایک ﴿ مجنون شاعر ﴾ کے لیے اپنے ﴿ اٰلِهَة ﴾ یعنی خداؤں کو چھوڑ دیں؟ ﴿وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴾ (آیت:36)۔

5- اس سورت میں پانچ مرتبہ ﴿ عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴾ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انبیاء ﴿ مُخْلِص ﴾ بھی ہوتے ہیں اور ﴿ مُخْلَص ﴾ بھی۔ وہ خالص توحید اختیار کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن کر خالص کر لیتا ہے۔ وہ اللہ کے مطیع فرمان وفادار بندے ہوتے ہیں۔ (آیات:40 ، 74 ، 128 ، 160 اور 169)

6- اس سورت میں چار مرتبہ ﴿ اَلْمُحْسِنِيْنَ ﴾ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انبیاء داعی، مبلغ، صالح اور باعمل لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان اور عمل کے مطابق جزا دیتا ہے۔ ﴿اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ﴾ (آیات:80 ، 110 ، 121 اور 131)

7- اس سورت میں چار مرتبہ ﴿ اَلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انبیاء کامل ایمان رکھتے ہیں۔ وہ خدائی میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے بندے، عبادت گزار اور اطاعت شعار ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ اور حضرت الیاسؑ کے ذکر کے بعد فرمایا: ﴿اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (آیات:81 ، 111 ، 122 اور 132)

8- اس سورت میں پانچ مرتبہ ﴿ سَلٰمٌ ﴾ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ رسولوں کے لیے سلامتی ہوتی ہے اور رسولوں کے مخالفین کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ سورت کے درمیان پانچ انبیاء کا نام لے لے کر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ توحید کی دعوت کو عام کرنے کے سلسلے میں ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا اور بالکل آخر میں تمام رسولوں کو ﴿ سلام ﴾ کہا گیا۔

(a) سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ (آیت 79) (b) سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ (آیت 109)

(c) سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (آیت 120) (d) سَلٰمٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ (آیت 130)

(e) سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ (آیت 181)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ الصّافات کا نظمِ جلی

سورۃ الصافات پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 74: پہلے پیراگراف میں، ﴿فرشتوں کی الوہیت﴾ میں شمولیت کی تردید کر کے توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات کیا گیا اور بتایا گیا کہ مؤمنین اور منکرین کا انجام مختلف ہوگا۔

(a) فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی کہ وہ صف باندھے رہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ الوہیت میں شریک نہیں ہیں۔ خدائے واحد تو صرف اللہ ہے۔

(b) ﴿جنات﴾ بھی اللہ تک رسائی نہیں رکھتے۔ نہ وہ غیب کی خبریں جان سکتے ہیں۔ وہ بھی ﴿اُلوہیت﴾ میں شریک نہیں ہیں۔ ملاء اعلیٰ کی طرف کان لگانے کی کوشش کریں تو اُن پر شہابِ ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔
قریش سے پوچھا گیا کہ انسان کی تخلیق زیادہ اہم ہے یا دیگر اور چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔

(c) ﴿قرآن کا مذاق﴾ اڑانے اور اُسے جادو کہنے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے کے بجائے قریش کو اسلام کی دعوت قبول کر لینا چاہیے۔ تم لوگ ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ وہاں ذلیل ہو گے اور تمہاری شامت کا دن آجائے گا۔ تمام مشرکوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ وہاں کوئی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا۔

(d) ﴿لیڈر اپنے پیروکاروں سے﴾ کہیں گے کہ قصور تمہارا اپنا تھا۔ تم خود ہی سرکش تھے۔ وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ مشرک لیڈر اور اُن کے پیروکار دونوں عذاب میں شریک ہوں گے۔ یہ ﴿لیڈر﴾ تکبر میں گرفتار تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک دیوانے شاعر کے لیے ہم اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟

(e) محمد ﷺ حق لے کر آئے ہیں۔ آپ کے بارے میں پچھلے رسولوں نے پیش گوئی کی تھی۔ دوزخ کے عذاب سے صرف مخلص اہلِ توحید ہی محفوظ رہیں گے۔ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ رزق، میوے، باغات، نتھری شراب، باحیاء بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ یہ قیامت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔

(f) قیامت کا انکار کرنے والے جہنم کے بالکل بیچ میں ہوں گے۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اسی کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوزخ میں زقوم کا درخت ہے۔ دوزخی اسی سے پیٹ بھریں گے۔ اس میں گرم پانی شامل کیا جائے گا۔ یہ اپنے باپ دادا کے اندھے مقلد تھے۔ انہوں نے رسولوں کی تعلیمات پر غور نہیں کیا۔
اللہ کے مخصوص بندے ہی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔

2- آیات 75 تا 148: دوسرے پیراگراف میں، نو (9) ﴿انبیاء کی خدماتِ تبلیغ﴾ پر خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔

(a) ﴿حضرت نوحؑ﴾ (آیات: 75 تا 82)۔ آپ نے توحید کی دعوت پر لبیک کہی۔ آپ کو اور آپ کے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پیروکاروں کو اللہ نے کربِ عظیم سے نجات دی۔ آپ کو دنیا میں باقی رکھا، آپ اللہ کے محسن اور مومن بندے تھے۔ کافروں کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔

(b) ﴿حضرت ابراہیمؑ﴾ (آیات:83 تا 100)۔ آپ بھی حضرت نوحؑ کی جماعت سے تھے، قلب سلیم رکھتے تھے۔ اپنی قوم اور اپنے والد سے توحید کے مسئلے پر مجادلہ کیا۔ بت پرستی سے سخت نفرت تھی۔ بتوں سے خطاب کر کے کہا: تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہیں پاش پاش کر دیا۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اللہ ہی تم لوگوں کا خالق بھی ہے اور اُن بتوں کا بھی، جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہوئے۔ آپ نے صالح اولاد کی دعا کی، جو قبول ہوئی۔

(c) ﴿حضرت اسمٰعیلؑ﴾ (آیات:101 تا 111)۔ والد کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے، نہایت حلیم تھے۔ والد نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ فرمانبردار بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اُس پر عمل کر ڈالیے۔ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اس طرح باپ اور بیٹے نے اللہ کی مرضی کے آگے سرِ تسلیم خم کر دیا۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ یہ رسم باقی رکھی گئی۔

(d) ﴿حضرت اسحٰقؑ﴾ (آیات:112 تا 113)۔ پھر حضرت ابراہیمؑ کو دوسرے بیٹے کی بشارت دی گئی۔ آپ بھی صالح تھے۔ آپ پر اور آپ کی نسل پر برکات نازل ہوئیں، لیکن ان میں کچھ محسن ہیں اور کچھ ظالم۔

(e) ﴿حضرت موسیٰ اور ہارونؑ﴾ (آیات:114 تا 122)۔ ان دونوں پر بھی اللہ نے احسان کیا۔ ان دونوں کو بھی کربِ عظیم سے نجات دی۔ روشن کتاب توراۃ عطا فرمائی۔ سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ کے طریقے پر ایک گروہ قائم رہا۔

(f) ﴿حضرت الیاسؑ﴾ (آیات:123 تا 132)۔ آپ کی قوم ﴿بعل﴾ نامی بت کی پوجا کرتی تھی، آپ نے توحید کی دعوت دی۔ آپ نے قوم سے بحث کی کہ آپ لوگ ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ کو چھوڑ کر اس بت کی پوجا کر رہے ہیں؟ اللہ ہی آپ کا اور آپ کے آباء واجداد کا رب ہے، لیکن انہوں نے حضرت الیاسؑ کو جھٹلایا۔

(g) ﴿حضرت لوطؑ﴾ (آیات:133 تا 138)۔ آپ بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو بچالیا، سوائے بیوی کے۔ بقیہ لوگ ہلاک کیے گئے۔ اس ہلاک شدہ بستی پر لوگ صبح وشام گذرتے ہیں۔ انہیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بدکاروں کو کیسی سزا دیتا ہے؟

(h) ﴿حضرت یونسؑ﴾ (آیات:139 تا 148)۔ آپ بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اپنی بستی چھوڑ کر ایک بھری کشتی کی طرف بھاگے۔ قرعہ آپ کے نام کا نکلا اور سمندر میں پھینکے گئے اور مچھلی نے نگل لیا۔ سزاوارِ ملامت تھے، لیکن اُنہوں نے وہاں اللہ کی بے عیبی (اور اپنی غلطی) کا اعتراف کیا، ورنہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اُنہیں ایک خشک ساحل پر مچھلی نے اگل دیا۔ وہ نڈھال تھے۔ اُن پر ایک بیل دار پودا اگا دیا گیا۔ پھر انہیں ایک لاکھ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بلکہ اُس سے بھی زیادہ لوگوں کی بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ وہ ایمان لے آئے تو انہیں مہلتِ عمل عطا کی گئی۔

3- آیات 149 تا 166: تیسرے پیراگراف میں بھی ﴿فرشتوں کی الوہیت﴾ کی تردید کی گئی۔

پہلے پیراگراف کا اعادہ ہے، جس میں توحید کے اثبات کے لیے، فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی تھی۔
مشرکینِ مکہ نہ صرف فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، بلکہ اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ جوڑتے تھے۔ چنانچہ یہاں فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے حضور صف بستہ ہو کر خدمت انجام دیتے ہیں اور اس کی تسبیح یعنی بے عیبی کا اعتراف کرتے رہتے ہیں اور جنات کو خود بھی پتہ ہے کہ اُن کے شیاطین، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

4- آیات 167 تا 179: چوتھے پیراگراف میں، رسول کریم ﷺ کو تسلی دے کر ہدایات اور بشارتیں دی گئیں اور ﴿کفار کو دھمکی﴾۔

مشرکین پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی تعلیم آتی تو ہم مخلص بندے بن جاتے، لیکن رسول اللہ ﷺ کے آنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے لشکر ہی غالب رہتے ہیں۔ ان حالات میں رسول اللہ ﷺ کو کچھ دن کے لیے ان سے اعراض کرنا چاہیے۔ آپ انہیں دیکھتے رہیے، وہ بھی دیکھیں گے۔ جس عذاب کے لیے یہ جلدی کر رہے ہیں، وہ ان کے صحنوں میں اترے گا۔ یہ ایک بہت بری صبح ہو گی۔

5- آیات 180 تا 182: پانچویں اور آخری پیراگراف میں، خالص توحید کی وضاحت، شرک کی تردید اور رسولوں کی خدمات پر خراجِ تحسین ہے۔

یہ آخری تین آیات ہیں۔ اللہ کی عزت و اقتدار میں کوئی شریک نہیں۔ وہ بے عیب ذات اُن تمام غلط اور منفی صفات سے پاک ہے جو اُس کی ذات سے منسوب کی جاتی ہیں۔ ﴿سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ﴾
تمام رسولوں کی خدمات پر خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ ان کے لیے سلامتی ہے۔ ﴿وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ﴾
ہلاکت اور بربادی تو رسولوں کے مخالفین کا مقدر ہو گی۔ شکر کا سزاوار، صرف اللہ ہے، جو تمام جہانوں کا نظام چلا رہا ہے۔ ﴿وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾۔
یہی مضمون سورۃ النمل کی آیت: 59 میں بھی بیان ہوا ہے، لیکن وہ اس کا مرکزی مضمون نہیں ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، بلکہ صف بستہ خادم وتسبیح خواں ہیں۔ جنات بھی اُلوہیت میں شریک نہیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ تمام انبیاءؑ اور رسولوں کی تعلیمات پر توجہ سے غور کرے۔ انبیاءؑ ﴿مخلص﴾، ﴿مؤمن﴾ اور ﴿محسن﴾ اللہ کے نیک اور وفادار بندے ہوتے ہیں۔ صحیح عقیدۂ توحید اور انسانوں کی اصلاح کے سلسلے میں ان کی عظیم الشان خدمات ہیں۔ یہ سلامت رہتے ہیں اور ان کے مخالفین کے لیے بربادی ہے۔ لہٰذا خالص عقیدۂ توحید اختیار کرنے ہی میں انسان کی نجات ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

38- سُوْرَۃُ صٓ

آیات : 88 ...... مَکِّیَّۃ" ...... پیراگراف : 8

www.KitaboSunnat.com



زمانۂ نزول:

غالباً دس نبوی میں نازل ہوئی، جب ابو طالب مرضِ وفات میں مبتلا تھے اور جب آپ ﷺ کو ﴿ "سَاحِرٌ کَذَّابٌ" ﴾ کہا جا رہا تھا۔

مشرکینِ مکہ سخت استکبار اور ضد ﴿ عِزَّۃٍ وَ شِقَاقٍ ﴾ میں مبتلا تھے اور قرآن کی دعوت کی تکذیب کر رہے تھے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ ص کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿الصّٰٓفّٰت﴾ میں حضرات نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ وہارونؑ، الیاسؑ، لوطؑ اور یونسؑ کی خدماتِ توحید اور اُن کے اعلیٰ کرداری کی تصویریں تھیں۔ یہاں سورت ﴿صٓ﴾ میں حضرتِ داودؑ، سلیمانؑ اور ایوبؑ کی ﴿اَوَّابیت﴾ اور چند دیگر انبیاء کی خدماتِ توحید اور اُن کے اعلیٰ کردار کا تذکرہ ہے۔

2- اگلی سورت ﴿الزمر﴾ میں توحید کی تفصیل بیان کر کے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- سورت ﴿صٓ﴾ میں قرآن کا تعارف بھی ہے، اس پر غور کرنے کی دعوت بھی ہے اور قبولیت پر اجر وثواب کا بھی ذکر ہے۔

(a) قرآن ایک کتابِ نصیحت ہے۔ خود اس کو بطورِ دلیل پیش کیا گیا ہے۔

﴿صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّکْرِ﴾ (آیت:1)

(b) قرآن ایک ایسی کتابِ نصیحت ہے، جو تمام جہان والوں کے لیے اتمامِ حجت ہے۔

﴿اِنْ ھُوَ اِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ﴾ (آیت:87)

(c) قرآن ایک ایسی نصیحت ہے، جو اپنے ماننے والوں اور اُس کے احکام پر عمل کرنے والوں کے لیے بہترین انجام کی ضامن ہے۔ ﴿ھٰذَا ذِکْرٌ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ﴾ (آیت:49)۔

(d) قرآن ایک بابرکت اور فیض رساں کتاب ہے۔ ہر عقل مند کو اس میں تفکر اور تدبر سے کام لے کر نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ (آیت:29)

﴿کِتٰبٌ اَنْزَلْنٰہُ اِلَیْکَ مُبٰرَکٌ لِّیَدَّبَّرُوْا اٰیٰتِہٖ وَلِیَتَذَکَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾

2- اس سورت میں مشرکینِ مکہ کے رویوں پر روشنی ڈالی گئی۔

(a) مشرکینِ مکہ حیرت میں تھے کہ کیا کئی خداؤں کے بجائے، محمدؐ نے صرف ایک خدا بنا لیا ہے؟

﴿اَجَعَلَ الْاٰلِھَۃَ اِلٰھًا وَّاحِدًا اِنَّ ھٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ﴾ (آیت:5)

(b) مشرکینِ مکہ کو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ ہمارے درمیان میں سے آخر کیوں صرف محمد ﷺ پر قرآن نازل کیا گیا۔ پھر وہ شک میں پڑ گئے۔ (آیت:8)

﴿ءَاُنْزِلَ عَلَیْہِ الذِّکْرُ مِنْ بَیْنِنَا بَلْ ھُمْ فِیْ شَکٍّ مِّنْ ذِکْرِیْ﴾

(c) مکہ کے مشرک سرداروں نے ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے ﴿اٰلِھَۃ﴾ خداؤں پر جمے رہنے کا عزم کیا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ اَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ ﴾ (آیت:6)

(d) مشرکینِ مکہ کو بتادیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ تو ﴿مُنْذِر﴾ صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ خدائے واحد کے علاوہ کوئی اور ﴿اله﴾ خدا نہیں۔

﴿ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (آیت:65)

(e) رسولِ کریم ﷺ کو عالمِ بالا کی کچھ خبر نہ تھی، مگر جب وحی کی گئی تو علم ہوا کہ آپ ﷺ کو ﴿نَذِیر﴾ صاف خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ﴿ اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴾ (آیت:70)

(f) مشرکینِ مکہ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ غرور، ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں۔

﴿ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ﴾ (آیت:2)

(g) مشرکینِ مکہ کو تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا کہ ﴿تکذیب﴾ یعنی جھٹلانے میں وہ پہلے نہیں ہیں، بلکہ ان سے پہلے قومِ نوحؑ، قومِ عادؑ، قومِ فرعون، قومِ ثمودؑ، قومِ لوطؑ اور اصحاب الایکہ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ ﴾ (آیت:13)

(h) مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ تاریخ پر غور کرو اللہ نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا وہ چیخے اور چلائے لیکن جائے پناہ نہ ملی۔

﴿ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ﴾ (آیت:4)۔

-3 اس سورت میں ﴿تین رسولوں کی اِنابت﴾ کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت داودؑ، حضرت سلیمانؑ اور حضرت ایوبؑ سبھی ﴿اَوَّاب﴾ تھے۔

(a) حضرت داودؑ اللہ کے وفادار بندے بھی تھے۔ صاحبِ اقتدار بھی تھے، لیکن ﴿اَوَّاب﴾ بھی تھے۔ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کیا کرتے۔ ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴾ (آیت:17)

(b) حضرت سلیمانؑ بھی اللہ کے وفادار بندے بھی تھے۔ صاحبِ اقتدار بھی تھے، لیکن ﴿اَوَّاب﴾ بھی تھے۔ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کیا کرتے۔

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴾ (آیت:30)۔

(c) حضرت ایوبؑ بھی اللہ کے وفادار بندے بھی تھے۔ نہایت صابر اور ﴿اَوَّاب﴾ بھی تھے۔ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کیا کرتے۔ ﴿ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴾ (آیت:44)

-4 اس سورت میں دو نبیوں حضرت داودؑ اور حضرت سلیمانؑ کے استغفار کا ذکر کیا گیا۔

(a) حضرت داودؑ نے بھی اللہ تعالیٰ سے ﴿استغفار﴾ کیا۔ اللہ کے آگے جھک پڑے اور اللہ کی اِنابت اختیار کی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ﴾ (آیت:24)

(b) حضرت سلیمانؑ نے بھی اللہ تعالیٰ سے ﴿استغفار﴾ کیا اور دعا کی کہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی جائے جو صرف انہی کے لیے زیبا ہو۔

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (آیت:35)

5- اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کے قدردانوں اور اُس کے منکرین کا انجام مختلف ہوگا۔

(a) قرآن ایک کتابِ نصیحت ہے۔ جو شخص قرآن کے مطابق بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے اُس کے لیے بہترین ٹھکانا ہوگا۔ ﴿ هٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴾ (آیت:49)

(b) جو شخص قرآن کی نصیحت کو نظر انداز کر کے تقویٰ ترک کر کے باغی اور سرکش بن کر زندگی گزارتا ہے، اُس کے لیے بدترین ٹھکانا ہے۔ ﴿ هٰذَا ۚ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴾ (آیت:55)۔

سورۃ صٓ کا نظمِ جلی

سورۃ ﴿ص﴾ آٹھ (8) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 16: پہلے پیراگراف میں تمہید ہے۔ قرآن کتابِ نصیحت ہے۔ محمد ﷺ کو جھٹلانے والے ہلاک ہوں گے۔

قرآن کی حقانیت پر اُس کے ﴿ ذِی الذِّكْرِ ﴾ ہونے سے دلیل و شہادت پیش کر کے مشرکینِ مکہ کی ضد، ہٹ دھرمی اور تکبر پر انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔

قریش کے سردار کہتے تھے کہ اپنے خداؤں پر جمے اور ڈٹے رہو۔ یہ شک میں مبتلا تھے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ پر الزامات عائد کیے کہ آپ ﷺ ﴿ سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ ایک جادوگر اور اونچے درجے کے جھوٹے ہیں۔ ان کے تکبر کی تحقیر کی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس اللہ کی بادشاہی اور اس کی رحمت کے خزانے ہیں۔ یہ شکست کھائیں گے۔ ان کے رد یے پچھلی چھ قوموں ہی کی طرح ہیں، جن پر اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ یہ بھی عذاب کے منتظر ہیں۔

2- آیات 17 تا 29: دوسرے پیراگراف میں حضرت داؤدؑ کی زندگی سے استدلال کیا گیا ہے کہ دعوتِ قرآن برحق ہے۔

(a) رسول اللہ ﷺ کو جادو اور جھوٹ کے الزامات پر صبر کر کے حضرت داؤدؑ کا قصہ سنانے کا حکم دیا گیا، جن کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کیے گئے تھے۔ جو ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثناء کرتے۔ جنھیں نہ صرف حکومت سے بلکہ حکمت اور معاملہ فہمی بھی عطا کی گئی تھی۔ یہ ﴿اَوَّابٌ﴾ تھے۔ ان کے پاس فرشتوں کو امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی۔ اللہ کے ہاں ان کو تقرب

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حاصل ہے۔

(b) حکومت اور عدل: حضرت داوٗدؑ کو خلیفہ بنا کر حکومت دی گئی۔ عدل سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ عدل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خواہشات نفس ہوتی ہیں، جو گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ گمراہوں کے لیے عذاب ہوگا۔

(c) یہ کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی گئی۔ یہ دارِ امتحان ہے۔ انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے۔

(d) ﴿ فُجَّار مُفسِدِین ﴾ اور ﴿ مُتَّقِین مُؤمِنِین ﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔ جنت اور دوزخ کی جزاء وسزا عادلانہ ہے۔

(e) قرآن ایک بابرکت کتاب ہے۔ عقل مندوں ﴿ اُولُو الالباب ﴾ قرآن پر تدبر وتذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔

3- آیات 30 تا 40: تیسرے پیراگراف میں حضرت سلیمانؑ کی زندگی سے استدلال کیا گیا ہے کہ دعوتِ قرآن برحق ہے۔

حضرت سلیمانؑ حضرت داوٗدؑ کے بیٹے تھے۔ یہ بھی ﴿ اَوَّاب ﴾ تھے۔ انہیں بھی حکومت عطا کی گئی تھی۔ شام کے وقت ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے۔ ان کے معائنے میں اس قدر منہمک ہوئے کہ اللہ کے ذکر (نماز) سے رہ گئے۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ آپؑ کو بہت افسوس ہوا، چنانچہ آپ نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ پھر انہیں اللہ نے آزمایا۔ انہوں نے استغفار کیا۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں ایک عظیم الشان حکومت عطا کی گئی۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا۔ جنات تابع کر دیے گئے۔ بعض جنات ماہر معمار تھے اور بعض غوطہ خور، جو اِن کے لیے موتی لایا کرتے۔

بعض شیطان جنات کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ حضرت سلیمانؑ بھی اللہ کے مقرب بندے تھے۔ ان کے لیے بھی بہترین ٹھکانا ہوگا۔

4- آیات 41 تا 44: چوتھے پیراگراف میں حضرت ایوبؑ کی زندگی سے استدلال کیا گیا ہے کہ اس راہ میں صبر وثبات کا توشہ ضروری ہے۔

حضرت ایوبؑ بھی اللہ کے ایک صابر نبی تھے۔ یہ بھی ﴿ اَوَّاب ﴾ تھے۔ ان کی دولت اور صحت چھن گئی۔ انہوں نے دعا کی کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر پیر مارو، چشمہ پھوٹے گا۔ اس سے نہانا اور پینا۔ چنانچہ اس معجزے سے وہ ٹھیک ہوگئے۔ انہیں ان کے اہل وعیال اور ان کا فضل عطا کیا گیا۔ عقل مندوں کو اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے قسم کھائی تھی۔ اس کے کفارے کے لیے انہیں تنکوں کا ایک گٹھا لے کر مارنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بہت صابر، وفادار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔

5- آیات 45 تا 48: پانچویں پیراگراف میں چند پیغمبروں کی خدمات سے استدلال کیا گیا ہے کہ دعوتِ اسلام برحق ہے۔

تین پیغمبروں کے تفصیلی ذکر کے بعد مندرجہ ذیل چھ پیغمبروں کا اجمالی ذکر کیا گیا کہ یہ بھی اللہ کے چیدہ اور منتخب بندے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ، اسحٰقؑ، یعقوبؑ، اسمٰعیلؑ، الیسعؑ، ذوالکفلؑ بھی انبیاء ﴿ مخلَص ﴾ اور ﴿ اَخیار ﴾ تھے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6- آیات 49 تا 64 : چھٹے پیراگراف میں قرآن کی دعوت کو قبول کرنے کا مشورہ دے کر قبولیت اور انکار کا انجام واضح کر دیا گیا۔

(a) قرآن ایک ﴿ ذِکر ﴾ نصیحت ہے۔ اسے مان کر بچ بچ کر چلنے والے ﴿ مُتقین ﴾ کے لیے بہترین ٹھکانا ہوگا۔
باغات، میوے، شراب با حیاء حوریں اور نہ ختم ہونے والا رزق۔

(b) قرآن کی دعوت کو مسترد کرنے والے سرکش ﴿ طاغین ﴾ کا انجام بہت برا ہوگا، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہوگا۔ دوزخیوں کو حیرت ہوگی کہ یہاں ہم اُن لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جنہیں ہم اَشرار سمجھتے تھے اور جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔

7- آیات 65 تا 85 : ساتویں پیراگراف میں قبولیتِ حق کی راہ کی رکاوٹوں کا تذکرہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ ایک ﴿ مُنذِر ﴾ خبردار کرنے والے ہیں۔ ان کی دعوت قبول کرلو کہ اللہ صرف ایک ہے۔
قبولِ حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ابلیس ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہوگیا۔
اُس کا غرور یہ تھا کہ وہ حضرت آدم ؑ کو مٹی کی تخلیق اور خود کو آگ کی تخلیق قرار دیتا ہے۔ اُس پر روزِ قیامت تک لعنت ہے۔ اُس نے اللہ سے روزِ قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی۔ اُسے یہ مہلت عطا کر دی گئی۔ اُس نے اللہ کی عزت واقتدار کی قسم کھا کر کہا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ ہاں اللہ کے مخلص بندے اس کے دام میں گرفتار نہیں ہوسکیں گے۔
اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس! میں تیری اور اُن لوگوں کی ذرّیت میں سے تیری پیروی کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کرکے رہوں گا۔

8- آیات 86 تا 88 : آٹھویں اور آخری پیراگراف میں قرآن کی دعوت ہے۔ مومنین کے لیے بشارت اور کافرین کے لیے دھمکی ہے۔

آخری پیراگراف میں بھی پہلے پیراگراف کی دعوت کا اعادہ ہے۔
کافرین پر واضح کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ اپنی دعوت میں مخلص ہیں۔ لوگوں سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں اور نہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں، جو تصنع اور تکلف سے کام لیتے ہیں۔
قرآن ایک ایسی نصیحت ہے، جو سارے جہان والوں کے لیے حجت ہے۔
آخری آیت میں مشرکینِ مکہ کو دھمکی دی گئی کہ چند سالوں میں واضح ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہوگا اور کس کے مقدر میں ہزیمت اور شکست ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے فتح کی بشارت اور کافروں کے لیے ہلاکت کی دھمکی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

قرآن سارے جہان والوں کے لیے ایک کتابِ نصیحت ہے۔ حضرات داودؑ ، سلیمانؑ اور ایوبؑ وغیرہ کی طرح محمد ﷺ بھی اللہ کے نبی اور ﴿مُنْذِر﴾ ہیں۔ کافر محض ضد اور تکبر کی وجہ سے قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہلاکت ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

39- سُورَةُ الزُّمَر

آیات :75 ...... مَکِّیَّۃ“...... پیراگراف : 6



زمانہ نزول:

سورت ﴿الزُّمَر﴾ سورت ﴿الکھف﴾ اور اعلانِ عام کے بعد، ہجرتِ حبشہ (رجب 5 نبوی) سے پہلے، غالباً 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی، جب قرآن کی دعوتِ توحید کا چرچا گھر گھر عام ہو چکا تھا اور مشرکینِ مکہ کے خود ساختہ عقیدۂ شفاعت اور بتوں کی پوجا کے ذریعے تقربِ الٰہی حاصل کرنے کے عقیدے پر اصرار کیا جا رہا تھا۔ ظلم کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا۔

یہ وہی زمانہ تھا، جب سورت ﴿العنکبوت﴾ اور سورت ﴿الرُّوم﴾ کا نزول ہوا۔ سورت ﴿الزُّمَر﴾ کی آیت نمبر 10 میں بھی سورت ﴿العنکبوت﴾ کی آیت:56 کی طرح ہجرت حبشہ کا اشارہ موجود ہے ﴿وَاَرضُ اللّٰہِ وَاسِعَۃٌ“﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خصوصیات

1- سورت ﴿الزُّمَر﴾ کے میں ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور ﴿كَافِرِين﴾ کے مقابلے میں ﴿الَّذِينَ اتَّقَوا﴾ اور ﴿مُتَّقِين﴾ کے الفاظ بار بار استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ اس سورت میں ان کے درمیان تقابل اور موازنہ پایا جاتا ہے۔

2- اس سورت میں، سوالیہ اسلوب کے ذریعے مشرکینِ مکہ کے ضمیر کو جھنجوڑا گیا ہے ، چنانچہ ﴿أَمَّن﴾ آیت:8 اور ﴿أَفَمَنْ﴾ آیات 22 اور 24 کے الفاظ سے شروع ہونے والی آیتوں میں غور وفکر کی دعوت دی گئی ہے۔

سورةُ الزُّمَر کے فضائل

حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں: ﴿كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ عَلٰى فِرَاشِهٖ حَتّٰى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ﴾

”رسول اللہ ﷺ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کی تلاوت کے بغیر بستر پر نہیں لیٹتے تھے۔“

(سنن ترمذی: کتاب فضائلِ قرآن ، حدیث 2,920 ، حسن غریب)

سورةُ الزُّمَر کا کتابی ربط

1- پچھلی سورتوں میں حضرات داودؑ، سلیمانؑ ، ایوبؑ وغیرہ کے حوالے سے تاریخی دلائل تھے۔ یہاں ﴿الزُّمَر﴾ میں طاغوت سے اجتناب کرتے ہوئے، آفاقی اور انفسی دلیلوں کی روشنی میں، توحیدِ خالص کا مطالبہ اور ردِّ شرک ہے۔

2- سورت ﴿يٰسٓ﴾ ایک جلالی سورت تھی، جس میں مشرکین کو اللہ کے اختیارات سمجھائے گئے تھے۔ اس کے بعد سورت ﴿الصَّافَّات﴾ میں فرشتوں اور جنات کی اُلوہیت کی تردید اور اللہ کے منتخب برگزیدہ انبیاء کی توحیدی خدمات کا ذکر تھا۔ پچھلی سورت ﴿ص﴾ میں مشرکین کی ضد اور تکبر کا تذکرہ تھا۔ یہاں سورۃ ﴿لزمر﴾ میں خالص توحید اختیار کرنے کا مطالبہ ہے اور اس راہ میں ہجرت کی ترغیب ہے۔

3- سورۃ ﴿الصَّافَّات﴾ میں کئی مرتبہ انبیاء کو ﴿مُخْلَصِين﴾ کہا گیا تھا، جو توحید اور اُس کی دعوت کے لیے خالص کر لیے گئے تھے۔

یہاں ﴿الزُّمَر﴾ میں اُن کی خالص دعوت مان کر ﴿خالص توحید﴾ کا مطالبہ ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- سورۃ ﴿الزُّمَر﴾ میں قرآن مجید کا تعارف ہے کہ یہ اللہ کی تنزیل ہے، سراسر حق ہے، کجی اور ٹیڑھ سے پاک ہے، بہترین اور پرتاثیر کلام ہے، لہذا ملاوٹ اور آمیزش کے بغیر صرف ایک خدا ﴿اللہ﴾ ہی کی عبادت واطاعت کی جانی چاہیے۔

(a) قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، جو زبردست غالب اور حکیم اللہ کی طرف سے بتدریج نازل کی گئی ہے۔

﴿تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ﴾ (آیت:1)۔

(b) قرآن مجید سراسر حق ہے۔ جو اس کی ہدایت قبول کرے گا وہ خود فائدے میں رہے گا، گمراہ ہونے والے کے لیے نبی ﷺ محافظ نہیں ہو سکتے۔

﴿اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ﴾ (آیت:41)۔

(c) قرآن مجید ہر قسم کے ٹیڑھ سے پاک ہے۔ اسے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں۔ ﴿قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ﴾ (آیت:28)۔

(d) قرآن مجید بہترین کلام ﴿اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ﴾ ہے۔ اس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر اور پڑھ کر اہلِ خشیت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی ہدایت ہے کہ اس سے لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ (آیت:23)

﴿اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ج ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ﴾

(e) قرآن مجید میں مختلف قسم کی مثالوں سے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ (آیت:27)

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ﴾

(f) قرآن مجید کو سراسر حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، لہذا ملاوٹ اور آمیزش کے بغیر اللہ کی خالص عبادت اور اطاعت کی جانی چاہیے۔

﴿اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ﴾ (آیت:2)۔

2- دعوت: اس سورت میں قرآن کی دعوت کو مندرجہ ذیل نکات میں پیش کیا گیا ہے۔

(a) اللہ کی ملاوٹ اور آمیزش کے بغیر خالص عبادت اور اطاعت کی دعوت دی جا رہی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴾ (آیت:2)۔

"دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کرو۔"

(b) اللہ کی طرف ﴿إنابت﴾ یعنی رجوع کرنے اور ﴿اسلام﴾ کی یعنی اس کے آگے سرِ تسلیم خم کر دینے کی دعوت دی جارہی ہے۔ ﴿ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ ﴾ (آیت:54)۔

(c) حکم دیا گیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اُسی کا ﴿شکر﴾ ادا کیا جائے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ﴿ناشکرے﴾ ہوتے ہیں۔ ﴿ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴾ (آیت:66)۔

(d) قرآن مجید کی غلط تاویل و تفسیر کرنے کے بجائے، اُس کے بہترین پہلوؤں کی پیروی کی دعوت دی جارہی ہے۔ یہی مضمون آیت نمبر 18 میں بھی بیان کیا گیا۔ ﴿ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ﴾ (آیت:55)۔ ﴿ اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ﴾ (آیت:18)۔

3- سورۃ الزمر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بار بار ﴿خالص﴾ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور خالص عبادت کی دعوت دی گئی۔

(a) لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ اللہ کے لیے ملاوٹ اور آمیزش سے پاک خالص عبادت اور اطاعت ہی زیبا ہے۔

﴿ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ﴾ (آیت:3)۔

(b) رسول اللہ ﷺ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ مجھے بھی آمیزش اور ملاوٹ سے پاک خالص عبادت اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ﴿ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴾ (آیت:11)۔

(c) قرآن سراسر حق ہے، اس لیے اللہ کی غلامی اور اطاعت بھی خالص ہونی چاہیے۔

﴿ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴾ (آیت:2)۔

4- اس سورت میں خالص توحید کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

(a) توحید ذات کا مطالبہ: اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ بے عیب ہستی ہے۔ وہ ایک اور غالب ہستی ہے۔

﴿ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (آیت:4)

(b) توحید کی انفسی دلیل: انسان کو آدمؑ اور حوا سے پیدا کیا گیا۔ پھر ماؤں کے پیٹ میں تین دوں کے اندر تخلیق کی گئی۔ یہی انسانوں کا پالنے والا ﴿ربّ﴾ ہے۔ اُسی کی فرماں روائی ہے۔ لہٰذا اُس کے علاوہ کوئی اور ﴿اِلٰہ﴾ نہیں ہوسکتا ہے۔

﴿ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴾ (آیت:6)۔

(c) مشرکین کی نفسیات: مشرکین کے دل خدائے واحد کے ذکر سے تنگی محسوس کرتے ہیں، لیکن اُس کے ساتھ دوسرے خداؤں کا ذکر کیا جائے تو شاداں وفرحاں ہو جاتے ہیں۔

﴿وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴾ (آیت:45)۔

5- اس سورت میں بار بار توحیدِ عبادت کی دعوت دی گئی ہے۔

(a) مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ تم اپنی آزادی اختیار کو جس طرح چاہے استعمال کرو، لیکن میں تو صرف ایک خدا ہی کی خالص بندگی کروں گا۔

﴿قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِيْ o فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ﴾ (آیت:15)۔

(b) توحید کامل: جو لوگ پہلے طاغوت کی اطاعت سے بچتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف اِنابت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔

﴿وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴾ (آیت:17)۔

(c) مشرکین ﴿مِن دُونِ اللّٰه﴾ سے ڈراتے ہیں، لیکن انسان کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔

﴿اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ﴾ (آیت:6)

(d) رسول اللہ ﷺ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اے جاہلو! کیا تم مجھے ﴿غَيْرُ اللّٰه﴾ کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟

﴿قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ﴾ (آیت:64)۔

6- اس سورت میں ﴿ يٰعِبَادِ ﴾ کے الفاظ سے ایمان لانے والوں کو دعوتِ تقویٰ دی گئی ہے اور جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایسے گنہگاروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کے بجائے، گناہوں پر توبہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔

(a) نومسلموں سے کہا گیا کہ اگر وہ تقویٰ اختیار کریں گے تو اُن کے لیے بھلائیاں ہیں۔ ہجرت کرنے والے صابرین کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔

﴿قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ" اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (آیت:10)۔

(b) اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سچی توبہ، ایمان اور اسلام کے بعد نیک عمل انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق کر دیتا ہے۔

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ (آیت:53)۔

7- مشرکینِ مکہ کی قیادت کے اوصاف: اس سورت میں مشرکینِ مکہ کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ کافر ہیں کیونکہ انہوں نے دعوت کو مسترد کر دیا ہے، جس کی اصل وجہ اُن کا غرور اور تکبر ہے۔ اُنہیں اپنی دولت پر ناز ہے۔ وہ قارون کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ ہمارے علم کی بنیاد پر عطا کیا گیا ہے۔ یہ اسلام کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں ﴿يَسْتَهْزِءُوْنَ﴾ (آیت 48)۔

(a) اللہ کی آیات کے آنے کے بعد اُس کو جھٹلانے سے اور ﴿تکبر﴾ کا مظاہرہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔

﴿بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾ (آیت:59)

(b) اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ﴿متکبر﴾ لوگوں کے چہرے روزِ قیامت سیاہ ہوں گے۔

﴿وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ" اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ﴾ (آیت:60)۔

(c) ﴿متکبرین﴾ کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔

﴿قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ﴾ (آیت:72)

(d) سچائی کے آجانے کے بعد اُس کو جھٹلانے والے کافرین دوزخ میں داخل ہوں گے۔ (آیت:32)

﴿فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ﴾

(e) امیر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ نعمتیں اپنے علم کی وجہ سے ملی ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔

﴿فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ" دَعَانَا زثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ"﴾ (آیت:49)۔

8- مشرکینِ مکہ کے شرک کی نوعیت: مشرکینِ مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ مرے ہوئے نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے کہ ان کا وسیلہ ہمیں اللہ کا تقرب

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

عطا کرے گا۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ﴿مِن دُونِ اللّٰـه﴾ ان کی سفارش کریں گے اور انہیں بچا لیں گے۔ انہیں وہ اللہ کا ہم سر اور مدِ مقابل ﴿اَنْدَاد﴾ قرار دیتے تھے۔

(a) مشرکینِ مکہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى﴾ (آیت:3)۔

(b) مشرکینِ مکہ اللہ کو زمین آسمان کا خالق تسلیم کرتے تھے، لیکن اُلوہیت اور عبادت میں شرک کیا کرتے تھے۔ انہیں غور وفکر کی دعوت دی گئی کہ اگر اللہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کرلے تو کیا ﴿مِن دُونِ اللّٰـه﴾ اس سے بچا سکتے ہیں اور اگر وہ رحمت کا ارادہ کرلے تو کیا یہ رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے صاف کہہ دیجیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

﴿وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ﴾ (آیت:38)۔

(c) مشرکین سے پوچھا گیا کہ کیا ﴿مِن دُونِ اللّٰه﴾ ان کے شفیع ہوں گے؟ چاہے وہ نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ اختیار۔

﴿اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ﴾ (آیت:43)۔

(d) مشرکین سے کہا گیا کہ توحید فطرت کی آواز ہے۔ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ منیب بن کر اللہ ہی سے دعا کرتا ہے، لیکن نعمتوں کے حصول کے بعد توحید کو بھول کر اللہ کے ساتھ مدِ مقابل ﴿اَنْدَاد﴾ شامل کرلیتا ہے۔

﴿وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا﴾ (آیت:8)۔

(e) خود ساختہ شفاعت کا عقیدہ غلط ہے۔ شفاعت مشروط ہوگی۔ مشرکین کو صاف بتا دیا گیا کہ ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ دوسرے نہیں۔ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى﴾ (آیت:7)۔

(f) شفاعت کے سلسلے میں صاف بتا دیا گیا کہ شفاعت تمام کی تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ (آیت:44)

﴿قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۗ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾

(g) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ شکر ادا کریں گے تو راضی ہو جائے گا۔

﴿وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ (آیت:7)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

9- سورۃ ﴿الزُّمَر﴾ کا ایک خاص مضمون ﴿تقویٰ﴾ ہے۔

(a) تقویٰ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے ڈراتا ہے، جہاں انسان کے اوپر اور نیچے آگ کے شعلے ہوں گے۔

﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ﴾ (آیت:16)۔

(b) جو لوگ سچائی کی تصدیق کریں گے وہی لوگ ﴿متقین﴾ ہیں۔

﴿وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ﴾ (آیت:33)۔

(c) اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے بالاخانے ہوں گے اور اُن کے نیچے نہریں یہ اللہ کا وعدہ ہے۔

﴿لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَعْدَ اللّٰهِ﴾ (آیت:20)

(d) ﴿تقویٰ﴾ اختیار کرنے والوں کو کامیابی عطا ہوگی۔ اُنہیں برے عذاب سے نجات ملے گی۔ انہیں کوئی رنج وملال نہیں ہوگا۔ (آیت:61)

﴿وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾

(e) ﴿تقویٰ﴾ اختیار کرنے والے باجماعت جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وہاں کے داروغہ اُن کا استقبال کریں گے۔ اُن پر سلامتی ہوگی۔

﴿وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ﴾ (آیت:73)

10- سورۃ ﴿الزُّمَر﴾ میں ﴿اُولُوا الالباب﴾ کا لفظ تین مرتبہ استعمال ہوا ہے۔

(a) عقل مندوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آخرت سے ڈر کر اور اللہ کی رحمت کے اُمیدوار بن کر راتوں کو سجدہ اور قیام کرنے والے باکردار لوگ، آخرت سے بے خوف بدکردار لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں داخلے کے لیے علم اور عمل دونوں لازمی ہیں۔

﴿اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾ (آیت:9)۔

(b) عقل مندوں کو آفاقی دلیل فراہم کی گئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، جس سے زمین پر چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان سے مختلف رنگوں کے پودے اگائے جاتے ہیں، یہ لہلہاتے ہیں۔ پھر یہ فصل پیلی پڑ جاتی ہے پھر

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

انہیں چورا چورا کر دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ اسے بھی موت تک بچپن اور جوانی کے مرحلوں سے گذرنا پڑتا ہے۔ عقل مند لوگ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گذارتے ہیں۔

﴿اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ﴾ (آیت:21)۔

(c) عقل مند وہ ہوتے ہیں، جو ہدایت کو توجہ سے سنتے ہیں، اور مثبت رویہ اختیار کرتے ہوئے اُس کی بہترین پہلوؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ بری نیت سے قرآن کی غلط تفسیر و تاویل نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ (آیت:18)۔

﴿الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾

سورۃ الزُّمَر کا نظمِ جلی

سورۃ ﴿الزُّمَر﴾ چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 4: پہلے پیراگراف تمہیدی ہے۔ نزولِ قرآن کا مقصد خالص توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے۔

قرآن کی تنزیل، عزیز و حکیم ہستی کی طرف سے ہوئی ہے۔ یہ سراسر حق ہے۔ لہذا ﴿دین﴾ کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی ﴿حاکمیت﴾ کو اور اپنی ﴿محکومیت﴾ کو خالص کرتے ہوئے، ہر قسم کے شرک سے بچتے ہوئے، کامل توحید کے ساتھ، توحیدِ خالقیت اور توحیدِ ربوبیت کے ساتھ ساتھ، توحیدِ الوہیت، توحیدِ عبودیت، توحیدِ حاکمیت، توحیدِ تشریع اور توحیدِ اسماء وصفات اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہیے۔

مشرکینِ مکہ مرے ہوئے نیک لوگوں کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ان کا وسیلہ پکڑنے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى﴾ (آیت:3)۔ انہیں صاف بتا دیا گیا کہ جو کافر اور ناشکرے ہوں اُنہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔

توحیدِ ذات: اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ بے عیب ہے، اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ (آیت نمبر 4)

2- آیات 5 تا 20: دوسرے پیراگراف میں دلائلِ توحید اور شرک کی تردید ہے۔

اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے۔ انسانوں کا خالق بھی۔ انسانوں کو تین اندھیروں یعنی تین پردوں سے (پیٹ، رحم، مشیہ یعنی وہ جھلی، جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے) پیدا کیا گیا ہے۔ یہی ان کا ﴿رب﴾ ہے۔ اُسی کی بادشاہی ہے، اس کے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

علاوہ کوئی ﴿ اِلٰــــہ ﴾ نہیں۔اس آیت میں توحیدِ خالقیت اور دلائلِ ربوبیت سے، توحیدِ ربوبیت، توحیدِ ملوکیت اور توحیدِ الوہیت پر استدلال کیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ شکر کو پسند کرتا ہے اور ناشکری کو ناپسند۔ ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔

انسانی نفسیات: انسان مصیبت اور تکلیف میں تو ایک خدا کو پکارتے ہوئے، توحید اختیار کرتا ہے لیکن نعمتوں پر پھول کر اللہ کے شریک ٹھہرا لیتا ہے۔اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔﴿ اُولُوا الْاَلْبَاب ﴾ یعنی عقل مندوں کو سمجھایا گیا کہ لاعلم اور علم والے برابر نہیں ہوسکتے۔ با کردار اور بد کردار برابر نہیں ہوسکتے۔ با کردار لوگ توحید اختیار کرکے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے اُمیدوار ہوتے ہیں اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔

مکے کے نو مسلم صحابہ کو صبر اور تقویٰ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ظلم وستم کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے تو ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔﴿ وَاَرْضُ اللّٰہِ وَاسِعَۃٌ ﴾ رسول ﷺ کو ہدایت دی گئی کہ وہ اعلان کر دیں کہ کوئی دوسرا خالص توحید اختیار کرے نہ کرے، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ خود خالص توحید اختیار کریں۔مشرکینِ مکہ کو دوزخ کے عذاب ڈرایا گیا۔

﴿ طاغوت ﴾ سے بچ کر خالص توحید اور ﴿ اِنابت ﴾ اختیار کرنے والے بندوں کو خوشخبری دی گئی کہ وہ عقل مند ہیں اور اہلِ تقویٰ ہیں۔ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات ہیں۔ بالا خانے ہیں اور دیگر انعامات۔

3- آیات 21 تا 41 : تیسرے پیراگراف میں مومنینِ توحید اور منکرینِ توحید کے درمیان موازنہ ہے۔

عقل مندوں کو سمجھایا گیا کہ اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے، جس سے قسم قسم کے پودے اگتے ہیں، لیکن پھر یہ بھس بنا دیے جاتے ہیں۔انسان کو اللہ کی ربوبیت اور اپنی موت پر نظر رکھنا چاہیے۔

اسلام قبول کرنے والے اور دعوتِ اسلام رد کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے۔قبول کرنے والوں کے سینے، اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جبکہ پتھر سے زیادہ سخت دلوں پر قرآنِ مجید کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ورنہ قرآن ایسا بہترین اور پر تاثیر کلام ہے کہ اس کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔لوگوں کے دل نرم ہو کر، ذکرِ الٰہی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔

قرآن مجید میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ خالص عربی زبان میں نازل ہوا۔اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے مشرکینِ عرب سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرکے اللہ کے غضب سے بچیں گے۔

توحید کی عقلی دلیل پیش کی گئی کہ ایک مالک کی ملازمت کرنے والا نوکر اور کئی آقاؤں کے درمیان پھنسا ہوا نوکر برابر نہیں ہوسکتے۔توحید وشرک کے دلائل واضح کر دیئے گئے ہیں۔اسلام کی دعوت قبول کرنے والے اور رد کرنے والے دونوں مرنے کے بعد، اللہ کے پاس اپنا مقدمہ لیے حاضر ہوں گے۔

مشرکینِ مکہ کے سردار ﴿ غیـــر اللہ ﴾ سے ڈراتے ہیں، لیکن بندے کے لیے اللہ کافی ہے، جو عزیز اور ذو انتقام ہے۔

مشرکین، اللہ کو خالق مانتے تھے، لیکن دیویوں سے دعا کرتے تھے اور انہیں نفع ونقصان کا مختار سمجھتے تھے۔ نام نہاد

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دیویوں کی بے بسی اور بے اختیاری کی وضاحت کی گئی اور اللہ کے کامل اختیارات کا اثبات کیا گیا ہے، جنہیں مان کر سچے مومن ، اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآنِ مجید، حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اب لوگوں کی مرضی ہے کہ ہدایت پائیں یا گمراہ ہو کر عذاب سے دوچار ہو جائیں۔

4- آیات 42 تا 52 : چوتھے پیراگراف میں دعوتِ توحید پر مشرکین کا ردِ عمل بیان کر کے اُن کے غلط عقیدۂ شفاعت کی تردید کی گئی۔

اثباتِ توحید کے لیے، غور کرنے والے کو، انفس سے دلائل دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے، نیند کی حالت میں موت دے کر، زندہ کر دیتا ہے۔

مشرکینِ مکہ کے خود ساختہ عقیدۂ شفاعت کا ابطال کیا گیا اور صحیح عقیدۂ شفاعت کی وضاحت کی گئی کہ شفاعت کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ﴿لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ (آیت:44) نیک لوگوں کے ہاتھ میں نہیں۔

(انسان اپنی مرضی سے، اپنے شافع کا انتخاب نہیں کر سکتا، بلکہ ساری شفاعت، اللہ کی اجازت، اُس کی مرضی اور اُس کے نظام کے ماتحت ہوگی (1) شافع کا انتخاب اللہ کرے گا۔ (2) ہر شافع کے مشفوع افراد کا انتخاب بھی، اللہ تعالیٰ کرے گا۔ (3) شفاعت کی نوعیت کا تعین بھی ، اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ (4) شفاعت کرنے والے کی زبان سے نا انصافی پر مبنی کلمات نہیں نکل سکیں گے۔

مُوَحِّد اور مُشرِك کی پہچان بتائی گئی کہ مشرکین اور منکرینِ آخرت اپنے عقیدے میں اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ ایک خدا کا نام سن کر دل میں کڑھن محسوس کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ﴿غیر اللہ﴾ کا ذکر کر لیا جائے تو خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔

تمام اختیارات اس کے پاس ہیں ، وہی فیصلہ کرے گا اور قیامت کے دن کوئی جرمانہ قبول نہیں کیا جائے گا اور دعوتِ حق کا مذاق اڑانے والے انجام بد سے دوچار ہوں گے۔

انسان، اپنی مالی کامیابیوں کو، اپنے ذاتی علم کا نتیجہ سمجھتا ہے ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ جبکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ایسا ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اللہ ہی رزق میں تنگی اور کشادگی کرنے والا ہے۔

5- آیات 53 تا 70 : پانچویں پیراگراف میں قرآن کی دعوت کے نکات ہیں۔

تمام انسانوں کو خوشخبری دی گئی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ وہ تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ ہی کی طرف اِنابت اختیار کی جائے۔ اُسی کے آگے سرِ تسلیم خم کیا جائے۔ اُس کے نازل کردہ قرآن کے بہترین پہلوؤں کی پیروی کی جائے، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب اُن پر نازل ہو اور وہ حسرت زدہ ہو کر رہ جائیں اور روزِ قیامت اللہ سے دوبارہ زندگی کی درخواست کریں کہ اُنہیں ایک موقع اور دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اُن سے کہا جائے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

گا کہ تم نے اسلام کی دعوت کو جھٹلایا۔ تکبر کا مظاہرہ کیا۔ کافر ہو گئے۔ اُس دن اہلِ تکبر کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس کے برخلاف اہلِ ایمان کو نجات ملے گی۔

آخر میں دوبارہ وضاحت کی گئی کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور محافظ ہے۔ اُسی کے پاس زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں۔ اُسی پر ایمان لانا چاہیے۔ اِن دلائل کو رد کرنے والے خسارے میں رہیں گے۔ قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ صور پھونکے جانے کے بعد سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی اور نامۂ اعمال سامنے رکھے جائیں گے اور انسانوں کو اُن کے کیے کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔

6- آیات 71 تا 75 : چھٹے اور آخری پیراگراف میں، ﴿متقین﴾ کی جنت میں اور ﴿کافرین﴾ کی دوزخ میں باجماعت داخلے کی تفصیل ہے۔

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ اور ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ کے الفاظ سے یہ بات سمجھائی گئی کہ روزِ قیامت (ہر شخص فرداً فرداً پیش ہوگا) لیکن جنت اور دوزخ میں داخلہ باجماعت ہوگا۔

کافر جہنم کی طرف باجماعت ہانکے جائیں گے، دوزخ کے کارندوں سے ان کا مکالمہ ہوگا بالآخر یہ مغرور دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اہلِ جنت بھی باجماعت جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، سلام سے استقبال ہوگا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اُس وقت وہ دیکھیں گے کہ فرشتے حمد و تسبیح کرتے ہوئے اللہ کے عرش کے اطراف ہوں گے۔ انصاف کے مطابق اُن کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوگا اور ہر طرف ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ کی صدائیں گونج رہی ہوں گی۔

مرکزی مضمون

قرآنِ مجید کے محکم دلائل کی روشنی میں ملاوٹ اور آمیزش سے پاک اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت اور اطاعت اختیار کی جانی چاہیے۔ ضرورت پڑنے پر ہجرت بھی کی جا سکتی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

حوامیم کے بارے میں ایک مختصر نوٹ

﴿حم﴾ سے شروع ہونے والی سورتیں ﴿حوامیم﴾ کہلاتی ہیں۔ یہ کل سات سورتیں ہیں۔ ان کے زمانۂ نزول اور مرکزی مضمون کو بیک نظر ملاحظہ فرمائیے۔

سورۃ نمبر	سورۃ کا نام	زمانۂ نزول	مرکزی مضمون
40	حم المؤمن	رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور کے اواخر میں، 10 نبوی میں سورۃ المُؤْمِن نازل ہوئی۔ ❖❖❖❖❖❖❖ اس سورت میں فرعون کی طرح ہلاکت کی دھمکی ہے۔	آفاق وانفس کے دلائل کے علاوہ، عقلی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں، کج بحثی، فضول بحث وتکرار یعنی مجادلہ سے بچ کر، اقتدار وآثار کے نشے سے نکل کر، فرعونی رویوں کو ترک کرو اور قرآن کی دعوتِ توحید اور دعوتِ آخرت پر ایمان لے آو، ورنہ تمہارا حشر بھی تاریخ کے فرعونوں جیسا ہوگا۔
41	حم السجدۃ	رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور کے اوائل میں، غالبًا 10 نبوی میں نازل ہوئی۔ ❖❖❖❖❖❖❖ اس سورت میں عاد وثمود کی طرح ہلاکت کی دھمکی ہے۔	قرآن کی دعوتِ توحید وآخرت کو آفاقی، تاریخی اور انفسی دلائل کی روشنی میں تسلیم کرکے، ﴿استکبار فی الارض﴾ کے رویے ترک کرو! ﴿اَعْدَآءُ اللّٰهِ﴾ یعنی اللہ کے دشمن نہ بنو! ورنہ تمہارا انجام بھی عاد وثمود سے مختلف نہیں ہوگا ایمان لاکر صبر واستقامت کا مظاہرہ کرو! دنیاوی اور اُخروی کامیابی سے نوازے جاؤ گے۔ ربوبیت کو اللہ ہی سے منسوب کرکے ڈٹ جاؤ ﴿قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

42	حم الشوریٰ	رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے بالکل آخری دور میں غالباً 13 نبوی میں سورۃ الشّوریٰ نازل ہوئی۔ ❖❖❖❖❖❖❖❖ یہ سورت مدینہ کی اسلامی حکومت کی تمہید ہے۔	محمد ﷺ پر کی گئی ﴿وحی﴾ کی تعلیمات کی روشنی میں ، شرکِ ولایت اور خود ساختہ انسانی شریعت ترک کر کے ایمان لاؤ، اقامتِ دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شورائیت پر مبنی اجتماعی نظم قائم کرو، تاکہ اللہ کی شریعت کے ذریعے عدل وانصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ !
43	حم الزخرف	سُورۃُ الزُّخرُف ، قیامِ مکہ کے آخری دور 13 نبوی میں سُورۃُ الشوریٰ کے ساتھ نازل ہوئی۔ حوامیم میں یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ یہ سورت بھی مدینہ کی اسلامی حکومت کی تمہید ہے۔	آسمان کے ﴿اِلٰہ﴾ اللہ کو، زمین کا بادشاہ بھی تسلیم کرلو! توحیدِ خالقیت اور توحیدِ ربوبیت کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اُلوہیت وعبادت اور توحیدِ حاکمیت کو بھی تسلیم کرلو !
44	حم الدخان	سُورۃ الدُّخان، رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) کے اوائل میں، غالباً 7 نبوی کے دورِ قحط میں سُورۃ الجاثیۃ کے ساتھ نازل ہوئی۔	فرعونیت ، دنیا پرستی ، ﴿عُلُوًّا فِی الْاَرْضِ﴾ ، انکارِ دعوتِ قرآن اور انکارِ توحید و آخرت کی سزا ، ہلاکتِ دنیا اور دوزخ ہے۔
45	حم الجاثیہ	سُورۃ الجاثیہ قیامِ مکہ کے تیسرے دور میں (6 تا 10 نبوی) سُورۃ الدُّخان کے ساتھ، غالباً سات (7) نبوی کے دورِ قحط میں نازل ہوئی۔	﴿العزیزُ الحکیم﴾ ہستی نے ایک مقصد کے تحت کائنات کی تخلیق کی ہے، جس کی وضاحت کے لیے قرآنی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مذاق اُڑانے کے بجائے، توحید و آخرت کی دعوت پر ایمان لاؤ ! اور دھریت اور دنیا پرستی سے بچو!
46	حم الاحقاف	غالباً سُورۃُ الجنّ کے ساتھ دورۂ طائف سے واپسی پر نخلہ کے مقام پر (شوال 10 نبوی میں) نازل ہوئی۔ اس سورت میں عاد کی طرح ہلاکت کی دھمکی ہے۔	﴿العزیز الحکیم﴾ کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لا کر ، مشرک قومِ عاد کے انجام سے عبرت حاصل کر کے ، توحید پرست ﴿جِنّات﴾ کی طرح قرآن کے داعی اور مبلغ بن جاؤ !اور نہ تمہارا انجام بھی قومِ عاد سے مختلف نہیں ہوگا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART

ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE

نظمِ جلی

40- سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ

آیات : 85 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 5



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول اور پس منظر

سورۃُ المؤمن کا دوسرا نام سورۃُ غافِر ہے۔یہ ﴿حَوامِیم﴾ کے سلسلے کی پہلی سورت ہے۔
رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور(6 تا10نبوی) کے اواخر میں، غالبًا10 نبوی میں سورۃ المؤمن نازل ہوئی۔

یہی وہ زمانہ تھا، جب سورۃ حٰم السجدۃ اور سورۃ حٰم الشوریٰ نازل ہوئیں۔ہجرتِ حبشہ ہو چکی تھی۔قریش کے ﴿متکبر مشرك﴾ سردار، فرعون، ہامان اور قارون کی طرح ، اقتدار اور آثار کے نشے میں دُھت ہو کر مسلمانوں پر ظلم وستم کر رہے تھے اور اپنے مشرکانہ راستے کو فرعون کی طرح ﴿سَبِیْلُ الرَّشَاد﴾ قرار دے رہے تھے۔اور رسول اللہ ﷺ سے کج بحثی اور ﴿مُجَادَلَہ﴾ میں مشغول تھے۔انہیں موسیٰؑ کے زمانے کے ایک مؤمن کا سچا قصہ بتایا گیا کہ ابتداء میں اُس نے اپنے ایمان کو ایک حکمت عملی کے تحت چھپایا جب فرعون نے اِس کی رائے کو درخورِ اعتناء نہیں سمجھا تو پھر اُس نے علی الاعلان ایمان کا اظہار کر دیا۔رسول اللہ ﷺ کو توحید پر صبرو استقامت کی ہدایات دی گئیں۔

سورۃُ المُؤمِن کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورۃ ﴿الزمر﴾ میں ملاوٹ اور آمیزش سے پاک خالص توحید کا مطالبہ کیا گیا تھا۔یہاں سورۃ ﴿المؤمن﴾ میں توحید کے علاوہ آخرت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ ہے۔کج بحثی، ضد اور فرعونیت سے اجتناب کرنے کی ہدایت ہے اور ہلاکت کی دھمکی ہے۔

2۔ یہاں سورۃ ﴿المومن﴾ میں اثباتِ توحید کے لیے تاریخی دلائل بھی اور عقلی دلائل بھی۔اگلی سورت ﴿حم السجدہ﴾ میں تاریخی دلائل کے علاوہ آفاقی اور انفسی دلائل ہیں۔

3۔ یہاں سورۃ ﴿المومن﴾ میں فرعونی رویے ترک کرنے کا مشورہ ہے، جبکہ اگلی سورت ﴿حم السجدہ﴾ میں عاد وثمود کے استکباری رویوں سے بچنے کا مشورہ ہے۔دونوں سورتوں میں ہلاکت کی دھمکی ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ اس سورت میں دو(2) مرتبہ خالص توحیدِ دعا کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں کسی قسم کے شرک کی آمیزش نہ ہو۔
﴿ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ﴾(آیت 14 اور 60) مشرکینِ مکہ ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔(آیات:66 اور 74) ﴿ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے، اس سے مراد وہ مخلوق ہے، جسے جاہل انسان معبود بنا لیتے ہیں، اسی کے لیے ایک اور لفظ ﴿ غَیْرُ اللّٰهِ ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔

2- اس سورت میں مشرکینِ مکہ کا ﴿ مُجَادَلَه ﴾ یعنی ان کی 'بے معنیٰ بحث وتکرار' کا ذکر چار مرتبہ ہوا ہے، جو ان کے تکبر اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا۔ (آیات: 4، 35، 56 اور 69) جب کہ رسول اللہ ﷺ توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اس سورت میں توحید کا ذکر سات (7) آیات میں ہوا ہے۔ (آیات: 14، 41، 42، 60، 62، 65 اور 84)

3- رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو مسترد کرنے کی بنیادی وجہ، قریش کی قیادت کا غرور اور تکبر تھا۔ اس تکبر کا ذکر اس سورت میں پانچ (5) مرتبہ ہوا ہے۔ (آیات: 27، 47، 48، 60 اور 76)

4- ہم نے بار بار اس کتاب میں نشاندہی کی ہے کہ قرآن مجید کی اکثر وبیشتر سورتوں میں جو بات پہلے پیراگراف میں بیان کی جاتی ہے، اس کا اعادہ آخری پیراگراف میں کیا جاتا ہے۔ اس سورت میں بھی مغرور سیاستدانوں اور متکبر حکمرانوں کو آیت 21 اور آیت 82 میں ڈرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی طاقتوں کو نیست ونابود کر دیا، جو اپنی قوت اور اپنے آثار کے اعتبار سے ممتاز تھے۔ یہ مضمون نہ صرف قریشِ مکہ کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے اپنے اندر ایک درسِ عبرت رکھتا ہے۔

(a) ﴿ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ آثَارًا ﴾ (آیت: 21)

(b) ﴿ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ آثَارًا فِی الْاَرْضِ ﴾ (آیت: 82)

5- اس سورت میں، دو مختلف قسم کے لیڈروں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ عوام کو صحیح راستے ﴿ سَبِيْلُ الرَّشَادِ ﴾ کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ اسلامی قیادت اور طاغوتی قیادت کے دو دعوے تھے۔ پہلا دعویٰ اس بندۂ مومن کی طرف سے تھا، جو ابتداء میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور دوسرا دعویٰ اس وقت کی طاغوتی اور عسکری قوت کے قائد فرعون کی طرف سے تھا۔

6- اس سورت میں عوام الناس کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ طاغوتی قوتوں اور آمروں کی پیروی نہ کریں۔ یہ قوتیں قیامت کے دن انہیں نہیں بچا سکیں گی، بلکہ لیڈر اور عوام دونوں دوزخ میں جائیں گے اور وہاں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ (آیت 47)

7- دعوتِ توحید کو مسترد کر دینے کے بعد مشرکینِ مکہ نے فضول بحث وتکرار شروع کر دی۔ اس ماحول میں دو (2) مرتبہ رسول اللہ ﷺ کو صبر کی نصیحت کی گئی ہے۔ (آیت 55 اور 77)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ المُؤمن کا نظمِ جلی

سورۃ المومن پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 22 : پہلے پیراگراف میں، قریش کی قیادت کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ﴿مُجَادَلَه﴾ یعنی فضول کج بحثی کا رویہ ترک کر کے قرآن کی دعوتِ توحید، دعوتِ رسالت اور دعوتِ آخرت کو قبول کر لیں۔

2- آیات 23 تا 27 : دوسرے پیراگراف میں، قریش کی متکبر اور مغرور لیڈرشپ کو فرعونی رویے ترک کرنے کا مشورہ ہے۔

3- آیات 28 تا 54 : تیسرے پیراگراف میں، آلِ فرعون کے ایک مومن کا سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔

جس نے ایک مصلحت کے تحت کچھ عرصے کے لیے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن اس کے بعد وہ کھل کر فرعون کے خلاف، توحید کا علمبردار بن کر سامنے آ گیا اور ﴿سَبِيلُ الرَّشَادِ﴾ کی دعوت دینے لگا، جس کے جواب میں فرعون نے عوام کو یہ دھوکا دیا کہ وہ بھی لوگوں کو ﴿سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ کی طرف راہنمائی کر رہا ہے۔

4- آیات 55 تا 76 : چوتھے پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو صبر و استقامت کے ساتھ، تکبر، ہٹ دھرمی، مجادلے اور بحث و تکرار کے اس ماحول میں، اپنی دعوتِ توحید کو جاری و ساری رکھنے کی ہدایت دی گئی۔

5- آیات 77 تا 85 : پانچویں اور آخری پیراگراف میں، آفاقی دلیلوں اور تاریخی دلیلوں سے مغرور قیادت کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی عسکری قوت اور تمدنی شان و شوکت اور اقتصادی خوشحالی پر نہ پھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کئی ایسی طاقتوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، جو قریش سے زیادہ طاقتور تھیں۔ بڑے آثار اور اثاثے رکھتی تھیں۔ ﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ (آیت:82)

مرکزی مضمون

آفاق و انفس کے دلائل کے علاوہ، عقلی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں، کج بحثی، فضول بحث و تکرار یعنی مجادلہ سے بچ کر، اقتدار و آثار کے نشے سے نکل کر، فرعونی رویوں کو ترک کرو اور قرآن کی دعوتِ توحید اور دعوتِ آخرت پر ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی تاریخ کے فرعونوں جیسا ہوگا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

41- سُورَةُ حٰمٓ السَّجْدَة (فُصِّلَت)

آیات: 54 ...... مَکِّیَّة ...... پیراگراف: 7



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول اور پس منظر

یہ ﴿حوامیم﴾ کے سلسلے کی دوسری سورت ہے۔رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور(6 تا 10 نبوی) کے اواخر میں، غالباً 10 نبوی میں سورۃ حٰم السجدۃ نازل ہوئی۔بعض روایات کے مطابق یہ حضرت حمزہؓ اور حضرت عمرؓ کے قبولِ اسلام کے درمیانی عرصے ذوالحجہ 6 نبوی میں نازل ہوئی۔ترمذی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے قبولِ اسلام میں صرف تین دن کا فرق تھا۔

اس سورۃ کا نام ﴿فُصِّلَتْ﴾ بھی ہے،یہ لفظ آیات 3 اور 44 میں استعمال ہوا ہے۔﴿فُصِّلَتْ﴾ کا مطلب کھول کر تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔

جب قریشِ مکہ شدتِ مخالفت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی دعوت کے بارے میں بدستور شک میں مبتلا تھے۔ عربی قرآن پر اعتراض تھا۔قریش کے لیڈر عوام کو قرآن سننے سے روک رہے تھے۔(آیت 26)
ہجرتِ حبشہ ہو چکی تھی۔مشرکین قرآن کی دعوت سے اعراض کر رہے تھے اور قریش کے مشرک سرداروں کا رویہ ، قومِ عاد کے متکبر سرداروں کی طرح تھا۔جو کہتے تھے : ﴿مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟﴾(آیت 15) ”ہم سے بڑی قوت کون ہے؟“

عاد کو﴿ بادِ صَر صَر ﴾اور بجلی﴿ صَاعِقه ﴾ سے اور ثمود کو صَاعِقه (بجلی) سے ہلاک کیا گیا۔قریش سے کہا گیا کہ تم بھی ، عاد و ثمود کی طرح ﴿اَعْدَآءُ اللّٰہ ﴾ یعنی اللہ کے دشمنوں میں شامل ہو۔صاحبِ استقامت مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اُن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔یہ توحید کی دعوت دیتے ہیں ، بُرائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔سورۃ کے آخر میں پیش گوئی کی گئی کہ بہت جلد آفاق اور انفس میں ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جس سے حق واضح ہو جائے گا۔کافروں کو دھمکی دی گئی کہ وہ ملاقاتِ ربّ کے منکر ہیں، لیکن اللہ انہیں اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔

سورۃ حٰم السّجدۃ کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿المؤمن﴾ میں متکبر وظالم طاغوتی اور فرعونی قوتوں کو، فرعون کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔یہاں اس سورت ﴿حم السجدۃ﴾ میں، انہیں عاد و ثمود کی ہلاکت سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں اللہ کا دشمن ﴿اَعداءُ اللّٰہِ﴾ کہا گیا ہے ، جو دوزخ میں جائیں گے۔ان کے مرض کی تشخیص کی گئی کہ یہ ﴿اِسْتِکْبَارٌ فِی الْاَرْضِ﴾ میں مبتلاء ہیں۔

اِن کے مقابلے میں اللہ کے دوستوں ﴿اَولیاءُ اللّٰہِ﴾ کو جنت کی بشارت ہے، جو اللہ پر ایمان لا کر استقامت کا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مظاہرہ کرتے ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ و مضامین

1- اس سورت میں قرآن کا تعارف ہے کہ اسے بتدریج نازل کیا گیا ہے ﴿تَنزِيلٌ﴾ (آیات 1، 41)، اس قرآن کی آیات کو عربی زبان میں نازل کر کے قریش اور اہلِ عرب کے لیے آسان کیا گیا ہے۔ اور اس کی آیات کو کھول دیا گیا ہے۔ ﴿فُصِّلَتْ﴾ (آیات 3، 44)

2- قرآن کے بارے میں مشرک لیڈروں کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنے پیروکاروں کو حکم دیتے تھے: 'یہ قرآن نہ سنو' ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ (آیت: 26) اللہ تعالیٰ نے ایسی قیادت کو ﴿أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾ 'اللہ کی دشمن' کا نام دیا۔ یہ قیادت دوزخ میں داخل کی جائے گی اور وہاں انہیں اپنی اسلام دشمنی کے مطابق درجہ بندی کر کے سزا دی جائے گی۔ (آیات: 19 اور 28)

3- قریش کی متکبر قیادت بھی، قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح ﴿اِسْتِكْبَار فِي الْأَرْضِ﴾ کے مرض میں مبتلا تھی، جیسا کہ ہر دور کے طاغوتی حکمرانوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ ﴿استکبار فی الارض﴾ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ یہ ایک عام آدمی کا استکبار نہیں ہے، بلکہ اس کو زمین کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ یہ استکبار، بے دین اور سرکش حکمرانوں کے لیے مخصوص ہے۔

4- اس سورت میں دعوت توحید کو قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اور اس پر ﴿استقامت﴾ اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی۔ (آیت: 6)

5- اللہ کو رب مان کر ﴿استقامت﴾ اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بشارتیں دی گئیں۔ (آیات: 30 تا 32)

6- دعوتِ توحید کے نتیجے میں مشرکین کے رویے گریز اور اعراض پر مبنی تھے۔ (آیات 4 اور 13)

7- دراصل اس سورت میں مشرکینِ مکہ کی کافر قیادت اور ایمان لانے والے صحابہ کے درمیان تقابل ہے۔ دعوتِ اسلام کو مسترد کرنے والوں کو ﴿أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾ کا خطاب دیا گیا اور دعوت کو قبول کر کے اس پر استقامت اختیار کرنے والے ﴿أَوْلِيَاءُ اللَّهِ﴾ صحابہؓ کو فرشتوں کے نزول کی خوشخبری سنائی گئی اور ان کی اہم صفت یہ بتائی گئی کہ یہ توحید کے داعی اور مبلغ ہوتے ہیں اور انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورة حٰم السجدة کا نظمِ جلی

سورۃ حٰم السجدۃ سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 8 : پہلے پیراگراف میں، تمہیداً تعارف قرآن ہے اور رسول اللہ ﷺ کی بشریت اور رسالت کی صراحت ہے اور توحید پر استقامت کی دعوت ہے۔

2- آیات 9 تا 12 : دوسرے پیراگراف میں، توحید کے آفاقی دلائل ہیں اور شرک کی تردید ہے۔

3- آیات 13 تا 18 : تیسرے پیراگراف میں، توحید کے تاریخی دلائل ہیں۔

قومِ عاد اور قومِ ثمود دونوں کو توحید کی دعوت دی گئی تھی۔ لیکن انہوں نے زمین پر تکبر ﴿استکبار فی الارض کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی طاقتور ہستی (Super Power) ہے، جو سرکش قوموں کو کسی آسمانی یا زمینی عذاب کے ذریعے ناگہانی طور پر ہلاک کرسکتی ہے۔ اس پیراگراف میں دنیوی انجام اور اگلے پیراگراف میں اخروی انجام کا ذکر ہے۔

4- آیات 19 تا 29 : چوتھے پیراگراف میں، اللہ کے دشمنوں ﴿ اَعْدَآءُ اللّٰهِ ﴾ کا اخروی انجام بتایا گیا ہے۔

5- آیات 30 تا 36 : پانچویں پیراگراف میں، دعوتِ توحید و آخرت کو قبول کر لینے والے مظلوم صابر و شاکر مسلمانوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے۔

ایسے مسلمان جو توحید کے داعی اور مبلغ ہیں اور جو ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ﴿وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ (آیت 33) ان اہلِ توحید کا اجر بھی بیان کیا گیا ہے۔

6- آیات 37 تا 48 : چھٹے پیراگراف میں، توحید اور آخرت کے آفاقی دلائل بھی ہیں اور عقلی دلائل بھی۔

7- آیات 49 تا 54 : ساتویں اور آخری پیراگراف میں، منکرینِ آخرت کے لیے نفسیاتی دلائل ہیں۔

انسان اللہ سے دعائیں مانگتے نہیں تھکتا، لیکن نزولِ آفات پر مایوس ہو کر اور نعمتوں پر پھول کر آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح مصیبت میں لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے اور خوشحالی میں اکڑنے لگتا ہے۔ ایسے غیر مستقل مزاج لوگوں کو اپنے انجام پر غور کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔

یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ قرآن کی حقانیت کی دلیلیں آفاق و انفس میں ظاہر ہوتی رہیں گی اور حق واضح ہو کر رہے گا۔

﴿سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (آیت 53)

لہٰذا ملاقاتِ رب پر پختہ یقین پیدا کرو۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

قرآن کی دعوتِ توحید و آخرت کو آفاقی، تاریخی اور انفسی دلائل کی روشنی میں تسلیم کرکے ، ﴿استکبار فی الارض﴾ کے رویے ترک کرو! ﴿ اَعْدَآءُ اللّٰهِ ﴾ یعنی اللہ کے دشمن نہ بنو ! ورنہ تمہارا انجام بھی عاد و ثمود سے مختلف نہیں ہوگا۔ ایمان لاکر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو! دنیاوی اور اُخروی کامیابی سے نوازے جاؤ گے۔ ربوبیت کو اللہ ہی سے منسوب کرکے ڈٹ جاؤ۔ ﴿ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا ﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ ربط — نظمِ جلی

42- سُوْرَةُ الشُّوْرٰی

آیات: 53 ...... مَکِّیَّۃٌ...... پیراگراف: 7



- **زمانۂ نزول اور پس منظر:**

سورۃ ﴿الشُّوْرٰی﴾ یہ ﴿حوامیم﴾ کے سلسلے کی تیسری سورت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے آخری دور میں، یعنی غالباً 13 نبوی میں نازل ہوئی، یہ وہی زمانہ ہے، جب سورۃ ﴿الزُّخرُف﴾، سورۃ ﴿الانعام﴾ اور سورۃ ﴿الاعراف﴾ بھی نازل ہوئیں، جس میں رسول اللہ ﷺ کے قتل کی اجتماعی فیصلے اور سازش کا ذکر ہے۔ جب قریشِ مکہ رسول اللہ ﷺ کی دعوت کے بارے میں بدستور شک میں مبتلا تھے۔ مولانا اصلاحیؒ نے لکھا ہے کہ یہ ﴿وداعی خطاب﴾ کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ دراصل یہ سورت مدینۂ منورہ میں اسلامی حکومت کے قیام کی تمہید ہے، جس میں اللہ کے قانون یعنی اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اور اقامتِ دین کے لیے شورائیت پر مشتمل عادلانہ اجتماعی نظم (اسلامی ریاست) قائم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس سورت میں شریعتِ خداوندی اور خود ساختہ شریعتِ انسانی کا فرق بتا کر ﴿توحیدِ حاکمیت﴾ کی وضاحت کی گئی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الشُّوریٰ کا کتابی ربط

1- پچھلی سورۃ ﴿حٰم السَّجدۃ﴾ میں، زمین پر تکبر کا مظاہرہ کرنے والے اللہ کے دشمنوں ﴿اَعۡدَاءُ اللّٰہِ﴾ کا ذکر تھا۔ یہاں سورۃ ﴿الشـــــوریٰ﴾ میں اُن سے مقابلے کے لیے، وحی پر مشتمل آسمانی تدبیریں بیان کی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شورائیت پر مبنی ایک اسلامی ریاست قائم کر کے اللہ کے دشمنوں کا قلع قمع کر دیں۔

2- اگلی سورت ﴿الزُّخرف﴾ میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی اور تشریعی حاکمیت کا ذکر ہے۔ اللہ کے دشمن ﴿اَعۡدَاءُ اللّٰہِ﴾ اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکمِ اعلیٰ سمجھنے لگتے ہیں اور زمین پر فرعونی رویے اختیار کرتے ہیں۔

سورۃ الشُّوریٰ کے اہم کلیدی الفاظ ومضامین

1- اس سورت میں ﴿کَـــذٰلِكَ﴾ کے الفاظ سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ محمد ﷺ کی رسالت ونبوت پچھلے انبیاء ورسل ہی کی طرح ہے۔ یعنی یہ نبوت کوئی نئی اور نرالی بات نہیں ہے۔ اس سورت میں لفظ ﴿کَـذٰلِكَ﴾ کی تکرار سے، آپ ﷺ پر نازل شدہ وحی کو سابقہ سلسلۂ رسالت سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ﴿کَـذٰلِكَ﴾ کا لفظ تین مرتبہ (آیات 3، 7 اور 53) اور ایک مرتبہ ﴿فَکَذٰلِكَ﴾ (آیت 15) استعمال ہوا ہے۔

2- اس سورت میں وحی کے تین (3) طریقوں کی وضاحت ہے۔ چوتھے طریقے خواب کا ذکر سورت ﴿الصّٰـفّٰت﴾ میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے سلسلے میں ہوا ہے۔

(a) سریع اشارے سے اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے ﴿وَحۡیًا﴾۔

(b) پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے ﴿اَوۡ مِنۡ وَّرَآئِ حِجَابٍ﴾۔

(c) کوئی فرشتہ بھیج کر وحی کر دیتا ہے ﴿اَوۡ یُرۡسِلَ رَسُوۡلًا﴾ (آیت نمبر 51)۔

3- اللہ کی ذات کے بارے میں کج بحثی کرنے والوں کو ﴿یُجَادِلُوۡنَ آیت: 35﴾ اور اللہ کے بارے میں فضول جھگڑا کرنے والوں کو ﴿یُحَاجُّوۡنَ فِی اللّٰہِ آیت: 16﴾ صرف تین الفاظ کے ذریعے خاموش کر دیا گیا کہ اللہ کی ذات کسی مخلوق سے مشابہ نہیں۔

﴿لَیۡسَ کَمِثۡلِہٖ شَیۡءٌ﴾ ' کوئی چیز بھی اللہ کی طرح نہیں ہے (آیت: 11)۔ یہ توحیدِ ذات کا مضمون ہے۔

4- اس سورت میں ﴿اَوۡلِیَـاءَ﴾ کے لفظ سے، بار بار شرکِ ولایت کی تردید کی گئی ہے۔ مشرکین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ﴿مِـنۡ دُوۡنِ اللّٰـہِ﴾ کو اپنے ﴿اَوۡلِیَـاءَ﴾ نہ بنائیں، اللہ ہی سب کا ﴿وَلِیّ﴾ ہے، سرپرست اور کارساز ہے۔ سب کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ یہ توحیدِ ولایت اور توحیدِ اختیار کا مضمون ہے۔

(a) غیر اللہ کو ﴿وَلِـیّ﴾ بنانے والوں کی اللہ نگرانی کر رہا ہے، رسول اللہ ﷺ اِن پر داروغہ نہیں ہیں ﴿وَالَّـذِیۡنَ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ﴾۔ (آیت:6)

(b) غیر اللہ کو ﴿ ولی ﴾ سمجھنے والے ظالموں کا کوئی مددگار اور ﴿ ولی ﴾ نہیں ہوتا ﴿ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴾ (آیت:8)۔

(c) غیر اللہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندگی دے سکتا ہے۔اس لیے غیر اللہ کے بجائے، اللہ ہی کو ﴿ ولی ﴾ بنانا چاہیے ﴿اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ﴾۔ (آیت:9)

(d) غیر اللہ بارش برسانے کا اختیار نہیں رکھتے۔اللہ تعالیٰ ہی بارش کے ذریعے اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔اسی لیے وہی ﴿ ولی ﴾ ہوسکتا ہے اور اُسی کی تعریف کی جاسکتی ہے ﴿وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ﴾ (آیت:28)۔

(e) اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین میں عاجز نہیں کیا سکتا۔وہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔لہٰذا اُس کے علاوہ کسی اور کو سرپرست ﴿ ولی ﴾ اور حمایتی تسلیم نہیں کیا جاسکتا ﴿وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴾۔(آیت:31)

(f) جس شخص کو اللہ گمراہ کردے، اُس کے بعد کوئی اور ہستی اُس کی سرپرست ﴿ ولی ﴾ نہیں ہوسکتی، جو اسے ہدایت دے سکے۔﴿وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ ﴾۔(آیت:44)

(g) اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی سرپرست ﴿ ولی ﴾ نہیں ہے جو ان لوگوں کی مدد کرسکے اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکے ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴾۔(آیت:46)

5- ﴿ اِسْتِجَابَة ﴾ کے لفظ کے بار بار استعمال کے ذریعے توحید کی دعوت کو قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اور عواقب سے آگاہ کیا گیا۔

(a) ﴿استجابت﴾ یعنی اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی اور اُنہیں روزِ قیامت سے دھمکایا گیا۔
﴿اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴾(آیت:47)۔

(b) ﴿استجابت﴾ یعنی اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے ایمان لاکر نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ اِن کے فضل میں اضافہ کرے گا اور دعوت کو مسترد کرنے والوں کو سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔﴿ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

شَدِيْدٌ﴾ (آیت:26)

(c) ﴿استجابت﴾ یعنی اسلام کی دعوت قبول کرنے والے نماز قائم کرتے ہیں، باہمی مشورے پر مبنی اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ﴿وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾۔ (آیت:38)

(d) ﴿استجابت﴾ یعنی اسلام کی دعوت کے مانے جانے کے بعد کٹ حجتی اور ضد کا مظاہرہ کرنے والوں کی حجت (دلیل) اللہ کے نزدیک پسپا ہے۔ اِن پر اللہ کا غضب ہوگا اور یہ سخت عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔

﴿وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ﴾ (آیت:16)

اس دعوت کو قبول کرنے والوں کو اللہ کے بندے ﴿عِبَاد﴾ کہا گیا ہے۔ (آیات 23، 25، 27 اور 52)

6- اس سورت میں دو شریعتوں کا تقابل ہے۔ ایک اللہ کی شریعت ہے اور دوسری انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت اور قانون ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کی نازل کردہ شریعت اور قانون کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہم پر فرض ہے۔

(a) اللہ کی شریعت (Divine law) ﴿شرعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ﴾ (آیت:13)

(b) شرکاء کی شریعت (Man made law) ﴿شرعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ﴾ (آیت :21)

7- اِقامتِ دین ہی اقامتِ شریعت ہے۔ اقامتِ دین کا مقصد قیامِ عدل ہے۔ ﴿وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴾ (آیت:13)۔ یہ توحیدِ حاکمیت کا مضمون ہے۔

8- اس سورت میں ایک اہم اصول یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا ہو یا آخرت، دونوں کے لیے شدید محنت کی ضرورت ہے۔ صرف دنیا کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک اچھے مسلمان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کھیتیوں کے لیے محنت کرنی ہوگی، تب ہی وہ اپنی فصل کے ثمرات سے مستفید ہوسکتا ہے۔ کھیتی ﴿حَرث﴾ کا استعارہ، محنت کی طرف دلالت کرتا ہے۔

﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ، وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ﴾ (آیت 20)۔

9- اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کو رزق کی کمی بھی، حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنے بندوں کو کشادگی کے ساتھ رزق عطا کرتا تو وہ زمین پر فساد برپا کرتے۔ ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ﴾ (آیت 27)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الشُّوریٰ کا نظمِ جلی

سورۃ الشُّوریٰ سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 12: پہلے پیراگراف میں قرآنی وحی اور صفاتِ الٰہی کے تعارف کے بعد شرک کا اِبطال کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی ﴿وَلِی﴾ سرپرست اور کارساز ہے۔ عربی قرآن کے نازل کیے جانے کے بعد اتمامِ حجت ہوگئی ہے۔ اب انسان یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں۔ انسان کو عقیدے کی آزادی دی گئی ہے۔ اللہ چاہتا تو دنیا میں صرف ایک اُمت ہوتی۔ اہلِ ایمان دنیا میں ہی قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ﴿مُشْفِقِيْن﴾ ہیں (آیت: 1) اس کے برخلاف اہلِ کُفر دنیا میں نہیں ڈرتے، لیکن قیامت کے دن لرزنے لگیں گے اور اُس دن ﴿مُشْفِقِيْن﴾ ہوں گے (آیت: 2) اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرکے انسانوں اور مویشیوں میں جوڑے بنائے اور دنیا میں پھیلا دیے۔ (لیکن اللہ کا کوئی جوڑ نہیں) ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ﴾ کوئی چیز بھی اللہ کی طرح نہیں ہے۔ وہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ سارے اختیارات اُسی کے پاس ہیں۔ وہی رزق میں کمی بیشی کرتا ہے اور ہر شے کا مکمل علم رکھتا ہے۔

2- آیات 13 تا 20: دوسرے پیراگراف میں، اِقامتِ دین کی مشروعیت (Divine Laws) کا حکم دیا گیا۔

قیامِ عدل کو یقینی بنانے کے لیے استقامت کی تاکید کی گئی ہے۔

(a) اِقامتِ دین کی مشروعیت ہے۔ ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ﴾ (آیت 13) اقامتِ دین کا فریضہ تمام رسولوں پر لازم کیا گیا تھا۔ ﴿اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ﴾

(b) اقامتِ دین کی دعوت کے بعد اور اُس پر استقامت کا حکم دیا گیا ﴿وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ﴾۔ (آیت: 15) اختلاف اور افتراق کی اصلی وجہ باہمی استحصال ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ ہے، اس لیے علم آجانے کے باوجود لوگ تشکیک کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ نزولِ قرآن کا مقصد قیامِ عدل ہے۔ قیامت آکر رہے گی۔ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ثواب دینے پر قادر ہے۔

3- آیات 21 تا 22: تیسرے پیراگراف میں، مشرکین کی خودساختہ شریعت (Man Made Laws) کا اِبطال کیا گیا

جس کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی ﴿اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ﴾ ایسے ظالم اپنی کمائی کے بدلے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے برخلاف اللہ کے قانون پر ایمان لاکر عمل کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔

4- آیات 23 تا 43: چوتھے پیراگراف میں، اہلِ ایمان اور اہلِ استقامت کی صفات بیان کی گئیں۔

اہلِ ایمان کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے اور دلائلِ توحید و آخرت لوگوں کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خوشخبری دے رہا ہے۔اللہ غفور اور قدر دان ہے۔وہ بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا اور گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔دعوت قبول کر کے نیک اعمال کرنے والوں کے فضل میں اضافہ فرماتا ہے۔انکار کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں لیکن وہ نپا تلا رزق دیتا ہے،ورنہ انسان زمین پر بغاوت کرے۔اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور اُنہیں دیکھ رہا ہے۔وہی انسانوں کا سرپرست اور ﴿وَلِی﴾ ہے خالق ہے،اُسے عاجز نہیں کیا جا سکتا۔آسمان ،زمین،سمندر اور ہوائیں اُس کی نشانیاں ہیں،جن میں ہر صابر و شاکر انسان کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔اس کے باوجود جو اُس کی نشانیوں میں بحث مباحثہ کرتے ہیں،اُن کے لیے بچنے کی گنجائش نہیں۔

اِقامتِ دین اور اِقامتِ شریعت کرنے والوں کے دس (10) اوصاف بیان کیے گئے۔

(1) اہلِ ایمان رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ﴿عَلٰی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُوْنَ﴾ (آیت:36)

(2) اہلِ ایمان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔﴿یَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ﴾ (آیت:37)

(3) بے شرمی کے کاموں ﴿فواحش﴾ سے بچتے ہیں۔﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾ (آیت:37)

(4) غصہ آجائے تو درگذر کر جاتے ہیں۔﴿وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ یَغْفِرُوْنَ﴾ (آیت:37)

(5) رب کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔﴿اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ﴾ (آیت:38)

(6) نماز قائم کرتے ہیں۔﴿وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ﴾ (آیت:38)

(7) تمام اہم باہمی معاملات مشورے سے چلاتے ہیں۔﴿وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰی بَیْنَهُمْ﴾ (آیت 38)
اسلام میں ڈکٹیٹر شپ اور آمریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(8) انفاق کرتے ہیں۔﴿وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ﴾ (آیت:38)

(9) ﴿بغی﴾ یعنی زیادتی کا مقابلہ کرتے ہیں۔﴿اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُوْنَ﴾ (آیت:39)

(10) برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔﴿وَجَزٰٓؤُا سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ لیکن جو ظلم کے بعد بدلا لے،اسے ملامت نہیں کی جا سکتی،بالخصوص جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور زمین پر ناحق زیادتی کرتے ہیں،ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے ﴿الَّذِیْنَ یَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَیَبْغُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ﴾ (آیت 42) البتہ بدلے اور انتقام کے بجائے صبر اور درگذر،حوصلے کی بات ہے ﴿اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ﴾ (آیت:43)۔

5- آیات 44 تا 46 : پانچویں پیراگراف میں،اللہ کے دشمن ﴿اَعداء اللہ﴾ مشرکین و کافرین کا انجام بتایا گیا ہے۔

جسے اللہ گمراہ کر دے،ایسے ظالم کے لیے کوئی سرپرست نہیں ہو سکتا،جو اُسے راستہ دکھائے۔یہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان پر خشوع طاری ہو جائے گا ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔انہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6- آیات 47 تا 50 : چھٹے پیراگراف میں، دعوتِ استجابۃ دی گئی کہ لوگ دعوتِ توحید کو قبول کر لیں۔

روزِ قیامت سے ڈرایا گیا کہ اُس دن اللہ کے عذاب سے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اللہ کی بادشاہت ثابت کر کے توحید کے انفسی دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ اولاد کے سلسلے میں، چار (4) صورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ (پانچویں صورت نہیں ہو سکتی)۔

(a) صرف لڑکیاں دیتا ہے۔ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا﴾

(b) صرف لڑکے دیتا ہے۔ ﴿وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ﴾

(c) لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے۔ ﴿اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا﴾

(d) بانجھ رکھتا ہے۔ ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا﴾ (آیات 49 تا 50)

7- آیات 51 تا 53 : ساتویں اور آخری پیراگراف میں، وحی کے تین (3) طریقوں کی وضاحت کی گئی۔

رسالتِ محمدی ﷺ کے برحق ہونے اور اسے پچھلے رسولوں پر کی گئی وحی کے مطابق ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ ہی تمام امور کا فیصلہ کرنے والا ہے۔

مرکزی مضمون

محمد ﷺ پر کی گئی ﴿وحی﴾ کی تعلیمات کی روشنی میں خالص توحیدِ ذات، توحیدِ صفات، توحیدِ ولایت اور توحیدِ تشریع اختیار کرنا چاہیے شرکِ ولایت اور خود ساختہ انسانی شریعت ترک کر کے توحید پر ایمان لانا چاہیے، اقامتِ دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، شورائیت پر مبنی اجتماعی نظم (ریاست State) قائم کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی شریعت کے ذریعے عدل وانصاف کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

43- سُورَةُ الزُّخْرُف

آیات : 89 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 9



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول اور پس منظر

سورت ﴿ الزُّخرُف ﴾، قیامِ مکہ کے آخری دور میں (11 تا 13 نبوی) سُورة الدّخان اور سُورة الجاثِیه کے نزول کے غالبًا پانچ چھ سال بعد سُورةُ الشوریٰ کے ساتھ نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا، جب رسول اللہ ﷺ کے خلاف قریش کے سردار، جادو وغیرہ کے الزامات لگا رہے تھے اور متحدہ طور پر رسول اللہ ﷺ کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے۔ (آیت 79)

یہ ﴿حوامیم﴾ کے سلسلے کی چوتھی سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے آخری ہے۔

1- مشرکینِ مکہ اعتراف کرتے تھے کہ اللہ ہی خالقِ سماوات وارض ہے۔ (آیت: 9) اور انہیں یہ بھی اقرار تھا کہ انسانوں کا خالق (Creator) بھی اللہ ہے۔ (آیات: 88,87) ، لیکن وہ اللہ کو نہ تو ﴿ إِلٰـه ﴾ اور معبود مانتے تھے اور نہ ﴿ شَارِع ﴾ یعنی (Law giver) اور ﴿ حَاكِم ﴾ ۔اسی لیے انہیں بتایا گیا کہ اللہ آسمان میں بھی ﴿ إِله ﴾ ہے اور زمین پر بھی ﴿ إِله﴾ ہے۔ (آیت: 84)

تکوینی اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور تشریعی اقتدار بھی اُسی کا ہے۔ اُلوہیت اور عبادت بھی اللہ ہی کا حق ہے۔

2- مشرکینِ مکہ کا دوسرا مسئلہ ﴿ شرك في الذّات ﴾ کا تھا۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اللہ کے لیے اُس کے بندوں میں سے ﴿ جُزء ﴾ قرار دیتے تھے۔ اس عقیدے کی نفی اور اس کا ابطال آیات 15 تا 25 میں کیا گیا ہے اور آخری حصے میں بھی۔ (آیات 81 تا 82)

3- فرعون بھی اپنے آپ کو زمین میں بالادست حاکم ﴿ إِلٰـه ﴾ اور ﴿ ربّ ﴾ سمجھتا تھا، حالانکہ وہ خود کئی خداؤں کا قائل تھا۔ (اعراف: 127)

4- ہلاکتِ اقوام کا قاعدہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ناشکری اور مشرک قوموں سے ﴿انتقام﴾ لیتا ہے۔ (آیات: 8، 25، 41 اور 55)

5- رسول اللہ ﷺ کو ان مشکل حالات میں تسلی دی گئی (آیات: 40 تا 45 ، 79 ، 83 اور 89)۔ چند سالوں میں قریش شکست سے دوچار ہو کر رہیں گے۔

6- حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی دعوت کے حوالے سے یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی کہ تمام انبیاء توحید کے اِثبات کے لیے کام کرتے رہے اور یہی ﴿صراطِ مستقیم﴾ ہے۔ (آیت: 64)

- **سورةُ الزُّخرُف کا کتابی ربط:**

1۔ پچھلی سورت ﴿ الشّوریٰ ﴾ میں اللہ کی شریعت اور انسانوں کی خودساختہ شریعت کا تقابل بیان کیا گیا تھا ، یہاں اس سورت ﴿الزخرف﴾ میں ﴿ تکوینی حاکمیت ﴾ کے ساتھ ﴿تشریعی حاکمیت﴾ کو بھی اللہ کے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لیے ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ﴿الٰہ﴾ ہے اور زمین میں بھی ﴿الٰہ﴾ ہے۔

2۔ اگلی سورت ﴿الـدُّخَـان﴾ میں فرعونی رویوں کا ذکر ہے، یعنی غرور، تکبر اور ﴿عُلُوٌّ فِي الْأَرض﴾ کا، جس کے سبب انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ کر اللہ کی حاکمیت کے بجائے، اپنے نفس کی حاکمیت قبول کر لیتا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ و مضامین

1- قرآن کو ﴿کـتـابِ مبین﴾ اور ﴿ذکـر﴾ کہا گیا۔ اسے عربی زبان میں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسمٰعیل اسے اچھی طرح سمجھ کر ساری دنیا تک پہنچائیں (آیات: 2، 3، 4، 5 اور 44)

2۔ رسول ﷺ کو ہدایت کی گئی کہ وہ سختی سے اس کتاب کو تھامے رہیں ﴿تَمَسُّكِ وحی﴾۔ (آیت: 43)

3۔ مشرکینِ مکہ نے قرآن پر اعتراض کیا کہ محمد ﷺ کے بجائے ﴿قَـرْيَـتَـيْـنِ عَـظِـيْـم﴾ یعنی مکہ اور طائف کے کسی اور آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا (آیت: 31)۔

4۔ رسول اللہ ﷺ پر ﴿سِـحْـر﴾ جادو کا الزام عائد کیا گیا (آیت: 30)۔ اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ ہر زمانے میں رسولوں کو جادوگر کہا گیا ہے۔ حضرت موسیٰؑ پر بھی جادو کا الزام تھا۔ (آیت: 49)۔

5- اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اور وہ ظالم و جابر قوموں کو ہلاک کر کے رہتا ہے۔ (آیت: 8)۔ چنانچہ تین مرتبہ ﴿اِنْتَقَمْنَا﴾ ہم نے انتقام لیا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: (آیات: 25، 55 اور 41)

6- اس سورت میں کئی بار بتایا گیا ہے کہ اللہ ﴿خالق﴾ ہے۔ مشرکین بھی اللہ کو ﴿خالق﴾ تسلیم کرتے تھے۔ (آیات: 9، 87 اور 12)

(a) اس سورت میں کئی بار بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ﴿ربّ﴾ بھی ہے۔ مشرکینِ مکہ اللہ کو ﴿ربّ﴾ بھی تسلیم کرتے تھے۔ (آیات 10، 11، 12، 14 اور 64)۔

(b) مشرکین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کو ﴿الٰہ﴾ اور ﴿معبود﴾ بھی تسلیم کرتے ہوئے اس کی توحیدِ الوہیت اور توحیدِ حاکمیت کو بھی تسلیم کر لیں۔ (آیات 84، 45) توحیدِ عبادت کا مطالبہ بھی کیا گیا (آیت: 64)۔ جو ﴿ربّ﴾ ہے وہی ﴿معبود﴾ ہو سکتا ہے۔ توحیدِ عبادت ہی ﴿صراطِ مُستَقِیم﴾ ہے۔ (آیت: 64)۔

7- تین جلیل القدر انبیاء بھی کی توحید کے علمبردار ہیں:

(a) حضرت ابراہیمؑ بھی توحید کے علمبردار تھے اور شرک سے بیزار تھے (آیت: 26)۔

(b) حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی توحیدِ اُلوہیت کی دعوت دیا کرتے تھے (آیت: 57 اور 58)۔

(c) رسولِ مبین محمد ﷺ بھی خالص توحید کی دعوت دے رہے ہیں (آیت: 29)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

8- اس سورت میں ﴿شرك في الذات﴾ کی نفی ہے۔ بعض ناشکرے مشرکین نے اللہ کے بندوں ہی کو ، اللہ کا جزبنا ڈالا (آیت:15)۔ بعض نے اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کیں اور فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا۔

9- مشرکینِ مکہ، رسول اللہ ﷺ کی دعوت کا مذاق اُڑا رہے تھے۔ يَسْتَهْزِءُوْنَ (آیت:7) يَضْحَكُوْنَ (آیت:47) اور رسول اللہ ﷺ کے قتل کی سازش کر رہے تھے ﴿اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ﴾ (آیت:79)۔

10- اس سورت میں رسول اللہ ﷺ کو ہدایات دی گئیں اور کئی طرح سے تسلی دی گئی کہ اسلام کی یہ دعوت مشرکین کی سازشوں کے باوجود دنیا میں پھیل کر رہے گی۔(آیات 40 تا 45 ، 79 ، 83 اور 89)۔

سورۃ الزُّخرُف کا نظمِ جلی

سورۃ الزخرف نو(9) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔اس سورت کا بنیادی موضوع اثباتِ توحید اور ردِ شرک ہے۔

1- آیات 1 تا 8 : پہلا پیراگراف تمہیدی ہے۔اس میں دعوتِ قرآن کے مقاصد اور مشرکین کا رویہ دکھایا گیا ہے۔

قریش کو بتایا گیا کہ عربی زبان میں کتابِ مبین نازل کی گئی ہے، تاکہ وہ عقل سے کام لیں۔تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے نبی کا مذاق اڑاتی ہیں اُنہیں ہلاک کر دیا گیا حالانکہ وہ قریش سے زیادہ بطش و جبروت رکھتی تھیں۔

2- آیات 9 تا 14 : دوسرے پیراگراف میں اللہ کی خالقیت اور ربوبیت سے استدلال کرتے ہوئے، امکانِ آخرت کی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں۔

منکرِ آخرت قریش سے کہا گیا کہ تم اللہ کو خالق تو مانتے ہو۔اُس کی عزیزیت اور علم کے بھی قائل ہو۔اُس کی ربوبیت پر غور کرو کہ کس طرح اُس نے زمین میں راستے بنائے۔آسمان سے مقررہ مقدار میں پانی نازل کیا اور مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔اسی طرح تم روزِ قیامت اٹھائے جاؤ گے۔اللہ ہی نے جوڑے بنائے۔کشتیوں اور جانوروں کی صورت میں سواریاں فراہم کیں تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرلو اور اُس کی قدرت کا اعتراف کرلو۔

3- آیات 15 تا 25 : تیسرے پیراگراف میں ﴿شرك في الذات﴾ کی تردید ہے کہ اللہ کا کوئی جز یا حصہ (Part) بھی ہوسکتا ہے۔

خالق، مخلوق جیسا نہیں ہوسکتا۔نہ خالق مخلوق کا حصہ ہوسکتا ہے اور نہ مخلوق خالق کا حصہ۔

ان تمام نعمتوں کے باوجود انسان اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے لیے ﴿جزو﴾ قرار دیتا ہے۔فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، مانتا ہے حالانکہ خود قریش کو بیٹے پسند ہیں۔بیٹیاں نہیں۔بیٹی کی ولادت پر اُن کے چہرے سیاہ ہوجاتے ہیں۔فرشتے رحمٰن کے بندے ہیں۔

انہیں مؤنث قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں۔کیا انہوں نے فرشتوں کی ساخت دیکھی ہے؟ بس باپ دادا کی پیروی کر رہے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ خوشحال ﴿مُتْرَفِیْن﴾ لوگوں میں جب کوئی رسول بھیجا گیا تو انہوں نے باپ دادا کی روایات کی پیروی کرتے ہوئے رسولوں کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جھٹلانے والوں سے انتقام لیا۔

4- آیات 26 تا 45 : چوتھے پیراگراف میں، قریش کو خود ان کے جدِّ امجد حضرت ابراہیمؑ کی دعوت کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ محمد ﷺ کی دعوتِ توحید بھی دعوتِ ابراہیمی کے عین مطابق ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے والد اور اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے معبودوں سے بیزار ہوں۔ محمد ﷺ بھی یہی دعوت دے رہے ہیں لیکن قریش قرآن کو جادو کہہ کر اس کا انکار کر رہے ہیں اور فضول سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ قرآن طائف اور مکہ کے کسی اور آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یہ اختیار اللہ کا ہے۔ اگر ان کے گھر سونے چاندی کے بنا کر معجزات دکھائے جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان پر ایک شیطان مسلط ہے، جو ان کا ساتھی بن گیا ہے۔ روزِ قیامت یہ پچھتائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے اور اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے اللہ ان سے انتقام لے گا۔ ہدایت کی گئی کہ قرآن سے چمٹے رہیں یہی صراطِ مستقیم ہے اور یہی رسول اللہ ﷺ اور اُن کے قوم کے لیے نصیحت ہے۔ تمام رسولوں کو ایک خدائے رحمٰن کی عبادت ہی کا حکم دیا گیا ہے۔

5- آیات 46 تا 56 : پانچویں پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے بھی دعوتِ توحید دی تھی، فرعون نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی فوج کے ساتھ غرق کیا گیا۔

فرعون اور اُس کی حکومت کے سرداروں کو حضرت موسیٰؑ نے دعوت دی انہوں نے مذاق اڑایا۔ انہیں جادوگر کہا اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰؑ کی تحقیر کی۔ فرعون کا دعویٰ تھا کہ وہ ربِّ اعلیٰ اور ﴿الٰہ﴾ ہے۔ وہ اپنے آپ کو کلی اختیارات کا مالک سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور کیا مصر کے یہ دریا میرے زیرِ تصرف نہیں ہیں؟ (آیت: 51) اس سورت میں فرعون کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ وہ ہر آمر کی طرح اپنی رعایا کو ہلکا سمجھتا تھا اور رعایا کا جرم یہ تھا کہ وہ ایسے آمر کی اطاعت کرتی تھی ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ﴾ (آیت: 54) اللہ نے اس سے انتقام لیا۔

6- آیات 57 تا 66 : چھٹے پیراگراف میں، حضرت عیسیٰؑ کی دعوتِ توحید کا بیان ہے اور مخالفین کے رویوں کا ذکر ہے۔

حضرت عیسیٰؑ نے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ میرا رب اور تم لوگوں کا رب اللہ ہے، اُسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ روزِ قیامت آج کے گہرے دوست، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔

7- آیات 67 تا 73 : ساتویں پیراگراف میں، جامع توحید پر ایمان لانے والے متقین کا انجام بیان کیا گیا ہے۔

متقین سے اللہ فرمائے گا کہ آج نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ ملال۔ تم اور تمہارے اہلِ خانہ جنت میں داخل ہوں گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

وہاں سونے کے برتن گردش میں ہوں گے۔ ہر خواہش پوری کی جائے گی، آنکھوں کی لذت کا سامان ہوگا اور ہر قسم کے میوے میسر ہوں گے۔

8- آیات 74 تا 80 : آٹھویں پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کی دعوتِ توحید کو مسترد کرنے والے بدکردار مجرمین کا انجام بیان کیا گیا ہے۔

کافر یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتا، حالانکہ اللہ کے فرشتے ان کی تمام چیزیں لکھ رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں اور اللہ اپنی چال چلے گا۔

9- آیات 81 تا 89 : آخری پیراگراف خلاصے پر مشتمل ہے۔ یہاں ردِ شرک اور توحید اُلوہیت کا اثبات ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ بے عیب ہستی ہے۔ رسول ﷺ کو تسلی دی گئی کہ انہیں کھیل کود میں مگن رہنے دو، یہاں تک کہ ملاقات کا دن آ پہنچے گا، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ تکوینی حاکم بھی ہے اور تشریعی حاکم بھی ہے۔ وہ آسمان کا ﴿الٰہ﴾ بھی ہے اور زمین کا ﴿الٰہ﴾ بھی۔

یہاں توحید الوہیت اور توحید حاکمیت کا مطالبہ ہے۔

غیر اللہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، سفارش صرف اُن کی قبول ہوگی جو حق کی گواہی دیں گے۔ جب مشرکین اللہ کو خالق مانتے ہیں تو پھر ان کی عقل کیوں گوم رہی ہے؟ آخری آیت میں رسول اللہ ﷺ کو ان سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ بہت جلد مشرکین کو پتہ چل جائے گا۔

مرکزی مضمون

خالص اور جامع توحید اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آسمان کے ﴿اِلٰـہ﴾ اللہ کو، زمین کا بادشاہ بھی تسلیم کرنا چاہیے! توحیدِ ذات کے ساتھ توحید خالقیت اور توحید ربوبیت کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اُلوہیت و عبادت اور توحید حاکمیت کو بھی تسلیم کرنا پڑیگا!

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط | نظمِ جلی

44- سُوْرَةُ الدُّخَان

آیات : 59 ...... مَكِّيَّة"...... پیراگراف : 8



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانہ نزول

سورت ﴿الدُّخان﴾ رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) کے اوائل میں، غالباً 7 نبوی کے زمانۂ قحط میں سورت ﴿الجاثِیَة﴾ کے ساتھ نازل ہوئی۔ یہ ﴿حَوامِیم﴾ کے سلسلے کی پانچویں سورت ہے۔

مشرکین مکہ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ پر اعتراض کیا جارہا تھا کہ آپ ﴿مَجنون﴾ اور آسیب زدہ ہیں اور ﴿مُعَلَّم﴾ ہیں، یعنی انہیں سکھایا پڑھایا گیا ہے۔ یہ آخرت کے بارے میں شک اور ریب میں مبتلا تھے۔ انہیں دھمکی دی گئی کہ روزِ قیامت ان سے انتقام لیا جائے گا۔ قریش مکہ کے رویے فرعون جیسے تھے، جو ﴿عُلُو فِي الْأَرْضِ﴾ کے جرم کا مرتکب تھا۔ انتظار کرو! ﴿فَارْتَقِب﴾ کے الفاظ سے رسول اللہ ﷺ کو تسلی اور قریش کو دھمکی دی گئی کو چند سالوں بعد کایا پلٹ جائے گی۔

سورۃ الدُّخان کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿الزُّخرُف﴾ میں توحیدِ تشریع اور توحیدِ حاکمیت کی جوبات مثبت انداز میں بیان کی گئی تھی، یہاں سورت ﴿الدُّخان﴾ میں وہی بات، منفی فرعونی رویوں کی وضاحت کرتے ہوئے رکھی گئی ہے۔

﴿عُلُوّ فِي الارض﴾ کے فرعونی رویوں ہی کے نتیجے میں ﴿شِرك فِي التَّشرِيع﴾ کا عقیدہ اور رویہ جنم لیتا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ ومضامین

1- سورۃ ﴿الدُّخان﴾ میں قرآن کو کتاب مبین کہا گیا (آیت:2)۔ قرآن کو رحمت بتایا گیا ہے۔ (آیت:6) ﴿يسَّرنٰهُ﴾ کے الفاظ سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ عربی زبان میں قرآن کو نازل کر کے اسے عرب کے ابتدائی سامعین کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ (آیت:58)

2- رسول اللہ ﷺ پر قریش کے اعتراضات ﴿مُعَلَّم مَجنون سکھائے پڑھائے گئے خبطی ہیں﴾ کا جواب، عربی زبان کے آسان اور مبین قرآن سے دیا گیا ہے۔ (آیت:14)

3- ابتداء ہی میں قرآن کی دعوتِ توحیدِ الوھیت دی گئی ہے، جس کے لیے قدرت اور ربوبیت سے استدلال کیا گیا ہے۔ (آیت:8)

4- قریش کے شک اور ریب (آیت 9) اور امتراء ﴿تَمتَرُوْنَ﴾ (آیت 50) اور ان کے انکارِ آخرت

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(آیت 35) جیسے رویوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

5- فرعون ﴿ عُلُوّ فِی الْاَرْضِ ﴾ کے جرم کا مرتکب تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسے ﴿ عُلُوّ ﴾ سے بچنے کی ہدایت کی، لیکن وہ ﴿ عالی ﴾ بن کر رہا (آیات 19 اور 31)۔

6- بنی اسرائیل کی فرعونیوں کے ہاتھوں ذلت سے نجات کے احسان اور اقوامِ عالم پر ان کی فضیلت کا ذکر کیا گیا۔ (آیت: 30، 32)

7- اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی کہ وہ ظالموں سے انتقام لے کر رہتا ہے (آیت: 16) اور مجرمین کو ہلاک کر کے رہتا ہے۔ (آیت: 37)

8- اس سورۃ میں دو مرتبہ قریش کو ﴿ فارتقب انتظار کرو ﴾ کے الفاظ سے دھمکی دی گئی ہے۔ (آیات 10 اور 59)

9- قیامت کے دن، آسمان دوبارہ ﴿ الدخان ﴾ یعنی دھواں بن جائے گا۔

﴿ یَوْمَ تَاْتِی السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِیْنٍ ﴾ (آیت: 10)

سورۃ ﴿ حٰمٓ السّجدۃ ﴾ میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ آسمان کی ابتداء بھی ﴿ الدخان ﴾ یعنی دھویں سے ہی ہوئی تھی۔ ﴿ ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَآءِ وَهِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَاۤ اَتَیْنَا طَآئِعِیْنَ ﴾ (آیت: 11)

سورۃ الدّخان کا نظمِ جلی

سورۃ الدخان آٹھ (8) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 8 : پہلے پیراگراف میں قرآن اور اللہ کا تعارف ہے اور قرآن کے ذریعے توحید کی دعوت ہے۔

﴿ اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِیْنَ ﴾ (آیت: 3) قرآن کی تنزیل ایک مبارک رات سے ہوئی ہے جس میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی رب اور خالق ہے۔ وہ معبود ہے، وہی اگلوں اور پچھلوں کو زندگی اور موت دینے پر قادر ہے۔

2- آیات 9 تا 16: دوسرے پیراگراف میں مشرکین کے رویوں کا ذکر ہے۔ ان کے اعتراضات ، ان کے شکوک وشبہات اور ان کے انکارِ آخرت کا بیان ہے۔

یہ لوگ شک میں مبتلا ہو کر کھیل رہے ہیں۔ ﴿ بَلْ هُمْ فِیْ شَكٍّ یَّلْعَبُوْنَ ﴾ (آیت: 9) ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک ایسا مجنون اور پاگل قرار دیا، جسے سکھایا اور پڑھایا گیا ہے۔ ان سے بدلا لیا جائے گا اور اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوگی۔ ﴿ یَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰی اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ﴾ (آیت: 16)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3- آیات 17 تا 33 : تیسرے پیراگراف میں فرعون اور بنی اسرائیل کی کشمکش اور فرعون سے ان کی نجات کی سچی داستان بیان کی گئی ہے۔

فرعون ﴿عُلُوٌّ فِی الارض﴾ کے جرم کا مرتکب تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسے دعوت دی کہ تم اللہ کے مقابل بڑے بننے کی کوشش مت کرو ﴿وَاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ﴾ (آیت:19) لیکن وہ نہ مانا اسے ہلاک کیا گیا۔ تاریخ میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مجرموں کو ہلاک کرتا ہے تو ان پر نہ آسمان روتا ہے اور نہ زمین۔ ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ﴾ (آیت:29) انہیں مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ فرعون کے بارے میں دوبارہ یہ بات بتائی گئی کہ وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والا مسرف تھا، سرکش تھا اور حدود سے تجاوز کیا کرتا تھا۔ ﴿اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ﴾ (آیت:31)

4- آیات 34 تا 37: چوتھے پیراگراف میں مشرکین مکہ کے انکارِ آخرت کے رویے کا ذکر کرکے، انہیں قوم تبّع کی ہلاکت سے تخویف کی گئی ہے۔

مشرکین سے پوچھا گیا کہ یہ بہتر ہے یا قومِ تبع کے لوگ؟ اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ یہ نافرمان اور مجرم تھے۔ ﴿اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ﴾ (آیت:37)

5- آیات 38 تا 42 : پانچویں پیراگراف میں تخلیقِ کائنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بلا مقصد نہیں ہے ﴿لٰعِبِيْنَ﴾ (آیت:38) اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے ساتھ کائنات کو پیدا کیا ہے۔ قیامت ہوگی۔ وہاں کوئی مدد نہیں مل سکے گی۔

6- آیات 43 تا 50 : چھٹے پیراگراف میں مشرکین و کافرین کی دوزخ میں تواضع کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

گنہگاروں کے لیے زقوم کا کھانا ہوگا، آگ ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ شک میں مبتلا لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم با اقتدار اور باعزت بنے رہے۔ اب عذاب کا مزہ چکھو۔ ﴿اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ○ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ﴾

7- آیات 51 تا 57 : ساتویں پیراگراف میں ایمان لانے والے متقین کے لیے انعاماتِ جنت کا وعدہ ہے۔

انہیں باغ، چشمے اور قیمتی لباس اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے نوازا جائے گا۔

8- آیات 58 اور 59 : آٹھویں پیراگراف میں، پہلے پیراگراف کی طرح دعوتِ قرآن کا اعادہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کو تسلی اور قریش کے مشرک سرداروں کو ہلاکت کی دھمکی ہے۔

قرآن کو رسول اللہ ﷺ کی زبان میں یاددہانی کے لیے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ ان حالات میں آپ ﷺ کو صبر کرنا چاہیے اور مشرکین بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بہت جلد اللہ کا فیصلہ آجائے گا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

فرعونیت، دنیا پرستی، ﴿عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾، انکارِ دعوتِ قرآن اور انکارِ توحید و آخرت کی سزا، ہلاکتِ دنیا اور دوزخ ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

45- سُورَةُ الجَاثِيَة

آیات : 37 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 7



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول اور پس منظر

سورت ﴿ الجاثیة ﴾ ﴿حوامیم﴾ کے سلسلے کی چھٹی سورت ہے۔سورت ﴿ الجاثیة ﴾، قیام مکہ کے تیسرے دور میں (6 تا 10 نبوی) سُورۃ الدُّخان کے ساتھ، غالباً سات (7) نبوی کے دور قحط میں نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا، جب رسول اللہ ﷺ قرآن کی روشنی میں توحید اور آخرت کی عقلی، نقلی، تاریخی، آفاقی اور انفسی دلیلیں پیش کر رہے تھے۔ ان دلیلوں (Evidences) کے لیے اس سورت میں ﴿آیة﴾ اور ﴿آیـات﴾ کے الفاظ بار بار استعمال کیے گئے ہیں۔اس کے جواب میں مشرکینِ مکہ، مذاق اور استہزاء سے کام لے رہے تھے۔شرکِ ولایت میں مبتلا تھے۔ منکرِ آخرت تھے۔خواہشاتِ نفس کو خدا بنا کر، تکبر کے عالم میں دنیا پرستی کے مرض میں شدت سے مبتلا تھے۔انہیں سمجھایا گیا ہے کہ وہ قرآنی دلائل کی روشنی میں، مقصدِ تخلیق کائنات کو سمجھ کر ایمان لائیں گے تو فلاح اور عافیت نصیب ہوگی۔

سورۃ الجاثیہ کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿ الدُّخان ﴾ میں فرعونیت اور ﴿عُلُـوّ فِـی الْاَرض ﴾ سے روکا گیا تھا، یہاں اس سورت ﴿ الجَـاثِـیَة ﴾ میں فرعونیت اور ﴿عُلُـوّ فِی الْاَرضِ ﴾ کی علت اور وجہ بتائی گئی ہے۔﴿ہوائے نفس کی عبادت﴾ اور ﴿ تکبر اور استہزاء ﴾ جیسے منفی فرعونی رویوں کی وجہ سے فرعونیت جنم لیتی ہے۔

﴿اَفَـرَءَیْـتَ مَـنِ اتَّـخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰهُ وَاَضَلَّـهُ اللّٰهُ عَـلٰی عِـلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰی سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَـلٰی بَـصَرِهٖ غِـشٰوَةً فَـمَنْ یَّـهْدِیْـهِ مِنْ بَـعْدِ اللّٰهِ اَفَـلَا تَـذَكَّرُوْنَ﴾ (آیت:23)۔

اہم کلیدی الفاظ ومضامین

1- اس سورت میں دو مرتبہ ، اللہ کی صفات ﴿العـزیـز الحکیم ﴾ کا استعمال، ابتداء میں اور اختتام پر ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ ﴿العزیز الحکیم ﴾ ہی کی ﴿کبریائی﴾ ہے۔(آیات 2 اور 37)۔

2- قرآن کے نزول کا مقصد:

(a) قرآن عزیز و حکیم اللہ کی طرف سے بتدریج ﴿ تنزیلاً ﴾ نازل کیا جا رہا ہے (آیت 2)۔

(b) قرآن ہدایت ہے (آیت 11)۔

(c) قرآن یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور لوگوں کے لیے ﴿بَصَائِـر ﴾ کی حیثیت رکھتا ہے (آیت 20)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(d) نزولِ قرآن کا مقصد، بنی اسرائیل کے بگاڑ اور ﴿ بَغۡیٌ ﴾ کا انسداد ہے (آیات 16 تا 19)۔

3- تخلیقِ ارض وسما اور قیامت کی عدالت کا ایک خاص مقصد ﴿ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴾ کا امتحانِ حسنِ عمل ہے ﴿ وَلِتُجۡزٰی کُلُّ نَفۡسٍۭ بِمَا کَسَبَتۡ ﴾ (آیت 22)۔

4- اس سورت میں ﴿ آیۃ ﴾ اور ﴿ آیات ﴾ کے الفاظ سے توحید کے کئی دلائل (Evidences) پیش کیے گئے ہیں۔

(a) دلائلِ توحیدِ قدرت تخلیقِ ارض وسماء:

﴿ اِنَّ فِی السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ لَاٰیٰتٍ لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴾ (آیت:3)۔

(b) انسانی تخلیق کے انفسی دلائلِ توحیدِ قدرت:

﴿ وَفِیۡ خَلۡقِکُمۡ وَمَا یَبُثُّ مِنۡ دَآبَّۃٍ اٰیٰتٌ لِّقَوۡمٍ یُّوۡقِنُوۡنَ ﴾ (آیت:4)۔

(c) دلائلِ قدرت وآخرت (آیات:5، 6، 32):

﴿ وَاخۡتِلَافِ الَّیۡلِ وَالنَّہَارِ وَمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ مِنَ السَّمَآءِ مِنۡ رِّزۡقٍ فَاَحۡیَا بِہِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِہَا وَتَصۡرِیۡفِ الرِّیٰحِ اٰیٰتٌ لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ﴾ (آیت:5)۔

﴿ تِلۡکَ اٰیٰتُ اللّٰہِ نَتۡلُوۡہَا عَلَیۡکَ بِالۡحَقِّ ۚ فَبِاَیِّ حَدِیۡثٍۭ بَعۡدَ اللّٰہِ وَاٰیٰتِہٖ یُؤۡمِنُوۡنَ ﴾ (آیت:6)۔

(d) دلائلِ توحیدِ ربوبیت (آیات 12، 13)۔

﴿ اَللّٰہُ الَّذِیۡ سَخَّرَ لَکُمُ الۡبَحۡرَ لِتَجۡرِیَ الۡفُلۡکُ فِیۡہِ بِاَمۡرِہٖ وَلِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِہٖ وَلَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ ﴾ (آیت:12)۔

﴿ وَسَخَّرَ لَکُمۡ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ جَمِیۡعًا مِّنۡہُ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ ﴾ (آیت:12)۔

(e) منکرینِ آخرت کے لیے دلائلِ تاریخ ﴿ اَیَّامَ اللّٰہِ ﴾ ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجرم منکرین کو سزا دی؟

﴿ قُلۡ لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا یَغۡفِرُوۡا لِلَّذِیۡنَ لَا یَرۡجُوۡنَ اَیَّامَ اللّٰہِ لِیَجۡزِیَ قَوۡمًۢا بِمَا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ ﴾ (آیت:14)

(f) منکرینِ قیامت کے لیے عقلی دلیلِ آخرت ہے کہ صالح عمل کرنے والوں اور گناہ کمانے والوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ (آیت:21)

5- اس سورت میں مشرکینِ مکہ کے خلاف فردِ جرم عائد کی گئی ہے:

(a) اللہ کے علاوہ کوئی ﴿ ولی ﴾ یعنی سرپرست اور کارساز قیامت کے دن مشرکین کو بچا نہیں سکے گا، جب کہ اللہ تعالیٰ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

متقین کا ﴿ولی﴾ ہوگا۔ (آیات: 10، 19) مشرکین کا 'عقیدۂ ولایت' باطل ہے۔

(b) مشرکینِ مکہ دعوتِ توحید کے باجود، آیاتِ الٰہی کے بارے میں تکبر کا مظاہرہ کررہے ہیں (آیات: 8 اور 31)

(c) مشرکینِ مکہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اس پر شکوک وشبہات کا اظہار کرتے ہیں (آیت: 32)

(d) مشرکینِ مکہ آخرت کے سلسلہ میں یہ باطل حجت پیش کرتے ہیں کہ ہمارے مرے ہوئے آباء واجداد کو زندہ کرکے دکھاؤ!

(e) مشرکینِ مکہ ﴿لقاء﴾ یعنی ملاقاتِ آخرت سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے وہ داخلِ جہنم ہوں گے (آیت: 34)

(f) مشرکینِ مکہ نے اپنی خواہشاتِ نفس کو ﴿الٰہ﴾ بنالیا ہے اور وہ اس خدا کی پیروی کررہے ہیں۔ (آیت: 23)

(g) مشرکین مکہ خالص دنیا پرست اور دہریے ہیں، ان کی زبان پر ﴿وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ﴾ کی رٹ ہے اور یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ (آیات: 24 اور 35)

(h) مشرکینِ مکہ کو صاف بتادیا گیا کہ روزِ قیامت سب لوگ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوں گے ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً﴾ (آیت: 28)۔ ﴿جَاثِيَة﴾ اسمِ فاعل مؤنث ہے۔ اس کا لفظی مطلب گھٹنے ٹیکنے والی ہے۔

سورۃُ الجاثِیَۃ کا نظمِ جلی

سورت الجاثِیَۃ سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 6: پہلے پیراگراف میں ﴿الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ اللہ کی طرف سے توحید وآخرت کے قرآنی دلائل پیش کیے گئے ہیں اور مشرکینِ مکہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف اشارہ ہے۔

2- آیات 7 تا 11: دوسرے پیراگراف میں مشرکینِ مکہ کی ہٹ دھرمی کی تفصیل یعنی ان کے تکبر، استہزاء اور شرکِ ولایت کا ذکر ہے کہ وہ ﴿غیر اللہ﴾ کو کارساز اور سرپرست یعنی ﴿ولی﴾ تسلیم کیا کرتے تھے۔

3- آیات 12 تا 15: تیسرے پیراگراف میں ان ناشکروں کے لیے دلائلِ شکر ہیں اور ان باغیوں کو ﴿أَيَّامَ اللَّهِ﴾ کے تاریخی دلائل سے ڈرایا گیا ہے۔

4- آیات 16 تا 20: چوتھے پیراگراف میں بنی اسرائیل کی شریعت کے بعد، شریعتِ محمدیؐ کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔

بنی اسرائیل، قریش کی طرح باہمی استحصال Mutual Exploitation ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ اور ایک دوسرے پر دست درازی کے مجرم ہوگئے تھے۔ ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ (آیت:18)

5- آیات 21 تا 25 : پانچویں پیراگراف میں، انکار، تکبر اور ہٹ دھرمی کی اصل علت بیان کی گئی ہے۔

یہ منکرینِ آخرت، متاعِ دنیا پر فریفتہ ہو کر اور اپنے نفس کو ﴿الٰہ﴾ مان کر، خواہشاتِ نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں ان دہریوں سے مجادلہ کیا گیا ہے۔

انہوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ﴿ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ ﴾ (آیت:23)

یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ﴾ (آیت:24)

ان کی غلط فہمی دور کی گئی کہ ان کا انجام نیک مسلمانوں کی طرح ہوگا۔ ﴿اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴾ (آیت:21)

6- آیات 26 تا 35 : چھٹے پیراگراف میں، احوالِ قیامت بیان کر کے، مجرمین، متکبرین اور ﴿مُسْتَهْزِئِيْن﴾ کا انجام دکھایا گیا ہے

7- آیات 36 تا 37: ساتویں پیراگراف میں ، پہلے پیراگراف کی طرح اللہ کی دو صفات ﴿ العزیز الحکیم ﴾ کا ذکر کر کے اس کی حمد اور کبریائی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس کی توحید ہی برحق ہے۔

مرکزی مضمون

﴿العزیزُ الحکیم﴾ ہستی نے ایک خاص مقصد کے تحت کائنات کی تخلیق کی ہے، جس کی وضاحت کے لیے قرآنی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مذاق اُڑانے کے بجائے ، توحید و آخرت کی دعوت پر ایمان لا کر دہریت اور دنیا پرستی سے بچنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ ربط نظمِ جلی

46- سُورَةُ الأحْقَاف

آیات : 35 ...... مَكِّيَّة"...... پیراگراف : 10



زمانۂ نزول اور پس منظر:

﴿سورۃ الاحقاف﴾ غالبًا ﴿سُورۃُ الجِنّ﴾ کے ساتھ، غالبًا دورۂ طائف سے واپسی پر نخلہ کے مقام پر (شوال 10 نبوی میں) ہجرتِ مدینہ سے تین سال پہلے نازل ہوئی، جب رسول اللہ ﷺ پر ﴿سِحر﴾ اور ﴿افتریٰ﴾ کے الزامات کی بازگشت تھی۔ کتابی اعتبار سے یہ ﴿حوامیم﴾ کے سلسلے کی ساتویں اور آخری سورت ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الاحقاف کا کتابی ربط

1- پچھلی سورۃ ﴿الجاثیۃ﴾ میں فرعونیت کی وجوہات، تکبر اور غرور، دہریت اور دنیا پرستی، خواہشاتِ نفس کی پیروی وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، یہاں ﴿سورۃ الاحقاف﴾ میں اس کی وضاحت قومِ عاد کے متکبرانہ منفی رویوں سے کی گئی ہے۔

2- یہاں سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے راست (Direct) ہلاکت کا ذکر ہے۔ اگلی سورت ﴿مُحَمَّد﴾ مدنی ہے، جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح بالواسطہ (Indirectly) اللہ تعالیٰ بعض اوقات کافر قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- سورت ﴿الاحقاف﴾ میں، اثباتِ توحید، ردِ شرک، وضاحتِ منصبِ رسالت کے بعد، قریش کے وسیلے کے عقیدے کا سختی سے رد کیا گیا ہے اور ﴿قُرْبَاناً اٰلِهَةً﴾ کی بے بسی ظاہر کی گئی ہے۔

2- یہ ایک جلالی سورت ہے، اس میں وادیٔ احقاف کی قومِ عاد کی ہلاکت کا بھی ذکر ہے اور قوموں کی ہلاکت کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکینِ مکہ کو ان کو شرک اور استکبار سے روکنے کے لیے، قومِ عاد کے انجام سے ڈرایا گیا ہے اور آخری آیت میں ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔

3- انسانوں کو غیرت دلائی گئی ہے کہ تم سے تو جنات اچھے رہے، وہ قرآن سن کر نہ صرف مسلمان ہوئے، بلکہ داعی اور مبلغ بن گئے۔

4- قرآن کی خصوصیات اور اس کی دعوتِ توحید:

(a) قرآن حکمت والے زبردست اللہ ﴿العزیز الحکیم﴾ کی طرف سے نازل کردہ ہے (آیت:2)۔

(b) مشرکینِ مکہ کی طرف سے قرآن پر جادو ﴿سِحْرٌ مُّبِيْنٌ﴾ کا الزام عائد کیا گیا کہ اسے رسول اللہ ﷺ نے گھڑ لیا ہے (آیت:7)

(c) قرآن کی دعوت کو مشرکینِ مکہ نے قدیم جھوٹ ﴿اِفْكٌ" قَدِيْمٌ"﴾ قرار دیا (آیت:11)۔

(d) قرآن اور تورات میں مماثلت ہے، دونوں انسانوں کی امامت کے لیے بطورِ رحمت نازل کیے گئے ہیں (آیت :12)، چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک معقول شخص نے، یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، لیکن قریش نے تکبر سے کام لیا۔ (آیت:11)

5- مشرکینِ مکہ کے رویے:

(a) اس سورت میں مشرکینِ مکہ سے ﴿مجادلہ﴾ کیا گیا ہے اور ان کے عقیدے کا ابطال کر کے، انہیں جنات کی طرح

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

توحید قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

(b) قرآن کی دعوتِ توحید کو، مشرکینِ مکہ نے مسترد کر کے اعراض اور گریز کا رویہ اختیار کیا ہے(آیت: 3)۔

(c) ﴿شِرك فی الدعا﴾ کی تردید: خودساختہ خدا﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ قیامت تک دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے(آیت:5)

(d) مشرکینِ مکہ نے رسول اللہ ﷺ پر افتریٰ کا الزام عائد کیا(آیت:8) اور اُس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپؐ کوئی نئی دعوت نہیں پیش کر رہے ہیں(آیت:9) بلکہ آپؐ آخری رسول ہیں اور تمام رسول یہی دعوت دیتے رہے ہیں۔

(e) چالیس سالہ موحد باپ کی والدین اور اولاد کے لیے دعائیں اور کافر بیٹے کا ردِّ عمل بیان کر کے، قریش کو آباء پرستی کے بجائے توحید کی دعوت پر اپنی عقلِ سلیم سے غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے(آیات 15 تا 20)

(f) مشرکینِ مکہ کے قبولیتِ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کا تکبر اور غرور ہے، جس کی سزا انہیں آگ کی صورت میں دی جائے گی۔(آیات 10،20)

(g) مشرکینِ مکہ کو بتادیا گیا کہ ان کے ﴿قُرباناً اٰلِهَةً﴾ یعنی وہ اٰلِهة ، وہ خدا، جنہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پوجا جاتا تھا اور جن کی عبادت اللہ کا ﴿وَسِيلَة﴾ سمجھ کر کی جاتی تھی، بے بس اور لاچار ہیں۔ مشرک قوموں کی ہلاکت کے موقع پر ایسے﴿قُرباناً اٰلِهَة﴾ مدد کے لیے نہیں آتے(آیت 28)۔

6- سورۃ الاحقاف میں ہلاکتِ اقوام کے اُصول بھی بیان کیے گئے ہیں:

(a) فاسق یعنی نافرمان اور بدعمل قومیں ہلاکت کر دی جاتی ہیں (آخری آیت:35)۔

(c) جو لوگ اپنے خودساختہ خداؤں﴿ اٰلِهَة ﴾ کو تقربِ الٰہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، انہیں صاف صاف بتادیا گیا کہ﴿ قُرباناً اٰلِهَةً﴾ کا عقیدہ رکھنے والوں کی ہلاکت کے موقع پر یہ خودساختہ خدا﴿ اٰلِهَة ﴾ بے بس ہوتے ہیں اور انہیں بچا نہیں سکتے۔(آیت 28)

(d) قومِ عاد ایک مجرم قوم تھی، جو آیاتِ الٰہی کی منکر تھی، اُسے ﴿ رِيح ﴾ یعنی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔(آیت 24)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورة الاحقاف کا نظمِ جلی

سورة الاحقاف دس (10) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 3: پہلے پیراگراف میں ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ﴾ کی تنزیل قرآن کا مقصد بتا کر، انسان کو تخلیقِ کائنات اور قیامت کی عدالت کے مقصد سے آگاہ کیا گیا ہے، لیکن کافر گریز اور اعراض کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔

2- آیات 4 تا 6: دوسرے پیراگراف میں مشرکینِ مکہ سے (جو توحیدِ خالقیت کے قائل تھے) توحیدِ دُعا، توحیدِ عبادت اور توحیدِ اُلوہیت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

مشرکین سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ نے زمین و آسمان میں کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی آسمانی کتاب دکھاؤ، جس میں شرک کی دلیل ہو؟ ﴿غیر اللہ﴾ قیامت تک لوگوں کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب مشرکین کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔

3- آیات 7 تا 11: تیسرے پیراگراف میں، محمد ﷺ اور قرآن پر اعتراضات نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے

ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن جادو ہے (آیت: 7) دوسرا یہ کہ یہ گھڑ لیا گیا افترىٰ ہے۔ (آیت 8) ﴿إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ ہے یعنی پرانا جھوٹ ہے (آیت: 11)۔ انہیں جواب دیا گیا کہ میں نرالا رسول نہیں ہوں۔ وحی کی پیروی کر رہا ہوں۔ خود مجھے نہیں پتہ کہ میرے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میں تو صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے اسلام کی گواہی دے دی ہے اور تم لوگ تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

4- آیات 12 تا 14: چوتھے پیراگراف میں، تورات اور قرآن کی مماثلت بیان کر کے توحید پر استقامت کی دعوت دی گئی ہے

تورات بھی امام اور رحمت تھی اور یہ عربی زبان کا قرآن بھی۔ قرآن کے نزول کا مقصد بھی ظالم مشرکین کو ڈرانا اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دینا ہے، جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے اُس پر ڈٹ جاتے ہیں، انہیں خوف و ملال نہیں ہوگا۔ ان کے نیک اعمال کے سبب انہیں جنت عطا کی جائے گی۔

5- آیات 15 تا 20: پانچویں پیراگراف میں، مُوَحِّد باپ اور کافر بیٹے کے مختلف رویے بیان کر کے، قریش کو آباء پرستی کے بجائے، توحید کی دعوت پر عقلِ سلیم سے غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اُن کو اُن کے تکبر، فسق، بدعملی اور استکبار کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔

اللہ نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا ہے۔ بالخصوص ماں کے ساتھ جو تکلیف کے ساتھ حمل اٹھائے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پھرتی ہے، پھر جنتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، یہاں تک کہ وہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے شکر کی توفیق طلب کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اولاد کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ اور ایسے عمل کی توفیق چاہتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اس کے برخلاف وہ نوجوان جو اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے اور آخرت پر ایمان لانے سے انکار کر دیتا ہے اور اسلام کی دعوت کو پرانے زمانے کی کہانیاں قرار دیتا ہے۔ اُس کے لیے عذاب ہے۔ یہ روزِ قیامت آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ انہیں ان کے غرور اور تکبر اور ان کی فسق اور بد عملی کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔

6- آیات 21 تا 26 : چھٹے پیراگراف میں، تاریخی دلائل ہیں۔ مشرکینِ مکہ کو قوم عاد کی ہلاکت کی داستان سنا کر ڈرایا گیا ہے

مشرکینِ مکہ کے رویے اور جرائم، قوم عاد کے جرائم کے مشابہ تھے:

قومِ عاد، حضرت نوحؑ کی قوم کی ہلاکت کے بعد میدان میں لائی گئی۔ یہ کشتی والوں کی اولاد تھی۔ ان کا زمانہ غالباً تین ہزار قبل مسیح (3,000 BC) کا ہے۔ ان کے رسول حضرت ھودؑ تھے۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی (آیت 21)۔

(a) یہ ایک مشرک قوم تھی، جنہوں نے حضرت ھودؑ سے صاف کہہ دیا کہ کیا آپ ہمیں ہمارے ﴿ اٰلِهَة ﴾ سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں؟ قومِ عاد کو اپنے خداؤں ﴿ اٰلِهَة ﴾ پر اصرار تھا (آیت 22)۔

(b) یہ مجرم تھے (آیت 25) ۔ حضرت ھودؑ نے انہیں جاہل کہا۔ (آیت 23)۔

(c) یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ان کا مذاق اُڑاتے تھے (آیت 26)۔

(d) یہ لوگ آنکھ، کان اور دل و دماغ سے کام نہیں لیتے تھے (آیت 26)۔ یہ سوچتے تھے اور نہ عقل سے کام لیتے تھے۔

حضرتِ ھودؑ نے ﴿ احقاف ﴾ کی وادی میں قومِ عاد کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی وہ مشرک تھے۔ انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا، انہیں ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ مجرم قوموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ انہیں کان آنکھیں اور دل دیے گئے ہے، لیکن انہوں نے ان سے کام نہیں لیا۔ اللہ کی آیات کا انکار کیا اور مذاق اڑایا اور عذاب میں گرفتار ہوئے۔

7- آیات 27 تا 28 : ساتویں پیراگراف میں مشرک اَقوام کی ہلاکت کے موقعوں پر ﴿ قربانًا اٰلِهَة ﴾ کی بے بسی اور بے اختیاری کا نقشہ کھینچ کر، اللہ کے کامل اختیار کو ثابت کیا گیا ہے۔

اللہ تعالی نے کئی بستیوں کو ہلاک کیا اور طرح طرح سے اپنی نشانیاں دکھائیں، اس توقع پر کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف پلٹیں گے۔ لیکن نہ پلٹے، چنانچہ ہلاک کیے گئے۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، جن خداؤں کے وسیلے سے یہ مدد مانگا کرتے تھے، انہوں نے ہلاکت کے موقع پر کوئی مدد کیوں نہیں کی؟ بلکہ سب غائب ہو گئے۔ ثابت ہوا کہ یہ سارے عقائد غلط تھے اور لوگوں کے خود ساختہ تھے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

8- آیات 29 تا 32 : آٹھویں پیراگراف میں، قریش کو غیرت دلائی گئی ہے کہ اللہ کے کلام قرآن کی صحیح قدردانی تم نے نہیں کی، لیکن جنّات نے کی اور سماعتِ قرآن کے بعد جنّات میں داعی اور مبلغین توحید پیدا ہو گئے۔

(a) بعض جنات قرآن سن کر داعی، مبلغ اور ڈرانے والے ﴿مُنْذِر﴾ بن کر اپنی قوم میں تبلیغ کرنے لگے۔ (آیت:29)

(b) مؤمن جنات ، تورات کے بعد قرآن کو ﴿ صراطِ مُستقیم ﴾ کی طرف دعوت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ (آیت:30)

(c) مؤمن جنات، رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو قبول کرنے اور ایمان لانے کا مشورہ دینے لگے۔ (آیت:31)

(d) مؤمن اور توحید پرست جنات ﴿شرکِ ولایت﴾ کو صریح گمراہی سمجھنے لگے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا، سرپرست اور کارساز ﴿ولی﴾ نہیں ہے (آیت:32)۔

9- آیات 33 تا 34 : نویں پیراگراف میں، توحیدِ خالقیت سے، امکانِ آخرت پر استدلال کیا گیا ہے۔

جو ہستی زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد تھکن کا شکار نہیں ہوئی، کیا وہ مردوں کی تخلیق پر قادر نہیں ہے؟

﴿ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْىِۦَ الْمَوْتٰى بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (آیت:33)

10- آیت 35 : آخری پیراگراف میں، رسول ﷺ کو صبر و عزم کی نصیحت اور فاسقین کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔

مرکزی مضمون

﴿العزیز الحکیم﴾ کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لا کر، مشرک قومِ عاد کے انجام سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ توحید پرست ﴿جِنّات﴾ کی طرح قرآن کے داعی اور مبلغ بننا ضروری ہے، ورنہ ہمارا انجام بھی قومِ عاد سے مختلف نہیں ہوگا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشۂ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

47- سُوْرَۃُ مُحَمَّدٍ

آیات : 38 ...... مَدَنِیَّۃٌ ...... پیراگراف : 6



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول اور پسِ منظر

﴿ سُورۃ مُحَمَّد ﴾ کا دوسرا نام ﴿ سورۃُ القِتَال ﴾ بھی ہے۔ ﴿سُورۃ مُحَمَّد﴾ غالباً شعبان یا رمضان 2 ھ میں، جنگِ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔

اس سے پہلے سورۃ ﴿التغابُن﴾، ﴿سُورۃُ البَقَرَة﴾ اور ﴿سورۃُ الطَّلَاق﴾ نازل ہو چکی تھیں۔

سورۃ ﴿التغابُن﴾ میں صرف انفاق کا مطالبہ ہے، جب کہ یہاں سورۃ ﴿محمد﴾ میں انفاق اور جہاد دونوں کی اپیل کی گئی ہے۔

ہجرتِ مدینہ کے بعد، مدینۂ منورہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی گئی، لیکن منافقین، قریشِ مکہ اور دیگر طاغوتی قوتیں اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ مشرکین اور مؤمنین کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا، جب 313 مسلمان مجاہدین نے 1,000 سے زیادہ کی فوج کو شکست دی۔

جنگِ بدر سے پہلے اس ﴿سُورۃ مُحَمَّد﴾ کے نزول کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں جہاد اور انفاق کا جذبہ اُبھارا جائے۔ مسلمانوں پر جنگ کا جواز اور اس کی حقانیت (Legitimacy of War) ثابت کی جائے، تاکہ وہ پورے انشراحِ صدر کے ساتھ مال اور جان کے ساتھ لڑ سکیں، جنگ کے مقاصد واضح کیے جائیں اور اُن منافقین کو تنبیہ کی جائے، جو بلند و بانگ دعوے کیا کرتے تھے، لیکن جہاد کی پکار پر ٹھنڈے پڑ گئے۔

حوامیم کے بعد تین (3) مدنی سورتیں

قرآن مجید میں حوامیم کے بعد تین (3) مدنی سورتیں سورۃ ﴿مُحَمَّد﴾ سورۃ ﴿ الفتح﴾، اور سورۃ ﴿الحُجُرَات﴾ رکھی گئی ہیں۔ ان کے بعد سات (7) مکی سورتیں آتی ہیں، جن میں امکانِ قیامت کے دلائل اور آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ سورۃ ق سے شروع ہو کر ﴿سورۃ الواقِعَه﴾ پر ختم ہوتا ہے۔ ان کے بعد دس (10) مدنی سورتیں رکھی گئی ہیں، جن میں سے بیشتر ﴿ مُسَبِّحات ﴾ ہیں۔

سورۃ محمد کا کتابی ربط

1- پچھلی ﴿سورۃ الاحقاف﴾ میں اللہ کی طرف سے راست اِقدام (Direct Action By Allah) کے ذریعے قوموں کی ہلاکت بالخصوص قومِ عاد کی ہلاکت کا ذکر تھا (احقاف: آیات 21 تا 27)۔

یہاں سورۃ ﴿ مُحَمَّد ﴾ میں، مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کی بالواسطہ (By Indirect Action) ہلاکت کا حکم ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اللہ تعالیٰ کافروں کے خلاف جہاد کا حکم دے کر مسلمانوں کو ان کے ایمان وعمل میں آزمانا چاہتا ہے۔

﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ ''اگر اللہ چاہتا تو کافروں سے خود انتقام لے لیتا، لیکن وہ بعض قوموں کو بعض قوموں سے آزمانا چاہتا ہے۔'' (آیت:4)

2- یہاں جہاد کا حکم ہے، اگلی سورۃ ﴿الفتح﴾ میں کثیر مالِ غنیمت ﴿مَغَانِمَ كَثِيرَةً﴾ کی بشارت دی گئی ہے جو ابتدائی انفاق اور جہاد کے نتیجے ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔

اہم الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں برسرِ پیکار دو (2) گروہوں یعنی اہلِ ایمان ﴿الذين آمنوا﴾ اور اہلِ کفر ﴿الذين كفروا﴾ کے درمیان تقابل ملتا ہے، تا کہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ ان کافروں سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ سورۃ الحج میں وارد الفاظ ﴿هذان خصمان﴾ کی وضاحت ہے۔

(a) ایمان لانے والوں کا ذکر چار (4) آیات میں ہوا ہے۔ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (آیات:2، 3، 12 اور 33)

(b) کفر کرنے والوں کا ذکر سات (7) آیات میں ہوا ہے۔ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (آیات:1، 3، 8، 10، 12، 32 اور 34)

2- مسلمانوں کو صاف بتا دیا گیا کہ ان کا ﴿مولیٰ﴾ حامی، ناصر، سرپرست اور کارساز اللہ تعالیٰ ہے (آیت:11)۔ انہیں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعداد میں گو کم ہیں، لیکن بالآخر انہی کو فتح حاصل ہوگی۔

3- اللہ تعالیٰ کا یہ اصول (Law of Annihilation) بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہلاکتِ اقوام کا اختیار بھی رکھتا ہے (آیت: 10) اور انہیں ہلاک کرنے کے بعد ایک دوسری قوم کو امتحان گاہ میں لے آتا ہے۔ یہ اس کا (Law of Replacement) قانونِ استبدالِ اقوام ہے۔ (آیت:38)

4- بخل اور کنجوسی، جہاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ بخیل اور بزدل قومیں زیادہ دیر تک اپنی بقاء کی جنگ نہیں لڑ سکتیں (آیات: 37، 38) آخری آیت میں بخیلوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر وہ جہاد کے لیے دل کھول کر فیاضی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا کر ایک دوسری قوم کو لا سکتا ہے۔

﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ (آیت:38)۔

5- جہاد کی کامیابی کے لیے تقویٰ ایک بنیادی شرط ہے، ﴿تقویٰ﴾ کا ذکر تین (3) آیات میں کیا گیا۔ دورانِ جہاد، التزامِ تقویٰ بہت سے مفاسد سے مسلمانوں کو بچا لیتا ہے۔ مُتَّقُوْنَ (آیت: 15) ، تقویٰ (آیت: 17) ، تَتَّقُوْا (آیت:26)۔

6- منافقین کا ذکر تین (3) آیات میں ہوا ہے، جو قرآن سے ناگواری محسوس کرتے تھے ﴿كَرِهُوا﴾ (آیات:9

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

26 اور 28)۔

7- منافقین کی سرگرمیوں اور سازشوں کو ﴿ مُتَقَلَّب ﴾ کے لفظ سے بیان کیا گیا (آیت: 19)۔

سورۃ ﴿مُحَمَّد﴾ کا نظمِ جلی

سورۃ ﴿مُحَمَّد﴾ کی اڑتیس (38) آیات ہیں۔ اس کا نظم چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 3: پہلے پیراگراف میں، کافرین اور مؤمنین کے عقیدے اور صحیح موقف اور پوزیشن کی وضاحت کی گئی ہے

مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کا جواز (Legitimacy of War) فراہم کیا گیا ہے۔

اہلِ ایمان حق کی پیروی کر رہے ہیں اور رسول اللہ ﷺ پر نازل کردہ وحی پر ایمان لا چکے ہیں، اس کے برخلاف کافر باطل کی۔ کافر اللہ کے راستے سے خود رکتے ہوئے، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں اس لیے اُن کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے۔ اس کے برخلاف اہلِ ایمان کی خطاؤں سے درگذر کر کے اُن کی حالت درست کر دی گئی۔

2- آیات 4 تا 9: دوسرے پیراگراف میں، اَحکام جنگ اور فلسفۂ جہاد بیان کیا گیا ہے

کافروں کے استیصال کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو طریقے ہیں۔

(a) اللہ کا راست اقدام ہلاکت Direct Action by Allah

(b) مسلمانوں کے جہاد کے ذریعے ہلاکت In direct Action thru Muslims

کافروں سے مڈبھیڑ ہونے پر اُن کی گردنیں مارنا چاہیے۔ اُنہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اُن پر احسان کرتے ہوئے فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔

اگر اہلِ ایمان اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ بھی اُن کی مدد کرے گا اور اُن کے قدم جما دے گا۔ اِس کے برخلاف کافروں نے چونکہ اللہ کی نازل کردہ وحی پر ناگواری کا اظہار کیا ہے، اس لیے اُن کے اعمال غارت کر دیے گئے۔

3- آیات 10 تا 15: تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ مؤمن مجاہدین کا ﴿مولیٰ﴾ یعنی سرپرست اللہ ہے

ترغیبِ جہاد دی گئی اور جنت کی چار نہروں کا ذکر کیا گیا۔

تاریخی دلیل پیش کی گئی کہ زمین پر چل پھر کر کافر قوموں کی ہلاکت کے انجام پر غور کرنا چاہیے۔ اہلِ ایمان کا سرپرست اللہ ہے جبکہ کافروں کا کوئی سرپرست نہیں۔ کافر مویشیوں کی طرح دنیا میں کھا پی لیتے ہیں لیکن ان کا ٹھکانا آگ ہوگا۔

قریش کو بتایا گیا کہ جس شہر سے رسول اللہ ﷺ کو نکالا گیا، اُس شہر سے زیادہ قوت رکھنے والی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اُن کا کوئی ناصر نہیں تھا۔ جس کے پاس وحی کی دلیل ہو اور جو نیک عمل کرتا ہو، وہ اُس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جس کے پاس کوئی دلیل ہی نہ ہو، جس کے لیے برے اعمال خوش نما بنا دیے گئے ہوں اور جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی ہو۔

متقی مجاہدین کے لیے جنت میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی چار نہریں ہوں گی۔ ہر قسم کا میوہ ہوگا اور اللہ کی مغفرت۔ یہ اُن کافروں کی طرح نہیں ہو سکتے، جو دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، جنہیں کھولتا ہوا ایسا پانی پلایا جائے گا، جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔

4- آیات 16 تا 32 : چوتھے پیراگراف میں، منافقین کے جہاد سے فرار کی ذہنیت کا پول کھول دیا گیا

رسول اللہ ﷺ کی بات کو سن کر اَن سنی کرنے والے منافقین کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ مخلص ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اُنہیں اُن کے حصے کا تقویٰ دیا جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا کہ وہ اپنی اور مسلمانوں کی خطاؤں کی معافی مانگتے رہیں۔

منافقین پہلے جہاد کی سورت کا مطالبہ کرتے رہے لیکن محکم سورت نازل ہونے کے بعد ان پر موت کی غشی طاری ہوگئی۔

وحی کے نازل ہو جانے کے بعد، انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور صرف 'جزوی اطاعت' پر رضامندی ظاہر کی۔

ان کے دلوں کے بھیدوں سے اللہ خوب واقف ہے۔

منافقین کے حال پر افسوس ہے۔ کاش یہ لوگ سچی اطاعت کرتے۔ یہ منہ پھیریں گے تو زمین پر فساد برپا کریں گے اور قطع رحمی کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں اندھا اور بہرا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد پیچھے پلٹنے والے منافقین کو شیطان نے دھوکہ دیا۔ اس لیے انہوں نے اللہ کی وحی پر کراہیت محسوس کی۔

انہیں خبردار کیا گیا کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو انہیں تھپڑ مارے جائیں گے اور ان کی پیٹھوں پر بھی۔

اللہ تعالیٰ منافقین کے مقابلے میں مخلص مجاہدین اور صابرین کو چھانٹ کر رہے گا۔ کفار اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

5- آیات 33 تا 35 : پانچویں پیراگراف میں، اہلِ ایمان مجاہدین کے لیے جہاد کی ہدایات دی گئی ہیں

اہلِ ایمان کو اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کرنی چاہیے، ورنہ ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ جو کفر پر مرے گا اُس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ نہ تو انہیں کمزوری دکھانی چاہیے اور نہ سمجھوتے کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ وہی غالب رہیں گے۔

6- آیات 36 تا 38 : چھٹے اور آخری پیراگراف میں انفاق کا حکم ہے

دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ ایمان اور تقویٰ کے نتیجے میں اجر حاصل ہوگا۔ جہاد کی کامیابی کے لیے مالی انفاق کی اپیل کی جارہی ہے۔ بخیل لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یہ ابدی اصول رکھا گیا ہے کہ ﴿ جِهاد ﴾ کی کامیابی کے لیے ﴿ اِنفاق ﴾ ایک بنیادی شرط ہے۔ انفاق کی اپیل کی گئی اور یہ بات صاف صاف بتادی گئی کہ عدمِ انفاق کی صورت میں بخیلوں سے حکومت اور امامت چھین لی جاتی ہے، وہ محکوم بنادیے جاتے ہیں اور انہیں مٹا کر دوسری فیاض قومیں اٹھائی جاتی ہیں۔

مرکزی مضمون

دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ مال کا جہاد یعنی ﴿ اِنفاق ﴾ اور جان کا ﴿ جهاد ﴾ ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بزدل اور بخیل قوموں کو ہٹا کر فیاض اور بہادر قوم پیدا کرسکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

48- سُوْرَةُ الْفَتْحِ

آیات : 29 ...... مَدَنِيَّة" ...... پیراگراف : 5



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول اور پس منظر

سُورت ﴿ الفَتح ﴾، ذوالقعدہ 6 ھ میں، صلحِ حدیبیہ کے بعد، مکۃ المکرمہ سے مدینۂ منورہ کی جانب واپسی کے سفر میں نازل ہوئی۔

1۔ جنگِ اَحزاب: اس سے ایک سال پہلے ہی شوال 5 ھ میں قریشِ مکہ اور دیگر کئی قبائل نے مل جُل کر مدینۂ منورہ کو گھیر لیا تھا، ایک مہینے کے محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک تیز آندھی کے سبب، وہ ناکام و نامراد واپس ہو گئے تھے اور مدینۂ منورہ کی نوزائیدہ اسلامی حکومت کے خلاف یہ جنگی کارروائی پوری طرح ناکام ہوگئی۔اس جنگ کو ﴿ جنگِ اَحزاب ﴾ یا ﴿ جنگِ خندق ﴾ کہا جاتا ہے۔

2۔ رسول اللہ ﷺ کا خواب: قریش اور اہلِ عرب کی اس ہزیمت اور پسپائی کے تقریباً ایک سال بعد، رسول اللہ ﷺ کو ایک خواب کے ذریعے وحی کی گئی کہ آپ ﷺ مسجدِ حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپؐ نے عمرے کے لیے اعلانِ عام کر دیا۔ منافقین نے اس اقدام کو غلط سمجھا۔ ظاہر ہے یہ دشمن کے منہ میں جانے کے مترادف تھا صرف چودہ سو (1,400) مخلص صحابہؓ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اِحرام باندھا اور اپنی اپنی نیاموں میں تلوار رکھ کر، ستر قربانی کے اونٹوں کے ساتھ مکے کی طرف رسول اللہ ﷺ کی قیادت میں عازمِ عمرہ ہوئے۔ مکے سے پندرہ میل (22 کلومیٹر) پہلے ایک مقام ﴿حُدَیبِیَة﴾ ہے، جسے آج کل شُمَیسی کہا جاتا ہے اور جسے قرآن نے ﴿بطنِ مکه﴾ کا نام دیا، یہاں رسول اللہ ﷺ نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمانؓ کو مکے کے اندر بطورِ سفیر روانہ کیا اور اس قافلے کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی ، یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید حضرتِ عثمانؓ قتل کر دیے گئے ہیں اور اہلِ مکہ کے خلاف جنگی کارروائی ضروری ہے۔

3۔ بیعتِ رضوان : اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ سے ایک خصوصی حلف لیا، جسے ﴿بیعتِ رضوان﴾ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تاکہ حضرت عثمانؓ کے قتل کی خبر سچی ثابت ہو جانے کی صورت میں اس قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔

4۔ صلحِ حدیبیہ (ذوالقعدہ 6 ہجری): بعدازاں قریش نے سہیل بن عمرو کو گفتگو کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں صلحِ حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا۔ اس معاہدے کی رو سے قریشِ مکہ اور مدینے کی اسلامی ریاست کے درمیان دس (10) سال کی جنگ بندی، اس سال کے بجائے اگلے سال (یعنی 7 ھ میں) مسلمانوں کے عمرۂ قضاء ، قریش کے کسی آدمی کی مدینہ آمد پر واپسی اور کسی مسلمان کی قریش کے پاس لوٹ جانے پر عدمِ واپسی ، اطراف واکناف کے قبائل کو یہ آزادی کہ وہ قریش کے حلیف بھی ہو سکتے ہیں اور مسلم ریاستِ مدینہ کے حلیف بھی ہو سکتے تھے وغیرہ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جیسے نکات پر اتفاق ہو گیا۔ معاہدے کی رو سے، ان دفعات میں سے کسی ایک دفعہ کی خلاف ورزی کی صورت میں بھی پورا معاہدہ منسوخ سمجھا جاتا۔

5۔ فتح خیبر (محرم 7 ہجری): جنوبی محاذ سے بے فکر ہونے کے بعد، رسول اللہ ﷺ نے محرم 7ھ میں، صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد، شمالی جانب یعنی خیبر کی طرف رُخ کیا، فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت نصیب ہوا، جس کی بشارت بھی اسی سورت ﴿الفتح﴾ میں دی گئی ہے۔

6۔ عمرۂ قضاء (ذوالقعدہ 7 ہجری): صلح حدیبیہ کے مطابق اگلے سال رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کے ساتھ ذوالقعدہ 7ھ میں عمرۂ قضاء ادا کیا۔ اس کے بعد قریش کی بدعہدی کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ منسوخ اور کالعدم ہو گیا۔

7۔ فتح مکہ (رمضان 8 ہجری): رسول اللہ ﷺ نے دس ہزار صحابہؓ کو لے کر رمضان 8ھ میں مکے پر دھاوا بول دیا۔ یہ اسلام کی فتح تھی، جس کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے گئے۔

صلح حدیبیہ (ذوالقعدہ 6ھ) اسلامی فتوحات کا نقطۂ آغاز ہے، جس کی عملی تصویر رمضان 8ھ میں، فتح مکہ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اسی لیے قرآن نے صلح حدیبیہ کو ﴿فَتْحِ مُبِين﴾ واضح کامیابی قرار دیا ہے۔

سورۃ الفتح کے فضائل

سورۃ الفتح آپ ﷺ کو دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب تھی۔

حضرت زیدؓ بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمرؓ بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے دوسری مرتبہ سوال کیا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت عمرؓ نے سوال کیا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے آپ سے افسوس کرتے ہوئے کہا: ﴿ثَكِلَتْ أُمُّ عُمَرَ﴾ عمر کی ماں اسے گم کر دے۔ رسول اللہ ﷺ سے تو نے تین مرتبہ سوال کیا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے تجھے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میں نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو خدشہ تھا ہی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ کو سلام کیا: آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾

”آج رات مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے، جو مجھے ہر اُس چیز سے زیادہ محبوب ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾۔

(صحیح بخاری: کتاب التفسیر، باب تفسیر سورۃ الفتح، حدیث 4,553)

سورۃُ الفتح کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿ مُحَمَّد ﴾ میں جہاد اور انفاق کا مطالبہ کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ بخل کا رویہ اختیار کرنے پر، اللہ تعالیٰ اپنے قانونِ استبدال کے تحت، کسی اور قوم کو اٹھا کر اس سے جہاد اور انفاق کا کام لے سکتا ہے۔ یہاں اس سورت ﴿ الفَتح ﴾ میں جہاد اور انفاق کے فوائد اور ثمرات کی بشارت ہے، جس کی نشاندہی ﴿مَغَانِمَ كَثِيرَة ﴾ کے لفظ سے کی گئی۔

2۔ اس سورت ﴿الفتح ﴾ میں اُن لوگوں کا ذکر ہے، جو عمرے کے سفر کے لیے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہیں گئے اور یہ بدگمانی کر رہے تھے کہ یہ لوگ بخیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ اگلی سورت ﴿الحُجُرات ﴾ میں واضح کر دیا گیا کہ محض زبان سے ایمان لانے والے مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ اسلام کے دبدبے سے مرعوب ہو کر مسلم ہو گئے ہیں سچے مومنوں کی پانچ صفات بیان کی گئیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پھر مال سے اور اُس کے بعد جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہی سچے لوگ ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں دو (2) مرتبہ یہ بات مسلمانوں کو ذہن نشین کرائی گئی کہ فتح و نصرت اللہ کی جانب ہی سے آتی ہے ۔زمین و آسمان کے سارے ﴿جُنُود ﴾ یعنی لشکر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں ﴿وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴾۔

2- رسول اللہ ﷺ اور مخلص صحابہؓ کے بارے میں بدگمانی ﴿ ظَنَّ السَّوْء ﴾ کرنے والے منافقین کو دو (2) مرتبہ تنبیہ کی گئی۔

(a) اللہ منافقین اور مشرکین کو سزا دے گا، اُن پر اللہ کا غضب ہوگا، لعنت ہوگی اور وہ جہنمی ہوں گے۔

﴿ وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴾ (آیت:6)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(b) منافقین نے بدگمانی سے کام لیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ اور دیگر صحابہؓ عمرے کے سفر کے بعد خیریت سے مدینہ نہیں پہنچ سکیں گے۔

﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّ زُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ﴾ (آیت:12)۔

3- اس سورت میں، فتوحات کی بشارت ہے۔ چنانچہ دو سال کے اندر اندر فتح مکہ ہوئی اور اس کے بعد کے دس بارہ سالوں میں شام، عراق، ایران، خراسان، آذربائی جان، فلسطین، مصر، لیبیا اور دیگر علاقے یکے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے۔ مسلمانوں کو مالِ غنیمت ﴿مَغَانِمَ کثیرۃ﴾ بھی ملتا گیا۔

(a) کثیر مالِ غنیمت حاصل ہونے کی بشارت دی گئی۔

﴿ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴾ (آیت:19)

(b) اللہ نے مسلمانوں پر کافروں کے ہاتھ روک لیے اور مستقبل میں کثیر مالِ غنیمت کی بشارت ہے۔

﴿ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ﴾ (آیت:20)

4- عمرے کی عبادت میں شرکت سے محروم ہونے والے لوگوں کے لیے، پیچھے کر دیے جانے والے افراد یعنی ﴿ مُخَلَّفُوْنَ ﴾ کی اصطلاح تین (3) مرتبہ استعمال کی گئی۔

(a) نفاق زدہ ﴿ مُخَلَّفُوْنَ ﴾ دیہاتیوں کے حیلے بہانوں کا پول کھول دیا گیا کہ اُن کے دلوں میں وہ ہے جو اُن کی زبانوں پر نہیں۔

﴿سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ﴾ (آیت:11)

(b) نفاق زدہ ﴿ مُخَلَّفُوْنَ ﴾ کے بارے میں ہدایت دی گئی کہ آئندہ کے جنگی سفر (غزوۂ خیبر) میں انہیں ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔

﴿سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا ﴾ (آیت:15)۔

(c) نفاق زدہ دیہاتی ﴿ مُخَلَّفُوْنَ ﴾ سے کہا گیا کہ اُنہیں مستقبل میں ایک بڑی جنگ میں شرکت دعوت دی جائے گی اور اُن کے ایمان کو آزمایا جائے گا۔ ﴿ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ﴾ (آیت:16)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

5- درخت کے نیچے بیعت (بیعتِ رضوان) کرنے والے مخلص صحابہؓ کو ﴿رَضِیَ اللّٰہُ﴾ کے خطاب سے نوازا گیا۔ (آیت 18) اور ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم اور کافروں پر سخت ہیں۔ ہر وقت اللہ کے فضل اور ﴿رضوان﴾ یعنی اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں (آیت: 29)۔

6- صلح حدیبیہ میں قریش کے ساتھ دب کر صلح کی گئی تھی۔ اس پر بعض لوگ مطمئن نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ﴿سَکِیْنَت﴾ نازل کی۔ اس سورت میں ﴿سَکِیْنَت﴾ کے نزول کا ذکر تین (3) مرتبہ ہوا۔

(a) ایمان میں مزید اضافے کے لیے ان چودہ سو مسلمانوں کے دل پر سکینت نازل کی گئی، جو روئے زمین کے سب سے بہتر لوگ تھے۔

﴿هُوَ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ السَّكِیْنَةَ فِیْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِیْنَ لِیَزْدَادُوْٓا اِیْمَانًا مَّعَ اِیْمَانِهِمْ﴾ (آیت:4)۔

(b) درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہو جانے کی بشارت دی گئی اور اُن پر سکینت کے نزول کا ذکر کیا گیا۔

﴿لَقَدْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یُبَایِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِیْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِیْنَةَ عَلَیْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیْبًا﴾ (آیت:18)۔

(c) کافروں کے دلوں پر ﴿حَمِیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ﴾ کا غلبہ تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دل پر سکینت نازل کی۔

﴿اِذْ جَعَلَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِیْنَتَهٗ عَلٰی رَسُوْلِهٖ وَعَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰی وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا﴾ (آیت:26)۔

سورۃ الفتح کا نظمِ جلی

یہ سورۃ پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 7 : پہلے پیراگراف میں، صحابہؓ کو فتح مبین کی دنیاوی خوشخبری دی گئی

مؤمنین کے لیے جنت اور منافقین کے لیے اُخروی جزاء وسزا کا وعدہ کیا گیا، جو اللہ کے بارے میں شدید قسم کی بدگمانیوں کا شکار تھے۔ مومنین کو سمجھایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔ وہی فتح ونصرت عطا کرنے والا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- آیات 8 تا 10: دوسرے پیراگراف میں، محمد ﷺ کے منصب شہادت وانذار وتبشیر کا ذکر کر کے ان کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا۔

رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعتِ رضوان کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے اور اُن کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ عہد کی پاسداری کرنے والوں کے لیے اجرِ عظیم ہوگا۔

3- آیات 11 تا 17: تیسرے پیراگراف میں، منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ وہ منافقت چھوڑ دیں! مخلص بنیں ! عذاب سے بچیں! جہاد میں حصہ لیں۔

منافقین کو مستقبل کا نقشہ دکھایا گیا کہ انہیں ایک طاقتور قوم کے خلاف لڑنے کی دعوت دی جائے گی، جن سے وہ لڑیں گے، یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں اگر وہ اطاعت کا رویہ اختیار کریں گے تو اجر وثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔ نافرمانی کی صورت میں عذابِ الیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جہاد میں شرکت سے صرف اندھے لنگڑے اور مریض آدمی ہی کو رخصت حاصل ہے، منافقین کو حیلے بہانے چھوڑنے ہوں گے۔

4- آیات 18 تا 26 : چوتھے پیراگراف میں، خوشخبری سنائی گئی کہ بیعتِ رضوان کے صحابہؓ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ انہیں کئی فتوحات اور مالِ غنیمت ﴿مَغَانِمَ كَثِيرَةً﴾ سے نوازے گا۔

اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہوا کہ اُس نے حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ کافروں پر اور کافروں کے ہاتھ مسلمانوں پر روکے رکھے۔ اللہ کا مزید احسان یہ تھا کہ مشرکین مکہ کی ﴿حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ کے مقابلے میں اللہ نے سکینت نازل کی اور انہیں تقویٰ سے نوازا۔

5- آیات 27 تا 29 : پانچویں اور آخری پیراگراف میں، عمرے سے متعلق رسول اللہ ﷺ کے خواب کی سچائی بیان کر کے یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ دینِ اسلام، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾

مہاجرین وانصار پر مشتمل صحابہؓ کی اس مختصر جماعت کی نوزائیدہ فصل اب اپنے بل بوتے پر کھڑی ہوگئی ہے۔ اب دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل کر رہے گی۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ کی شان بیان کی گئی کہ وہ کافروں پر سخت ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں۔ رکوع اور سجود کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اُس کی رضوان کے حصول کے متلاشی رہتے ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں مغفرت اور اجرِ عظیم کی بشارت ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مالِ غنیمت کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور منافقین کو خبردار گیا ہے کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان لا کر اخلاصِ عمل کا ثبوت دیں۔ اسلام دنیا میں تمام غلبہ پسند قوتوں کو مغلوب کر کے غالب ہو کر رہے گا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط | نظمِ جلی

49- سُوْرَۃُ الْحُجُرٰتِ

آیات : 18 ...... مَدَنِیَّۃ" پیراگراف:5



- **زمانۂ نزول:**

سورۃ الحجرات ،ایک مدنی سورت ہے، جو فتحِ مکہ کے بعد، 9ہجری (عام الوفود) میں نازل ہوئی، جب بے شمار قبائل مدینہ آ آ کر مسلمان ہو رہے تھے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورة الحجرات کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورۃ ﴿الفتح﴾ میں، فتوحات اور مالِ غنیمت کی خوشخبری تھی اور منافقین کو ﴿اِخلاصِ عمل﴾ اختیار کر لینے کی نصیحت کا مضمون تھا، یہاں اس سورۃ ﴿الحجرات﴾ میں بتایا گیا ہے کہ یہ اِخلاصِ عمل، منافقت کو ترک کرنے، اللہ اور رسول یعنی کتاب وسنت سے پیش قدمی نہ کرنے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ ﷺ کے حقوق، مسلمانوں کے باہمی حقوق اور اعلیٰ اَخلاق کا مظاہرہ کرنے سے ہی حاصل ہوسکتا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ ومضامین

1- اس سورت میں ﴿یٰٓاَیُّھَا الَّذِیْنَ آمَنُوْا﴾ (آیت :1، 2، 6، 11 اور 12) کے الفاظ سے کچے مسلمانوں اور منافقین کو پانچ مرتبہ خطاب کیا گیا۔ اس طرح کے اسلوب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بار باران کے زبانی اعلان واقرارِ اسلام کے حوالے سے ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ یہ طرزِ عمل تمہارے اقرارِ ایمان کے شایانِ شان نہیں ہے۔

2۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ کسی فاسق کی خبر کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے عجلت پسندی کے ساتھ فوراً کوئی کاروائی نہ کریں۔ مسلمانوں کو تحقیق اور تبیین کی نصیحت کی گئی، تاکہ وہ شرمندگی سے بچ سکیں۔ (آیت:6)

3- اس سورت میں ﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَۃٌ﴾ کے ذریعے مسلمانوں کی عالمگیر برادری کی وضاحت کی گئی۔ یہ جمعیت رنگ ونسل، خاندان ونسب اور وطن کی بنیاد پر نہیں بنی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے آخری رسول ﷺ پر ایمان کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے۔ (آیت:10)

4۔ مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کی غیبت سے منع کردیا گیا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے عیب دوسروں پر ظاہر کریں۔ مسلمان کے مرنے پر اس کو غسل اور کفن دے کر جسمانی طور پر پاک کرنا چاہیے اور نمازِ جنازہ میں دعائے مغفرت کر کے روحانی طور پر پاک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جلد از جلد تدفین کرنا چاہیے تاکہ بدبو، تعفن وربیماریاں نہ پھیلیں۔ اسی طرح مسلمان میں کوئی عیب ہو تو دوسروں سے غیبت کرنے کے بجائے، خود اُس شخص سے بات کی جائے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور دعوت وتبلیغ کے بعد، اللہ سے اس کے حق میں دعا کی جائے۔ یہاں 'غیبت' کے لیے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے، تاکہ امتِ مسلمہ اس قبیح فعل سے مکمل اجتناب کرے۔ (آیت:11)

5- ﴿اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقٰکُمْ﴾ کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرّم اور معزّز وہ ہے، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے یعنی وہ شخص جو حرام چیزوں کے قریب نہیں جاتا۔ (آیت:13)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6- اس سورت میں سچے مؤمنوں کی پانچ (5) صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسول اللہ ﷺ پر ایمان، پھر اس پر ایسا یقین، جو شک سے پاک ہو، اللہ کی راہ میں مال سے جہاد اور جان سے جہاد۔ (آیت:14)

سورة الحجرات کا نظمِ جلی

سورۃ الحجرات پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیت 1: اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے پیش قدمی کی ممانعت کردی گئی

یہ ایک آئینی اور دستوری شق ہے۔ وحی یعنی قرآن وسنت کے خلاف نہ تو کوئی قانون سازی ہوسکتی ہے اور نہ کسی غیر نبی کو (چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، فقہ کا امام ہو، مفتی ہو، یا عالمِ دین ہو یا کسی عدالت کا جج) یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن وسنت کے خلاف رائے اختیار کرے اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر کسی غیر نبی کو ترجیح دے۔ قرآن وسنت کی اطاعت مطلق اور غیر مشروط ہے، جب کہ غیر نبی کی اطاعت قرآن وسنت سے مشروط اور مقید ہے۔

2- آیات 2 تا 5: رسول اللہ ﷺ کے حقوق بیان کیے گئے کہ ان کے سامنے نہ تو اپنی آواز بلند کی جاسکتی ہے اور نہ انہیں عام آدمی کی طرح بلند آواز سے بلایا جاسکتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ اور ان کی احادیث سے اپنی آواز اور اپنی بات کو بلند کرنے کے جرم میں حبطِ اعمال کا اندیشہ ہے۔

3- آیات 6 تا 13: مسلمانوں کے باہمی حقوق بیان کیے گئے۔

وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے باہمی تعلقات کو درست کرنا اور درست رکھنا ضروری ہے۔ قتال کی صورت میں خاموش تماشائی بننے کے بجائے، عدل وانصاف سے مصالحت اور فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، لعن طعن کرنے، برے القاب سے پکارنے بدگمانی کرنے تجسس کرنے اور غیبت کرنے سے منع کردیا گیا۔

4- آیات 14 تا 15: اسلام اور ایمان کے فرق کو نمایاں کیا گیا۔

بدوی اور دیہاتی مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے سیاسی غلبے کے نتیجے میں اسلام کے آگے جھک گئے ہیں، لیکن حقیقی ایمان ابھی ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔

5- آیات 16 تا 18: منافقین اپنے ایمان کا احسان اللہ اور رسول پر رکھتے تھے، انہیں بتایا گیا کہ ان کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ان پر احسان ہے۔

منافقین کو اللہ کا استاد بننے کے بجائے، خالص ایمان اور عمل اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی۔ آخر میں بتایا گیا کہ منافقت کا علاج، اللہ کی کامل صفات کے ادراک سے ہی ہوسکتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے۔ وہ نیتوں اور اعمال دونوں سے پوری طرح باخبر ہے، اس لیے کامل اِخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اِطاعت کی جانی چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

منافقت سے بچتے ہوئے، سچے مؤمن بن کر، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق، محمد رسول اللہ ﷺ کے حقوق اور مسلمانوں کے باہمی حقوق ادا کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ ربط   نظمِ جلی

50- سُورَۃ قٓ

آیات : 45 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 8



زمانہ نزول:

سورت ﴿ ق ﴾، ایک مکی سورت ہے۔ غالباً اعلانِ عام کے بعد، 5 نبوی کے آخر میں، ہجرتِ حبشہ کے بعد، نازل ہوئی۔ یہ دورِ تذکیر میں نازل ہوئی، جب ظلم وستم کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن ﴿ تکذیب ﴾ کا غلغلہ تھا۔ یہ سورت، اپنے طرزِ بیان اور مضامین کے لحاظ سے سورت ﴿ الملک ﴾ سے ملتی جلتی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورة ق کے فضائل

1- عیدین، جمعہ اور مغرب کی نمازوں میں رسول اللہ ﷺ اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
حضرت عمرؓ نے حضرت ابو واقد اللیثیؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ عیدین کی نمازوں میں کون سی سورتیں پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے جواب دیا: ﴿ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ قٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ ”آپ ﷺ سورت ﴿ ق ﴾ اور سورۃ ﴿ القمر ﴾ کی تلاوت فرمایا کرتے۔ (صحیح مسلم: کتاب صلوۃ العیدین ، حدیث 2,096)

2- رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز میں بھی اکثر سورت ﴿ ق ﴾ تلاوت فرماتے تھے تا کہ یہ زبان زدِ عام وخاص ہو جائے۔
حضرت قطبہ بن مالکؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی کریم ﷺ کو سورت ﴿ ق ﴾ پڑھتے سنا۔
﴿ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴾
(صحیح مسلم: کتاب الصلوۃ ، باب القراء ۃ فی الصبح ، حدیث 1,053)

3- حضرت جابر بن عبداللہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ مغرب کی نماز میں بھی سورت ﴿ ق ﴾ اور اسی طرح کی سورتیں پڑھا کرتے۔
﴿ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ ﴿ قٓ وَالْقُرْآنِ ﴾ وَنَحْوِهَا ﴾
(صحیح مسلم: کتاب الصلوۃ ، باب القراء ۃ فی الصبح ، حدیث 1,056)

سورة ق کا کتابی ربط

1۔ پچھلی تین (3) سورتیں مدنی تھیں۔ سورۃ ﴿ محمد ﴾ ، سورۃ ﴿ الفتح ﴾ اور سورۃ ﴿ الحجرات ﴾۔ اب یہاں سورۃ ﴿ ق ﴾ سے سات (7) مکی سورتیں آرہی ہیں، ان تمام کا موضوع احوالِ آخرت اور امکانِ آخرت کے دلائل پر مشتمل ہے۔

2۔ سورت ﴿ محمد ﴾ کے حکمِ جہاد کو، سورت ﴿ الفتح ﴾ کی فتوحات کی بشارتوں کو اور سورت ﴿ الحجرات ﴾ کے حقوق کو ،اس سورت ﴿ ق ﴾ اور اس کے بعد آنے والی سورتوں کے عقیدۂ آخرت سے مشروط کر دیا گیا ہے۔

3۔ اگلی سورت ﴿ الذاریات ﴾ میں عقیدۂ آخرت کے اثبات کے لیے آفاقی، ارضی، آسمانی، عقلی، نقلی، تاریخی اور انفسی دلائل دیے گئے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

آخری حزب

سورت ﴿ ق ﴾ سے قرآن مجید کے سات (7) ﴿احزاب﴾ میں سے، آخری حزب یعنی آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ و مضامین

سورت ﴿ ق ﴾ اپنے الفاظ، قوافی، اُسلوب اور جامعیت کے اعتبار سے ایک پرتاثیر سورت ہے۔ اس سورت میں آخرت کی عقلی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں، تاکہ ﴿قلبِ مُنِیب﴾ کو بیدار کر کے انسان کو ﴿عبدِ مُنِیب﴾ بنایا جا سکے۔

-1 اس سورت میں مشرکینِ مکہ کے قرآنِ مجید پر اعتراضات کا ذکر ہے:

(a) قرآن کو ، قریش ہی کے ایک آدمی محمد ﷺ پر کیوں نازل کیا گیا؟ ﴿ رَجُلٌ مِّنۡهُمۡ ﴾ (آیت:2)

(b) قرآن کی دعوتِ آخرت ، ہماری عقل میں نہیں آتی۔ ﴿ ذٰلِكَ رَجۡعٌۢ بَعِيۡدٌ ﴾ (آیت:3)

-2 اس سورت میں مشرکینِ مکہ کی قیادت کے اوصاف بیان کیے گئے:

(a) یہ کافر قیادت سخت ناشکری ہے۔ ﴿ كَفَّارٍ ﴾ (آیت:24)

(b) حق سے عناد رکھتی ہے۔ ﴿ عَنِيۡدٍ ﴾ (آیت:24)

(c) یہ قیادت خیر سے روکتی ہے۔ ﴿مَّنَّاعٍ لِّلۡخَيۡرِ﴾ (آیت:25)

(d) مُعتَد اور حد سے گذری ہوئی ہے۔ ﴿ مُعۡتَدٍ ﴾ (آیت:25)

(e) مُرِیب ہے۔ شک میں مبتلا ہے۔ ﴿مُّرِيۡبٍ﴾ (آیت:25)

(f) مُشرک ہے۔ ﴿ الَّذِىۡ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ﴾ (آیت:26)

-3 اس سورت میں مشرک قیادت کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ کی صفات بیان کی گئیں :

(a) ﴿مُنۡذِر﴾ (Warner) ہیں۔ (آیت:2)

(b) ﴿مُذَكِّر﴾ ہیں ، نصیحت کرتے ہیں۔ (آیت:45)

(c) ﴿جَبَّار﴾ نہیں ہیں۔ (آیت:45) تبلیغ دین میں جبر و زبردستی نہیں ہے۔

-4 رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ کے فضائل بیان کیے گئے:

(a) ﴿مُتَّقِين﴾ ہیں۔ (آیت:31)

(b) ﴿اَوَّاب﴾ ہیں۔ ہر وقت اللہ سے رجوع کرتے رہتے ہیں۔ (آیت:32)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) ﴿ حَفِيظ ﴾ ہیں۔ حدودِ الٰہی، حقوق اور فرائض کا لحاظ کرتے ہیں۔ (آیت:32)

(d) ﴿خاشی﴾ ہیں، خدائے رحمٰن سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ (آیت:33)

(e) ﴿قلبِ مُنِیب ﴾ دلِ گرویدہ یعنی متوجہ دل رکھتے ہیں۔ (آیت:33)

(f) صابر، حامد اور مُسبِّح ہیں ۔ (آیت:40)

(g) تذکیر بالقرآن اور دعوت وتبلیغ کے اہم کام میں منہمک ہیں۔ (آیت:45)

-5 اس سورت میں ﴿قلبِ منیب﴾ کی اہمیت اجاگر کی گئی۔

عبدِ منیب۔ (آیت:8) ، قلبِ منیب (آیت:33) ، قلب (آیت:37)

-6 اس سورت میں، اثباتِ آخرت کی چار (4) دلیلیں فراہم کی گئیں:

(a) اللہ تعالیٰ دفن کے بعد ، انسانی لاش کے اندر تغیراتِ ارضی کا مکمل علم رکھتا ہے کہ تحلیل کے بعد کون سا عنصر کہاں گیا؟

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ﴾ (آیت:4)

اِمکانِ آخرت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی صفتِ قدرت اور صفتِ علم سے استدلال کیا گیا ہے۔

(b) ایک عقلی دلیل کے ذریعے تخلیقِ اوّل سے، تخلیقِ ثانی اور اِمکانِ آخرت پر استدلال کیا گیا۔ جو ہستی پہلی تخلیق سے عاجز نہیں تھی اُس کے بارے میں یہ گمان کیسے کیا جاسکتا ہے کہ وہ دوسری مرتبہ مردوں کو زندہ نہیں کرسکتی؟

﴿ اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴾ (آیت:15)

(c) آخرت کی ایک عقلی اور آفاقی دلیل: بارش سے، بنجر زمین کے سرسبز و شاداب کیے جانے سے، مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پر استدلال کیا گیا۔ (آیت:11) ﴿ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ﴾

-7 تاریخ ہلاکتِ اقوام کے، سبق جزا وسزا سے اِمکانِ قیامت پر استدلال کیا گیا۔ یہ تاریخی دلیلیں ہیں۔

(a) تاریخ کہتی ہے کہ آٹھ قوموں نے قریش کی طرح ﴿ تکذیب ﴾ سے کام لیا اور اُن پر اللہ کا عذاب چسپاں ہوگیا۔

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۝ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۝﴾

﴿وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴾ (آیت:14)

(b) تاریخ کہتی ہے کہ قریش سے زیادہ طاقتور قوموں کو ہلاک کیا گیا۔

﴿وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ (آیت:36)

-8 دلائلِ آخرت: قیامت کو نہ ماننے والے قریش کے لیڈروں پر ثابت کیا گیا کہ موسمِ بہار کے سبزے کی طرح لازماً روزِ قیامت انسانوں کا قبروں سے خروج ہوگا، وہ ایک بڑی چنگھاڑ سنیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(a) ﴿ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ﴾ (آیت:11)

(b) ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴾ (آیت:42)

(c) ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ" عَلَيْنَا يَسِيْرٌ"﴾ (آیت:44)

9- اس سورت میں، اللہ تعالیٰ کے صفتِ علم کی کئی طرح وضاحت کی گئی:

(a) اللہ تعالیٰ مردے کی لاش کی تحلیل کے بعد بھی ہر جزو بدن کا علم رکھتا ہے۔

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ﴾ (آیت:4)۔

(b) اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں کا اور ان کے دلوں کا خالق ہے، اس لیے وہ دلوں کے وسوسوں کا بھی علم رکھتا ہے ، وہ اپنے علم کے ذریعے ہر انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تک دعا پہنچانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ﴾ (آیت:16)۔

(c) رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ کفار کی طرف سے آپ ﷺ کو دی جانے والی اذیت رسانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے۔ ﴿نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ (آیت:45)۔

سورۃ ق کا نظمِ جلی

سورت ﴿ق﴾ آٹھ (8) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 5 : پہلے پیراگراف میں، مشرکینِ مکہ کے امکانِ آخرت کے بارے میں شکوک وشبہات پر مشتمل اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔

پہلا اعتراض یہ تھا کہ رسول خود قریش کے اندر کا ایک انسان کیوں ہے؟ ﴿مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ﴾ دوسرا اعتراض آخرت کے بارے میں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اُٹھنا بعید از عقل ہے۔ ﴿ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ﴾۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی صفتِ علم سے دیا گیا کہ وہ لاشوں میں ہونے والی کمی کا بھی علم رکھتا ہے۔ مشرکینِ مکہ کی ضد اور ہٹ دھرمی پر روشنی ڈالی گئی کہ دلائل پر مبنی حق آجانے کے باوجود یہ تشکیک آمیز سوالات اٹھا کر ﴿تکذیب﴾ کر رہے ہیں۔

2- آیت 6 تا 11: دوسرے پیراگراف میں ، اِمکانِ آخرت کی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں۔

ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ جو اللہ بابرکت پانی کے ذریعے موسمِ خزاں کی مردہ زمین کو سرسبز وشاداب کر دیتا ہے، وہی اللہ قبرستانوں کو زندہ کر کے قیامت کے دن انسانوں کو اٹھائے گا۔ ﴿وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3۔ آیت 12 تا 14: تیسرے پیراگراف میں ، آٹھ (8) قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے اور اللہ کے قانونِ جزا وسزا (Law of Reward and Punishment) کو تسلیم کرکے آخرت پر ایمان لانے کی ہدایت کی گئی ہے

آٹھ قومیں یہ ہیں۔قوم نوح، اصحاب الرس، قوم ثمود، قوم عاد، فرعون، قوم لوط، اصحٰبُ الایکہ اور قوم تبع۔

4۔ آیت 15: چوتھے پیراگراف میں، آخرت کی عقلی دلیل پیش کی گئی ہے۔

دوسری عقلی دلیل: جو اللہ پہلی تخلیق سے عاجز نہ تھا اور پہلی تخلیق کی پوری قدرت رکھتا تھا، کیا وہ دوسری تخلیق پر قادر نہیں ہو سکتا ؟ پھر یہ دوسری تخلیق کے بارے میں کیوں شکوک وشبہات میں مبتلا ہیں؟ ﴿اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ﴾ تخلیقِ اول سے، تخلیقِ ثانی کو ثابت کیا گیا ہے۔

5۔ آیت 16 تا 30: پانچویں پیراگراف میں، عالمِ نزع، موت اور دوزخ کا نقشہ کھینچ کر اسلام دشمن مشرکین وکافرین کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ﴿ظَلَّامٍ﴾ نہیں ہے اور شرک کی سزا عدل کے عین مطابق، دوزخ کی آگ ہوگی۔

اللہ تعالیٰ خالق ہے، مکمل علم رکھتا ہے۔ دل میں آنے والے وسوسوں کو بھی جان لیتا ہے۔ رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے فرشتے انسانوں کے اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ موت کی سختیاں برحق ہیں۔ قیامت برحق ہے، جس دن ہر آدمی دو فرشتوں کے ساتھ حاضر کیا جائے گا۔ ایک ﴿سائق﴾ ہوگا اور دوسرا ﴿شہید﴾۔ ایک ہانک کر لے جائے گا اور دوسرے کے پاس ریکارڈ ہوگا۔ اُس دن غفلت کا پردہ چاک ہو جائے گا اور ہر ناشکرے اور حق سے عناد رکھنے والے آدمی کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، جو شرک کرتا تھا، سرکش تھا اور شکوک وشبہات میں گرفتار تھا۔ وہاں پھر وہ ابلیس سے جھگڑے گا اور ابلیس اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے گا۔ دوزخ سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی۔ ﴿هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ؟﴾

6۔ آیت 31 تا 35: چھٹے پیراگراف میں، ﴿قَلْبٍ مُّنِيْبٍ﴾ رکھنے والے ﴿مُتَّقِيْن﴾ اور ﴿خَاشِعِيْن﴾ کے لیے جنت میں اجر وثواب کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

متقین، اوابین، غیب پر ایمان لانے والے اور قلبِ منیب رکھنے والے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔

اِن کے لیے ہر وہ چیز ہوگی، جو یہ چاہیں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا۔ ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ﴾

7۔ آیت 36 تا 38: ساتویں پیراگراف میں، تاریخِ ہلاکت اور قدرتِ تخلیق سے ہر اس شخص کو عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے جو دل اور کان رکھتا ہے۔

یہاں تاریخی دلیل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استدلال بھی ہے۔ قریش کو دھمکایا گیا کہ یہ کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اِن سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ﴿هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾۔ انہیں قرآن سے نصیحت حاصل

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کرنا چاہیے، لیکن نصیحت صرف دل والے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔

8۔آیت 39 تا 45 : آخری اور آٹھویں پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو، الزامات اور اذیت رسانیوں پر صبر اور نماز کی ہدایات دی گئیں۔

قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ ایک دھماکے کی آواز سنیں گے اور قبروں سے نکل پڑیں گے۔ قیامت کو برپا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے اس بارے میں شک نہ کیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی گئی کہ دعوت کو جبری طور پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں قرآن کے ذریعے تذکیر جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾

مرکزی مضمون

منکرِ آخرت اور منکرِ رسالت قیادت کے لیے آخرت کی عقلی دلیلیں فراہم کر کے شکوک و شبہات دور کر دیے گئے ہیں تاریخ تکذیب سے خبردار کر دیا گیا ہے اس لیے صبر، تسبیح، حمد، نماز کے ساتھ، احوالِ دوزخ و جنت سے ﴿ تَذْكِيرِ بِالْقُرْآنِ ﴾ کا فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ ربط | نظمِ جلی

51- سُورَةُ الذّٰرِيٰتِ

آیات : 60 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 8

www.KitaboSunnat.com



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سورت ﴿الـذّٰرِیٰـت﴾، اعلانِ عام کے بعد رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) کے ﴿دورِ تذکیر﴾ میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دورِ الزامات بھی تھا، جب رسول اللہ ﷺ کو قریش کے سردار ﴿سَـاحِـر﴾ یا ﴿مَـجـنُـون﴾ سمجھ رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰؑ کو جادوگر یا پاگل قرار دیا تھا (آیت:39)۔ پچھلے تمام انبیاء کو بھی ﴿سَاحِر﴾ یا ﴿مَجنُون﴾ کہا گیا تھا۔ (آیت:52)۔

سُورۃُ الذّٰرِیٰت کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿ق﴾ میں، آخرت کی جزاوسزا اور قیامت کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیلیں دی تھیں، یہاں اس سورت ﴿الـذّٰرِیٰت﴾ میں آفاقی، ارضی، آسمانی، انفسی، تاریخی اور عقلی دلیلوں سے امکانِ قیامت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ سورت بنیادی طور پر صرف دلائل ہی پر مبنی ہے، تو بے جا نہ ہوگا۔

2۔ پچھلی سورت ﴿ق﴾ میں کہا گیا تھا ﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾

یہاں سورت ﴿الذّٰرِیٰت﴾ میں ﴿ وَّذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ کا حکم دیا گیا۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ اس سورت میں ﴿آیات﴾ کا لفظ، دلائل یعنی (Evidence) کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (آیت:20)

2۔ ﴿ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴾ :

﴿الْخَرّٰصُوْنَ﴾ سے مراد، وہ نام نہاد دانشور (Pseudo- intellectuals) ہیں، جو آخرت کے بارے میں ہر دور میں، ظن وتخمین سے کام لے کر الٹی سیدھی منطق بگھارتے رہتے ہیں۔ (آیت:10)

3۔ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴾ (آیت:20) ''زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے، آیات یعنی جزاوسزا کے دلائل موجود ہیں''۔ یہ آخرت کی جزاوسزا کی آفاقی دلیل ہے۔ زمین ہمیں غلہ اور پھل بھی فراہم کرتی ہے اور ہماری قبر بھی بن جاتی ہے۔ یہی زمین قارونوں کو اپنے اندر دھنسا لیتی ہے۔

4۔ اس سورت میں کئی آیات ﴿وَفِي﴾ سے شروع ہوتی ہیں۔ آیت:20 میں اس بات کو کھول دیا گیا ہے، لیکن اگلی تمام آیات میں تفصیلات کو حذف کر دیا گیا ہے۔ بلاغت کے اس اسلوب سمجھنا ضروری ہے۔

﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ ﴾ (آیت:21) کا مطلب ہے ﴿وَفِي أَنفُسِكُم آيٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴾

یہ انفس کی دلیل جزاوسزا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَفِیْ مُوْسٰی ﴾ (آیت 38) کا مطلب ہے ﴿ وَفِیْ قِصَّةِ مُوْسٰی اٰیٰتٌ لِّلْمُوْقِنِیْنَ ﴾
یہ تاریخ کی دلیل جزاوسزا ہے۔

﴿ وَفِیْ عَادٍ ﴾ (آیت 41) کا مطلب ہے ﴿ وَفِیْ قِصَّةِ عَادٍ اٰیٰتٌ لِّلْمُوْقِنِیْنَ ﴾
یہ بھی تاریخی دلیل جزاوسزا ہے۔

﴿ وَفِیْ ثَمُوْدَ ﴾ (آیت 43) کا مطلب ہے ﴿ وَفِیْ قِصَّةِ ثَمُوْدَ اٰیٰتٌ لِّلْمُوْقِنِیْنَ ﴾
یہ بھی تاریخی دلیل جزاوسزا ہے۔

﴿ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ﴾ (آیت 46) کا مطلب ہے ﴿ وَاَهْلَكْنَا قَوْمَ نُوْحٍ وَفِیْ قِصَّتِهٖ اٰیٰتٌ لِّلْمُوْقِنِیْنَ ﴾ یہ بھی تاریخی دلیل جزاوسزا ہے۔

5۔ انفسی دلیلِ آخرت: ﴿ وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴾ (آیت 21) "تمہارے اپنے نفس میں بھی، (یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی جزاوسزا کے دلائل موجود ہیں) کیا تم لوگوں کو نہیں سوجھتا؟" یہ انسانی ضمیر کی طرف سے جزاوسزا کی انفسی دلیل ہے۔ انسانی ضمیر، خیر اور شر کا قائل ہے، لہٰذا اسے خیر کی جزا اور شر کی سزا کو تسلیم کر لینے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔

6۔ ﴿ وَفِیْ مُوْسٰی ﴾ (آیت 38) "حضرت موسیٰؑ (اور فرعون سے اُن کی کشمکش کے واقعے) میں بھی (یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی جزاوسزا کے دلائل موجود ہیں) بنی اسرائیل کو جزا کے طور پر نجات دی گئی اور آلِ فرعون کو بطورِ سزا غرق کیا گیا۔

7۔ ﴿ وَفِیْ عَادٍ ﴾ (آیت 41) "حضرت ہودؑ کی قوم عاد (اور اُن کی اپنے رسول سے کشمکش کے واقعے) میں بھی (یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی جزاوسزا کے دلائل موجود ہیں)۔ حضرت ہودؑ اور ان کے مومن ساتھیوں کو جزا کے طور پر نجات دی گئی اور قومِ عاد کو ایک تیز آندھی کے ذریعے بطورِ سزا ہلاک کر دیا گیا۔

8۔ ﴿ وَفِیْ ثَمُوْدَ ﴾ (آیت 43) حضرت صالحؑ کی قومِ ثمود اور اُن کی اپنے رسول سے کشمکش کے واقعے) میں بھی (یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی جزاوسزا کے دلائل موجود ہیں)۔ حضرت صالحؑ اور ان کے مومن ساتھیوں کو جزا کے طور پر نجات دی گئی اور قومِ ثمود کو ایک آواز اور زلزلے کے ذریعے بطورِ سزا ہلاک کر دیا گیا۔

9۔ ﴿ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ﴾ (آیت 46) ان دونوں قوموں عاد و ثمود سے پہلے، حضرت نوحؑ کی کافر قوم کو طوفان کے ذریعے غرق کیا گیا اور حضرت نوحؑ اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو، جو کشتی میں سوار تھے، بچا لیا گیا اس سچے واقعہ میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی جزاوسزا کے دلائل موجود ہیں۔

10۔ ﴿ فَفِرُّوْٓا اِلَی اللّٰهِ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴾ (آیت 50) اس آیت میں، حرف

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ ق ﴾ بہت اہم ہے۔اس حرف ﴿ق﴾ کا یہاں مطلب ہے، ان مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں اللہ کی طرف رجوع کرو! میں تو صرف تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کردینے والا ہوں۔

11۔ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴾(آیت:51)

اس آیت سے پہلے صرف آخرت کو تسلیم کر لینے کا مطالبہ تھا ، اب یہاں توحید اور رسالت کو بھی مان لینے کے دو(2) مزید مطالبات کیے گئے ہیں۔اس کے بعد یہ بات بھی بتائی گئی ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ ﴾ (آیت:56) کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے صرف انسانوں اور جنات کو آزادیٔ اختیار دے کر، انہیں اپنی 'عبادت کے لیے' پیدا کیا ہے۔عبادت میں اِطاعت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔چنانچہ یہاں چوتھا مطالبہ، اللہ کی عبادت واِطاعت کا ہے۔

12۔ ﴿ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِیْنُ ﴾ (آیت:58) اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات کا ذکر کیا گیا۔وہ﴿الرَّزَّاقُ﴾ بھی ہے اور﴿ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِیْنُ ﴾ بھی ہے۔

﴿الرَّزَّاقُ ﴾کی صفت، جزا کی دلیل ہے اور﴿ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِیْنُ ﴾ کی صفت، سزا کی دلیل ہے۔

سورۃ الذّٰرِیات کا نظمِ جلی

سورۃ الذّٰرِیات نو(9) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 6 : پہلے پیراگراف میں، اِمکانِ آخرت پر ہواؤں سے آفاقی دلائل دیے گئے۔

2- آیات 7 تا 20 :دوسرے پیراگراف میں، آسمان سے آفاقی دلائل کے ذریعے روزِ قیامت کے بارے میں اندازے لگانے والوں ﴿الْخَرّٰصُوْنَ﴾ کا رد کرکے ان کے چار(4) غلط رویے بیان کیے گئے۔

فضول اختلاف کرتے ہیں۔ظن وتخمین سے کام لیتے ہیں۔غفلت میں مبتلا رہتے ہیں۔قیامت کا وقت پوچھتے ہیں (آیات:8 تا 14)

﴿مُتَّقِیْنَ ﴾ کی چار(4) صفات بیان کرکے ﴿الْخَرّٰصُوْنَ﴾ سے موازنہ کیا گیا۔﴿مُتَّقِیْنَ﴾ محسن ہوتے ہیں۔راتوں کو کم سوتے ہیں۔صبح سویرے اِستغفار کرتے ہیں اور اُن کے مال میں سائل ومحروم کا حق ہوتا ہے۔یعنی متقین، اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔(آیات:15 تا 19)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3- آیات 21 : تیسرے پیراگراف میں، وقوعِ قیامت پر یقین پیدا کرنے کے لیے انفسی دلائل دے کر بتایا گیا کہ انسانی ضمیر قیامت کے برپا ہونے کی دلیل فراہم کر رہا ہے۔﴿ وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴾ (آیت:21)

4- آیات 22 تا 23: چوتھے پیراگراف میں، روزِ محشر برپا ہونے پر آفاقی اور عقلی دلائل دے کر مشرکین اور منکرینِ آخرت کو یہ وعید سنائی گئی کہ جس طرح آسمان میں تمہارا رزق ہے، اسی طرح قیامت کی جزا و سزا بھی آسمان میں ہے۔﴿ وَفِي السَّمَاۗءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴾ (آیت:22) عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خالق ارض و سما کی بات برحق ہے۔

4B- آیات 24 تا 46 :اس ذیلی پیراگراف میں، جزا و سزا کی تاریخی دلیلیں پیش کی گئیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جزا (Reward) سے نوازے گا، اور مجرمین و مسرفین کو سزا (Punishment) دے کر داخلِ جہنم کرے گا۔ تاریخ سے جزا و سزا کا یہی سبق ملتا ہے کہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی جزا و سزا ہو کر رہے گی۔

آیات:24 تا 30 میں، حضرت ابراہیمؑ کو بڑھاپے میں فرشتوں کی جانب سے اولاد کی خوشخبری دی گئی۔ یہ جزا کی دلیل تھی۔ یہ 2,100 ق م کا واقعہ تھا۔

آیات:31 تا 37 میں، بتایا گیا کہ جزا کی خوشخبری دینے والے یہی فرشتے، فلسطین سے اُردن حضرت لوطؑ کے پاس گئے اور انہیں اُن کی قوم کی ہلاکت کی بری خبر سنائی۔ یہ سزا کی دلیل تھی۔

آیات:38 تا 40 میں، فرعون اور اُس کے ﴿ جُنُوْدَ ﴾ یعنی لشکروں کی ہلاکت کا ذکر ہے، جو حضرت موسیٰؑ کو جادوگر یا پاگل گردانتا تھا۔ یہ 1,300 ق م کا واقعہ تھا۔ قرآن میں فرعون کے لشکروں کو ﴿ آلِ فرعون ﴾ بھی کہا گیا۔

آیات:41 تا 42 میں، قومِ عاد کو بانجھ ہوا ﴿ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴾ سے ہلاک کر دیے جانے کا ذکر ہے۔

یہ 3,000 ق م کا واقعہ تھا۔

آیات:43 تا 45 میں، قومِ ثمود کے ایک بجلی ﴿ صٰعِقَةُ ﴾ سے ہلاک کر دیے جانے کا ذکر ہے۔

یہ 2,500 ق م کا واقعہ تھا۔

آیت:46 میں، حضرت نوحؑ کی فاسق قوم کا ذکر ہے۔ یہ غالباً 3,500 ق م کا واقعہ ہے۔

5- آیات 47 تا 49 : پانچویں پیراگراف میں، ارض و سما اور ہر چیز کے جوڑوں ﴿ زَوْجَيْنِ ﴾ (آیت:49) کے ذریعے روزِ جزا و سزا کی عقلی دلیل پیش کی گئی۔

جس طرح زمین کا جوڑا آسمان ہے، اسی طرح اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔

6- آیات 50 تا 57 :چھٹے پیراگراف میں، دعوتِ توحید و رسالت پیش کر کے شرک (الٰهًا آخر) کی ممانعت کی گئی

بیان کیا گیا کہ انبیاء ڈرانے والے ﴿ نَذِيْرٌ ﴾ بن کر آئے، لیکن لوگوں نے انہیں ﴿ سَاحِرٌ ﴾ اور ﴿ مَجْنُوْنٌ ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(آیت:52) کہہ کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔

داعی اور مبلغ کو ہدایات دے کر آدابِ دعوت بیان کیے گئے (54 اور 55) اور جن وانس کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت الٰہی بیان کیا گیا۔ (آیت:56) یعنی اللہ کی عبادت اور اطاعت۔

7- آیات 58: ساتویں پیراگراف میں، اللہ تعالیٰ کی دو صفات کے ذریعے بتایا گیا کہ جو ہستی ﴿رزّاق﴾ ہے، جزا دیتی ہے، وہ طاقتور ﴿ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ﴾ (Powerful) بھی ہے۔

سزا بھی دیتی ہے، وہ دنیا کو ختم کر کے روزِ جزا و سزا لانے پر پوری طرح قادر ہے (آیت:58)۔

8- آیات 59 تا 60: آخری پیراگراف میں، عقلی دلیل پیش کی گئی۔

عقلِ انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا دینے کے لیے آخرت برپا ہونی چاہیے، تاکہ وہاں عدالتِ انصاف قائم ہو۔

مرکزی مضمون

جزا و سزا (قیامت) واقع ہو کر رہے گی ﴿وَاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ﴾ (آیت:6)، لہٰذا قرآن کے آفاقی، انفسی، تاریخی، اور عقلی دلائل پر غور کر کے، روزِ قیامت پر ایمان لانا چاہیے اور رسول اللہ ﷺ کو رسول مان کر، اُن کی دعوتِ توحید پر بھی ایمان لانا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

52- سُوْرَةُ الطُّوْرِ

آیات :49...... مَکِیَّۃ" پیراگراف:3



زمانہ نزول:

سورة ﴿الطُّور﴾، سورة ﴿الحاقّہ﴾ کی طرح اعلانِ عام کے بعد رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی)، دورِ تذکیر اور دورِ الزامات میں نازل ہوئی، جب آپؐ پر شک و ریب کے ساتھ الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ جیسے ﴿مَجْنُوْن، شَاعِر، کَاهِن، مُتَقَوِّل﴾ وغیرہ۔

﴿فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ﴾ (آیت:29، 30) ﴿اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ﴾ (آیت:33)

سورۃ الحاقہ میں بھی رسول اللہ ﷺ پر ﴿تَقَوُّل﴾ کے الزام کا ذکر آیا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الطور کا کتابی ربط

1. سورۃ ﴿الطُّور﴾ میں بھی، پچھلی سورۃ ﴿الذاریات﴾ ہی کا مضمونِ آخرت ہے۔
پچھلی سورت ﴿الذاریات﴾ میں ﴿وَإِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ﴾ (آیت:6) کے الفاظ سے امکانِ قیامت کو ثابت کیا گیا تھا، یہاں ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ (آیت:7) کے الفاظ سے اسے ثابت کیا گیا ہے۔
2. اس سورۃ ﴿الطُّور﴾ میں، پے در پے سوالات کے اُسلوب کے ذریعے انسانی ضمیر کو بیدار کیا گیا ہے، تاکہ وہ آخرت اور قیامت کا قائل ہو سکے۔
3. سورۃ ﴿الذاریات﴾ کی آیت 53 میں مشرکینِ مکہ کے سرداروں کو ﴿قوم طاغون﴾ کہا گیا اور یہاں سورۃ الطور کی آیت 32 میں بھی انہیں ﴿قوم طاغون﴾ کہا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ ﴿الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ﴾ (آیت:12) کے الفاظ سے مشرکینِ مکہ کی قرآن اور اُس کی دعوتِ توحید کے بارے میں غیر سنجیدگی کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔
2۔ ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (آیت:21) کے الفاظ سے یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ والدین کو ان کی اہلِ ایمان اولاد سے ملا دیا جائے گا، چاہے وہ کسی معمولی درجے ہی کیوں نہ ایمان رکھتی ہوں۔
3۔ ﴿فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ﴾ (آیت:29) کے الفاظ سے مشرکین کو تنبیہ اور رسول اللہ ﷺ کو تسلی اور ہدایت دی گئی ہے کہ ﴿كَاهِن﴾ اور ﴿مَجْنُوْن﴾ جیسے الزامات کے باوجود، ان مشکل حالات میں بھی توحید کی نصیحت اور ﴿تذکیر﴾ کا کام جاری رکھیے۔
4۔ اس سورت میں سوالات کے اسلوب میں، توحید کے عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ﴿اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾ (آیت:43) سوالات کے سلسلے کا یہ آخری سوال ہے۔ یعنی مندرجہ بالا تمام سوالات کا جواب، اگر تم اپنے ضمیر سے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو تم خود توحید کے قائل ہو جاؤ گے اور شرک کا اِنکار کر دو گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ الطُّور کا نظمِ جلی

سورۃ الطور تین (3) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 16: پہلے پیراگراف میں، روزِ قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے۔

جزاوسزا کے نقلی دلائل: کوہِ طور اور اس پر دی جانے والی تعلیماتِ وحی سے پیش کیے گئے ہیں۔

جزاوسزا کے آفاقی دلائل، بیتِ معمور، آسمان کی اونچی چھت اور موجزن سمندر سے مہیا کیے گئے ہیں۔ مشرکین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ان قرآنی دلائل کے بارے میں سنجیدگی سے غور کریں۔ اس قرآن کو ﴿ سِحْر ﴾ یعنی جادو کہہ کر نہ ٹالیں۔

1B- آیات 17 تا 28: اس پیراگراف میں ﴿ مُكَذِّبِين ﴾ کے مقابلے میں، ﴿ مُتَّقِين ﴾ کے لیے اُخروی انعامات اور اِکراماتِ جنت کی تصویر پیش کی گئی ہے۔

﴿ مُكَذِّبِين ﴾ کی ضد ﴿ مُصَدِّقِين ﴾ ہے، یعنی وہ لوگ جو قیامت کی تصدیق کرنے کے بعد تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں، وہی ﴿ مُتَّقِين ﴾ ہیں۔

2- آیات 29 تا 43: اس پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو الزامات کے ماحول میں بھی قرآن کی ﴿ تذكير ﴾ اور نصیحت جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (آیت: 29)

اس کے بعد، منکرینِ آخرت کے سامنے ایسے سوالات رکھے گئے ہیں، جن پر غور کرنے سے ان کے شکوک وشبہات کا ازالہ ہوسکتا ہے۔

اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا: ''کیا یہ اپنے خالق خود ہیں؟'' (آیت: 35)

انہیں مخلوق ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا: ''کیا انہوں نے زمین وآسمان کو پیدا کیا ہے؟'' (آیت: 36)

انہیں خوش فہمیوں کی دنیا سے نکالنے کے لیے پوچھا گیا: ''کیا اللہ کے خزانوں پر ان کا تصرف ہے؟'' (آیت: 37)

اِن کی لاعلمی کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کہ کیا کوئی سیڑھی ہے، جس سے یہ غیب کی خبریں جان لیتے ہیں؟ (آیت: 38)

فرشتوں کے بارے میں ان کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے لیے (نَعُوذُ بِاللّٰہِ) بیٹیاں ہیں اور کیا مشرکین کے لیے بیٹے ہیں؟ (آیت: 39)

رسول اللہ ﷺ کے اِخلاص کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کہ کیا وہ کوئی اجر طلب کر رہے ہیں؟ (آیت: 40)

آخر میں مشرکین سے توحید کا اقرار کرانے کے لیے پوچھا گیا: ان دلائل کی روشنی میں بتاؤ! کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ﴿ اللہ ﴾ ہے؟

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3A۔ آیات 44 تا 47: قیامت کو جھٹلانے والے مشرکین کو سخت تنبیہ کی گئی ہے اور دگنے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔

3B- آیات 48 تا 49 : آخری پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو ہدایات دی گئیں

﴿صبر﴾ کے ساتھ اپنی دعوت کو جاری رکھیں اور صبح وشام اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہیں وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے لہذا وہ آپؐ کو بے یارومددگار نہیں چھوڑے گا۔ ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ کے الفاظ کے ذریعے رسول اللہ ﷺ سے خاص التفات ظاہر کیا گیا اور خوشخبری دی گئی کہ یہ دعوت اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر رہے گی اور رسول اللہ ﷺ نہ صرف مکہ، بلکہ پورے بلادِ عرب پر غالب ہو جائیں گے اور اسلام کی دعوت ساری دنیا میں پھیل کر رہے گی۔

مرکزی مضمون

اللہ کا عذاب اور قیامت واقع ہو کر رہے گی ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ (آیت:7) لہذا مذکورہ سوالات پر غور کرو۔

رسول اللہ ﷺ کی دعوتِ توحید کو مان لو! اور تکذیب قیامت و آخرت کے بجائے، اس پر ایمان لے آؤ!

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط — نظمِ جلی

53- سُوْرَةُ النَّجْم

آیات : 62 ...... مَكِّيَّة" ...... پیراگراف : 5



زمانۂ نزول

1۔ پہلا حصّہ (ابتدائی 18 آیات) غالباً معراج کے موقع پر، (رجب 12 نبوی میں) نازل ہوا۔

2۔ دوسرا حصّہ (آیات 19 تا 62) ہجرتِ حبشہ کے بعد ، غالباً 5 نبوی میں نازل ہو چکا تھا، جب اُمیّہ بن خلف نے آخری آیتِ سجدہ سن کرسجدہ کرنے کے بجائے ، کچھ مٹی لے کراپنی پیشانی پرمل لی تھی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ النّجم کے فضائل

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ وہ پہلی سورت ہے ، جس میں آیتِ سجدہ ہے۔

﴿ أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ قَالَ: فَسَجَدَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ﴾ (صحیح بخاری : کتاب التفسیر ، باب تفسیر سورۃ النجم ، حدیث 4,582 ، عن ابن مسعودؓ)

سورۃ النّجم کا کتابی ربط

1۔ پچھلی تین (3) سورتوں ﴿ ق، الذّاریات اور الطّور ﴾ میں امکانِ آخرت کے مختلف دلائل تھے۔ یہاں سورۃ ﴿النجم﴾ میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں نجات کا اصل دارومدار، عقیدۂ توحید اور اعمال صالحات پر ہے ۔فرشتوں اور صالحین کی شفاعت پر انحصار نہ کیا جائے۔

2۔ پچھلی سورۃ الطُّور میں ﴿کِتَاب مَسطُور﴾ کا ذکر تھا، یہاں سورۃُ النّجم میں اسی تورات کو ﴿صحفِ موسیٰ﴾ کہا گیا ہے اور اس کی تعلیمات کا کچھ حصہ بیان کیا گیا۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى ﴾ (آیت:3 اور 4) میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ رسول اللہ ﷺ کوئی فلسفی نہیں تھے، جو اپنے ذاتی غور وفکر یا خواہشاتِ نفس کی پیروی میں کلام کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو وحی کی پیروی کرتے ہیں۔

2۔ ﴿لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى﴾ (آیت:18) کے الفاظ سے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ معراج کے موقع پر، آپ ﷺ نے رب کو نہیں بلکہ، آیاتِ رب کو، یعنی اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔

3۔ ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى﴾ 'کیا تم لوگوں کے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے (فرشتوں کی صورت میں) بیٹیاں ہیں؟' (آیت: 21) اس سوال کے ذریعے قریش کے خود ساختہ عقیدے پر چوٹ کی گئی۔ یہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کردیتے تھے اور اٹکل، ظن، تخمین اور قیاس سے کام لے کر، اللہ سے بیٹیاں منسوب کرتے تھے۔

4۔﴿ظَنّ﴾ (آیات: 23 اور 28) سے بتایا گیا کہ مشرکین کا عقیدۂ ظن وتخمین باطل ہے۔ ﴿ظَنّ﴾ یعنی گمان حق کے مقابلے میں کام نہیں آتا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

5۔ ﴿لَا تُغْنِیْ شَفَاعَتُهُمْ شَیْـًٔا﴾ (آیت:26) فرشتوں کی شفاعت کے بارے میں بھی مشرکین کی غلط فہمی دور کردی گئی کہ وہ کسی کام نہ آسکیں گے۔

6۔ ﴿اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰی﴾ کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا، جس کی وہ تمنا کرے؟ (آیت:24) کے الفاظ سے یہ بتایا گیا کہ آخرت کی کامیابی، انسان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ آخرت تو انسان کی کوششوں کے مطابق ہوگی۔ ﴿وَاَنْ لَّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی﴾ (آیت:39) 'اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا، جس کی اُس نے سعی اور کوشش کی ہوگی'۔

7۔ ﴿وَاَعْطٰی قَلِیْلًا وَّاَکْدٰی﴾ (آیت:34) یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی، کسی شخص نے اُس سے پیسے مانگے اور کہا۔ اگر آخرت میں تمہیں عذاب ہوگا تو تمہارے بدلے میں، عذاب سہہ لوں گا۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو کچھ پیسے دے کر رک گیا۔ اسے بتایا گیا کہ ہر انسان کا عمل خود اِس کے لیے نافع یا ضار ہوسکتا ہے۔

8۔ ﴿وَتَضْحَکُوْنَ وَلَا تَبْکُوْنَ o وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ﴾ (آیت:60 اور 61) کے الفاظ سے قریش سرداروں کی غیر سنجیدگی، ہنسی مذاق اور ان کے گانے بجانے پر گرفت کی گئی۔ قرآن کے محکم دلائل کو اس طرح مسترد نہیں کیا جاسکتا۔ یہ سنجیدہ کلام غور وفکر کا طالب ہے۔

سورۃ النجم کا نظمِ جلی

سورۃ النجم پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 18: پہلے پیراگراف میں، وحی کے متعلق مشرکینِ مکہ کے شبہات کا ازالہ کیا گیا۔

مشاہداتِ معراج کے موقع پر رسول ﷺ کی دلچسپی، دلجمعی اور توجہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اس موقع پر آپؐ نے بڑی بڑی آیات کا مشاہدہ کیا۔

2- آیات 19 تا 28: دوسرے پیراگراف میں، مشرکینِ مکہ پر سخت تنقید کی گئی۔

وہ (وحی سے بے نیاز ہوکر) محض ظن وگمان کی پیروی کرتے ہوئے لات، عُزّٰی اور مناۃ کی دیویوں کی پرستش کر رہے ہیں اور فرشتوں کو، اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ﴿شرك فی الذات﴾ کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ان فرشتوں کی شفاعت پر بھروسہ کر رہے ہیں۔

طائف میں نصب ﴿لات﴾ کا بت، ﴿بنو ثقیف﴾ کا معبود تھا۔ یہ ایک نیک آدمی کا بت تھا، جو حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔

وادی نخلہ میں نصب ﴿عُزّٰی﴾ کا بت، قریش کا معبود تھا۔ ﴿بنو شیبان﴾ اس کے مجاور تھے۔

قدید میں نصب ﴿مَنات﴾ کا بت، ﴿بنی خزاعہ﴾ کا معبود تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ شِعریٰ ﴾ ایک ستارے کا نام ہے ، جو سورج سے زیادہ گرم ہے، یہ بھی ﴿ بنی خزاعہ ﴾ کا معبود تھا۔

3- آیات 29 تا 35 : تیسرے پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو ہدایت کی گئی

قرآن کی دعوت سے منہ موڑنے والوں سے اعراض کریں، یہ دنیا پرست ہیں۔ قیامت کی عدالت کا مقصد، اچھوں کی جزا اور بروں کی سزا ہے۔ اہل جنت، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔

4- آیات 36 تا 55 : چوتھے پیراگراف میں، صحیفۂ ابراہیمؑ اور صحیفۂ موسیٰؑ (تورات) کی تعلیمات کا خلاصہ بیان ہوا۔

مشرکینِ مکہ کی بخیل زر پرست قیادت کو دعوتِ فکر دی گئی ہے۔ روزِ قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے گا، اللہ ہی ہر چیز کا رب ہے۔

صحیفۂ ابراہیمؑ اور صحیفۂ موسیٰؑ کی بنیادی تعلیمات کا خلاصہ :

(a) کوئی نفس ، دوسرے کا بوجھ نہیں اُٹھائے گا۔ (آیت:38)

(b) انسان کے لیے وہی کچھ ہے ، جو وہ کمائے گا۔ (آیت:39)

(c) انسان کی کوششیں دیکھی جائیں گی اور بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ (آیت:40 اور 41)

(d) آخر ربّ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ (آیت:42)

(e) اللہ ہی ہنساتا اور رُلاتا ہے۔ (آیت:43)

(f) اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ (آیت:44)

(g) اللہ ہی نر مادہ کا جوڑا بناتا ہے ، جس سے افزائشِ نسل ہوتی ہے۔ (آیات:45 اور 46)

(h) دوسری زندگی بھی ، اللہ ہی کے ذمے ہے۔ (آیت:47)

(i) وہی امیر بناتا ہے ، وہ جائیداد بخشتا ہے۔ (آیت:48)

(j) وہی ﴿ شِعْرٰی ﴾ (Dogstar) کا رب ہے۔ (آیت:49)

(k) اُس نے چار قوموں یعنی عاد، ثمود، قومِ نوح اور قومِ لوط کو ہلاک کیا۔

تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ اقوام کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ (آیات 50 تا 55)

5- آیات 56 تا 62 : پانچویں اور آخری پیراگراف میں بتایا گیا کہ قرآن، پچھلے صحیفوں کی طرح اِنذار کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔

قریشِ مکہ کو تنبیہ کہ وہ اللہ کے کلام قرآن کے ساتھ ﴿ سَامِدُوْن ﴾ بن کر منفی رویہ اختیار کر رہے ہیں۔

آخر میں ﴿ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ﴾ کے الفاظ سے قریش کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

لات ، مناۃ ، عُزّیٰ اور شِعریٰ کی شفاعت پر انحصار کرنے کے بجائے، محمد ﷺ پر کی گئی وحیِ الٰہی (قرآن) پر ایمان لاؤ! کبیرہ گناہوں سے بچو! اعمال صالح کرو! ہر انسان اپنا بوجھ خود اُٹھائے گا، دوسروں کی نہیں صرف اپنی کوششیں ہی مفید ثابت ہوں گی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

54- سُورَةُ الْقَمَر

آیات : 55 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 7



زمانۂ نزول:

سورۃ ﴿القمر﴾ ہجرتِ مدینہ سے پانچ چھ سال پہلے، غالباً 7ھ میں جب حضرت عائشہ کھیلا کرتی تھیں، رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) میں نازل ہوئی، جب آپؐ پر ﴿ساحر﴾ ہونے کا الزام تھا۔ ﴿شق القمر﴾ کا واقعہ، جس کا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے، ہجرت سے 5 سال پہلے منیٰ کے مقام پر پیش آیا تھا۔ یہ آخری رسول ﷺ اور آخری کتاب کی آمد کے بعد قربِ قیامت کی دلیل ہے۔

یہ سورت ﴿دورِ تکذیب﴾ میں نازل ہوئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ القمر کا کتابی ربط

1- پچھلی سورۃ ﴿ النّجم ﴾ میں قومِ عاد، قومِ ثمود، قومِ نوحؑ اور مُؤْتَفِكَات یعنی قومِ لوطؑ کی ہلاکت کا اجمالی ذکر تھا۔ یہاں سورۃ القمر میں ﴿تکذیب﴾ کے نتیجے میں ان قوموں کی ہلاکت کا تفصیلی ذکر ہے۔

2- سورۃ ﴿الطُّور﴾ میں بھی قرآن کی ﴿تکذیب﴾ اور اُس کو ﴿ اَ فَسِحْرٌ هٰذَا ﴾ (آیت:15) یعنی جادو کہنے کا ذکر تھا، یہاں سورۃ ﴿القمر﴾ میں بھی، قریش کا قرآن کو ﴿سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴾ کہنے کا تذکرہ ہے (آیت:2)۔

آیاتِ ترجیع

اس سورت میں دو (2) آیات بار بار دہرائی گئی ہیں۔ انہیں ﴿ آیاتِ ترجیع ﴾ کہتے ہیں۔

1- قوموں کی ہلاکت کے عبرتناک واقعات سے، قرآن کو ذکرونصیحت کے لیے، آسان کردیا گیا ہے۔
﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ؟ ﴾ "یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کردیا ہے۔ سو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟" (آیات 17، 22، 32 اور 40)

2- تاریخ کا ہر سچا واقعہ سنا کر بار بار پوچھا گیا: ﴿ كَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ؟ ﴾ میرا عذاب کیسا تھا؟ اور میری تنبیہات کیسی تھیں؟ (آیات 16، 18، 21، 30)

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- یہ سورت پانچ (5) قوموں اور ان کی ﴿تَكْذِيب ﴾ کی سچی داستان سناتی ہے۔ ﴿ تَكْذِيب ﴾ کا مطلب جھٹلانا ہے۔ رسول کو جھٹلانا کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ قرآن کو جھٹلانا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ آخرت کو جھٹلانا کہ یہ کبھی برپا نہیں ہوگی۔ ﴿ تَكْذِيب ﴾ اور اس کے مشتقات اِس سورت میں کئی بار استعمال ہوئے ہیں۔ (آیت:3، 9، 18، 23، 33 اور 42)

2- اس سورۃ میں ﴿ مُكَذِّبِين ﴾ جھٹلانے والوں کو ﴿ مُجْرِمِين ﴾ (آیت:47) کہا گیا ہے اور ﴿ مُصَدِّقِين ﴾ تصدیق کرنے والوں کو ﴿مُتَّقِين﴾ (آیت:54) کہا گیا ہے، جو رسولوں کی دعوت کی تصدیق کرکے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گذارتے ہیں۔ انہی دو کرداروں کا یہاں تقابل پایا جاتا ہے۔

3- پانی کی ایک معین مقدار (Calculated Amount of Water) سے قومِ نوحؑ کو غرق کیا گیا۔ ﴿فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ (آیت:12)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4- اس سورت میں ایک اہم سائنسی حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز نپی تلی تخلیق کی ہے ﴿ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴾ (آیت:49)۔ ہر شے میں ہر عنصر (Element)، اور ہر (Organic and Inorganic Compound) نامیاتی غیر نامیاتی مرکب شامل ہے۔ ان سب کا ایک معین وزن ومقدار (Atomic or molecular weight) ہے۔ Valency ہے۔ ہر ایک کا ایک Scope اور ہر ایک limit ہے۔

5- مشرکینِ مکہ کو انذار کیا گیا کہ آپ ؐ کے دور کے کافر، پچھلی قوموں کے کافروں سے بہتر نہیں۔

﴿ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ ﴾ (آیت:43)

6- اس سورت میں کافروں کی جمعیت اور اکثریت کے باوجود شکست اور ہزیمت کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ کافروں اور اتحادیوں کی شکست ہو کر رہے گی ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ ﴾ (آیت:45)۔

7- قیامت کی گھڑی (السَّاعة) : شقِ قمر، قربِ قیامت کی دلیل ہے۔ (آیت:1) آخری کتاب اور آخری رسول کے آنے کے بعد قیامت کسی وقت بھی برپا ہو سکتی ہے۔

﴿ مُكَذِّبِين ﴾ کے لیے وعدے کا وقت، قیامت کا دن ہے، جو بڑا ہی سخت اور بڑا ہی کڑوا ہوگا۔ (آیت 46:)

8- ﴿ نُذُر ﴾ یعنی تنبیہات کا لفظ، اس سورت میں سات (7) مرتبہ استعمال کیا گیا۔ (آیات: 5، 23، 33، 36، 37، 39 اور 41)

سورۃ القمر کا نظم جلی

سورۃ ﴿القمر﴾ سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلے میں تمہید ہے، آخر میں اختتامیہ ہے اور درمیان میں پانچ (5) قوموں کی ہلاکت کے سچے واقعات سنا کر، جزا و سزا کے تاریخی دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔

1- آیات 1 تا 8: پہلے پیراگراف میں، واقعہ شقِ قمر بیان کرکے، قربِ قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا۔

ہر نشانی دیکھنے کے باوجود مشرکینِ مکہ کے اعراض پر سخت تنبیہ کی گئی اور انذار کیا گیا۔

2- آیات 9 تا 17 :دوسرے پیراگراف میں، قومِ نوح ؑ (3,500 ق م) کی داستان تکذیب ہے

ان کے برے انجام کا تذکرہ کرکے مشرکینِ مکہ کو تخویف کی گئی، جو حضرت نوح ؑ کو ﴿مَجْنُون﴾ کہتے تھے۔ انہیں پانی میں غرق کر دیا گیا۔

3- آیات 18 تا 22 : تیسرے پیراگراف میں، قومِ عاد (3,000 ق م) کی داستانِ تکذیب ہے

ان کا انجام ﴿ بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ ﴾ یعنی تیز ہوا سے ہلاکت کی شکل میں بیان ہوا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4- آیات 23 تا 32: چوتھے پیراگراف میں، قومِ ثمود (2,500 ق م) کی داستانِ تکذیب۔

ان کے انجام سے منکرینِ آخرت کو خبردار کیا گیا۔ حضرت صالحؑ کو بھی ان کی قوم ﴿كَذَّابٌ اَشِر﴾ کہتی تھی اور آج قریشِ مکہ بھی اسی روش پر چل رہے ہیں۔ قومِ ثمود کو ﴿صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ یعنی ایک زوردار آواز اور دھماکے سے ہلاک کیا گیا۔

5- آیات 33 تا 40: پانچویں پیراگراف میں، قومِ لوطؑ (2,100 ق م) کی داستانِ تکذیب ہے۔

ان کا انجام بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر برسانے والی ہوا ﴿حَاصِبًا﴾ کے ذریعے ہلاک کیا۔

6- آیات 41 تا 42: چھٹے پیراگراف میں، آلِ فرعون (1,300 ق م) کی تکذیب ہے۔

ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا تذکرہ کیا گیا۔ طاقت کے نشے میں مست فرعون کے انجام سے مشرکینِ مکہ کو ڈرایا گیا۔

اپنی عسکری طاقت پر نازاں حکمران فرعون کو اُس کی فوج کے ساتھ ﴿عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ کی پکڑ میں جکڑ لیا گیا۔

7- آیات 43 تا 55: ساتویں اور آخری پیراگراف میں، سوالیہ انداز سے قریش کو سمجھایا گیا کہ کفار اپنی جمعیت کے باوجود شکست کھائیں گے۔

﴿مُجْرِمِينَ﴾ کو آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی عذابِ الٰہی سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی پانچ قوموں کا ذکر کیا گیا۔ ﴿وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ﴾ کے الفاظ سے بتایا گیا کہ ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہر زمانہ میں ایک جیسا ہی ہے۔ ﴿مُتَّقِينَ﴾ کے لیے اخروی انعامات کا ذکر کر کے، مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ ﴿مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ کے نزدیک انہیں سچائی کا مقام حاصل ہوگا۔

مرکزی مضمون

﴿تَكْذِيب﴾ کے جرم میں پانچ (5) قوموں کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا گیا۔ تاریخِ ہلاکت سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ﴿تَكْذِيب﴾ سے بچو، ورنہ تمہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ کافروں کی اتحادی قوت، ہزیمت و شکست دوچار ہو کر رہے گی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

55- سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ

آیات : 78 ...... مَكِّيَّة" (ابتدائی دور)...... پیراگراف : 6



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سورۃ ﴿الرحمٰن﴾ اعلانِ عام کے بعد قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) میں، ایامِ تکذیب میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بالکل ابتدائی ایام میں حرمِ کعبہ میں جا کر مقامِ ابراہیم کے پاس اس سورت کی تلاوت کی تھی۔ یہ اس کے مکی ہونے کی خارجی شہادت ہے۔ عام طور پر اس سورت کو مدنی سمجھا اور لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں ایسی کوئی داخلی شہادت بھی نہیں ملتی کہ اسے مدنی سمجھا جائے۔ سورۃ الرحمن کے علاوہ، سورۃ الرعد، سورۃ الدھر اور سورۃ الزلزال کو بھی مدنی سمجھا اور لکھا جاتا ہے، لیکن درحقیقت یہ چاروں سورتیں بھی مکی ہیں۔ اس طرح مکی سورتوں کی تعداد نوے (90) اور مدنی سورتوں کی تعداد صرف چوبیس (24) رہ جاتی ہے۔

خصوصیات

1- یہ سورت اپنے اندر ایک خاص آہنگ رکھتی ہے۔

2- شاہ ولی اللہؒ صاحب کہتے ہیں، اس سورت میں حرف ﴿ن﴾ کی صوتی نغمگی ہے۔

3- یہ سورت بھی دورِ تکذیب میں نازل ہوئی۔

سورۃ الرحمٰن کا کتابی ربط

1- پچھلی سورۃ القمر میں بار بار ﴿تکذیب﴾ کا ذکر ہوا تھا۔ پانچ (5) قوموں کی ﴿تکذیب﴾ کی سچی داستان سنا کر اُن کے انجام سے ڈرایا گیا تھا۔ یہاں سورۃ الرحمن میں، انسانوں اور جنات دونوں سے بار بار یہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی کون کون سی ﴿آلاء﴾ کی ﴿تکذیب﴾ کر سکتے ہیں؟

2- پچھلی سورۃ القمر جلالی تھی، یہاں سورۃ الرحمن میں جلال و جمال کا امتزاج ہے اور جمال غالب ہے، دوزخ اور اُس کے احوال کا ذکر صرف چار (4) آیات میں ہوا، جبکہ آخری اکتیس (31) آیات میں انعاماتِ جنت کی تفصیل ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں تیس (30) سے زیادہ مرتبہ، آیتِ ترجیع ﴿فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴾ کے ذریعے، انسانوں اور جنات کے مردہ ضمیر کو ﴿تکذیب﴾ یعنی جھٹلانے سے بچنے اور شکر گذار بننے کی دعوت دی گئی ہے۔

2- لفظ ﴿آلاء﴾ کا مطلب: مولانا حمید الدین فراہیؒ نے اس لفظ کی لغوی تحقیق کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ اِس

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لفظ کا مفہوم صرف نعمتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں نعمت، قدرت، طاقت، عجائباتِ قدرت، کمالاتِ قدرت، عنایتیں، مہربانیاں، خوبیاں، اوصافِ حمیدہ، کمالات اور فضائل کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ سیاق وسباق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودیؒ نے اپنے ترجمہ میں اس بات کو ملحوظ رکھا ہے۔

3- اللہ کی دو صفات ﴿ ذُو الجلال ﴾ اور ﴿ ذو الاکرام ﴾ کا استعمال اس سورت میں دو (2) مرتبہ ہوا ہے اور صرف اسی سورۃ الرحمٰن میں ہوا ہے، کسی اور سورت میں نہیں ہوا ہے۔

سورۃ الرحمٰن کا نظمِ جلی

یہ سورت چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 28 : پہلے پیراگراف میں، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، قدرت اور ربوبیت کے دلائل ہیں۔

قرآن، انسان کی تخلیق اور اُس کو گویائی کا عطا کیا جانا، رحمانیت کی دلیلیں ہیں۔ چاند اور سورج کی نپی تلی گردش، آسمان کی رفعت اور اُس کا توازن، زمین کے پھل اور اس کا غلہ، جنات اور انسانوں کی تخلیق، دریا اور ان کے موتی، سمندر اور اس کے جہاز، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت کی دلیلیں ہیں۔ آخر میں انسانوں اور جنات دونوں پر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ زمین کی ہر چیز کے لیے فنا جبکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بقا ہے۔ ﴿وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ﴾ (آیت:27) "اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔"

2- آیات 29 تا 36 : دوسرے پیراگراف میں، دلائلِ قدرت سے جزا وسزا کو ثابت کیا گیا ہے۔

انسانوں اور جنات کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ زمین وآسمان کے اقطار سے نکلنے کی کوشش کر دیکھیں۔ اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کے اعتراف پر مجبور ہو جائیں گے۔

3- آیات 37 تا 40 : تیسرے پیراگراف میں، قیامت کے احوال کا اجمالی ذکر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے

4- آیات 41 تا 45 : چوتھے پیراگراف میں، مختصر طور پر دوزخ کے اَحوال بیان کیے گئے ہیں۔

مکذبین اور مجرمین کو ﴿نَوَاصِي وَالْاَقْدَامِ﴾ سے یعنی اُن کی پیشانی سے اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پکڑا جائے گا اور ان کی خشک عذاب ﴿دوزخ کی آگ﴾ اور مرطوب عذاب ﴿کھولتا ہوا پانی﴾ دونوں سے ﴿فتح﴾ کی جائے گی، مجرمین اِن دونوں کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔

5- آیات 46 تا 61 : پانچویں پیراگراف میں، اللہ کی عدالت میں پیشی سے ڈرنے والے لوگوں کی جزا کی تفصیل بیان کی گئی ہے

انہیں دو، دو باغات، چشموں، پھلوں، سرسبز وشاداب شاخوں، ریشمی قالینوں اور شرمیلی نگاہوں والی بیویوں سے نوازا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جائے گا۔ یہ محسنین ہیں اور محسنین کے احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے گا۔

6- آیات 62 تا 78 : چھٹے اور آخری پیراگراف میں، جنت کی اضافی نعمتوں کا ذکر ہے۔

انہیں دو مزید باغات عطا کیے جائیں گے۔ ان میں چشمے ہوں گے۔ انار اور کھجور کے درخت ہوں گے۔ سبز قالینیں اور خیموں میں نیک سیرت اور نیک صورت حوریں فراہم کی جائیں گی۔ آخری آیت میں ﴿ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴾ "بڑی برکت والا ہے تیرے ربّ جلیل وکریم کا نام" (آیت 78) کے الفاظ کے ذریعے، جنت کی ان نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے اُس کی رحمانیت، اُس کی قدرت، اُس کی ربوبیت اور اُس کی صفاتِ جلال واِکرام پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

مرکزی مضمون

اللہ کی رحمانیت ،قدرت اور ربوبیت کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ناشکرے نہ بنو۔ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو

﴿ آلَاءِ اللّٰهِ ﴾ کی تصدیق کرنے والوں کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ ﴿ ذُوالْاِکرام ﴾ ہوگا۔

﴿ آلَاءِ اللّٰهِ ﴾ کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ﴿ ذُوالجَلال ﴾ ہوگا۔

قرآن کی تعلیم کے علاوہ، آفاق وانفس کی نشانیوں پر غور کرو، آخرت کے عذاب وثواب کے قائل ہو جاؤ گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

56- سُوْرَةُ اَلْوَاقِعَة

آیات : 96 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 7



زمانۂ نزول:

سورۃ ﴿الواقعۃ﴾ حضرت عمرؓ کے قبولِ اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ الواقعہ، سورۃ طٰہٰ کے نزول اور ہجرتِ حبشہ (رجب 5 نبوی) کے بعد اور حضرت عمرؓ کے قبولِ اسلام (ذوالحجہ 6 نبوی) کے درمیان میں کسی وقت (غالبًا 5 نبوی میں) نازل ہوئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الواقعہ کے فضائل

سورۃ الواقعہ بھی، سورۃ ہود کی طرح اُن سورتوں میں سے ایک ہے، جس نے رسول اللہ ﷺ کو بوڑھا کر دیا تھا۔

شَيَّبَتْنِي هُود" والواقعة والمرسلات وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

"سورۃ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبأ اور سورۃ التکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔"

(جامع ترمذی : کتاب التفسیر ، باب سورۃ الواقعہ ، حدیث 3,297 ، صحیح)

سورۃ الواقعہ کا کتابی ربط

1- سورۃ الرحمٰن میں، اللہ تعالیٰ کی صفات ﴿ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ کے ذریعے تصدیق اور تکذیب کرنے والوں سے سوالیہ اُسلوب میں آیتِ ترجیع کے ذریعے مُجادلہ تھا۔ یہاں سورۃ الواقعہ میں تصدیق کرنے والوں کی دو قسمیں ﴿السّابقون﴾ اور ﴿اصحابُ الیمین﴾ اور اُن کا اجر بتایا گیا ہے۔ اِسی طرح ﴿ تکذیب ﴾ کرنے والوں کو ان کے انجام سے باخبر کیا گیا ہے۔

2- پچھلی سورت میں ﴿ تُكَذِّبَانِ ﴾ کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں ﴿ الْمُكَذِّبُونَ ﴾ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں ﴿ الْمُكَذِّبُونَ الضَّالُّونَ ﴾ 'جھٹلانے والے گمراہ' کا لفظ دو (2) مرتبہ ﴿ أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴾ کے لیے استعمال کیا گیا ہے (آیت: 51 اور 92)۔

2- اس سورت میں دو (2) مرتبہ درمیان میں اور بالکل آخری آیت میں ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ (آیت: 74 اور 96) کے الفاظ سے خالص توحید کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی ﴿ تسبیح ﴾ کرو یعنی اللہ کی بے عیبی کا اعتراف اور اظہار کرو کہ اُس کی ذات ہر قسم کی ناقص صفات اور عیب سے بلند و بالا ہے۔

سورۃ الواقعہ کا نظمِ جلی

سورۃ الواقعہ سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 9 : پہلے پیراگراف میں، مناظرِ قیامت بیان کر کے بتایا گیا کہ سب لوگ روزِ قیامت تین (3) گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔

أَصحابُ الْمَشْئَمَة ، أَصحابُ الْمَيمَنَة اور السّابِقُون۔ ان میں سے دو جنتی ہوں گے اور ایک دوزخی۔

﴿خَافِضَةٌ" رَّافِعَةٌ" ﴾ کے الفاظ سے یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی کہ قیامت کے دن کی آفت بعض لوگوں کے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

لیے ﴿ رَّافِعَةٌ ﴾ ثابت ہوگی۔ان کے درجات بلند ہوں گے اور بعض لوگوں کے لیے ﴿ خَافِضَةٌ ﴾ ہوگی اور وہ ذلیل وخوار ہوں گے۔

2- آیات 10 تا 26 :دوسرے پیراگراف میں، ﴿السابقون ﴾ کے اخروی حالات بیان کیے گئے ہیں۔

ان کی تواضع ،شراب اور حوروں سے کی جائے گی ، جنت میں کوئی لغو اور بے ہودہ بات نہیں ہوگی اور نہ گناہ کے کام ہوں گے۔

3- آیات 27 تا 40: تیسرے پیراگراف میں، ﴿اصحابُ الیمین ﴾ کے اخروی انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔

ان کی تواضع ، پھلوں کے باغات میں کئی انعامات کے ساتھ کی جائے گی۔

4- آیات 41 تا 56 :چوتھے پیراگراف میں، ﴿اَصحابُ الشِّمال ﴾ کے جرائم گنوائے گئے ہیں۔

یہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے ﴿ كَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ﴾ (آیت:46)۔وہ مُترفین اور خوشحال تھے۔منکرِ آخرت تھے۔جھٹلانے والے گمراہ ﴿ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴾ تھے۔آخرت میں ان کے برے انجام کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ دوزخی ، ﴿زقّوم ﴾ کے درخت سے کھائیں گے اور کھولتے ہوئے پانی سے پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے۔

5- آیات 57 تا 74 :پانچویں پیراگراف میں، آفاق وانفس کی چار (4) دلیلوں سے اِمکانِ آخرت پر استدلال کیا گیا

(a) یہ منی جو تم ٹپکاتے ہو، اس کے خالق تم ہو یا اللہ؟ اِس سوال کے ذریعے انفسی دلیل فراہم کی گئی۔اگلے تین سوالوں کا مقصد اللہ کی قدرت اور ربوبیت کی آفاقی دلیلیں فراہم کرنا ہے۔

(b) یہ فصل، جو تم بوتے ہو، اس کے اگانے والے تم ہو یا اللہ؟

(c) یہ پانی جو تم پیتے ہو، اس کے نازل کرنے والے تم ہو یا اللہ؟

(d) یہ آگ جو تم (جنگل میں) سلگاتے ہو، اس (سبز ٹہنیوں والے) درخت کو تم نے اگایا ہے یا اللہ نے؟

6- آیات 75 تا 82 :چھٹے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ قرآن ایک بلند مرتبہ کلامِ الٰہی ہے۔

شیطانی القاء نہیں ہے۔پاک فرشتوں کے علاوہ قرآن کو کوئی نہیں چھوتا۔قرآن کے بارے میں مداہنت اور تکذیب کا رویہ بند کرو !

7- آیات 83 تا 96 :ساتویں اور آخری پیراگراف میں، موت کے وقت انسان کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا۔

روزِ قیامت اَصحابُ الیَمین ،اَصحابُ الشِّمال اور السَّابقون کا مختلف انجام بیان کیا گیا۔ نبی ﷺ کو یہ ہدایت کی گئی کہ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں !

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

قریش کی قیادت کو وارننگ دی گئی کہ قیامت کے دن کا انقلاب، بعض لوگوں کو بلندی اور بعض کو پستی عطا کرے گا جھٹلانے والے گمراہوں ﴿ اَلْمُكَذِّبُوْنَ الضَّآلُّوْنَ ﴾ کے مقابلے میں تصدیق کرنے والے ہدایت یافتہ لوگوں ﴿ اَلْمُصَدِّقُوْنَ الْمُهْتَدُوْنَ ﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔ امکانِ قیامت کی آفاقی، انفسی اور قرآنی دلیلوں کی روشنی میں ، تکذیب توحید و آخرت و مدا ہنت اور شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرو !

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

57- سُورَةُ الْحَدِيدِ

آیات : 29 ...... مَدَنِيَّة" ...... پیراگراف : 5



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سورۃ الحدید، صلح حدیبیہ سے پہلے 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی، جب مسلمانوں کو اہلِ کفر سے جانی جہاد کے ساتھ ساتھ مالی جہاد کی سخت ضرورت تھی۔ اس لیے اس سورت میں ﴿جہاد بِالحَدید﴾ یعنی ﴿جہاد بِالسَّیف﴾ کے ساتھ ساتھ ﴿جہاد بِالمال﴾ یعنی ﴿اِنفاق﴾ کی پرزور اپیل کی گئی۔

کتابی ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورۃ الحدید ہے، پھر سورۃ المجادلہ، پھر سورۃ الحشر اور پھر سورۃ الممتحنہ۔

نزولی ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورۃ الحشر ربیع الاول چار (4) ھ میں، پھر سورۃ الحدید پانچ (5) ھ کے اوائل میں نازل ہوئی ہے، پھر سورۃ المجادلہ جنگِ احزاب کے بعد پانچ (5) ھ کے اواخر میں، پھر سورۃ الممتحنہ فتحِ مکہ سے پہلے غالباً آٹھ (8) ھ کے اوائل میں نازل ہوئی۔

سورۃ الحدید کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورۃ الواقعہ میں جن ﴿السّابقون﴾ اور ﴿اصحابُ الیمین﴾ کے اجر و ثواب کا ذکر تھا۔

یہاں سورۃ الحدید میں اُن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ صفاتِ الٰہی پر کامل ایمان رکھتے ہیں، دل کھول کر ﴿انفاق﴾ کرتے ہیں، بیرونی دشمنوں یعنی کافروں سے ﴿جہاد﴾ کرتے ہیں اور ﴿عدل وانصاف﴾ کے قیام کو یقینی بناتے ہیں۔

2۔ اگلی سورت ﴿المجادلہ﴾ میں اسلامی ریاست کے اندرونی دشمنوں یعنی ﴿منافقین﴾ سے جہاد کے لیے اُن کی پہچان کی ہدایت ہے۔

سورۃ الحدید میں مضامین کا ربط

سورۃ الحدید میں سب سے پہلے اللہ کی صفات اور اُن پر ایمان کا ذکر ہے، پھر ﴿اِنفاق﴾ کا مطالبہ ہے۔ اس کے بعد ﴿جہاد وقتال﴾ کا مطالبہ ہے۔ آخر میں عدل وانصاف کے قیام کی دعوت ہے، جو تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد رہا ہے۔

صحیح عقیدۂ توحید اور اسماء وصفات کے علم کے بغیر، ﴿جہاد﴾ ناممکن ہے۔ جہادِ نفس سے پہلے، ﴿جہاد بالمال﴾ یعنی ﴿اِنفاق﴾ ضروری ہے۔ ﴿جہاد بالحدید﴾ کے بغیر اسلامی حکومت کا قیام ناممکن ہے۔ اسلامی حکومت کے بغیر، اسلام کا عادلانہ نظام قائم نہیں کیا جا سکتا اور ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (آیت 25) کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الحدید میں بعض موانع کا ذکر

اس سورت میں بعض موانع یعنی اہم رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

کامل ایمان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ، اللہ کی صفات سے لاعلمی ہے۔

انفاق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، بخیلی اور دنیا کی محبت ہے۔(آیت:24)

جہاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ، ﴿ رھبانیت ﴾ ہے (آیت:27)۔

اہم کلیدی الفاظ و مضامین

1۔ ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ (آیت:3) کے ذریعے اللہ کی ذات کا تعارف کرایا گیا کہ وہ ﴿الْأَوَّلُ﴾ ہے اور خالق ہے ساری مخلوق اُس کے بعد ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ﴿الْبَاطِنُ﴾ چھپا ہوا ہے، لیکن اپنی آیات کے اعتبار سے ﴿الظَّاهِرُ﴾ ہے۔

2۔ اس سورت میں ﴿انفاق﴾ کی اپیل کئی طرح سے کی گئی ہے۔

(a) سب سے پہلے کہا گیا کہ میرے اُس مال میں سے کچھ انفاق کرو، جس پر میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔

﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (آیت:7)۔

(b) سوالیہ انداز میں لوگوں کے ضمیر کو بیدار کیا گیا کہ وہ کیوں انفاق نہیں کر رہے ہیں۔

﴿مَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا﴾ (آیت:10)۔

(c) اس کے بعد یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی کہ اگر تم موت سے پہلے انفاق نہیں کرو گے تو یہ اللہ کی میراث بن جائے گی ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (آیت:10)۔

(d) پھر یہ بتایا گیا کہ اسلام کی فتح کے بعد کے انفاق وقتال کے مقابلے میں، اسلام کے غربت کے زمانے میں کیا گیا انفاق اور قتال کا درجہ بلند ہوگا۔ (آیت:10)

(e) پھر لوگوں سے قرض حسن کا مطالبہ کیا گیا (آیت:11)۔

(f) قرض حسن کے لیے بڑھا چڑھا کر لوٹانے اور اجر کریم کی بشارت دی گئی (آیت: 11)

3۔ ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾ (آیت:10) سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام صحابہؓ ایک درجے میں نہیں ہیں۔ سب کے لیے خیر کا وعدہ ہے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں حصہ لینے والے چودہ سو (1,400) صحابہؓ بعد والوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح فتح مکہ میں شریک ہونے والے دس ہزار (10,000) صحابہؓ آخری حج میں شریک ہونے والے دیگر ایک لاکھ صحابہؓ سے زائد سے افضل

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہیں۔اس آیت میں ﴿الفتح﴾ سے مراد صلح حدیبیہ بھی ہوسکتی ہے اور فتح مکہ بھی۔

4۔ ﴿اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾(آیت 16)
خشوعِ قلب اور قساوتِ قلب کے فرق کو واضح کر کے بتایا گیا کہ خشوعِ قلب کے نتیجے میں انسان کے دل سے بخیلی کا خاتمہ ہوتا ہے، فیاضی پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔قساوتِ قلبی کے نتیجے میں اہلِ کتاب کی طرح فسق اور بدعملی کا ظہور ہوتا ہے۔

5۔ ﴿اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ﴾
(آیت 20) یہاں دنیا کی زندگی کے مختلف مراحل کو چھ (6) لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔

(a) ﴿لَعِب﴾ سے مراد، چھوٹے بچوں کے کھیل ہیں، جن میں لذت نہیں ہوتی۔

(b) ﴿لَهْوٌ﴾ سے مراد، وہ کھیل ہیں، جن میں لذت ہوتی ہے، جو بلوغت کے بعد نوجوانوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔اس میں موسیقی بھی شامل ہے۔

(c) ﴿زِيْنَةٌ﴾ سے مراد، ٹیپ ٹاپ، میک اپ اور آرائش وزیبائش کے وہ تمام رویے ہیں، جو اس کے اگلے مرحلے میں جنم لیتے ہیں۔

(d) ﴿تفاخُر﴾ سے مراد، انسان کا ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا ہے۔

(e) ﴿تَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ﴾ سے مراد، مال کی دوڑ دھوپ میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوششوں میں مگن ہو جاتا ہے۔

(f) ﴿تَكَاثُرٌ فِى الْاَوْلَادِ﴾ سے مراد، اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ذہنیت ہے۔

6۔ ﴿سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾(آیت 21) اس آیت میں دو مطالبات ہیں۔پہلا مغفرت میں سبقت کا اور دوسرا جنت کے لیے سبقت کا۔﴿سبقت﴾ یعنی نیکی کے کاموں میں پہل اور دوسروں سے آگے نکل جانے کا جذبہ ہے، اسی جذبے کے نتیجے میں انسان ﴿السابقون﴾ کی صف میں شامل ہوسکتا ہے۔

7۔ ﴿لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ ”تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں“(آیت 25) کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ رسول صرف عقیدے کی تبلیغ اور عبادت کے التزام کے لیے نہیں بھیجے جاتے، بلکہ ان کی بعثت کا مقصد دنیا میں جہاد کے ذریعے عدلِ اجتماعی کا قیام بھی ہوتا ہے۔زکوۃ اور دیگر احکام کے ذریعے معاشی عدل، سماجی عدل، سیاسی عدل وغیرہ حاصل ہوسکتا ہے۔

8۔ ﴿وَرَهْبَانِيَّةَ ِۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ﴾ (آیت 27)
اس آیت میں رہبانیت کو بدعت قرار دیا گیا ہے، جسے اللہ نے ہرگز فرض نہیں کیا تھا۔عیسائیوں نے یہ بدعت نیک نیتی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے ایجاد کی پھر حدود میں تجاوز سے کام لیا۔اہلِ کتاب کو بتایا گیا ہے کہ وہ رہبانیت ترک کر کے،اسلام لے آئیں، جہاد کا راستہ اختیار کریں اور اسلامی حکومت کی قوتِ قاہرہ کے ذریعے دنیا میں رسولوں کی طرح عدل قائم کریں۔

9۔ اس سورت میں ﴿نور﴾ کا لفظ کئی بار استعمال کیا گیا ہے۔

(a) اللہ ہی نے رسول اللہ ﷺ پر قرآن کی آیات نازل کی ہیں،تا کہ مسلمانوں کو اندھیروں سے نکال کر ﴿نُور﴾ میں لے آئے (آیت:9)۔

(b) قیامت کے دن (اِنفاق کی وجہ سے) مومن مرد و خواتین کے سامنے اور اُن کے سیدھے ہاتھ میں ﴿نُــور﴾ دوڑ رہا ہوگا (آیت:12)۔

(c) قیامت کے دن منافق مرد و خواتین،مومن مرد و خواتین سے ﴿نُــور﴾ کی درخواست کریں گے،جو مسترد کر دی جائے گی (آیت:13)۔

(d) اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے صدیق اور شہید ہوتے ہیں،اُن کے لیے اُن کے حصے کا اجر اور ﴿نُــور﴾ ہے۔(آیت:19)

(e) اہلِ کتاب اگر آخری رسول پر ایمان لائیں گے تو اللہ اُنہیں بھی وہ ﴿نُــور﴾ عطا کرے گا،جس کی روشنی میں وہ چل سکیں گے (آیت:28)

10۔ اس سورت میں ﴿مَغفِرَة﴾ کا لفظ بھی کئی بار استعمال کیا گیا ہے۔

(a) آخرت میں ﴿عذابِ شدید﴾ بھی ہے اور اللہ کی ﴿مَغفِرَة﴾ اور ﴿رضوان﴾ بھی (آیت:20)۔

(b) اللہ کی ﴿مَغفِرَة﴾ اور اس کے بعد ﴿جنت﴾ حاصل کرنے کے لیے، نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھو! ﴿سبقت﴾ کرتے ہوئے، ﴿السَّابِقِين﴾ کی صف میں شامل ہو جاؤ (آیت:21)۔

(c) اہلِ کتاب اگر آخری رسول پر ایمان لائیں گے تو اللہ اُنہیں بھی ﴿مَغفِرَة﴾ عطا کرے گا۔(آیت:28)۔

سورۃ الحدید کا نظمِ جلی

سورۃ الحدید پانچ پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 15: پہلے پیراگراف میں، صفاتِ الٰہی بیان کر کے، توحید،ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی

جہاد میں مسابقت کے فضائل بیان کیے گئے۔انفاق کی دعوت کئی اسالیب سے کی گئی۔قیامت کا منظر کھینچ کر بتایا گیا کہ اس دن فیاض مومن مرد و خواتین اور بخیل منافق مرد و خواتین کا احوال مختلف ہوگا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- آیات 16 تا 17 :دوسرے پیراگراف میں، مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے۔

وہ ﴿خشوعِ قلب﴾ اختیار کریں۔ اہلِ کتاب کی طرح ﴿قساوتِ قلبی﴾ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ کی سنت بیان کی گئی کہ کفر وشرک کی خزاں کے بعد، وہ وقفے وقفے سے ایمان وتوحید کی بہار سے، انسانی دلوں کی زمین کو سرسبز وشاداب کرتا رہتا ہے۔

3- آیات 18 تا 20 :تیسرے پیراگراف میں، ایمان لاکر انفاق کرنے والوں کے اجر وثواب کا بیان ہے۔

اور دنیا وآخرت کا تقابل (Comparoson) کرکے، دنیا کی بے ثباتی بیان کی گئی۔ دنیا کی زندگی کے چھ (6) مراحل بیان کرکے موت کی تذکیر کی گئی۔ آخرت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں عذابِ شدید بھی ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضوان بھی۔

4- آیات 21 تا 24 :چوتھے پیراگراف میں، اللہ کی بخشش ومغفرت اور ابدی جنت کی طرف دعوتِ مسابقت دی گئی۔ جان ومال کے نقصان پر صبر کی اپیل کرکے، بخل سے پرہیز کرنے کی تلقین کی گئی۔

5- آیات 25 تا 29 :پانچویں اور آخری پیراگراف میں، رسولوں کی بعثت کا مقصد، عدل وانصاف کا قیام بیان کیا گیا

ہر رسول بینات، کتاب اور میزان لے کر آتا ہے اور بعض کو لوہا بھی دیا جاتا ہے۔ لوہے کے نزول کا اصل مقصد جہاد ہے، لیکن اس میں دیگر فوائد بھی رکھ دیے گئے ہیں۔ قیامِ عدل کے لیے، طاقت کے استعمال کی طرف لوہے ﴿الحدید﴾ کے لفظ سے اشارہ کیا گیا۔

رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے سلسلے کو، حضرت ابراہیمؑ اور اُن کی نسل کے دیگر انبیاء سے جوڑتے ہوئے اہلِ کتاب بالخصوص عیسائیوں کو، رھبانیت ترک کرکے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ رھبانیت کو بدعت قرار دیا گیا۔ نبوت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کا استحقاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنی اسمٰعیل میں پیدا کیا ہے۔ اہلِ کتاب کو ترغیب دی گئی کہ اگر وہ اسلام لے آئیں گے تو انہیں دوہرے اجر سے نوازا جائے گا۔

مرکزی مضمون

صفاتِ الٰہی پر مشتمل کامل عقیدۂ توحید اور رسول اللہ ﷺ پر ایمان لاکر، نفاق، حبِ دنیا، بخل اور رہبانیت سے پرہیز کرو اور جان ومال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تاکہ اسلامی حکومت کے قیام کے ذریعے، رسولوں کی بعثت کا مقصد، عدلِ اجتماعی کا قیام ممکن ہوسکے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشۂ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

58- سُوْرَةُ الْمُجَادَلَة

آیات : 22 ...... مَدَنِیَّۃ ...... پیراگراف : 3



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سورۃ ﴿المُجادَلَة﴾، سورۃ ﴿الاحزاب﴾ کے بعد، غالباً ذوالحجہ 5ہجری میں نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا، جب منافقین رسول اللہ ﷺ کے خلاف پروپیگنڈہ کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہؓ کی مطلقہ بیوی حضرت زینبؓ سے شادی کرلی ہے۔ اس کے تقریباً ایک سال بعد سورۃ النور نازل ہوئی، جس میں حضرت عائشہؓ پر بہتان کا تذکرہ ہے۔ منافقین اپنے زہریلے پروپیگنڈے کے ذریعے اسلامی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔

ظہار: زمانۂ جاہلیت میں ایک فرسودہ رسم ﴿ظِهَار﴾ کی تھی۔ یہ ایک ایسی طلاق تھی، جس میں رجوع کا بھی امکان نہ ہوتا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے کر ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کرلیتا۔ حضرت خولہ بنتِ ثعلبؓ کے شوہر نے ان سے بڑھاپے میں ظہار کیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ ان کی شکایت آسمانوں میں سنی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں انہیں ظہار کے کفارے سے آگاہ کیا، تاکہ وہ دوبارہ اپنی ازدواجی زندگی گزار سکیں۔

سورۃ المجادلہ کا کتابی ربط

سورۃ ﴿الحدید﴾ میں بیرونی دشمنوں سے جان اور مال سے جہاد کرکے عدل وانصاف کے قیام کو یقینی بنانے کا حکم تھا۔ یہاں اس سورۃ ﴿المُجادلہ﴾ میں اندرونی دشمنوں (منافقین) کی پہچان کی ہدایت ہے، انہیں ﴿حِزْبُ الشیطان﴾ کہا گیا ہے اور ان کی صفات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں اللہ کی پارٹی ﴿حِزْبُ اللّٰه﴾ (آیت:22) اور شیطان کی پارٹی ﴿حِزْبُ الشیطان﴾ (آیت:19) کے درمیان تقابل ہے۔

2- اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کی دشمنی اختیار کرنے والے ﴿مُحَادُّوْنَ﴾ ذلیل وخوار ہوکر رہیں گے (آیت :5 اور 20) اور ﴿مُوَادُّوْنَ﴾ (آیت :22) کا انجام مختلف ہوگا۔ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے مخلص مومنین، اللہ اور رسولؐ کی دشمنی اختیار کرنے والے اپنے قریبی رشتے دار منافقین سے مودت اور محبت کا مظاہرہ نہیں کرسکتے۔

3- اس سورت میں منافقین کی کانا پھوسی اور پروپیگنڈے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

منافقین، ممانعت کے باوجود، ﴿اثم ، عدوان﴾ اور رسول کی نافرمانی میں خفیہ سرگوشیاں ﴿نَجْوٰی﴾ کرتے ہیں۔(آیت:7)

مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ ﴿اثم ، عدوان﴾ اور رسول کی نافرمانی میں خفیہ سرگوشیاں ﴿نَجْوٰی﴾ نہ کریں۔(آیت: 8)

مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ نیکی اور خدا ترسی ﴿بر اور تقویٰ﴾ کے معاملات میں خفیہ سرگوشیاں ﴿نَجْوٰی﴾ کر سکتے ہیں(آیت: 8)

مسلمانوں کو بتایا گیا کہ منافقین کے ﴿نَجْوٰی﴾ کا مقصد اہلِ ایمان کو رنجیدہ کرنا ہوتا ہے۔اور یہ شیطان کا ہتھکنڈا ہے۔(آیت:10)

سورۃ المجادلہ میں ناسخ و منسوخ

اس سورت میں، آیت:13 ناسخ ہے اور آیت:12 منسوخ ہے۔صحابہؓ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے تخلیہ میں ﴿نَجْوٰی﴾ کرنا چاہیں تو صدقہ دیں، لیکن کچھ دیر بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

سورۃ المجادلہ کا نظمِ جلی

سورۃ المجادلہ تین (3) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 4: پہلے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ بیویوں سے ﴿ظہار﴾ کے معاملے میں ﴿حُدُودُ اللہ﴾ کی پاسداری ضروری ہے۔

جاہلیت کا قانونِ ظہار، ظلم ہے۔ظہار سے بیوی ماں نہیں بنتی۔ظہار کے گناہ کا کفارہ ، ایک غلام کی آزادی ، (60) مسلسل روزے ، یا ساٹھ (60) مسکینوں کا کھانا ہے۔ظہار کا قانون ، حدودِ الٰہی میں شامل ہے منکرینِ قانونِ ظہار کے لیے، دردناک عذاب ہوگا۔

2- آیات 5 تا 13: پہلے پیراگراف کے عائلی قانون کے بعد، دوسرے پیراگراف میں، منافقین کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا کہ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمانوں کی عائلی زندگی کو درہم برہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

اسلامی ریاست کے خلاف بھی منافقین کی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔

منافقین، اسلامی ریاست کے دشمن ہیں، ذلیل و خوار ہوں گے۔منافقین کو اللہ کی صفتِ علم سے ڈرایا گیا۔

﴿نَجْوٰی﴾ سرگوشی پر تنقید کر کے بتایا گیا کہ اللہ کی ذات ایسی علیم ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سرگوشی کی ہر محفل میں موجود ہوتی ہے۔تین میں کا چوتھا، اور پانچ کا چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔﴿اِثم و عُدوان﴾ میں نَجْوٰی حرام ہے ،

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿بِرّ و تقویٰ﴾ کے ساتھ نجویٰ جائز ہے۔ آدابِ مجلس کی تعلیم دی گئی کہ محفل میں سمٹ کر بیٹھو تا کہ آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا ہو۔ اگر محفل سے اٹھا دیا جائے تو اٹھ جانا چاہیے۔ رسول ﷺ کی اطاعت سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے نجویٰ کرنے پر صدقہ کرنے کا پہلے حکم دیا گیا پھر اگلی آیت سے پچھلی آیت منسوخ کر دی گئی۔

3- آیات 13 تا 22 : تیسرے پیراگراف میں، ﴿حِزْبُ اللّٰهِ﴾ اور ﴿حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ کی صفات بیان کر کے بتایا گیا کہ ﴿حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ ناکام ہوگا اور ﴿حِزْبُ اللّٰهِ﴾ ہی غالب ہوگا۔

منافقین ، اللہ کی مغضوب قوم یہود سے دوستی کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کا غضب ہے۔ ان کی قسمیں جھوٹی ہوتی ہیں، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بنالیتے ہیں۔ یہ دوزخی ہیں۔ ﴿أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ﴾ (آیت:17)

ابلیس کے دام میں گرفتار ہو کر، منافقین نے اللہ کے ذکر کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ ﴿حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ ہیں۔

منافقین ، اسلامی ریاست کے دشمن ہیں۔ اور یہ مخلوقات میں سب سے زیادہ ذلیل ہیں ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗٓ أُولٰٓئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ (آیت:20)

فتح مکہ اور اسلام کے غلبے کی بشارت دی گئی ﴿كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ (آیت:21)۔

﴿حِزْبُ اللّٰهِ﴾ کی صفات کا بیان۔

(a) اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

(b) اللہ و رسول ﷺ کے مخالفین اور اسلامی ریاست کے مخالفین سے محبت نہیں رکھتے، چاہے وہ اُن کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔

(c) اِن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کو لکھ دیتا ہے۔ ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾

(d) ﴿رُوح﴾ سے ان کی تائید کی جاتی ہے۔ ﴿وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾

(e) یہ جنتی ہیں۔

(f) یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ ﴿رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

(g) ﴿حِزْبُ اللّٰهِ﴾ ہی کے لیے فلاح اور کامیابی ہے۔ (آیت:22)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

تکمیلِ انقلاب کے لیے ایمانی محاذ، عائلی محاذ اور اخلاقی محاذ پر کامیابیاں شرطِ اول ہیں، ان ہی کے نتیجے میں عسکری اور سیاسی فتوحات حاصل ہو سکتی ہیں۔

توضاحت

(a) عائلی محاذ پر، ﴿ظِھَار﴾ جیسی فرسودہ رسومات کا خاتمہ ضروری ہے، تا کہ سماجی عدل (Social Justice) قائم کیا جا سکے۔

(b) ایمانی محاذ پر، ثابت قدمی کے لیے، اللہ کی صفات کی کامل معرفت ضروری ہے۔ اسلام دشمن سرگرمیوں اور سرگوشیوں ﴿نَجْوٰى﴾ کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے، جب یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری خفیہ سازشوں اور سرگوشیوں ﴿نَجْوٰى﴾ کا علم ہو جاتا ہے۔ منافقین کا خفیہ پروپیگنڈہ ﴿نَجْوٰى﴾ اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے، ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔

(c) اخلاقی محاذ پر، فتوحات کے لیے، رسول کریم ﷺ کی کامل اِطاعت اور آدابِ مجلس کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ آپ ﷺ کی اِطاعت اور وفاداری کے نتیجے میں ہی اعلیٰ درجات کا حصول ممکن ہے۔

(d) عسکری اور سیاسی محاذ پر، اسی وقت کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، جب منافقت ترک کی جائے، یہودیوں سے دوستی ختم کر کے اور ﴿حِزْبُ الشَّيْطَان﴾ کو چھوڑ کر ﴿حِزْبُ اللهِ﴾ میں شرکت اختیار کر لی جائے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

59- سُوْرَةُ الْحَشْرِ

آیات : 24 ...... مَدَنِيَّة ...... پیراگراف : 4



زمانۂ نزول:

یہودی قبیلے بنی نضیر کی مدینہ منورہ سے جلاوطنی (ربیع الاول 4ھ) کے بعد، غالباً 4 ہجری کے وسط میں نازل ہوئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الحشر کا کتابی ربط

اسلامی ریاست کے اندرونی دشمنوں کی صفاتِ نجویٰ وتعلقات یہود وغیرہ کے ذکر کے بعد، یہاں سورۃ الحشر میں نفاق کے مرض کے علاج کی تدبیریں بیان کی گئی ہیں۔

پچھلی سورۃ المجادلہ کی آیت:14 میں منافقین کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ ''کیا تم نے ان منافقین کو دیکھا، جنھوں نے اس قوم (یہود) سے دوستی کر لی، جس پر اللہ نے غضب فرمایا؟''۔ یہاں سورۃ الحشر میں بھی منافقین کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ یہودیوں کی جنگی حمایت کے بارے میں اِن کی لن ترانیاں جھوٹی ہیں (آیت:11)۔ اگلی سورۃ الممتحنہ کی آخری آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے ﴿ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ ''ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے''

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ اس سورت میں، مخلص مہاجر صحابہؓ اور مخلص انصارِ مدینہ کے اوصاف اور ان کی فضیلت بیان کی گئی اور ان کا تقابل منافقین اور ان کے اوصاف سے کیا گیا ہے۔

2۔ ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ (آیت:2) بنی نضیر کے خلاف جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا۔ رعب کے نتیجے میں اموالِ فئے حاصل ہوئے۔ اگر جنگ ہوتی تو یہ مال، غنیمت شمار ہوتا۔

3۔ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (آیت:4) یہودی قبیلے بنی نضیر کے خلاف یہ فردِ جرم ہے۔ انہوں نے اللہ اور رسول ﷺ کا مقابلہ کیا یعنی انہوں نے اسلامی حکومت کو کھوکھلا کرنے کی سازش کی۔ اس لیے انہیں جلاوطنی کی سزا سنائی گئی۔

4۔ اسلامی معیشت کا ایک اہم اصول: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً م بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ (آیت:7) ''تا کہ دولت، تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش کرتی نہ رہے۔'' سلسلۂ کلام میں یہ علت اَحکامِ فئے سے متعلق ہے، لیکن اس سے اسلامی معیشت کا ایک اہم اصول سامنے آتا ہے۔ اسلام ارتکازِ دولت کو پسند نہیں کرتا۔

5۔ حدیث اور سنت کی دستوری، قانونی اور تشریعی حیثیت: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (آیت:7) ''جو کچھ رسول اللہ ﷺ تم لوگوں کو دیں، وہ لے لو اور جس چیز سے وہ منع کریں، اس سے رک جاؤ۔'' سلسلۂ کلام میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نضیر سے ملنے والے اموالِ فئے کی تقسیم پر اعتراض —

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نہ کرو۔ اس مال کی تقسیم جنگِ بدر کے اموالِ غنیمت کی طرح نہیں ہوگی ، جس کی تفصیل سورۃ الانفال کی آیت: 41 میں بیان کی گئی ہے، لیکن یہ آیت ایک اہم قانونی نکتہ بیان کرتی ہے۔ رسولِ معصوم محمد ﷺ کی قولی، فعلی اور تقریری احادیث اگر صحیح ثابت ہو جائیں تو ان کی دستوری، قانونی اور تشریعی حیثیت ہوگی۔ اسلامی قانون کے دو بنیادی ماخذ ہیں، جو وحی پر مبنی ہیں۔ قرآن اور صحیح اور ثابت شدہ احادیث۔ بقیہ ماخذ ثانوی اور استنباطی ہیں اور غیر معصوم انسانوں کے اجتہادات پر مبنی ہیں۔ بنیادی اور ثانوی ماخذوں میں تفریق کرنا ضروری ہے۔

6۔ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (آیت :1 اور 24) پہلی اور آخری آیت میں اللہ کی دوصفات عزیزیت اور حکیمیت کا اعادہ ہے۔ بنی نضیر کی جلاوطنی، اموالِ فئے کی دولت، وغیرہ سب انہیں کا مظہر ہیں۔

سورۃ الحشر کا نظمِ جلی

سورۃ الحشر چار (4) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 5 : پہلے پیراگراف میں، بنی نضیر کے خلاف فردِ جرم عائد کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ، رسول ﷺ اور اسلامی حکومت کی دشمنی اختیار کی۔

عہد شکنی کی اور رسول ﷺ کے قتل کی سازش کی۔ اسی لیے اُنہیں جلاوطنی کی سزا دی گئی۔

اللہ تعالیٰ ہی وہ بے عیب، زبردست اور حکیم ہستی ہے، جس نے یہودی قبیلے، بنی نضیر کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کر دیا، اور عبرت کا سامان فراہم کیا۔ بنی نضیر کے یہودی قبیلے پر جنگ کے بغیر محض رعب کے ذریعے فتح عطا کی گئی۔

﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾۔

جنگی حکمتِ عملی کا لحاظ کرتے ہوئے، اللہ کی طرف سے ایک استثنائی حکم دیا گیا کہ فوجی مصلحت کے تحت کھجور کے درخت کاٹے جاسکتے ہیں۔

2- آیات 6 تا 10 : دوسرے پیراگراف میں، جلاوطنی کے نتیجے میں حاصل کردہ، اَموالِ فئے کی تقسیم کے اَحکام اور اَموالِ فئے کی آٹھ مدات بیان کی گئیں۔

اموالِ فئے، مالِ غنیمت سے مختلف ہیں۔ اِن کے مصارف حسبِ ذیل ہیں۔

(1) اسلامی ریاست کے عمومی مفادات (اللہ اور رسول) (2) ذُو القربیٰ (رشتے دار) (3) یتامیٰ (4) مساکین (5) مسافر (ابن السبیل) (6) فقراء المهاجرین (7) والانصار (8) بعد میں آنے والے لوگ۔

مہاجرین کی فضیلت میں کہا گیا کہ یہ گھر سے نکالے گئے ہیں، اللہ کے فضل اور رضوان کے طالب ہیں، اللہ اور رسول کی حمایت کرتے رہتے ہیں اور راست باز ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

انصار مدینہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، جو دیا جائے اس پر راضی رہتے ہیں دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے، اپنی محتاجی کے باوجود ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شحِ نفس یعنی دل کی تنگی سے پاک ہیں۔

3- آیات 11 تا 17 : تیسرے پیراگراف میں، منافقین کو ان کے مرض سے آگاہ کیا گیا ہے۔ انہیں دو باتیں صاف صاف بتا دی گئی ہیں۔

اولاً وہ اسلامی ریاست کے خیر خواہ نہیں ہیں اور ثانیاً اسلام دشمن یہودیوں سے میل جول رکھتے ہیں۔

منافقین کی جھوٹی قسموں کا پول کھول دیا گیا ہے کہ وہ جنگ کے موقع پر یہودیوں کی حمایت نہیں کریں گے۔

منافقین کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مسلمانوں کا ڈر ہے۔ وہ ابلیس کے دام میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ انہیں جلد از جلد اس دام سے نکلنا چاہیے ورنہ دونوں داخلِ جہنم ہوں گے۔

4- آیات 18 تا 24 : چوتھے اور آخری پیراگراف میں منافقین کو ان کے مرض کا علاج بتایا گیا ہے۔

پہلا علاج یہ ہے کہ وہ فکرِ آخرت کریں اور کل ﴿غَـد﴾ یعنی روزِ قیامت کے لیے اِخلاص پر مبنی اَعمال اختیار کریں۔

دوسرا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اللہ کے بارے میں اور اُس کی صفات کے بارے میں، مکمل علم حاصل کر کے اس پر شعوری ایمان لے آئیں۔

منافقین کو مشورہ دیا گیا کہ وہ یہودیوں کی طرح خدا فراموشی کا رویہ ترک کر دیں، ورنہ اس کا نتیجہ خود فراموشی ہو گا۔ (آیت:19)۔ منافقین اور یہودی ﴿اَصحابُ النَّار﴾ ہیں اور سچے مومن ﴿اَصحابُ الجَنَّة﴾ ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے (آیت:20)۔ منافقین اور یہود کے دل، پتھر سے زیادہ سخت ہیں، اس لیے اِن پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ ورنہ قرآن تو پہاڑوں کو بھی پگھلا دینے کی تاثیر رکھتا ہے۔ (آیت:21)

آخری تین (3) آیات میں منافقین کو اللہ کے اسمائے حسنیٰ کے ذریعے اُس کی صفات سے آگاہ کیا گیا تا کہ وہ منافقت سے توبہ کر لیں۔ یہی ان کے مرض کا علاج ہے۔ اللہ ﴿اِلٰـه﴾ ہے، ﴿عَـالِمُ الـغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ ہے۔ اللہ ﴿الرَّحْمٰنُ﴾ ہے، اللہ ﴿الرَّحِيْمُ﴾ ہے، اللہ بادشاہ ﴿اَلْمَلِك﴾ ہے، اللہ مقدس ﴿اَلْقُدُّوْسُ﴾ ہے، اللہ سراسر سلامتی والا ﴿السَّلَامُ﴾ ہے، اللہ امن دینے والا ﴿اَلْمُؤْمِنُ﴾ ہے، اللہ نگہبان ﴿اَلْمُهَيْمِنُ﴾ ہے، اللہ سب پر غالب ﴿اَلْعَزِيْزُ﴾ ہے، اللہ اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا ﴿اَلْجَبَّارُ﴾ ہے، اللہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا ﴿اَلْمُتَكَبِّرُ﴾ ہے، اللہ تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ﴿اَلْخَالِقُ﴾ ہے، اللہ اس کو نافذ کرنے والا ﴿اَلْبَارِئُ﴾ ہے، اللہ صورت گری کرنے والا ﴿اَلْمُصَوِّرُ﴾ ہے، اللہ زبردست ﴿اَلْعَزِيْزُ﴾ ہے، اللہ حکیم ﴿اَلْحَكِيْمُ﴾ ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

اسمائے حسنیٰ پر مشتمل صحیح عقیدۂ توحید، عقیدۂ آخرت اور فکرِ آخرت کے نتیجے ہی میں، کافروں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو سکتا ہے۔ سازشی کافروں کو جلا وطن کیا جا سکتا ہے۔ اَموالِ فَیۓ بھی حاصل ہو سکتے ہیں، جن سے اسلامی حکومت کے عمومی مفادات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — MACRO-STRUCTURE

ترتیبی نقشۂ ربط — نظمِ جلی

60- سُوْرَۃُ الْمُمْتَحِنَۃ

آیات : 13 ...... مَدَنِیَّۃ" ...... پیراگراف : 4



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

صلح حدیبیہ (ذوالقعدہ 6ھ) اور فتحِ مکہ (رمضان 8ھ) کے درمیان ، غالباً 7 یا 8ھ میں نازل ہوئی۔ ایک مخلص صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہؓ نے مکے میں موجود اپنے رشتے داروں کو بچانے کے لیے، فتحِ مکہ سے پہلے ایک اہم جنگی راز، مکے کی ایک لونڈی کے ذریعے قریش کو پہنچانے کی کوشش کی اور رسول اللہ ﷺ کی جنگی تیاریوں سے انہیں آگاہ کرنا چاہا۔

یہ وہی دور تھا، جب مسلمان عورتیں دارالکُفر (مکہ) سے ہجرت کر کے اسلامی ریاست (مدینہ) پہنچ رہی تھیں اور اُن کی ہجرت (Immigration)، اُن کی شہریت (Citizenship)، اُن کی ریاست سے وفاداری (Allegiance) اور اُن کے مہر کے تبادلے کے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔

کتابی ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورۃ الحدید ہے، پھر سورۃ المجادلہ، پھر سورۃ الحشر اور پھر سورۃ الممتحنہ۔

نزولی ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورۃ الحشر ربیع الاول چار (4) ھ میں، پھر سورۃ الحدید پانچ (5) ھ کے اوائل میں نازل ہوئی ہے، پھر سورۃ المجادلہ جنگِ احزاب کے بعد پانچ (5) ھ کے اواخر میں، پھر سورۃ الممتحنہ فتحِ مکہ سے پہلے غالباً آٹھ (8) ھ کے اوائل میں نازل ہوئی۔

سورۃ الممتحنہ کا کتابی ربط

سورۃ المجادلہ کی آیت:14 میں منافقین کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ﴾ ''کیا تم نے ان منافقین کو دیکھا، جنہوں نے اس قوم (یہود) سے دوستی کر لی، جس پر اللہ نے غضب فرمایا''۔ پچھلی سورۃ الحشر میں بھی منافقین کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ یہودیوں کی جنگی حمایت کے بارے میں اِن کی لن ترانیاں جھوٹی ہیں (آیت:11)۔ یہاں سورۃ الممتحنہ کی آخری آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے ﴿ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ﴾ ''ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے''

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ اس سورت میں، اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے منافقین پر نظر رکھنے کے علاوہ، بیرونی جاسوس بالخصوص خواتین جاسوسوں اور برادری کے جاسوسوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مخلص مسلمانوں کو بھی، حضرت ابراہیمؑ کی طرح رشتہ داری پر اسلام کو ترجیح دینے کی ہدایت کی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2۔ ﴿لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّیْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِیَآءَ﴾ (آیت: 1) اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بیان کرتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں اور مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہیں رازدار بنانے اور انہیں جنگی راز فراہم کرنے پر گرفت کی گئی۔

3۔ ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ﴾ (آیت: 3) کے ذریعے یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی کہ جن رشتے داروں کی محبت میں آدمی بعض اوقات اخلاص کے باوجود اسلامی حکومت سے بے وفائی کر بیٹھتا ہے، وہ قیامت کے دن ہرگز کام نہ آئیں گے۔

سورة الممتحنه کا نظمِ جلی

سورة الممتحنه چار (4) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1۔ آیات 1 تا 7: پہلے پیراگراف میں، مخلص مومنین کو اسلامی ریاست کا وفادار رہنے کی ہدایت ہے۔

اسلامی ریاست کے حقوق اور رشتے داروں کی محبت کے درمیان کشمکش میں، اہلِ ایمان، (Islamic State) ریاست کے وفادار ہوتے ہیں (آیات: 1 تا 3)۔ کافروں اور اُن کی ریاست (State) سے، حضرت ابراہیمؑ کی طرح اعلانِ براءت ضروری ہے (آیات: 4 تا 6)۔ (ایک ڈیڑھ سال میں) مشرکینِ مکہ کے مسلمان ہو جانے کی بشارت دی گئی ہے (آیت: 7)۔

2۔ آیات 8 تا 9: دوسرے پیراگراف میں، اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی (Foreign Policy) بیان کی گئی ہے۔

(a) حلیف کافر حکومتوں (Friendly Non-Islamic States) سے دوستی کی جا سکتی ہے، یہ انصاف کا عین تقاضا ہے اور اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

(b) لیکن حریف کافر حکومتوں (Hostile Non-Islamic States) سے دوستی نہیں کی جا سکتی، جو مسلمانوں سے قتال کرتے ہیں اور انہیں اپنے گھروں سے بے دخل کرتے ہیں۔

3۔ آیات 10 تا 12: تیسرے پیراگراف میں، اسلامی ریاست کی داخلہ پالیسی بیان کی گئی ہے۔

عورتوں کی شہریت کے قوانین (Citizenship and Immigration Laws) کی وضاحت ہے۔

اسلامی ریاست کی طرف ہجرت کرنے والی خواتین کی تفتیش ضروری ہے (ممکن ہے کہ وہ جاسوس ہوں)۔

شہریت دینے سے پہلے تفتیش ضروری ہے ﴿فَامْتَحِنُوْهُنَّ﴾۔ سچی مومن خواتین کو اسلامی ریاست شہریت دے دے اور کافروں کی طرف نہ لوٹائے۔ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ مختلف شہریتیں رکھنے والی خواتین کے مہر کے تبادلے کے احکام دیے گئے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مؤمن خواتین سے، شرک، چوری، زنا، قتلِ اولاد اور بہتان طرازی سے بچنے اور تمام معروفات کی اِطاعت کرنے پر بیعت (Oath of Allegiance) لینے کا حکم دیا گیا۔

4۔ آیت 13: چوتھے پیراگراف میں، اسلامی ریاست سے کامل وفاداری کے لیے، منافقین کو مغضوب قوم یہود سے مکمل قطع تعلق کی ہدایت کی گئی۔

آخری آیت میں، کافروں سے روابط نہ رکھنے کے بارے میں پہلی آیت کے اَحکام کا اِعادہ کیا گیا۔

مرکزی مضمون

اسلامی ریاست (Islamic State) کے استحکام کے لیے، کافروں کو جنگی راز فراہم نہ کرنا، حضرت ابراہیمؑ کی طرح رشتے داروں کے مقابلے میں اسلام سے وفا کرنا، اسلامی ریاست سے وفادار رہنا، اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں قرآن وسنت پر عمل کرنا اور غضب یافتہ یہودیوں سے قطع تعلق کر لینا ضروری ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

61- سُوْرَةُ الصَّف

آیات : 14 ...... مَـدَنِيَّة ...... پیراگراف : 6



زمانۂ نزول:

سورۃ ﴿الصَّف﴾ جنگِ اُحد (شوال 3 ھ) کی شکست کے بعد، غالباً 3ھ میں نازل ہوئی، جب خام مسلمانوں اور منافقین کو، جہاد میں ثابت قدمی، اِطاعتِ امیر، اتحاد و اتفاق اور منظم صف بدی کے ساتھ، سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند، میدانِ جہاد میں جولانی دکھانے کی تعلیمات اور تربیت کی اشد ضرورت تھی۔

جنگِ احد (شوال 3 ہجری) کے بعد کسی وقت نازل ہوئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الصّف کا کتابی ربط

پچھلی سورتوں المُجَادَلَہ ، اَلحَشر اور المُمتَحِنَہ میں منافقین کی سرگرمیوں کا تفصیلی ذکر تھا، یہاں اس سورۃ الصف میں، انہیں گفتار کا غازی بننے کے بجائے، کردار کا غازی اور اللہ کے سچے اور مخلص مددگار ﴿اَنصَارُ اللّٰہِ﴾ بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ غلبۂ اسلام اور اِظہارِ دین کی بشارت دیتے ہوئے بیرونی دشمنوں کے استیصال کے لیے ﴿جہاد﴾ کا نسخہ تجویز کیا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ اس سورت میں دین کے غلبہ اور تسلط کے لیے ﴿اِظھار﴾ کا لفظ دو (2) مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ (آیات: 9 اور 14)

2۔ اس سورت میں لفظ ﴿الدِّین﴾ میں الف ﴿لام برائے جنس﴾ ہے۔ عربی زبان میں ﴿دِین﴾ کا لفظ، حاکمیت، محکومیت، قانون، جزا و سزا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ﴿الدِّین﴾ حاکمیت کے معنیٰ میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ حاکمیت کی جنس کی تمام چیزیں اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ ﴿لِیُظھِرَہٗ عَلَی الدِّینِ کُلِّہٖ﴾ " تاکہ اللہ تعالیٰ اس دینِ اسلام کو، تمام جنسِ دین پر غالب کر دے، یعنی تمام ﴿غلبہ پسند قوتوں پر﴾ غالب کر دے"۔ (آیت: 9)

سورۃ الصّف کا نظمِ جلی

سورۃ الصف چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1۔ آیت 1 : پہلے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ اللہ کی بے عیب عزیز و حکیم ہستی اسلام کو غالب کر کے رہے گی۔
2۔ آیات 2 تا 4 : دوسرے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ محبتِ الٰہی کا دارومدار ﴿جہاد﴾ پر ہے۔

خام مسلمانوں اور منافقین پر گرفت کی گئی کہ وہ جہاد سے جی چرا رہے ہیں۔ یہ گفتار کے غازی ہیں، ان کے قول و عمل میں تضاد ہے۔ ﴿اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِہٖ صَفًّا کَاَنَّھُم بُنیَانٌ "مَّرصُوصٌ﴾ اللہ کی محبت کے حقدار، وہ صرف اُسی صورت میں ہو سکتے ہیں، جب ثابت قدمی، اطاعتِ امیر، اتحاد و اتفاق اور منظم صف بندی کے ساتھ، سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر، جہاد کریں گے۔

(a) ﴿صَفًّا﴾ کے لفظ سے جہاد میں منصوبہ بندی اور تنظیم کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔

(b) ﴿بُنیَان"﴾ کے لفظ سے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی شرط ثابت ہوتی ہے۔

(c) ﴿مَّرصُوص﴾ کے لفظ سے اتحاد و اتفاق کے پختہ ہونے کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(d) ﴿إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ﴾ کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مخلصانہ جہاد کرنے والے اللہ کی ﴿محبت﴾ کے مستحق ہو کر (اللہ کے ولی) بن جاتے ہیں۔

(e) ﴿فِيْ سَبِيْلِهٖ﴾ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ﴿جهاد﴾ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، برادری کے لیے نہ ہو۔ کسی وطنی، صوبائی، لسانی، قومی اور نسبی عصبیت پر مبنی نہ ہو۔

3۔ آیات 5 تا 6 : تیسرے پیراگراف میں، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ یہودیوں کی طرح اپنے رسول ﷺ کی نافرمانی نہ کریں۔

خام مسلمانوں اور منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ وہ یہودیوں کی طرح رسول ﷺ کو اذیت نہ پہنچائیں۔ جس طرح انہوں نے حضرت موسیٰؑ کو اذیت پہنچائی تھی اور حضرت عیسیٰؑ کی دعوت کو انہوں نے کھلا جادو یعنی ﴿سِحر مُبِين﴾ کہہ کر مسترد کر دیا تھا، جب کہ حضرت عیسیٰؑ نے صاف صاف الفاظ میں نام لے کر آخری رسول کی بشارت دی تھی۔

4۔ آیات 7 تا 9 : چوتھے پیراگراف میں غلبۂ اسلام کی بشارت دی گئی۔ کافروں اور مشرکوں کو تنبیہ کی گئی کہ آخری رسول ﷺ کی یہ دعوتِ دین، اُن کے ناگواری کے باوجود غلبہ حاصل کر کے رہے گی۔

مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ وہ تمام غلبہ پسند قوتوں پر حاوی ہو جائیں گے۔

5۔ آیات 10 تا 13: پانچویں پیراگراف میں، خام مسلمانوں اور منافقین سے خطاب کر کے سمجھایا گیا کہ دنیاوی اور اُخروی فتح کے لیے چار (4) شرائط ہیں۔

وہ ان چار (4) باتوں پر عمل کر کے جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور قریبی دنیاوی فتح سے بھی ہمکنار ہو سکتے ہیں۔

(a) اللہ پر ایمان۔

(b) آخری رسول محمد ﷺ پر ایمان۔

(c) اپنے مال سے اللہ کی راہ میں ﴿جهاد﴾۔

(d) اپنی جان سے اللہ کی راہ میں ﴿جهاد﴾۔

6۔ آیت 14 : آخری آیت میں، خام مسلمانوں اور منافقین کو دعوتِ نصرتِ جہاد دی گئی۔

مسلمان بھی حضرت عیسیٰؑ کے مخلص حواریوں کی طرح ﴿أَنْصَارُ اللّٰهِ﴾ یعنی اللہ کے مددگار بن جائیں تو تائیدِ الٰہی سے کافروں پر غالب آ سکتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

﴿كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ﴾ اللہ کے مددگار بن جاؤ! سچے ایمان، مضبوط تنظیم، کامل اتحاد اتفاق کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، دورنگی اور منافقت کے بغیر، مال اور جان سے مخلصانہ ﴿جهاد﴾ کرو گے تو دنیا پر غالب آجاؤ گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ترتیبی نقشہ ربط — نظمِ جلی

62- سُوْرَۃُ الْجُمُعَة

آیات : 11 ...... مَدَنِیَّة ...... پیراگراف : 3



زمانۂ نزول:

سورۃ الجمعہ کا پہلا حصہ: آیات 1 تا 8 غزوۂ خیبر (محرم 7ھ) کے بعد، یعنی حضرت ابو ہریرہؓ کے قبولِ اسلام کے بعد نازل ہوئیں، جس میں یہود کے پندارِ نسب و علم پر چوٹ لگائی گئی ہے کہ نبوت و رسالت، بنی اسرائیل کی جاگیر نہیں۔ آخری رسول ﴿ اُمِّیّٖن ﴾ یعنی بنی اسمٰعیل میں پیدا کیا گیا ہے۔

جب کہ سورۃ الجمعہ کا دوسرا حصہ (آیات 9 تا 11) غالباً ہجرت کے فوراً بعد، چھ یا سات سال پہلے نازل ہو چکا تھا، جس میں نمازِ جمعہ کی اجتماعیت کا التزام کرنے کی ہدایت اور یہود کی روش سے بچنے کا اشارہ موجود ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الجمعة کے فضائل

رسول اللہ ﷺ جمعہ کی نمازوں میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے۔

(جامع ترمذی: کتاب الجمعة ، باب القراء اة فی صلاۃ الجمعة ، حدیث 519 ، صحیح)

سورۃ الجمعة کا کتابی ربط

پچھلی سورۃ الصف میں بتایا گیا تھا کہ جہاد کی کامیابی کے لیے صف بندی، اتحادواتفاق اور منصوبہ بندی ضروری ہے یہاں سورۃ الجمعہ میں بتایا جارہا ہے کہ ہمیں کتاب وسنت سے چمٹنا اور اجتماعی نظم کو قائم رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ اُمت بھی یہودیوں کی طرح اُن گدھوں کی طرح ہوجائے گی، جن کی پیٹھوں پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿ اُمِّـيّين ﴾ یعنی ﴿ بنی اسمٰعیل ﴾ میں آخری رسول ﷺ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے غرور وتکبر پر چوٹ لگائی، جنہیں اپنے علم اور نسب پر بہت ناز تھا۔ (آیت:2)

2- اس سورت میں ﴿ فَضْلُ اللّٰه ﴾ کا لفظ دو (2) مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ آیت:4 میں بمعنی نبوت ورسالت اور آیت:10 میں بمعنی مال ودولت۔

3- رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے چار مقاصد بیان کیے گئے۔ ان میں سے تین (3) کی حیثیت ذرائع کی سی ہے اور ایک کی حیثیت نصب العین کی ہے۔ تلاوتِ آیات، تعلیم کتاب اور تعلیمِ حکمت۔ تینوں کا مقصد انسانوں کا تزکیہ ہے۔ تزکیہ میں دو مفہوم پوشیدہ ہیں۔ ﴿تحسینِ ذات ﴾ اور ﴿ فروغِ ذات ﴾۔ ذہن اور عقل کا تزکیہ یہ ہے کہ عقائد درست ہوجائیں۔ اعمال کا تزکیہ سے مراد ہے سنت اختیار کی جائے اور بدعت سے بچا جائے۔ نیتوں کا تزکیہ یعنی ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ افراد اور اداروں کا تزکیہ یہ ہے کہ معاشرہ تحسین اور فروغ دونوں میدانوں میں کامیابی حاصل کرسکے۔

4- یہودیوں کے لیے دو مرتبہ ﴿ ظٰلِمِیْن ﴾ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ ظالم اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور بری کمائی میں مشغول ہیں۔ (آیت:5 اور 7)

5- ﴿ ذِكْرُ اللّٰه ﴾ کا لفظ بھی (آیات:9 اور 10) میں دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ نماز اور خطبہ جمعہ کو بھی ذکر اللہ کہا گیا ہے اور نماز کے بعد کی تجارت میں ذکر اللہ کو ملحوظ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورة الجمعه کا نظمِ جلی

سورة الجمعه تین (3) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1۔ آیات 1 تا 3 : بعثتِ رسول ﷺ کا مقصد، انسانوں کا تزکیہ ہے۔

اللہ کی بے عیب ہستی، بادشاہ بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ آخری رسول محمد ﷺ کو اُس نے اِسی لیے مبعوث کیا ہے کہ تلاوتِ آیات، تعلیمِ کتاب اور تعلیمِ حکمت کے ذریعے، انسانوں کا تزکیہ کیا جا سکے۔ بنی اسمٰعیل یعنی ﴿ اُمِّيّين ﴾ میں آخری رسول محمد ﷺ کی بعثت، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔

2۔ آیات 4 تا 8 : یہودیوں کے غرورِ علم و نسب اور آخرت کی بے خوفی پر سخت تنقید کی گئی۔

بنی اسرائیل (یعنی یہود) محض حسد کی بنیاد پر ﴿ اُمِّيّين ﴾ یعنی بنی اسمٰعیل کے رسول حضرت محمد ﷺ کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کی مثال اُن گدھوں کی طرح ہے جن کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہیں۔ یہ ظالم ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ کہ یہی ﴿ اولياءُ لِلّٰہِ ﴾ ہیں، سراسر غلط ہے۔ ان کے دلوں میں خوف آخرت نہیں۔ یہ موت اور ملاقاتِ ربّ کا سامنا نہیں کر سکتے۔ روزِ قیامت انہیں ان کے کرتوت دکھائے جائیں گے۔

3۔ آیات 9 تا 11 : مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ہفتہ وار عبادتِ جمعہ کے اَحکام کا خاص خیال رکھیں اور جمعہ کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں، جو یہودیوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا۔

دین و دنیا میں توازن کی ہدایت کی گئی کہ مسلمان تجارت چھوڑ کر نماز اور ﴿ ذِكْرُ اللّٰهِ ﴾ کی طرف دوڑیں اور نماز سے فراغت کے بعد ﴿ فَضْلُ اللّٰهِ ﴾ تلاش کریں اور اس کے بعد دوبارہ ﴿ ذِكْرُ اللّٰهِ ﴾ میں مشغول ہو جائیں۔
اس طرح دین و دنیا میں توازن پیدا کریں۔ محض تجارت اور لهو و لعب میں دل نہ لگائیں، بلکہ اللہ کو رازق سمجھ کر اُسی کی یاد کی طرف متوجہ رہیں۔

مرکزی مضمون

آخری رسول محمد ﷺ کی بعثت کا مقصد، تزکیہ ہے۔ دین و دنیا میں توازن و اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یہودیوں کے غرورِ نسب و علم سے بچ کر، دین کے اجتماعی احکام (جیسے اجتماع جمعہ) پر عمل کرتے ہوئے، تزکیہ حاصل کرو!

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشۂ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

63- سُوۡرَۃُ الۡمُنَافِقُوۡنَ

آیات : 11 ...... "مَـدَنِـیَّۃ" ...... پیراگراف : 2



زمانۂ نزول:

سورت ﴿ الْمُنَافِقُون ﴾ غزوۂ بنی المُصطلق (شعبان 6ھ) سے واپسی پر نازل ہوئی ، جب رئیس المنافقین عبد اللہ بن اُبَیّ نے کہا تھا کہ وہ زیادہ عزت والا ﴿ الْأَعَزُّ ﴾ ہے، اور نَعوذُ بِاللّٰہ رسول اللہ ﷺ ﴿ الْأَذَلَّ ﴾ یعنی زیادہ ذلیل ہیں، وہ رسول اللہ ﷺ کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ المُنافِقُون کے فضائل

جمعہ کی نماز میں، رسول اللہ ﷺ سُورَۃُ الجُمُعَہ اور سُورَۃُ المُنافِقُون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی آپ ﷺ چاہتے تھے کہ ہر خاص وعام تک اِن دوسورتوں کا مضمون پہنچ جائے اور وہ نہ صرف انہیں زبانی یاد کر لیں، بلکہ اِن کے احکام پر عمل کرنے لگیں۔

(صحیح مسلم: کتاب الجمعة، باب ما یقرأ فی صلاة الجمعة، حدیث: 2,063)

سورۃُ المُنافِقُون کا کتابی ربط

پچھلی سُورَۃُ الجُمُعَہ میں بتایا گیا تھا کہ اسلامی ریاست کے استحکام اور اہلِ ایمان کے تزکیے کے لیے، کتاب وسنت سے چمٹنا اور (نمازِ جمعہ اور خطبۂ جمعہ کے) اجتماعی نظم کو قائم رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ امت بھی یہودی علماء کی طرح ہوجائے گی، جن کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہیں۔ یہاں سورۃ المنافقون میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی ریاست کے استحکام اور جہاد کی کامیابی کے لیے، منافقت سے بچنا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دل کھول کر اللہ کی راہ میں ﴿انفاق﴾ یعنی خرچ کرنا ضروری ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ﴾ ”رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں پر خرچ مت کرو! جب تک یہ منتشر نہ ہوجائیں“ (آیت: 7)۔ منافقین کے سردار، اپنے زیرِ اثر افراد سے کہتے کہ غریب اور مہاجر مسلمانوں پر خرچ مت کرو، یہاں تک کہ مدینے میں مہاجرین اور انصار کا اتحاد پارہ پارہ ہوجائے اور نئی اسلامی جماعت انتشار سے دوچار ہوجائے۔

2- ﴿ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ ”اللہ کی راہ میں اُس مال میں سے خرچ کرو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے“ (آیت: 10)۔ آیت نمبر 7 کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ منافقین کی باتوں میں نہ آؤ۔ موت سے پہلے اللہ کی راہ میں تمہیں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔

سورۃُ المُنافِقُون کا نظمِ جلی

سورۃُ المُنافِقُون دو (2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1۔ آیات 1 تا 8: پہلے پیراگراف میں، منافقین کی بارہ (12) صفات گنوائی گئی ہیں۔

(a) منافقین کا کلمۂ شہادت جھوٹا ہوتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(b) منافقین ، سچے مسلمانوں کی سزا سے بچنے کے لیے، کلمہ شہادت کو ڈھال ﴿ جُنَّةً ﴾ بنا لیتے ہیں۔

(c) منافقین کم عقل اور غیر فقیہ ہوتے ہیں۔ ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

(d) منافقین چرب زبان ہوتے ہیں، لکڑی کے کندے ہوتے ہیں۔

﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

(e) منافقین کے دل میں چور ہوتا ہے، ہر آہٹ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾

(f) منافقین، سچے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان سے چوکنا رہنا ضروری ہے۔﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ﴾

(g) منافقین، متکبر ہوتے ہیں، اس لیے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے ، طالبِ مغفرت نہیں ہوتے۔

﴿ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ (آیت:5)

(h) منافقین فاسق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی دعا کے باوجود ، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔

(i) منافقین خود بخیل ہوتے ہیں۔

(j) اور دوسروں کو ﴿ لَا تُنْفِقُوا ﴾ کہہ کر ، غریب مسلمانوں پر انفاق سے روکتے ہیں، تاکہ اسلامی وحدت انتشار کا شکار ہو جائے۔

(k) منافقین اپنے آپ کو باعزت اور سچے مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے ہیں۔

(l) منافقین مال و اولاد کی محبت میں گرفتار اور ﴿ ذِكْرُ اللهِ ﴾ سے غافل ہوتے ہیں۔

2۔ آیات 9 تا 11 : دوسرے پیراگراف میں، منافقت کے مرض کا علاج تجویز کیا گیا ہے۔

﴿ ذِكْرُ اللهِ ﴾ اور ﴿ انفاق ﴾ سے، منافقت کا علاج ممکن ہے۔ اللہ کی یاد ﴿ ذِكْرُ اللهِ ﴾، موت کے تصور اور ﴿ انفاق ﴾ سے منافقت کا علاج ممکن ہے۔ مال اور اولاد کی محبت، مسلمانوں کو اللہ کی یاد ﴿ ذِكْرُ اللهِ ﴾ سے غافل کر سکتی ہے، ایسی صورت میں خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ موت کا وقت ٹالا نہیں جاتا، صالحین میں شامل ہونے کے لیے، موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ﴿ أَنْفِقُوا ﴾ کا حکم دیا گیا، ورنہ روزِ قیامت پچھتاوا ہوگا۔

مرکزی مضمون

مخلص مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ منافقین کے مختلف حربوں اور چالوں کو سمجھیں اور منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ اُن کے مرض کا علاج، تین باتوں سے ممکن ہے۔ (1) اللہ کی یاد ﴿ ذِكْرُ اللهِ ﴾ ، (2) موت کے تصور یعنی ، فکرِ آخرت اور (3) ﴿ انفاق فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

64- سُوۡرَةُ التَّغَابُن

آیات : 18 ...... مَدَنِیَّۃٌ ...... پیراگراف : 2



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سورۃ ﴿ التغابن ﴾ غالباً پہلی مکمل سورت ہے، جو 1ھ میں، مدینۂ منورہ کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سے پہلے، ہجرت کے فوراً بعد سورۃ ﴿ الحج ﴾ کی چند آیات (25 تا 78) نازل ہوئیں تھیں۔

اس سورت کے ذریعے مہاجرین وانصار کو ﴿ اِنفاق ﴾ اور ﴿ جهاد ﴾ کے لئے تیار کیا گیا۔

مدنی سورت ہونے کے باوجود، سورۃ ﴿ التَّغَابُن ﴾ کا مزاج مکی سورتوں سے مشابہ ہے، لیکن اس میں ﴿ اِنفاق ﴾ (آیت:16) اور ﴿ قرضِ حسن ﴾ (آیت 17) کی اپیل بھی ہے، اور مہاجرین کے لیے نصیحت بھی ہے کہ جن رشتے داروں اور مکانات وجائیداد وغیرہ کو یہ مکے میں چھوڑ آئے ہیں ، وہ ان کے ایمان کے لیے آزمائش ﴿ فِتنَة ﴾ ہیں۔ (آیت نمبر:15)۔ سورۃ ﴿ التغابن ﴾ میں ﴿ قِتال ﴾ کا ذکر نہیں ہے، لیکن نئی اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے، ﴿ مالی جہاد ﴾ یعنی ﴿ اِنفاق ﴾ کا ذکر ہے اور قریشِ مکہ کے خلاف جنگ کے لیے تمہید اور اُن کے خلاف فردِ جرم (Charge sheet) بھی ہے۔

نومسلموں کو ذہنی طور پر جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے اور قریشِ مکہ سے جنگ کا جواز (Legitimacy of war) فراہم کیا گیا ہے کہ

1- قریشِ مکہ، رسول اللہ ﷺ کی رسالت کو ﴿ بشر ﴾ یعنی انسان کہہ کر مسترد کر چکے تھے۔ ﴿ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ؟ ﴾ "کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا" ؟ (آیت:6)۔ مشرکینِ مکہ اپنے بتوں کی محبت میں، رسول اللہ ﷺ اور اُن کے ساتھیوں کو جلاوطن کر چکے ہیں۔

2- یہ منکرین آخرت بھی تھے، جو کہتے تھے کہ ہم دوبارہ نہیں اُٹھائے جائیں گے ﴿ لَّن يُبْعَثُوا ﴾۔ (آیت:7)

سورۃ التغابن کے فضائل

یہ سورۃ بھی ﴿ مُسَبِّحَات ﴾ میں شامل ہے۔ یعنی سَبَّحَ یُسَبِّحُ یا سُبحَان سے شروع ہونے والی سورتیں ہیں۔

ان میں سُورۃُ الحدید، سُورۃُ الحشر، سُورۃُ الصف، سُورۃُ الجمعه، سُورۃُ التغابن، اور سُورۃُ بنی اسرائیل اور سُورۃُ الاعلیٰ شامل ہیں۔

﴿ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ کَانَ یَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ یَّرْقُدَ ، وَیَقُوْلُ اِنَّ فِیْهِنَّ آیَةً خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ آیَةٍ ﴾ رسول اللہ ﷺ سونے سے پہلے ﴿ مُسَبِّحَات ﴾ کی تلاوت فرمایا کرتے اور کہتے "ان میں سے ایک آیت ہزار آیات سے بہتر ہے۔" (جامع ترمذی، ابواب فضائلِ قرآن ، حدیث: 2,921 ، حسن)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ التغابن کا کتابی ربط

پچھلی سورۃ ﴿المنافقون﴾ میں اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے منافقین کی سازشوں سے بچنے کا مشورہ تھا اور ﴿اِنفاق﴾ کی ترغیب تھی۔ یہاں سورۃ ﴿التغابن﴾ میں بتایا گیا ہے کہ ﴿جہاد﴾ کی کامیابی کے لیے، فوجی اور عسکری کارروائیوں سے پہلے، ریاست کا معاشی اور اقتصادی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے فیاضانہ ﴿انفاق﴾ ہی سے ممکن ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- صحیح عقیدۂ توحید: اس چھوٹی سی سورت میں، اللہ کی متعدد صفات بیان کی گئی ہیں، تا کہ نوزائیدہ اسلامی مملکت کے مومن شہری، کامل عقیدہ صفات کے ساتھ، اِنفاق و جہاد کے اگلے مرحلوں کے لیے تیار ہو جائیں۔

بے عیب ہستی (آیت:1)، المَلِك بادشاہ (آیت:1)، قابلِ تعریف (آیت:1)، قدیر (آیت:1)، خَالق (آیت:2) بَصِیر (آیت:2)، مُصَوِّر (آیت:3)، عَلیم (آیت:4، 18)، غَنِیّ و حَمید (آیت:6)، ھادیٔ قلب (آیت:11) الٰہ، وَکیل (آیت:13)، غَفُور (آیت:17)، شَکُور (آیت:17)، حَلِیم (آیت:17) عَالِم، (آیت:18) عَزِیز، (آیت:18) حَکِیم (آیت:18)۔

2- دعوتِ ایمان وعمل: اس سورت میں ﴿فَـاٰمِنُـوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ﴾ کے الفاظ سے 'دعوتِ ایمان' دی گئی اور ﴿اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ﴾ اور ﴿وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا﴾ کے الفاظ سے 'دعوتِ اِطاعت' دی گئی ہے۔ یہ استحکامِ تنظیم و جماعت کے لیے ایک لازمی امر ہے۔

3- ہار جیت کا دن: قیامت کے دن کو، ﴿يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ ہار جیت کا دن کہا گیا ہے۔ (آیت:9)

4- اس سورت میں تخلیق کے تذکرے کے بعد، اللہ کی طرف سے دی گئی کفر و ایمان کی آزادی کے اختیار (Freedom of Faith) کا ذکر کیا گیا ہے۔ ﴿فَمِنْكُمْ كَافِرٌ" وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ"﴾

یہاں یہ بات قابلِ غور ہے کہ ﴿کافِر﴾ اور ﴿مُؤمِن﴾ دونوں اسمِ فاعل ہیں۔ یعنی "تم میں سے کوئی کفر کر رہا ہے اور کوئی ایمان لا رہا ہے۔" (آیت:3)۔

5- مشرکینِ مکہ کے خلاف فردِ جرم اور جہاد کا جواز (Legitimacy of War):

(a) مشرکینِ مکہ، رسالت اور بشریت کا ایک ذات میں جمع ہونا، خلافِ عقل سمجھتے ہیں۔ یہ منکرِ رسالتِ محمدی ﷺ تھے (آیت:6)۔

(b) مشرکینِ مکہ منکرِ قیامت اور منکرِ جزا و سزا بھی تھے۔ (آیت:7)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6۔ ازواج واولاد دشمن ہو سکتے ہیں:

اس سورت میں ﴿اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ﴾ (آیت:14) کے الفاظ سے یہ حقیقت بیان کی گئی کہ (مکے میں مقیم) تمہاری بیویاں اور اولاد، تمہاری دشمن ہو سکتی ہے۔

7- اَموال واَولاد آزمائش ہیں: اس سورت میں ﴿اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ (آیت:15) کے الفاظ سے اموال اور اولاد کو آزمائش ﴿ فِتْنَة ﴾ قرار دیا گیا۔

سورۃ التغابن کا نظمِ جلی

سورۃ التغابن دو (2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1۔آیات 1 تا 13: پہلے پیراگراف میں، مشرکینِ مکہ کے خلاف فردِ جرم اور دعوتِ توحید وآخرت ہے۔

اللہ کی بے عیب، خالق، بادشاہ اور بصیر وقدیر ہستی ہی، حمد کی سزاوار ہے۔

انسان کو آزادئ اختیار (Freedom of Faith) عطا کی گئی ہے۔ ﴿ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ﴾

زمین وآسمان کی تخلیق بامقصد ہے، انسان کو بہترین ﴿ تصویر ﴾ عطا کی گئی ہے۔ (آیت:3)۔

﴿ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴾

اور تخلیق کا مقصد، آخرت کی باز پرس اور انسان کی آزمائش ہے۔ اُسی کی طرف لوٹنا ہے۔

سینوں کے رازوں سے واقف مکمل علم رکھنے والی ہستی ﴿ اللہ ﴾ ہی ہے، وہ روزِ قیامت احتساب کرے گا۔ (آیت:4)

مشرکینِ مکہ کی طرح، پچھلی کافر قومیں بھی، رسولوں کو بشر تسلیم کرتی تھیں، لیکن رسول وہادی نہیں، چنانچہ وہ ہلاک کی گئیں۔ (آیت:6)

مشرکینِ مکہ کا دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ منکرینِ آخرت ہیں حالانکہ آخرت کا برپا کرنا، مندرجہ بالا صفات رکھنے والے اللہ کے لیے بہت آسان ہے ﴿ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴾ (آیت:7)۔

مشرکین وکافرینِ مکہ کو اللہ، آخری رسول محمد ﷺ اور وحی کے ﴿ نور ﴾ یعنی قرآن وسنت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ ﴿ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ﴾ (آیت:8)۔

قیامت کا دن، ﴿ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ یعنی ہار جیت کا دن ہے، ایمان اور عمل کی صورت میں جنت اور فوزِ عظیم نصیب ہو سکتی ہے۔ (آیت:9)۔ کفر وتکذیب کی صورت میں، دوزخ میں جانا پڑے گا (آیت:10)۔

دنیاوی مصیبتوں سے ڈر کر، ایمان نہ لانا حماقت ہے۔ ایمان کی صورت میں، اللہ دلوں کو ہدایت نصیب کرتا ہے ﴿ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ﴾ (آیت:11)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مہاجرین اور نو مسلموں کو دوبارہ دعوتِ ایمان دی گئی اور توحید و توکّل کا مشورہ دیا گیا۔ (آیت:13)

2۔ آیات 14 تا 18: دوسرے پیراگراف میں، مہاجر مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے کافر رشتے داروں سے لڑنے کے لیے تیار رہیں

مسلمان، مکے کے مشرک و کافر رشتے داروں کو، آزمائش اور دشمن سمجھ کر، چوکنے رہیں۔ (آیت:14)

مسلمانوں کے اموال اور ان کی اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے۔ اُن سے عفو و درگزر اور بخشش کا رویہ اختیار کرتے ہوئے، اللہ کے اجرِ عظیم پر نظر رکھنا چاہیے۔ (آیات:15، 16)۔

نوزائیدہ اسلامی ریاست کے مؤمن شہریوں کو چار (4) ہدایات دی گئیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق، (1) سمع (2) اطاعت (3) تقویٰ اور (4) دل کی تنگی سے بچ کر، اِنفاق اور قرضِ حسن کا اہتمام کریں، تاکہ اسلامی ریاست، مالی استحکام کے ساتھ، جہاد کی اگلی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔

﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا﴾ (آیت:16)۔

نظامِ سمع و طاعت، یعنی منظم جماعت اور اطاعتِ امیر، اللہ کا تقویٰ اور فیاضی کے جذبات کے بغیر، اُمتِ مسلمہ کبھی کامرانی اور کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتی۔

﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾ (آیت:16)۔

آخر میں واضح کیا گیا کہ اہلِ ایمان کے ان جذبوں کا اللہ تعالیٰ قدردان ہوگا وہ ﴿شکورٌ، حلیمٌ﴾ ہے۔ عالم غیب و شہادت ہے اور عزیز حکیم ہے۔ اس میں یہ بشارت پوشیدہ ہے کہ پہلی ہجری میں صحابۂ کرامؓ کے اس انفاق کی وجہ سے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھلیں گے۔

مرکزی مضمون

آخرت کی ہار جیت ہی، اصل ہار جیت ﴿تَغَابُن﴾ ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے، مال، ازواج اور اولاد کی محبتوں اور آزمائشوں کے باوجود سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہو اور جہاد کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

65- سُوْرَةُ الطَّلَاق

آیات : 12 ...... مَدَنِیَّۃٌ ...... پیراگراف : 2



زمانۂ نزول:

سُورۃُ ﴿ البقرۃ ﴾ میں (جو بیشتر 2 ہجری میں نازل ہوئی) طلاق کے اَحکام دیے گئے تھے۔ اِن ہی احکامِ طلاق کی تکمیل وتفصیل کے لیے، غالباً 2 ھ کے اواخر میں، سُورۃُ ﴿ الطلاق ﴾ نازل ہوئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ الطّلاق کا کتابی ربط

1- پچھلی سورۃ ﴿التّغابُن﴾ میں، آخرت کی ہار جیت کے امتحان میں کامیابی کے لیے، ایمان لانے اور اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے، دل کھول کر ﴿اِنفاق﴾ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ یہاں سورۃ ﴿الطّلاق﴾ میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کے استحکام کے لیے، عائلی محاذ پر بھی کتاب وسنت کی مخلصانہ پیروی لازمی و ضروری ہے۔

2- سورۃ ﴿الطّلاق﴾ میں بتایا گیا ہے کہ بیوی سے نفرت کی صورت میں بھی حدودِ الٰہی کی پاسداری ضروری ہے، جبکہ اگلی سورت ﴿التحریم﴾ میں بتایا گیا ہے کہ بیویوں سے شدید محبت کی صورت میں بھی حدودِ الٰہی کی پاسداری لازمی ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اللہ کے تشریعی اَحکام:
اس سورت میں ﴿حُدُوْدُ اللّٰهِ﴾ (آیت:1)، ﴿اَمْرُ اللّٰهِ﴾ (آیت:5)، ﴿اَمْرِ رَبِّهَا﴾ (آیت:8) ﴿اٰیٰتُ اللّٰهِ﴾ (آیت:11) کے الفاظ سے یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی کہ اللہ ہی آمر، حاکم اور شارع (Law Giver) ہے۔ اس کے اَوامر اور تشریعی اَحکامات کی پابندی بھی لازمی ہے۔

2- تکوینی اَحکام: ﴿یَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَّ﴾ (آیت : 12) کے الفاظ سے یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تکوینی حاکم بھی ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان بھی، اُسی کے اوامر و اَحکامات جاری وساری ہیں۔

3- اس سورت میں ﴿تقویٰ﴾ کا ذکر پانچ (5) آیات میں ہوا ہے: (آیات 1، 2، 4، 5 اور 10)
معلوم ہوا کہ خاندانی نظام کی استواری کا انحصار، میاں بیوی کے التزامِ تقویٰ اور ﴿حدود اللہ﴾ کی پاسداری پر ہے۔

4- اس سورت میں اللہ کا ﴿تقوی﴾ اختیار کرنے کے چھ (6) فوائد بیان کیے گئے ہیں۔

(a) ﴿مَخْرَج﴾ فراہم ہوتا ہے، مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ ﴿وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا﴾ (آیت:3)

(b) وہاں سے رزق سے ملتا ہے، جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ ﴿وَّیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ﴾ (آیت:4)

(c) آسانیاں فراہم ہوتی ہیں۔ ﴿وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ یُسْرًا﴾ (آیت:4)

(d) گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ﴿وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّاٰتِهٖ﴾ (آیت:5)

(e) اجرِ عظیم ملتا ہے۔ ﴿وَیُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا﴾ (آیت:6)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(f) تقویٰ ، ذہانت اور عقل مندی کی دلیل ہے۔﴿ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴾(آیت:10)

سورۃ الطلاق کا نظمِ جلی

سورۃ الطلاق کا نظم کلام دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں طلاق کے تشریعی اَحکام ہیں۔ دوسرے حصے میں اِن اَحکام کی خلاف ورزی پر تکوینی قانونِ عذاب کے حرکت میں آجانے کی دھمکی ہے۔

1۔آیات 1 تا 7 : پہلے پیراگراف میں طلاق کے تشریعی اَحکام بیان کیے گئے ہیں۔

(a) بیویوں کو ایک ہی وقت طلاق دے کر فارغ کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔

(b) عدت کے لیے یعنی مقررہ وقت کے لیے طلاق دینے اور عدت کی مدت کا شمار کرنے کی ہدایت کی گئی۔

(c) شوہر کو طلاق دے کر بیوی کو گھر سے نکالنے سے روکا گیا اور بیوی کو طلاق لے کر شوہر کے گھر سے نکل جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ طلاق کی صورت میں بھی ﴿ حُدُودُ اللّٰهِ ﴾ اور ﴿ تقویٰ ﴾ کی پاسداری کا حکم دیا گیا۔

(d) عدتِ طلاق کے اختتام پر، معروف طریقے سے بیوی سے رجوع کرنے یا گواہوں کی موجودگی میں جدا ہو جانے اور ﴿ تقویٰ ﴾ کو ملحوظ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔

(e) غصے، نفرت اور ایک دوسرے سے ناگواری کے ماحول میں ﴿ تقویٰ ﴾ اور ﴿ تَوَکُّل ﴾ کا اہتمام کرنے کی ترغیب دے کر ان دونوں کے فائدوں کی تفصیل بیان کی گئی۔

(f) سورۃ البقرہ میں بتایا گیا تھا کہ حائضہ عورت کی عدتِ طلاق تین ﴿ قروء ﴾ ہے۔ یہاں مزید وضاحت کی گئی کہ وہ عورت ، جس کا حیض بند ہو چکا ہے اور وہ لڑکی جس کا حیض ابھی شروع نہیں ہوا ، دونوں کی عدتِ طلاق تین (3) ماہ ہے۔ حاملہ عورت کی عدتِ طلاق ، وضعِ حمل یعنی زچگی (Delivery) ہے۔

(g) اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ گناہ مٹ جاتے ہیں اور اجرِ عظیم ملتا ہے۔ دورانِ عدتِ طلاق بیویوں کو حیثیت کے مطابق سُکنیٰ فراہم کیا جانا چاہیے۔

(h) حاملہ عورت کو دورانِ عدتِ طلاق، زچگی تک نان نفقہ فراہم کیا جانا چاہیے۔

(i) زچگی کے بعد باہمی مشورے سے، مطلقہ بیوی بچہ کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن دودھ کا خرچ، باپ کے ذمے ہوگا ۔سابقہ میاں بیوی میں بچہ کو دودھ پلانے کے بارے میں اتفاقِ رائے نہ ہو تو دوسری عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔

(j) باپ بچے پر، اور شوہر بیوی پر (تکمیلِ عدت تک) ، اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2۔ آیات 8 تا 12: دوسرے پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تشریعی اَحکام کی خلاف ورزی پر، اللہ تعالیٰ کا تکوینی قانونِ عذاب حرکت میں آجاتا ہے۔

(a) اللہ اور اُس کے رسولوں کے احکامات ﴿ حُدُوْدُ اللّٰہِ ﴾ (بالخصوص عائلی قوانین) کی خلاف ورزی کرنے والی قوموں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اہلِ ایمان عقل مندوں ﴿ اُولِی الْاَلْبَابِ ﴾ کو تقویٰ کی نصیحت کی گئی۔

(b) رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا مقصد، وضاحتِ احکام، اندھیروں سے اخراج اور دخولِ جنت ہے۔

(c) تکوینی حکومت کے علاوہ، تشریعی حکومت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، چونکہ وہ ہر شئے ﴿ کُلُّ شَیْءٍ ﴾ کا علم رکھتا ہے، اس لیے وہ ہر شئے ﴿ کُلُّ شَیْءٍ ﴾ پر قدرت بھی رکھتا ہے۔

(Knowledge is Power) علم قوت کا نام ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوگا، اُتنی زیادہ طاقت اور قدرت حاصل ہوگی۔ اللہ کے پاس مکمل علم بھی ہے اور مکمل طاقت بھی۔

مرکزی مضمون

عائلی معاملات یعنی، میاں بیوی کے درمیان باہمی نفرت و عداوت کی صورت میں بھی، حدودِ الٰہی اور تقویٰ کا اہتمام لازم ہے، ورنہ قوموں پر عذاب نازل ہوجاتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

66- سُورَةُ التَّحْرِيمِ

آیات : 12 ...... مَدَنِیَّۃ ...... پیراگراف : 4



زمانۂ نزول:

سورۃ ﴿التَّحریم﴾ 8 یا 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ حضرت ماریہ قبطیہؓ 7 ہجری میں حرم نبوی ﷺ میں داخل ہوئیں اور حضرت صفیہؓ سے نکاح بھی 7 ہجری (فتح خیبر) کے بعد میں ہوا۔ آیت 9 میں منافقین سے جہاد کا حکم ہے، جو 9ھ میں دیا گیا۔ یہی حکم سُورۃ التوبۃ آیت 73 میں بھی موجود ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ التحریم کا کتابی ربط

پچھلی سورۃ الطلاق میں بیوی سے ناچاقی کی صورت میں ﴿حدود اللہ﴾ کی پاسداری کا حکم تھا۔ یہاں اس سورت میں بیوی، سے شدید محبت کی صورت میں بھی ﴿حُـدُودُ اللّٰہ﴾ کی پاسداری کا حکم ہے، جس کا اشارہ ﴿تَبْتَغِیْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ﴾ کے الفاظ سے ہوتا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ ﴿قُـوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِیْكُمْ نَارًا﴾ کے الفاظ سے فکرِ آخرت اور عذابِ دوزخ کے تصور سے مسلمانوں کو اپنی ذات اور اپنے زیرِ کفالت افراد کے بارے میں متفکر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔

2۔ ﴿تَوْبَةً النَّصُوْح﴾ سے مراد، ریاکاری سے پاک خالص توبہ ہے۔ پچھلے گناہوں پر احساسِ ندامت ہو، اللہ سے مغفرت کی درخواست ہو، آئندہ اِعادہ نہ کرنے کا عزم ہو اور جس کا حق مارا ہے، اُس کا حق واپس کر کے نقصان کی تلافی کی جائے۔

سورۃ التحریم کا نظمِ جلی

سورۃ التحریم چار (4) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1۔ آیات 1 تا 5: پہلے پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ بیوی سے شدید محبت کی صورت میں بھی ﴿حدود اللہ﴾ کا لحاظ ضروری ہے۔

بیویوں کی محبت میں، اللہ کی حلال کردہ چیز کو نہ کھانے کی قسم کھانے اور حلال کو حرام کرنے کی ممانعت کی گئی۔ (آیت:1)

(المائدہ، آیت 89 کے مطابق) قسموں کا کفّارہ ادا کیا جانا چاہیے۔ (آیت:2)

اَزواجِ مُطَهَّرات کے بعض معاملات کی اِصلاح کے سلسلے میں ہدایات دی گئیں۔ (آیات:3 تا 5)

2۔ آیات 6 تا 8: دوسرے پیراگراف میں، مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ انہیں اپنے علاوہ، بیوی بچوں کے بارے میں بھی، فکرمند ہونا چاہیے، خوفِ دوزخ اختیار کرنے اور بیوی بچوں میں خوفِ آخرت پیدا کرنے کی ہدایت کی گئی۔

﴿قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِیْكُمْ نَارًا﴾ ''اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ''

﴿تَوْبَةً النَّصُوْح﴾ خالص توبہ کرنے کا حکم دیا گیا (آیت:8)

مؤمنین کی دعا نقل کی گئی ﴿رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا﴾ ''اے اللہ! ہمارے نور کو مکمل کر کے ہماری مغفرت فرما'' (آیت:8)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3۔آیت 9 : تیسرے پیراگراف میں حکم دیا گیا خاندانی زندگی میں پھوٹ ڈالنے والے (منافقین) کو لگام دی جائے۔

کافروں اور منافقوں سے جہاد کا حکم، جو مسلمانوں اور رسول اللہ ﷺ کی عائلی زندگی کے بارے میں پروپیگنڈہ کر رہے تھے۔ (یہی حکم سُورۃُ التوبۃ آیت 73 میں بھی ہے)۔

4۔آیات 10 تا 12: چوتھے پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ میاں اور بیوی اپنے اپنے ایمان اور عمل کے مطابق جزا یا سزا پائیں گے۔

چنانچہ حضرت نوحؑ اور حضرت لوطؑ جیسے نیک انبیاء کی خائن بیویوں کا تذکرہ کیا گیا، جو داخلِ جہنم ہوں گی۔
اس کے بعد حضرت مریمؑ جیسی پاک دامن خاتون اور طاغی شوہر فرعون کی نیک بیوی حضرت آسیہؓ کا ذکر کیا گیا۔
حضرت آسیہؓ کی چار (4) دعائیں نقل کی گئیں۔

(a) ''میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنادے''۔ ﴿رَبِّ ابْنِ لِیْ عِنْدَكَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ﴾۔
(b) ''فرعون سے نجات دے''۔ ﴿وَنَجِّنِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ﴾۔
(c) ''فرعون کے عمل سے بھی نجات دے''۔ ﴿وَعَمَلِهٖ﴾۔
(d) ''ظالم قوم فرعون سے نجات دے''۔ ﴿وَنَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ﴾۔ (آیت:11)

مرکزی مضمون

میاں بیوی کے درمیان محبت واعتماد کی صورت میں بھی، ﴿حُدُوْدُ اللہِ﴾ کی پاسداری لازم ہے۔ خاندان کا ادارہ بھی، ﴿تقویٰ﴾ کی بنیاد پر ہی مستحکم رہ سکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

67- سُوْرَةُ الْمُلْکِ

آیات : 30 ...... مَکِّیَّہ" ...... پیراگراف : 7



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سورت ﴿الملك﴾ اعلانِ عام کے بعد، رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور میں، غالباً 4 نبوی میں، نازل ہوئی، جب قریش کی بدبخت قیادت انکار اور کفر (آیت 6) پر تلی ہوئی تھی، رسول اللہ ﷺ کی دعوتِ توحید و آخرت کو مسترد کر کے اور آپ ﷺ کی حیثیت ﴿نَذِيْرٌ﴾ (آیات 8، 9، 26) کو نظرانداز کر کے، اُلٹا رسول اللہ ﷺ کو گمراہی میں مبتلا یعنی ﴿فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ (آیت 9) اور ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (آیت 39) سمجھ رہی تھی۔

سورۃ ﴿الملك﴾ مضامین، جامعیت، دلائل، اسالیب اور طرزِ بیان کے اعتبار سے سورۃ ﴿ق﴾ سے ملتی جلتی ہے۔

سورۃُ المُلک کے فضائل

1۔ رسول اللہ ﷺ سونے سے پہلے یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔

﴿كَانَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾

''حضرت جابرؓ بن عبداللہ سے روایت ہے: ''نبی ﷺ جب تک الٓم تنزیل اور تبارك الذی بیده الملك (سورۃ الملک) نہ پڑھ لیتے اس وقت تک سوتے نہیں تھے''

(ترمذی ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی سورۃ الملك، حدیث: 2,892)

2۔ یہ سورت عذابِ قبر کے لیے رکاوٹ ہے اور نجات دینے والی ہے۔ ﴿هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ﴾

(ترمذی عن ابن عباسؓ، حدیث 2,890)

3۔ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی۔

﴿إِنَّ سُوْرَةً مِّنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهٗ، وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾

(ترمذی ابواب فضائل القرآن، باب فی سورۃ الملك، حدیث: 2,891 :حسن)

''حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ''قرآن کریم کی ایک سورت تیس (30) آیات کی ہے، اس نے ایک آدمی کی شفاعت کی حتی کہ اس کی بخشش کرا دی''

4۔ یہ سورت روزِ قیامت جھگڑا کرے گی۔

﴿خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتّٰى أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِيْ﴾

(المعجم الاوسط للطبرانی :3,654)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

"ایک سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے روزِ قیامت جھگڑا کرے گی اور وہ سورۃ الملک ہے"

سورۃُ المُلك کا کتابی ربط

پچھلی سورۃ التحریم کی آیت نمبر آٹھ میں جس ﴿نُور﴾ اور ﴿مغفرت﴾ کی دعا مانگی گئی تھی، اُس کی قبولیت کی تمام شرائط سورۃ الملك میں بیان ہوگئی ہیں۔ دعوتِ توحید کو قبول کرنے والے ﴿الغفور﴾ اللہ کی ﴿مغفرت﴾ کے حق دار ہوں گے۔ (آیت:12)

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ سورۃ الملك ایک ایسی جامع سورت ہے، جس میں توحید، رسالت، اور آخرت کی دعوت، کو استدلالی زبان میں پیش کیا گیا ہے۔

2۔ دوزخی اعتراف کریں گے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی نہ صرف تکذیب کی، بلکہ انہیں گمراہ کہا کہ آپ ﴿فِیْ ضَلٰلٍ کَبِیْرٍ﴾ (آیت:9) میں مبتلا ہیں۔
رسول اللہ ﷺ کی بھی تکذیب کی گئی اور انہیں ﴿فِیْ ضَلٰلٍ کَبِیْرٍ﴾ کہا گیا۔

3- ﴿فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ﴾ (آیت: 29) کے الفاظ سے قریشِ مکہ کو دھمکی دی جارہی ہے کہ بہت جلد تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ گمراہی میں تم مبتلاء ہو یا رسول ﷺ ہیں۔

4- اس سورت میں ﴿نَذِیْر"﴾ (آیت:8، 9 اور 26) کا لفظ تین (3) مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی بنیادی ذمہ داری ﴿اِنذار﴾ Warning کی ہے، اور یہ ﴿اِنذار﴾ اتمامِ حجت ہے۔ دوزخ کے داروغہ یہی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا؟

5- اس سورت میں ﴿مَنْ﴾ کے لفظ سے کئی مرتبہ اور ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ ﴿غَیْرُ اللّٰهِ﴾ کی تحقیر کی گئی ہے اور اللہ کی عظمت وقدرت ثابت کی گئی۔

(a) ﴿اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ یَنْصُرُكُمْ﴾ (آیت:20)

(b) ﴿اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ یَرْزُقُكُمْ﴾ (آیت:21)

(c) ﴿فَمَنْ یَّاْتِیْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِیْنٍ﴾ (آیت:30)

اِن سوالات کا مقصد تردیدِ شرک ہے۔ اللہ کی قدرت کا اقرار کرانا اور غیر اللہ کی بے بسی اور بے بضاعتی ثابت کرنا مقصود ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ المُلك کا نظمِ جلی

سورۃ الملك سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1۔آیات 1 تا 4 : پہلے پیراگراف میں، دعوتِ توحید دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مقصدِ تخلیقِ انسانی کیا ہے؟

کائنات کی باگ ڈور، ﴿قدیر﴾ اور بابرکت ہستی کے ہاتھ میں ہے۔

﴿اللّٰہ﴾، ﴿عزیز و غفور﴾ خالق ہے، جس نے زندگی اور موت کے نظام کو، انسان کی آزمائشِ حسنِ عمل کے لیے وضع کیا ہے۔اس آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کے لیے، وہ ﴿غَفُوْر﴾ اور ناکام ہونے والوں کے لیے ﴿عَزِیْز﴾ ہوگا۔اللہ کی تخلیق کردہ کائنات، منظم اور مربوط ہے۔

2۔آیات 5 تا 11 : دوسرے پیراگراف میں، منکرینِ دعوتِ رسالت کا انجام بتایا گیا۔حقائقِ قرآن وحقائقِ کائنات کا انکار کرنے والے دوزخی ہوں گے اور وہ دوزخ کی بھیانک آوازیں سنیں گے (آیت:7)۔

(a) منکرین کو دوزخ کے غضب اور دوزخ کے پہرے داروں سے مکالمہ کی تفصیل بتا کر ڈرایا گیا۔

(b) دوزخ میں دخول کا سبب، رسول کی دعوت کا عدمِ سماع اور اُس پر عدمِ تفکر ہوتا ہے۔

دوزخی، نہ دعوتِ وحی اور دعوتِ پیغمبر کو توجہ سے سنتے ہیں اور نہ اس دعوت پر غور وفکر سے کام لیتے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ اگر غور سے سنتے اور غور وفکر سے کام لیتے تو دوزخی نہ ہوتے۔

﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴾ (آیت:10)

3۔آیت 12: تیسرے پیراگراف میں دعوتِ توحید، دعوتِ رسالت اور غیب پر ایمان لانے والے ﴿خاشی﴾ لوگوں کے لیے، مغفرت اور اجرِ کبیر کا وعدہ ہے۔(آیت 12)

4۔آیات 13 تا 17 : چوتھے پیراگراف میں، ﴿عقیدۂ توحید﴾ کا اِثبات کیا گیا کہ اللہ ﴿خالق﴾ ہے، مکمل علم بھی رکھتا ہے اور مکمل قدرت بھی۔

اس لیے ﴿لطیف و خبیر﴾ بھی ہے۔جہری اور سرّی گفتگو بھی سن لیتا ہے، سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔اس لیے روزِ قیامت عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ، جس نے زمین کو رزق کا ذریعہ بنایا ہے، انسانوں کو اِسی زمین میں دھنسا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔(آیت:16)

اللہ تعالیٰ، انسانوں کو آسمان سے طوفانی ہوا ﴿حَاصِب﴾ بھیج کر بھی، ہلاک کرسکتا ہے۔(آیت:17)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

5۔آیات 18 تا 23 : پانچویں پیراگراف میں، ﴿جزاوسزا کی تاریخی دلیل﴾ ہے۔اور توحید کی ﴿آفاقی اور انفسی دلیلیں﴾ بھی ہیں۔

منکرینِ آخرت ومنکرینِ توحید سے مباحثہ ہے کہ منکرینِ آخرت کو، تاریخ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔(آیت:18)

﴿اقرارِ توحید کے لیے آفاقی دلیل﴾

﴿رَحمٰن و بصیر﴾ اللہ کے علم اور قدرت کو سمجھنے کے لیے، آسمان پر اُڑتے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہوئے دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے۔(آیت:19)

مغرور کافروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ﴿رحمن﴾ اللہ کے علاوہ، کوئی دیگر ہستی ﴿غیرُ اللّٰہ﴾ اُن کی مدد نہیں کر سکتی۔(آیت:20) سرکش کافروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ﴿غیرُ اللّٰہ﴾ رزّاق نہیں ہو سکتے۔

﴿اللہ﴾ اگر رزق روک لے تو کوئی دیگر ہستی، اِنہیں رزق فراہم نہیں کر سکتی۔(آیت:21)

کافروں کو سوچنا چاہیے کہ کیا زمین کی طرف دیکھنے والا ، مادّہ پرست آدمی اور توحید پرست صراطِ مستقیم پر گامزن آدمی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

﴿اقرارِ توحید کے لیے انفسی دلیل﴾

سماعت، بصارت اور عقل دینے والے خالق ﴿اللہ﴾ ہی کے لیے، شکر زیبا ہے۔(آیت:23)

6۔آیات 24 تا 28 : چھٹے پیراگراف میں کافروں کے لیے تخویفِ قیامت ہے۔

جس اللہ نے انسانوں کو زمین پر پھیلایا ہے، وہی روزِ قیامت انہیں جمع کرے گا(آیت:24)۔رسول ﷺ کا کام قیامت کا وقت بتانا نہیں، بلکہ اُس کی آفت سے خبردار کرنا ہے۔وہ ﴿اِنَّمَآ اَنَا نَذِیْرٌ "مُّبِیْنٌ"﴾ ہیں(آیت:26)۔ روزِ قیامت کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔

﴿ایک اور عقلی استدلال﴾

کافروں سے عقلی استدلال کرتے ہوئے یہ سوال کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ،رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ کو ہلاک کر دے، یا اُن پر رحم فرمائے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو عذابِ الیم سے دوچار نہیں کرے گا۔"(آیت:28)

7۔آیات 29 تا 30 : ساتویں اور آخری پیراگراف میں ﴿اثباتِ توحید﴾ اور ﴿تردیدِ شرک﴾ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو گمراہ کہنے کے بجائے، کافروں کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔اہلِ ایمان اللہ پر ایمان لا کر، اُسی پر بھروسہ ﴿توکّل﴾ کرتے ہیں، دیگر ہستیوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔(آیت:29)۔

بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ ﷺ ﴿فِیْ ضَلٰلٍ کَبِیْرٍ﴾ بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں، یا مشرکین مکہ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ضَلَالٍ مُبِيْنٍ﴾ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ (آیت:29)۔

﴿اقرارِ توحید کے لیے عقلی دلیل﴾

آخر میں توحید کی ایک عقلی دلیل پیش کرتے ہوئے سوال کیا گیا، کافر ذرا یہی غور کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں ، پانی کی سطح (Water Level) نیچے کر دے تو کون سے دیگر ہستی ﴿غَیْرُ اللّٰہِ﴾ انہیں صاف شفاف پانی فراہم کر سکتی ہے؟ (آیت:30) تو وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ ﴿رب﴾ بھی ہے اور کامل قدرت رکھنے والا ﴿قدیر﴾ بھی ہے۔

مرکزی مضمون

توحید کے آفاقی، انفسی، تاریخی اور عقلی دلائل سے، توحید، رسالت اور امکانِ آخرت کو ثابت کر کے، شرک کی تردید کر دی گئی ہے۔ لہٰذا ایمان لا کر نیک عمل کرو، یہی زندگی اور موت کی ایجاد کا مقصدِ آزمائش ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط — نظمِ جلی

68- سُورَةُ الْقَلَمِ

آیات : 52...... مَكِّيَّةٌ ...... پیراگراف : 7



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سورت ﴿ القلم ﴾ اعلانِ عام اور ہجرتِ حبشہ (رجب 5 نبوی) کے بعد، غالباً 5 نبوی کے اواخر میں نازل ہوئی ہوگی، جب مخالفت اپنے عروج پر تھی اور رسول ﷺ کو ﴿مَجنون ﴾ اور ﴿مَفتون ﴾ کہا جا رہا تھا۔

آیات 10 تا 15 غالباً مشرکین کے ایک سردار ﴿اخنس بن شریق ثقفی ﴾ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اس حصے میں کافر قیادت کے اوصاف گنوائے گئے اور ان کی اطاعت سے منع کر دیا گیا۔

آیت 16 ﴿سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ﴾ غالباً قریش کے مشہور لیڈر ﴿ولید بن مغیرہ مخزومی ﴾ کے بارے میں نازل ہوئی۔

سورۃُ القَلَم کا کتابی ربط

1۔ سورت ﴿ الملك ﴾ میں اسلام کی دعوت کا خلاصہ بیان ہوا تھا۔ یہاں سورت ﴿ القلم ﴾ میں اُس دعوت کو مسترد کرنے والی کافر قیادت کی اطاعت کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ (آیت:8)۔ سورت ﴿ الملك ﴾ میں مشرکینِ مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو ﴿ ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾ یعنی کھلی گمراہی میں مبتلا کہا تھا۔ یہاں سورت ﴿ القلم ﴾ میں آپ ﷺ کو ﴿ مجنون ﴾ کہا گیا۔ اس سورت میں بخیل باغ والوں پر 'دُنیوی عذاب' کا ذکر ہے۔

2۔ اگلی سورت ﴿ الحاقة ﴾ میں پہلے قیامت کے عذاب کا نقشہ کھینچا گیا اور پھر قومِ عاد، قومِ ثمود، قومِ لوط، قومِ نوح اور فرعون کو دیے جانے والے 'دُنیوی عذاب' کا تذکرہ ہے۔ دونوں سورتوں میں قریش کو دنیاوی عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔

3۔ انسانی عقل سے سوال کیا گیا ہے کہ آخرت میں کیا ﴿مُسلِمین ﴾ اور ﴿ مُجرِمین ﴾ کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اور کیا مسلم قیادت اور کافر قیادت ایک جیسی ہے؟

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿مَجْنُوْنٌ ﴾: اس سورت میں ﴿مَجْنُوْنٌ ﴾ کا لفظ ابتداء اور اختتام پر دو (2) جگہ استعمال کیا گیا۔ (آیت: 2، 51)۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سورت اُس دور میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ ﷺ پر نعوذ باللہ پاگل ہونے کا الزام عائد کیا جا رہا تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ القلم کا نظمِ جلی

یہ سورت سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 7 : پہلے پیراگراف میں ﴿صالح قیادت﴾ کے اوصاف بیان کیے گئے۔

رسول اللہ ﷺ مجنون ومفتون نہیں، بلکہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں ﴿وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ﴾ (آیت:4)
اچھے اور برے برابر نہیں ہوسکتے۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔

2- آیات 8 تا 16 : دوسرے پیراگراف میں، دعوتِ رسول ﷺ کو جھٹلانے والی قریش کی کافر وفاسق قیادت کے اخلاق واوصاف بیان کیے گئے۔

رسول اللہ ﷺ کو ان ﴿مُكَذِّبِيْنَ﴾ کے آگے نہ جھکنے کی ہدایت کی گئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ﷺ نرم پڑیں تو وہ بھی نرمی دکھائیں۔ ﴿وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ﴾، لیکن عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ ایسے لیڈر سے نہ دبنے کا حکم دیا گیا، جو ﴿حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ﴾ بہت قسمیں کھانے والا اور بے وقعت آدمی ہے۔ ﴿هَمَّازٍ﴾ ہے یعنی طعنے دیتا ہے، ﴿مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ﴾ ہے یعنی چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، ﴿مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ﴾ ہے یعنی بھلائی سے روکتا ہے، ﴿مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ﴾ ہے یعنی ظلم وزیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے۔ ﴿زَنِيْمٍ﴾ ہے یعنی سخت بداعمال ہے، ﴿عُتُلٍّ﴾ جفاکار ہے۔ اِن سب عیوب کے ساتھ بداصل ہے، صاحبِ مال واولاد ہونے کی وجہ سے غرور وتکبر میں مبتلا ہے۔ ﴿ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ﴾ (آیت:14)۔

جب ہماری آیات اُس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں۔
﴿اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ﴾ (آیت:15)۔ www.KitaboSunnat.com

3- آیات 17 تا 32 : تیسرے پیراگراف میں، قریش کی ناشکری قیادت کے سامنے فاسق وفاجر باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔

باغ والوں کی طرح قریش کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ دنیاوی عذاب سے آخرت کے عذاب اور جزا وسزا پر استدلال کیا گیا ہے۔ باغ والے بخیل اور خالص مادہ پرست تھے۔ مسکینوں کو اپنی فصل میں سے کچھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ باغ کی تباہی کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔

4- آیت 33 : چوتھے پیراگراف میں، اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔

﴿كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾ (آیت:33)
”ایسا ہوتا ہے (دنیاوی) عذاب! اور آخرت کا عذاب اِس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔“

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

5- آیت 34 تا 36 : پانچویں پیراگراف میں، متقین کا انجام بتا کر یہ ثابت کیا گیا کہ ﴿ مجرمین ﴾ اور ﴿ مسلمین ﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔

آخرت کی جزا وسزا کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل ایک سوال کی شکل میں رکھی گئی۔
﴿اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴾ (آیات:35،36)

6- آیات 37 تا 50 : چھٹے پیراگراف میں، قریش سے بعض چبھتے ہوئے سوالات کیے گئے۔

رسول اللہ ﷺ کو جلد بازی سے بچنے کا حکم دیا گیا اور تسلی دی گئی۔
"اے نبی ﷺ، آپ اِس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں ان سے نمٹ لوں گا" میں اِن کی رسّی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ (میری تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے) ﴿اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ ﴾۔ اپنے ربّ کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کیجیے (جلد بازی سے کام نہ لیجیے) اور مچھلی والے (یونس علیہ السلام) کی طرح نہ ہو جائیے!

7- آیات 51 تا 52 : ساتویں اور آخری پیراگراف میں، قریش کو قرآن کی حقیقت بیان کی گئی۔

اگر منکرین توجہ سے سن کر قرآن پر غور وفکر کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ ﴿مَجْنُوْنٌ﴾ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ﴿ربّ العالمین﴾ کی طرف سے سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ﴿ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴾ ہے۔

مرکزی مضمون

رسول اللہ ﷺ اور قرآن کی تکذیب کی سزا، دنیاوی اور اُخروی عذاب ہے۔ دنیاوی عذاب سے آخرت کا عذاب شدید تر ہوگا۔ ﴿كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴾ (آیت:33)
آخرت میں صالحین ﴿مُسْلِمِيْن﴾ اور کافرین ﴿مُجْرِمِيْن﴾ کا انجام یقیناً مختلف ہوگا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشہ/ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

69- سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ

آیات : 52...... مَكِّيَّةٌ ...... پیراگراف : 7



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الحاقہ﴾، سورت ﴿الطُّور﴾ کی طرح اعلانِ عام کے بعد، رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) کے آخر میں نازل ہوئی، جب آپ ﷺ پر الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ جیسے ﴿شاعر﴾ ﴿کاھن﴾، اور ﴿مُتَقَوِّل﴾ وغیرہ۔ حضرت عمرؓ کے دل پر سب سے پہلے سورۃ ﴿الحاقہ﴾ کی آیات ہی نے اثر کیا تھا۔ (مسند احمد ، ابن عمرؓ)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الحاقّہ کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿القلم﴾ میں باغ والوں پر دنیاوی عذاب کا ذکر تھا اور بتایا گیا تھا کہ اُخروی عذاب شدید تر ہوگا یہاں سورت ﴿الحاقّة﴾ میں پہلے ﴿الحاقّة﴾ کے الفاظ سے ﴿اُخروی عذاب﴾ کا ذکر ہے اور پانچ قوموں پھر عاد، ثمود، فرعون، اور ﴿مؤتفکات﴾ یعنی ﴿قومِ لوطؑ﴾ اور ﴿قومِ نوحؑ﴾ کو دیے جانے والے ﴿دنیاوی عذاب﴾ کا ذکر ہے۔

2۔ سورۃ ﴿القلم﴾ کی آخری آیت میں قرآن کو ﴿وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ﴾ کہا گیا تھا۔ یہاں سورت ﴿الحاقّة﴾ میں اسے ﴿تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ کہا گیا (آیت:43)۔

3۔ اگلی سورت ﴿المَعَارِج﴾ کا آغاز بھی مناظرِ قیامت اور احوالِ قیامت سے ہوا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں قیامت کو ﴿الحاقّة﴾ کہا گیا یعنی برحق، شنی، حق کو حق ثابت کرنے والی۔ آیت:51 میں اسے ﴿حَقُّ الْيَقِيْن﴾ 'یقین کا حق' کہا گیا۔

2- ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ﴾ (آیت:12)۔

"تاکہ ہم ان واقعات کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان ان کی یاد محفوظ رکھیں۔"

اس سورت میں پانچ قوموں کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد، ان پر تبصرہ کیا گیا ہے، ان کے ذکر کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے۔

سورۃ الحاقّہ کا نظمِ جلی:

سورۃ الحاقہ سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 3 : پہلے پیراگراف میں، اِنذارِ قیامت ہے۔ قیامت ﴿الحاقّه﴾ ہے۔ یعنی برحق ہے اور حق کو حق ثابت کرنے والی آفت ہے۔

2- آیات 4 تا 12 : دوسرے پیراگراف میں، اختصار کے ساتھ ہلاکتِ اقوام کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔

جزاوسزا کی تاریخی دلیل فراہم کی گئی ہے۔ پانچ (5) مغضوب قوموں کا ذکر ہوا۔ عاد، ثمود، قومِ فرعون، ﴿مؤتفکات﴾ یعنی قومِ لوطؑ اور قومِ نوحؑ۔ عاد و ثمود بھی قریش کی طرح آخرت کے منکر تھے۔ ﴿كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾۔ انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3- آیات 13 تا 18: تیسرے پیراگراف میں، مناظرِ قیامت دکھائے گئے ہیں۔

جب صور پھونکا جائے گا اور پہاڑوں اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یہ حساب کتاب کا دن ہوگا۔

4- آیات 19 تا 24: چوتھے پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے اُن کے سیدھے ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

یہ وہ لوگ تھے جو حساب کتاب پر یقین رکھتے تھے۔ یہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔

5- آیات 25 تا 37: پانچویں پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ روزِ قیامت برے لوگوں کے اعمال نامے اُن کے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

یہ قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ مسکینوں کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے انہیں زنجیروں سے جکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کے دھوون سے ان کی تواضع کی جائے گی

6- آیات 38 تا 51: چھٹے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ قرآن نہ تو ﴿شاعر﴾ کا کلام ہے اور نہ ﴿کاہن﴾ کا، بلکہ یہ ﴿ربُّ العالمین﴾ کی تنزیل ہے۔

خدانخواستہ اگر رسول اللہ ﷺ اسے خود گھڑ لیتے تو آپ ﷺ کو بھی سزا دی جاتی۔

7- آیت 52: ساتویں پیراگراف میں، اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کے اعتراف کا مطالبہ ہے۔

مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں شرک چھوڑ کر خالص توحید اختیار کرو ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ اپنے عظیم رب کی بے عیبی کا اعتراف کرو کہ وہ ہر قسم کے شرک اور عیوب ونقائص سے پاک ہے۔

مرکزی مضمون

توحید، آخرت اور قرآن پر ایمان لا کر اعمالِ صالحہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ سیدھے ہاتھ میں نامۂ اعمال وصول کرنے والے خوش نصیب بن سکیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

70- سُوْرَةُ الْمَعَارِج

آیات : 44 ...... مَكِّيَّة" ...... پیراگراف : 5



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سُورۃ ﴿ المعارج ﴾ بھی رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور میں اعلانِ عام کے بعد، حضرت عمرؓ کے قبولِ اسلام (ذوالحجہ 6 نبوی) سے پہلے، غالباً 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا، جب سُورۃ ﴿ الحاقۃ ﴾ نازل ہوئی۔

اس سورت میں قریشی قیادت کے معاشی رویوں پر بھی سخت گرفت کی گئی ہے۔

قریش کے مشہور سردار نضر بن حارث نے (جو جنگِ بدر میں مارا گیا) یہ سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اس طرح کے لوگوں کو بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک تو وہ بہت قریب ہے۔ انہیں قیامت کا وقت پوچھنے کے بجائے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایمان لا کر وہ صفات پیدا کرنی چاہئیں، جو اس سورت میں بیان کی گئی ہیں، ورنہ انہیں مٹا کر دوسری قوم اُٹھائی جائے گی اور قیامت کا عذاب تو ہے ہی برحق۔

سورۃُ المَعَارِج کا کتابی ربط

1۔ سورت ﴿ القلم ﴾ میں سوال کیا گیا تھا ﴿ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِیْنَ كَالْمُجْرِمِیْنَ مَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴾ "کیا ہم مسلمین اور مجرمین کو ایک ساتھ رکھیں گے؟" پچھلی سورت ﴿ الحاقّه ﴾ میں بتایا گیا تھا کہ قریش کی قیادت مسکینوں کے حقوق سے غافل ہے ﴿ وَلَا یَحُضُّ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ ﴾ (آیت:34)۔

2۔ یہاں سورت ﴿ المَعَارِج ﴾ میں بتایا گیا ہے کہ یہ مجرم اور بخیل قیادت مال و دولت جمع کرتی ہے اور سینت سینت کر رکھتی ہے ﴿ وَجَمَعَ فَاَوْعٰی ﴾۔ مجرمین کے اَحوال بیان کیے گئے ہیں کہ وہ روزِ قیامت اپنے قریبی عزیزوں کو فدیہ میں دے کر عذاب سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے (آیات: 11، 14)۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں رسول اللہ کو صبرِ جمیل کی نصیحت کی گئی۔ ﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِیْلًا ﴾ (آیت:5)
سورت ﴿ المَعَارِج ﴾ کی ابتداء ہی میں رسول اللہ ﷺ کو نصیحت کی گئی کہ مشرکینِ مکہ عذابِ قیامت کے بعید از عقل و قیاس سمجھ رہے ہیں۔ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ نماز کی صورت میں اللہ کے حقوق اور زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں سائل و محروم اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ہدایت ہے۔

2- سورت ﴿ المَعَارِج ﴾ میں روزِ قیامت کا ذکر کم از کم (9) مرتبہ ہوا ہے۔
(آیات: 1، 6، 7، 8، 11، 26، 42، 43 اور 44)

3- اس سورت میں ﴿ رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ﴾ کی گواہی پیش کر کے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش کو مٹا کر

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دوسری بہتر قوم اُٹھانے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ استبدالِ قوم کی دھمکی دی گئی ہے۔ (آیات 40، 41)

4- اس سورت میں ﴿ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ﴾ کے الفاظ سے بخیل زر پرست قیادت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ وہ نہ صرف مال جمع کرتے ہیں، بلکہ سینت سینت کر رکھتے ہیں۔ (آیت: 18)

سورۃ المعارج کا نظمِ جلی

سورۃ المعارج پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 7 : پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقت، اللہ کے ہاں بہت قریب ہے۔

قریش کے سردار نضر بن حارث نے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کے دنوں (Time Scale) کو، انسانی پیمانوں سے جانچنا صحیح نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے، فرشتوں اور جبریل کو بھی، پچاس ہزار (50,000) سال کے برابر کا ایک دن لگتا ہے۔

نبی ﷺ کو صبرِ جمیل کی تلقین کی گئی کہ منکرینِ قرآن و منکرین قیامت کی باتوں پر صبر ضروری ہے۔

2- آیات 8 تا 14: دوسرے پیراگراف میں، احوالِ قیامت اور اُس دن کی نفسا نفسی سے منکرینِ قیامت کی تخویف کی گئی۔

قیامت کے دن، آسمان تلچھٹ کی مانند سرخ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند پراگندہ ہو جائیں گے۔

اُس دن کوئی جگری دوست، اپنے جگری دوست کو دیکھنے کے باوجود نہ پوچھے گا۔

﴿ لَا یَسْئَلُ حَمِیْمٌ حَمِیْمًا ﴾ (آیت: 10)۔

اس دن مجرم چاہے گا کہ عذاب کے بدلے اپنے بیٹوں، بیوی، بھائی اور اپنے قریب ترین خاندان کو اور زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور پھر نجات حاصل کر لے۔ (آیت: 14)

3- آیات 15 تا 18: تیسرے پیراگراف میں، دوزخ کی آگ کی تفصیل بیان کر کے بخیلوں کو عذاب کی خوش خبری دی گئی

دوزخ کے شعلوں کی لپٹ، اُس کی چمڑی ادھیڑ لے گی۔

دوزخ کی آگ، ان سب بخیلوں کو کھینچ بلائے گی، جنہوں نے دعوتِ حق سے اعراض کیا اور دولت جمع کرنے اور سینتنے میں لگے رہے۔ ﴿ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ﴾ "جس نے مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔" (آیت: 18)

4- آیات 19 تا 35 : چوتھے پیراگراف میں چند انسانی عیوب بتائے گئے اور اُن عیوب سے بچنے والے اہلِ ایمان کی نو (9) اعلیٰ صفات بیان کی گئیں۔

(a)۔ نفسِ انسانی کے عیوب: انسانوں کا عام حال یہی ہوتا ہے کہ

1۔ جب وہ اللہ کی کسی گرفت میں آجاتے ہیں تو واویلا شروع کر دیتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2۔اللہ کی طرف سے اگر کوئی ڈھیل مل جائے تو اس کے شکر گزار ہونے کے بجائے ، اترانے اور اکڑنے لگتے ہیں۔3۔اللہ کے بخشے ہوئے مال پر، خزانے کے سانپ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ 4۔منکرینِ قیامت ، بے صبرے اور بخیل ہوتے ہیں۔

(b)۔مومنین کی (9) نو صفات :

ان جنتی مومنین کی صفات کا آغاز بھی نماز سے ہوا ، اور اختتام بھی نماز پر ہوا ہے۔

1-جو نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔﴿الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ﴾ (آیت:23)۔

2-جو اپنے مالوں میں سے، سائل اور محروم کا حق ادا کرتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴾ (آیت:24،25)۔

3- روزِ جزا کو برحق مانتے ہیں۔ ﴿ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ﴾ (آیت:26)۔

4- ربّ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ﴿مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ﴾ (آیت:27)۔

5- شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ﴿لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴾ (آیت:29)۔

6- امانتوں کا پاس ولحاظ کرتے ہیں۔ ﴿ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴾ (آیت:32)۔

7- عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں۔ ﴿ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴾ (آیت:32)۔

8- شہادتوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں۔﴿بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ﴾(آیت:33)۔

9- نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔﴿عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴾(آیت:34)۔

5-آیات 36 تا 44 :پانچویں اور آخری پیراگراف میں مشرکینِ مکہ کو، دنیاوی عذاب اور استبدالِ قوم کی دھمکی دی گئی ہے اور عذابِ قیامت سے تخویف کی گئی ہے۔

منکرین اس خوش فہمی اور زعم باطل میں بھی مبتلا تھے کہ جو عیش و آرام انہیں یہاں حاصل ہے، بالفرض اگر آخرت ہوئی بھی تو انہیں وہاں اس سے بڑھ کر عیش واکرام حاصل ہوگا۔اس خوش فہمی کی تردید کی گئی۔

قریش کو استبدالِ قوم کی دھمکی دی گئی! منکرین کو ہلاک کرکے، دوسری قوم اٹھائی جاسکتی ہے !

﴿اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴾

آخر میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی اور ﴿مجرمین﴾ کو روزِ قیامت کے برے انجام سے ڈرایا گیا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

قیامت کا وقت پوچھنے والے بخیل دنیا پرستوں کو کو قیامت پر ایمان لا کر، دیگر اہلِ ایمان کی طرح، اپنی ذات میں اعلیٰ جامع اخلاقی صفات پیدا کرنا چاہیے۔ دوزخ کی آگ، دنیا پرست بخیلوں کو اپنی طرف کھینچے گی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ ربط | نظمِ جلی

71- سُورَةُ نُوح

آیات : 28 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 5



زمانۂ نزول:

سورت ﴿ نوح ﴾ بھی غالباً ہجرتِ حبشہ (رجب 5 نبوی) کے بعد، غالباً 5 نبوی کے اواخر میں نازل ہوئی، جب مخالفت میں شدت آ گئی تھی۔

اس سورت میں، دعوت کے اس مرحلے میں نو مسلم صحابہؓ کو حضرت نوحؑ کی طویل دعوتی زندگی سے صبر واستقامت کی تعلیم دی گئی ہے اور قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ دعوتِ توحید واستغفار کو مسترد کرنے کی صورت میں، قومِ نوح کی طرح انہیں بھی ہلاک کیا جاسکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ نوح کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿ الـمَـعَارِج ﴾ میں قیامت کے مناظر بیان کیے گئے تھے اور بخیل انسان کا اُخروی انجام بیان کیا گیا تھا۔ استبدالِ قوم (دنیاوی عذاب) کی دھمکی دی گئی تھی۔ یہاں اس سورت ﴿نـــوح ﴾ میں، دنیاوی اور اُخروی عذاب سے بچنے کے لیے، حضرتِ نوحؑ کی دعوت وتبلیغ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اگلی سورت ﴿الجن﴾ میں ان سعید روحوں کا تذکرہ ہے، جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے قرآن سن کر اپنے ہم جنس جنات میں جا کر دعوت وتبلیغ کا فریضہ انجام دیا تھا۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- سورۃ نوح میں، دعوت وتبلیغ کے آداب بتائے گئے ہیں۔

2- اس سورت میں دعوت کے متعلق وضاحت کی گئی ہے کہ یہ توحید ، رسالت اور آخرت کے علاوہ ، قوم کے اِنذار (Warning) پر مشتمل ہونی چاہیے۔

3- اس سورت میں قوم کو اُن کے گناہوں کا احساس دلا کر، اُنہیں استغفار کی دعوت بھی دی گئی ہے اور استغفار کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ ﴿اِستِـغـفَـار ﴾ (آیت 10) اور ﴿ مغفرت﴾ (آیات 4،6،28) کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے۔

4- اس سورت میں حضرتِ نوحؑ کی دُعائیں نقل کی گئیں ہیں اور نو سو پچاس برس کی دعوت وتبلیغ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اِس وحی کے بعد کہ 'اب کوئی ایمان نہیں لائے گا' حضرتِ نوحؑ کی بددعائیں بھی نقل کی گئی ہیں۔

5- قوم نوح کو دعوتِ اطاعت دی گئی (آیت 3) ، لیکن قوم کی نافرمانی رنگ لائی۔ (آیت 21)۔

6- سورت نوح میں دو (2) قسم کی قیادت کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوحؑ کی صالح قیادت اور کفار کی مشرک قیادت۔

(a) حضرت نوحؑ نے دعوتِ استغفار دی اور اُموال واَولاد میں اضافے کی نوید سنائی۔

﴿وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ ﴾ (آیت:12)

(b) قوم نوحؑ نے لیکن اُس مشرک قیادت کی پیروی کی ، جس سے اُن کے اموال واولاد میں اضافہ نہیں ہوا ، بلکہ خسارے میں اضافہ ہوا۔ ﴿ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗٓ اِلَّا خَسَارًا ﴾ (آیت:21)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ نوح کا نظمِ جلی

سورۃ نوح پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 4 : پہلے پیراگراف میں حضرتِ نوحؑ کی دعوتِ توحید و استغفار کی وضاحت کی گئی ہے۔

حضرت نوحؑ نے دعوت دی اور عذاب سے خبردار کیا۔ ان کی دعوت کے چار (4) نکات تھے۔

(1) اللہ کی بندگی کرو! ﴿ اعْبُدُوا اللّٰهَ ﴾۔ (2) اللہ ہی سے ڈرو! ﴿وَاتَّقُوْهُ ﴾۔ (3) اور میری اطاعت کرو! ﴿ وَاَطِيْعُوْنِ ﴾ (آیت:3)۔ (4) استغفار کرو! ﴿اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ﴾۔ تمہیں مزید مہلت مل جائے گی۔ استغفار کرنے پر اللہ گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ ﴿تقدیرِ معلّق ﴾ اور ﴿تقدیرِ مُبرم ﴾ کی وضاحت کی گئی۔

2- آیات 5 تا 20 : دوسرے پیراگراف میں، حضرت نوحؑ کی تبلیغی سرگرمیوں کی روشنی میں آدابِ دعوت بتائے گئے اور توحید و آخرت کے دلائل پیش کیے گئے۔

دعوت ایک ہمہ وقتی (Full Time) کام ہے۔ شب و روز جاری رہنا چاہیے۔ موقع اور محل کے اعتبار سے دعوت جہری بھی ہوسکتی ہے ، اعلانیہ بھی ہوسکتی ہے اور سرّی بھی: (آیات: 8 اور 9)

استغفار کے پانچ (5) دنیاوی فائدے بیان کیے گئے۔

بارشیں ہوں گی ، مال میں اضافہ ہوگا، بیٹے عطا کیے جائیں گے۔ باغات اور نہریں ملیں گی (آیت:12)۔

اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے، توحید و آخرت کے دلائل پیش کیے گئے۔ (آیت:15)

اللہ نے انسان کو ایک خاص مقصد سے ، بڑے اہتمام کے ساتھ زمین سے پیدا کیا ہے

"وہی پھر زمین میں لوٹائے گا اور وہی زمین سے دوبارہ برآمد کرے گا۔" (آیت:18)

3- آیات 21 تا 24 : تیسرے پیراگراف میں مشرک قومِ نوحؑ کے خلاف فردِ جرم بیان کر کے حضرت نوحؑ کی فریاد نقل کی گئی۔

950 سالہ دعوت کے باوجود ،قومِ نوحؑ اپنے پانچ (5) بتوں ﴿وَدّ ، سُوَاع ، يَغُوث، يَعُوق اور نَسْر ﴾ کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئی۔ قوم کے مشرک سرداروں اور لیڈروں نے ، بڑے مکر کا جال پھیلایا (آیت 22)۔

<u>حضرت نوحؑ کی پہلی بددعا</u> : ﴿وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴾ (آیت:24) "ظالموں کی گمراہیوں ہی میں اضافہ فرما!"

4- آیت: 25 : چوتھے پیراگراف میں قومِ نوحؑ پر اللہ کے عذاب کی تفصیل بیان کی گئی۔ قومِ نوحؑ پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نزولِ عذاب ہوا اور انہیں عذابِ قبر سے بھی دوچار کیا جا رہا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

"اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کئے گئے اور آگ کے عذاب میں (عذابِ قبر میں)، جھونک دیئے گئے اور پھر عذابِ الٰہی سے بچانے والا، کوئی مددگار نہ پایا۔" (آیت:25)

5- آیات 26 تا 28 : پانچویں اور آخری پیراگراف میں حضرتِ نوحؑ کی دُعائیں اور بددعائیں نقل کی گئی ہیں۔

نوحؑ کی دوسری بددُعا : ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾ (آیت 26)

"میرے رب! ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ"۔

"اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو پیدا ہوگا، بدکار اور سخت کافر ہی ہو گا۔" (آیت 27)۔

دُعائے نوحؑ : ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ﴾

"میرے رب! مجھے اور میرے والدین کو، تمام مومنین کو اور ہر اس شخص کو، جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو، بخش دے!" (آیت:28)

حضرت نوحؑ کی تیسری بددعا: ﴿وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ (آیت:28)

"ظالموں کے لیے، ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر!"

مرکزی مضمون

رات دن، توحید و آخرت کی دعوت و تبلیغ کا کام صبر و استقامت کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ لوگوں کو ﴿استغفار﴾ کی طرف مائل کر کے دنیاوی اور اُخروی عذاب اور ہلاکت سے متنبہ اور خبردار کیا جانا ضروری ہے۔ یہی کارِ پیغمبری ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

72- سُوْرَةُ الْجِنِّ

آیات : 28 ...... مَکِّیَّة" ...... پیراگراف : 3



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الجنّ﴾ غالباً سُورۃُ الاَحقاف کے ساتھ، سفرِ طائف سے واپسی پر، بمقام نخلہ شوال 10 نبوی میں نازل ہوئی۔

یہ وہ زمانہ تھا، جب آپ ﷺ شعب ابی طالب کی اسیری کے بعد رہائی پاتے ہی حضرت خدیجہؓ اور چچا ابو طالب کی وفات کے صدمے سے دوچار تھے اور مشرکین کا رویہ قرآن کے بارے میں نہایت سخت اور متعصبانہ تھا۔ ان حالات میں چند جنات کے اسلام کی خبر، ہوا کا خوشگوار جھونکا تھا۔ اِس موقع پر یہ مناسب تھا کہ قریش کو غیرت دلائی جائے اور ایک نہایت پرتاثیر انداز میں توحید کی دعوت کا اِعادہ کیا جائے، منصبِ رسالت کی وضاحت کی جائے اور ایمان کے دنیاوی اور اُخروی فائدوں سے تذکیر کی جائے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خصوصیات

1- یہ سورت ایک نہایت دلنشین آہنگ رکھتی ہے۔

2- اس سورت میں، توحید ، رسالت اور آخرت کے عقیدے کی دعوت کا ، ایک نئے زاویے سے اعادہ کیا گیا ہے۔

3- اس سورت میں، آزادئ اختیار (Freedom of Choice) کے صحیح استعمال کا حکم دیا گیا ہے، جو صرف دو (2) مخلوقات انسانوں اور جنات کو عطا کی گئی ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- دعوتِ توحید (آیات: 3 ، 12 ، 18 اور 20) ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا﴾ (آیت:3)۔

2- انکارِ آخرت و رسالت ﴿لَّن يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا﴾ (آیت:7)۔

3- ﴿رسالات﴾: اس سورت میں کارِ رسالت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رسول کا کام اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ﴿اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ﴾ (آیت:23)
﴿لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ﴾ (آیت:28)

4- اس سورت میں یہ بات بھی ذہن نشین کرائی گئی کہ توحید پر استقامت سے اُخروی فائدوں کے علاوہ، دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ کھیتیاں سیراب کی جا سکتی ہیں ﴿لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا﴾ (آیت:16)۔

5- جنات کو بھی انسانوں کی طرح آزادئ اختیار عطا کی گئی ہے۔ ان میں بھی ﴿مُسلِمُون﴾ اور ﴿قَاسِطُون﴾ یعنی ظالم دونوں موجود ہیں۔ ﴿مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ﴾ (آیات:14)۔ ظالم جنات کو جہنم رسید کیا جائے گا۔

سورۃ الجِنّ کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿نوح﴾ میں، آدابِ دعوت بتائے گئے تھے اور حضرت نوحؑ کی طویل دعوت کی داستان اور اُن کی قوم کی ﴿تکذیب﴾ بیان کی گئی تھی۔ یہاں سورت ﴿الجِنّ﴾ میں جنات کے قبولِ اسلام اور ﴿تصدیق﴾ کا ذکر ہے مسلمان ہو جانے والے جنات سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ ہے۔

2- اگلی سورت ﴿المُزَّمِّل﴾ میں ایمان لانے کے بعد کے مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمازِ تہجد، انفاق ، ذکر اور استغفار کے نتیجے ہی میں قبولِ اسلام کے بعد توحید پر استقامت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الجنّ کا نظمِ جلی

سورۃ الجنّ تین (3) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات: 1 تا 15: پہلے پیراگراف میں، نومسلم توحید پرست ﴿جِنّات﴾ کے جذبات کی عکاسی ہے، جو داعی اور مبلغ بن گئے تھے۔

وہ قرآن کی دعوت کو سن کر ابلیس اور دیگر ظالم و قاسط جنات سے اپنے آپ کو مختلف محسوس کرتے تھے۔
بعض مؤمن ﴿جِنّات﴾ نے اپنے سردار، ابلیس کے خلاف سچی گواہی دی۔
﴿جِنّات﴾ میں اچھے اور برے، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ ﴿جِنّات﴾ میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی، انہیں بھی آزادیٔ اختیار عطا کی گئی ہے۔ یہ بھی جنت میں یا دوزخ میں جائیں گے۔

2- آیات: 16 تا 19: دوسرے پیراگراف میں مشرکین کو بتایا گیا ہے کہ تم جیسے انسانوں سے تو بعض جنات ہی بہتر رہے جو شرک سے بے زاری کا اعلان کر کے توحید اختیار کر چکے ہیں۔

یہاں قریش کو تنبیہ اور فہمائش ہے کہ توحید کی دعوت کو مسترد کرنے کا انجام عذاب کی صورت میں ظاہر ہوسکتا ہے اور قبول کرنے پر بے شمار دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوسکتے ہیں۔ ﴿لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا﴾۔ لہٰذا انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں۔ ﴿فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا﴾ (آیت: 18) اور رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچا کر توحید کی دعوت میں روڑے نہ اٹکائیں۔

3- آیات: 20 تا 28: آخری پیراگراف میں، چند اُصولی باتیں بتا کر رسالت اور منصبِ رسالت کی وضاحت کی گئی ہے

کلی علم، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ رسول کو وحی سے بعض باتیں بتائی جاتی ہیں۔ کلی اختیارات بھی اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ رسول نفع و ضرر کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ ہر رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوتِ توحید دے اور اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے۔ رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔

مرکزی مضمون

خوفِ خدا اور عقلِ سلیم رکھنے والا ہر انسان اور ہر جن، قرآن سے فیض یاب ہوسکتا ہے۔ پھر قرآن کی روشنی میں شرک سے کنارہ کشی اختیار کر کے، خالص توحید اختیار کرسکتا ہے، منصبِ رسالت کا صحیح ادراک کرسکتا ہے اور آخرت کے بہتر انجام کے لیے، اپنے آپ کو ایمان اور عملِ صالح کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کرسکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

73- سُوْرَةُ الْمُزَّمِّل

آیات : 20 ...... مَکِّیَّة ...... پیراگراف : 4



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

1۔ سورت ﴿الْمُزَّمِّل﴾ کی ابتدائی آٹھ(8) آیات، غالباً سُورت ﴿الْعَلَق﴾ اور سُورت ﴿الْمُدَّثِّر﴾ کی ابتدائی آیات کے بعد، نازل ہوئیں۔نزولی ترتیب کے اعتبار سے ﴿سورۃُ الْمُزَّمِّل﴾ کا یہ حصہ تیسرے نمبر پر ہے۔یہ حصہ بہت ممکن ہے کہ وحی کے آغاز کے فوراً بعد پہلے سال ہی نازل ہوا ہوگا۔دعوت کے اس مرحلے میں مستقبل کی قیادت تیار کرنے کے لیے، ﴿السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْن﴾ کی تربیت کا اہتمام کیا گیا۔چونکہ اس دور میں دعوت خفیہ تھی اور پنج وقتہ نماز بھی فرض نہیں کی گئی تھی، اس لیے انہیں نصف شب یا اُس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ وقت کے لیے نمازِ تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے اور سننے کی ہدایت کی گئی۔

2۔ اس سورت کی درمیانی گیارہ(11) آیات 9 تا 19 اعلانِ عام کے بعد، دورِ تکذیب میں نازل ہوئیں، جب قریشی سرداروں کے رویوں کو فرعونی رویوں سے تشبیہ دے کر رسول اللہ ﷺ کو الزامات واعتراضات پر صبر کی نصیحت کی گئی۔

3۔ اس سورت کی آخری آیت نمبر 20 ، غالباً مدینۂ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد 1ھ میں نازل ہوئی۔

سورۃُ الْمُزَّمِّل کی خصوصیت

اِس سورت میں نومسلم صحابہؓ کی روحانی، ایمانی اور علمی تربیت کا سامان بھی فراہم کیا گیا ہے، تاکہ وہ اقامتِ دین کے اگلے مرحلوں میں، سردارانِ قریش کے فرعونی رویوں کے خلاف، صبر وثبات کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو سکیں۔مکی زندگی کے ابتدائی بارہ(12) سالوں میں صرف نمازِ تہجد کی پابندی کی ہدایت تھی۔صحابۂ کرامؓ اہلِ زبان تھے۔ رسول اللہ ﷺ اور ان کے ابتدائی مخلص ساتھی رات کی آخری گھڑیوں میں ، ساری دنیا سے کٹ کر (تبتّل کے ساتھ) ، چار پانچ گھنٹوں تک قیام کرتے اور ترتیل کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے قرآن سنتے۔پنجوقتہ نماز معراج کے بعد بارہ(12) نبوی میں فرض کی گئی۔اس کے بعد تہجد کے ابتدائی حکم میں تخفیف کردی گئی ، جس کا ذکر اس سورت کی آخری آیت میں موجود ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

نمازِ تہجد میں تَفَقُّہ فِی القرآن کا طریقۂ کار

مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباسؓ سُورَۃُ المَزمل میں نمازِ تہجد کے بارے میں وارد الفاظ ﴿ وَ اَقْوَمُ قِیلًا ﴾ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ﴿ اَجْدَرُ اَنْ یَفْقَهَ فِي الْقُرْآنَ ﴾ ''(تہجد میں تلاوت) قرآن میں تفقہ اور غور وفکر کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں ہے۔''

(ابوداود ، کتاب الصلاۃ ، حدیث 1,109)

فہمِ قرآن کے تقاضے صرف اُسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں، جب ترتیل کے ساتھ، قرآن کے ہر لفظ کو واضح کر کے پڑھا جائے اور ہر آیت کے بعد رک کر غور کیا جائے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہؓ نے رسول اللہ ﷺ کی قراءت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حرف حرف واضح ہوا کرتا تھا۔ ﴿ اَنَّهَا وَصَفَتْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ حَرْفًا حَرْفًا ﴾ (ترمذی، کتاب القراءت، حدیث 2,927)

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں: ''رسول اللہ ﷺ ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے۔ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴾ پڑھ کر رک جاتے۔ پھر ﴿ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ پر ٹھہرتے۔ اس کے بعد رک کر ﴿ مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ﴾ کہتے۔'' (ابوداود . کتاب الحروف والقراءۃ . حدیث 3,487)

﴿ترتیل﴾ کے نتیجے ہی میں ﴿ تَفَقُّه ﴾ پیدا ہوتا ہے، جو مخلص اور ذہین اہلِ ایمان کو ﴿امامت﴾ کے لائق بناتا ہے۔ اسلامی ریاست کی مجلس شوریٰ کی اہلیت میں بھی قرآن کے علم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لوگوں کا قرآنی علم دیکھا جاتا ہے، عمر نہیں دیکھی جاتی۔ عبداللہؓ بن عباس کہتے ہیں:

﴿ كَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ، وَمُشَاوَرَتِهٖ كُهُولًا كَانُوا وَ شُبَّانًا ﴾

''حضرت عمرؓ کی مجلس شوریٰ، قرآن کے علما پر مشتمل ہوتی۔ اور اُن کی مشاورت میں بوڑھے بھی ہوتے اور جوان بھی'' (صحیح بخاری، کتاب التفسیر، حدیث 4,642)

سورۃُ المُزَّمِّل کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿الجن﴾ میں منصبِ رسالت کی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ نبی اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن نہ تو نفع ونقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ یہاں سورت ﴿المُزَّمِّل﴾ میں بتایا گیا ہے کہ قریشِ مکہ کی طرف رسول کریم ﷺ کی رسالت بالکل اُسی طرح ہے، جس طرح فرعون کی طرف حضرت موسیٰؑ کی رسالت تھی۔ ﴿اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَیْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَیْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴾۔ یہ شہادتِ حق کی ذمہ داری ہے، جو تمام رسولوں پر اور امتِ مسلمہ پر عائد کی گئی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- پچھلی سورت ﴿الجن﴾ میں جنات کی سماعتِ قرآن کا تذکرہ تھا کہ وہ کس طرح قرآن سن کر اُس سے متاثر ہوئے۔وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنے علاقے میں جا کر توحید کے عقیدے کی اشاعت میں سرگرم عمل ہو گئے۔یہاں سورت ﴿المزمل﴾ میں مسلمانوں کو، ترتیل، تبتل اور تدبر قرآن کے ساتھ سماعتِ قرآن کی ہدایات دی گئیں، تا کہ وہ بھی داعی اور مبلغ بن جائیں۔

3- یہاں سورت ﴿المزمل﴾ میں رسول اللہ ﷺ کو الزامات اور اعتراضات کے ماحول میں ﴿فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ﴾ کے حکم کے ذریعے مخالفین کی باتوں پر صبر کرنے کی ہدایت کی گئی۔اگلی سورت ﴿المدثر﴾ میں ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ کے ذریعے ان مشکل حالات میں محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر دعوت و تبلیغ میں صبر و ثبات کا حکم دیا گیا۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ترتیلِ قرآن کا حکم: ﴿ترتیل﴾ کا مطلب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، لیکن یہاں تاکیدِ مزید کے لیے مفعول مطلق استعمال کیا گیا ہے۔

﴿وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا﴾ (آیت:4)۔قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے، جس کا متکلم خود یہ ہدایت دے رہا ہے کہ اسے سرسری انداز میں نہ پڑھا جائے، بلکہ رک رک کر اطمینان سے سمجھ کر پڑھا اور سنا جائے۔

2- ذکر و تبتّل کا حکم: ﴿تبتیل﴾ کا مطلب سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، لیکن یہاں بھی تاکیدِ مزید کے لیے مفعول مطلق استعمال کیا گیا ہے۔﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا﴾ (آیت: 8)۔اپنے پالنے والے رب کے نام کو یاد کرنا چاہیے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف مائل ہو جانا چاہیے۔تعلق باللہ کے بغیر اسلامی امامت و قیادت کا تصور ہی محال ہے۔

3- اللہ کو ﴿الٰہ﴾ تسلیم کرنے کے بعد اسے ﴿وکیل﴾ بنا کر اُسی پر بھروسہ اور ﴿توکّل﴾ کرنے کا حکم:
آسمانوں اور زمین کے نظام کو چلانے والے اللہ کے علاوہ کوئی ﴿الٰہ﴾ نہیں ہے، لہٰذا اُسی کو وکیل بنا لینا چاہیے۔اُسی پر پورا اعتماد کر کے سارے اُمور اُسی کے حوالے کر دینے چاہییں۔وہی کارساز ہے۔﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا﴾ (آیت:9)۔

4- صبر و استقامت کا حکم اور دعوت و تبلیغ کے آداب کی تعلیم: مخالفت اور الزام تراشی کے ماحول میں مشرکین کی باتوں پر صبر کرنے کی نصیحت کی گئی اور خوبصورتی کے ساتھ انہیں نظر انداز کرنے کی تعلیم دی گئی۔یہ وہ آداب تبلیغ تھے جو دعوت کے پہلے مرحلے ہی میں سکھائے گئے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿وَاصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیْلًا﴾ (آیت:10)۔

سورۃ المُزَّمِّل کا نظمِ جلی

1- آیات 1 تا 8 : پہلا پیراگراف ابتدائی آٹھ آیات پر مشتمل ہے، جس میں ﴿تعلّق باللہ﴾ میں اضافے کے لیے ﴿قِیامُ الَّیل﴾ یعنی تہجد اور ترتیل قرآن کے علاوہ، ذکر و﴿تبتّل﴾ کا حکم دیا گیا ہے۔

اس ابتدائی حصے میں مندرجہ ذیل احکام ہیں۔

(1) آدھی رات کے لگ بھگ یعنی چار پانچ گھنٹوں کے لیے نمازِ تہجد کا طویل قیام کیا جائے۔

(2) قرآن کو اچھی طرح رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور سنا جائے، تاکہ فہمِ قرآن کے تقاضوں کی تکمیل ہو۔

(3) مستقبل کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ ایک قولِ ثقیل کی ذمہ داری آپ ﷺ پر عائد کی جائے گی۔

(4) تہجد کے لیے نصف شب کو اٹھ جانے کے دو فوائد بیان کیے گئے۔ (a) یہ نفسِ سرکش کو قابو میں رکھنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ (b) تہجد میں پڑھے جانے والے قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے موثر اور مناسب وقت ہے، کیونکہ دن میں دعوت وتبلیغ کی اہم ذمہ داری کا فریضہ انجام دینا ہوگا۔

﴿اِنَّ نَاشِئَةَ الَّیْلِ هِیَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِیْلًا﴾۔ (آیت:6)

2- آیات 9 تا 13 : دوسرے پیراگراف میں، مشکل حالات میں اللہ کو ﴿وکیل﴾ یعنی کارساز بنا کر، اُسی پر ﴿توکّل﴾ اور بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

صبر واستقامت کی تلقین کرکے، مخالفین سے خود نبٹ لینے کا مژدہ سناتے ہوئے تسلی دی گئی ہے۔ یہ آیات اِعلانِ عام کے بعد ﴿دورِ تکذیب﴾ میں نازل ہوئیں۔ ان میں ﴿مُکَذِّبِین﴾ یعنی جھٹلانے والوں کو دھمکی دی گئی کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بھاری بیڑیاں ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ (آیت 12) حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے (آیت 13)۔

3- آیات 14 تا 19 : تیسرے پیراگراف میں رسالتِ موسوی ؑ اور رسالت محمدی ﷺ کے درمیان مماثلت دکھائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قریش کے مشرک سرداروں کے رویے ، بالکل فرعون کی طرح آمرانہ ہیں۔

فرعون کے دنیاوی انجام اور روزِ قیامت کے اَحوال سے قریش کو ڈرایا گیا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ ؑ کی نافرمانی کی اور اللہ نے اسے پکڑ لیا۔ (آیت 16) اگر دوسروں نے بھی قومِ فرعون کی روش اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں کہ اُن کا انجام بھی اس سے مختلف ہو۔ قیامت کا دن اس قدر سخت ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ قرآن کی دعوت کو نصیحت بتا کر یہ بات واضح کی گئی کہ یہ دل کا سودا ہے۔ کسی پر زبردستی اسلام مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شخص کو مذہبی آزادی (Freedom of Choice) حاصل ہے۔ ﴿فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰی رَبِّهٖ سَبِیْلًا﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4- آیت 20 : آخری طویل آیت میں، نمازِ تہجد کی طوالت میں تخفیف کا حکم دیا گیا اور تخفیف کے اسباب کی وضاحت کر کے، چار چیزوں (نماز ، زکوٰۃ ، اِنفاق اور استغفار) کے اَحکامات دیے گئے ہیں۔

یہ آخری آیت دس (10) سال بعد، مدینۂ منورہ میں نازل ہوئی۔ (بروایت حضرت سعید بن جبیرؒ)

اللہ نے حکم دیا کہ اب تقریباً نصف شب کے بجائے، جس قدر آسانی سے ممکن ہو، تہجد میں قرآن پڑھنا کافی ہے۔

نمازِ تہجد میں تخفیف کے تین اسباب کی وضاحت کی گئی۔

(1) مریضوں کی رعایت کے لیے۔

(2) تلاشِ روزگار کے لیے سفر کرنے والوں کی رعایت کے لیے۔

(3) مجاہدین کی سہولت کے لیے۔

اس تخفیفی حکم کے بعد چار چیزوں کا حکم دیا گیا:

(1) پنجوقتہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔

(2) زکوٰۃ ادا کی جائے۔

(3) اللہ کی راہ میں اِنفاق کیا جائے (قرضِ حسنہ)۔

(4) استغفار کا اہتمام کیا جائے۔

مرکزی مضمون

دعوتِ توحید اور اقامتِ دین پر استقامت کے لیے، تعلق باللہ لازمی اور ضروری ہے، جس کے لیے تَهَجُّد ، ترتیلِ قرآن اور تَبَتُّل ، ایک مسلمان داعی اور مبلغ کے لیے تربیت کی پہلی منزل ہیں اور مخالفین کی اذیت رسانیوں کا علاج ہیں۔ ایک مسلمان نماز، زکوٰۃ، انفاق اور استغفار سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

74- سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ

آیات : 56 ...... مَکِّیَّة ...... پیراگراف : 7



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

1۔ سورت ﴿المُدَّثِّر﴾ کی ابتدائی سات آیات، سُورۃُ ﴿العَلَق﴾ کی ابتدائی 5 آیات کے بعد، دوسرے وحی میں نازل ہوئیں۔

رسول اللہ ﷺ پیدل جارہے تھے کہ آسمان کی طرف سے آواز سنی، سر اُٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا، جو غارِ حرا میں آیا تھا۔ آپ ﷺ نے گھر آکر ﴿دَثِّرُونِی﴾ کہتے ہوئے کمبل اوڑھ لیا۔ اس موقع پر سورت ﴿المدثر﴾ نازل ہوئی۔

(صحیح بخاری: کتاب التفسیر، باب تفسیر سورۃ المدثر، حدیث 4,638، عن جابر بن عبداللہ)

2۔ اس سورت کی درمیانی آیات 8 تا 25 اعلانِ عام کے بعد قریش کے سردار ولید بن مغیرہ کے بارے میں، غالباً چار (4)ھ میں نازل ہوئیں، جس نے قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہا تھا۔

3۔ آیات 26 تا 56 میں احوالِ آخرت سے تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ بھی اعلانِ عام کے بعد دوسرے دور میں نازل ہوئیں۔

سورۃُ المُدَّثِّر کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿المُزَّمِّل﴾ کی آیت 19 میں قرآن کو نصیحت کہا گیا تھا ﴿اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا﴾

یہاں اس سورت ﴿المُدَّثِّر﴾ میں بھی یہی بات ایک مختلف اسلوب سے دہرائی گئی ﴿كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ﴾۔ دونوں سورتوں میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ انسان کو مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اسلام زبردستی مسلط نہیں کیا جائے گا۔

2- یہاں ﴿سورۃ المُدَّثِّر﴾ میں قریش کی مجرم قیادت کے بارے میں بتادیا گیا کہ وہ روزِ قیامت اعتراف کرے گی ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ﴾ یقیناً ہم لوگ روزِ قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اگلی سورت ﴿القیامۃ﴾ میں عقلی، نقلی اور انفسی دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ قیامت واقع ہوکر رہے گی۔

3- اس سورت میں قریشی لیڈروں کی ضد اور تکبر کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ محمد ﷺ کو رسول تسلیم کرلینے کے بجائے ان کا ہر لیڈر یہ چاہتا ہے کہ اُس پر صحیفے نازل کیے جائیں اور اُسے بھی رسول بنایا جائے ﴿بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً﴾۔ اس سورت میں ولید بن مغیرہ کے رویوں کا تذکرہ ہے، جب کہ اگلی سورت میں ابوجہل کے رویوں کا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- رسول اللہ ﷺ کو قرآن کے ذریعے ﴿ اِنذار ﴾ کرنے یعنی خبردار کرنے کا حکم دیا گیا ﴿قُمْ فَاَنْذِرْ﴾ قرآن میں دوزخ کے عذاب کی تفصیل ہے۔ یہ بھی انسانوں کے لیے ایک تنبیہ اور Warning ہے ﴿نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴾ (آیت:36) قرآن کے بارے میں ولید بن مغیرہ کے خیالات کی تردید کی گئی کہ یہ ایک جادو یا انسانی کلام ہیں۔ قرآن ﴿ تَذْكِرَة ﴾ یعنی ایک نصیحت ہے۔

2- اس سورت میں جنتی ﴿ اَصحابُ الیمین ﴾ اور ﴿ مُجرِمین ﴾ کے درمیان موازنہ ہے۔ (آیات:38 تا 41)

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝ فِيْ جَنّٰتٍ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴾

سورۃ المدثر کا نظمِ جلی

سورۃ المُدَّثِّر سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 7: ابتدائی سات آیات پر مشتمل پہلے پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ لوگوں کو ﴿ اِنذار ﴾ کریں اور انہیں اسلام قبول نہ کرنے کے انجام سے ڈرائیں۔

آپ ﷺ کو چھ باتوں کا حکم دیا گیا۔ (1) اٹھیے اور خبردار کیجیے۔ (2) اپنے رب ہی کی عظمت و کبریائی کا اعلان کیجیے۔ (3) اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ (4) (شرک کی) ہر گندگی سے دور رہیے۔ (اپنی جدوجہد برابر جاری رکھیے)۔ (5) دعوتی کام کو زیادہ خیال کر کے اپنی سعی کو منقطع نہ کیجیے۔ (6) رب کی خاطر تمام مخالفتوں کے علی الرغم ثابت قدمی کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیے۔

2- آیات 8 تا 10: دوسرے پیراگراف میں اَحوالِ قیامت کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کی دعوت کا انکار کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے۔

روزِ قیامت کو آسان چیز خیال نہ کیا جائے۔ یہ دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔

3- آیات 11 تا 25: تیسرے پیراگراف میں قریش کے ایک بدباطن ناشکرے لیڈر ولید بن مغیرہ کے رویوں پر اللہ تعالیٰ کے عتاب کا ذکر ہے، جس نے قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہا تھا۔

ولید بن مغیرہ پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے کہ اُسے بہت سا مال دیا گیا۔ حاضر باش بیٹے دیے گئے۔ اُس کی سرداری کی راہ ہموار کی گئی، لیکن وہ اور زیادہ کا حریص ہے۔ ﴿ كَلَّا ﴾ کے ذریعے اُس کی غلط فہمیوں کی تردید کی گئی کہ اُسے مزید نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اُس کے خلاف فردِ جرم عائد کی گئی کہ وہ اللہ کی آیات سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ اُس نے سوچ کر ایک بات بنانے کی کوشش کی۔ لوگوں کے سامنے پیشانی سکیڑی۔ منہ بنایا۔ پلٹا اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن محض ایک

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

جادو ہے، جو پچھلے زمانوں سے چلا آرہا ہے۔ یہ خدائی کلام نہیں ہے، بلکہ انسانی کلام ہے۔ ﴿اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ○ اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ (آیت:24، 25) اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر سنائی گئی۔

4- آیات 26 تا 29 : چوتھے پیراگراف میں ولید بن مغیرہ جیسے لیڈروں کے اُخروی انجام اور احوالِ دوزخ کا تذکرہ ہے

جنہوں نے قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہا، انہیں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ دوزخ کی آگ نہ ان کو باقی رکھے گی، اور نہ چھوڑے گی بلکہ اُس کی کھال کو جھلس دے گی۔

5- آیات 30 تا 31 : پانچویں پیراگراف میں دوزخ کے اُنیس (19) کارکن فرشتوں کا ذکر ہے، جن کی تعداد آزمائش اور فتنہ بنادی گئی ہے۔

دوزخ پر اُنیس (19) کارکن فرشتے مقرر ہیں، کوئی وہاں سے راہِ فرار اختیار نہیں کرسکتا۔ اُنیس (19) کی تعداد پر منافق اور کافر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اہلِ ایمان صدقِ دل سے اِسے تسلیم کرلیتے ہیں۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے لشکروں کو خود اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ انسانوں کی یاددہانی کے لیے ہے۔

6- آیات 32 تا 48 : چھٹے پیراگراف میں چاند، رات اور صبح کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ انسان بھی چاند اور سورج کی طرح مختلف مراحل طے کرتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچنے والا ہے۔ شرک اور توحید پر مشتمل دعوتِ قرآن دو مختلف چیزیں ہیں

﴿مُجْرِمِين﴾ اور ﴿مُسْلِمِين﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔

دوزخ انسانوں کے لیے انذار یعنی تنبیہ ہے، تاکہ جو اس کے لیے تیاری کرنا چاہیں وہ کرلیں اور جو منہ موڑنا چاہتے ہیں، اُن پر حجت قائم ہوجائے۔ ایک اہم حقیقت کا انکشاف کیا گیا کہ روزِ قیامت ہر شخص، اپنے اعمال کے بدلے (عذاب) میں رہن ہوگا، سوائے اَصحَابُ الیَمِین کے، جو جنت میں ہوں گے۔

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ﴾ (آیت 38)۔ "ہر شخص، اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے۔"

● جنت کے خوش نصیب ﴿اَصحَابُ الیَمِین﴾ اور دوزخ کے مجرموں کے درمیان پیش آنے والے مکالمے کی تفصیل بیان کی گئی۔ جنتی پوچھیں گے:

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ﴾ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ (آیات:42)

دوزخی اعتراف کریں گے کہ چار (4) باتوں نے انہیں دوزخ میں پہنچادیا۔ وہ نماز کی صورت میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے اور طعام کی صورت میں مسکین بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ نام نہاد دانشور تھے اور منکرِ قیامت تھے۔

(1) ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ﴾ "ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔" (آیت 43)

(2) ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ﴾ "اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔" (آیت 44)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(3) ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ﴾ ”حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ، ہم بھی باتیں بناتے تھے۔

”(4) ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ﴾ ”اور ہم، روزِ قیامت کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔“ (آیت 46)

- لیکن ہماری موت کا وقت آ گیا۔ ہمیں اپنے باطل معبودوں کی سفارش پر بھروسہ تھا۔ کسی کی سفارش ہمارے کام نہ آسکی اور ہم اس طرح دوزخ میں آپہنچے ہیں۔

7- آیات 49 تا 56 :آخری پیراگراف میں قرآن کا تعارف ہے کہ یہ ﴿ تَذْكِرَه ﴾ یعنی ایک نصیحت اور یاددہانی ہے

ایک خوبصورت تشبیہ سے کافروں کو سمجھایا گیا کہ آخرت سے بے خوف لوگ، قرآن کی دعوت سے جنگلی گدھوں کی طرح بھاگتے ہیں، جب وہ شیر کو دیکھتے ہیں۔ کافروں کی غیر معقول شرطیں پوری نہیں کی جاسکتیں، ہر شخص کو رسول نہیں بنایا جاسکتا اور نہ ہر شخص کے پاس صحیفے بھیجے جاسکتے ہیں۔ مشرکینِ مکہ کی قیادت کے تین اہم جرائم بیان کیے گئے۔

(1) وہ قرآن سے فرار اور اعراض کا رویہ اختیار کر رہے ہیں ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ﴾ (آیت:49)۔

(2) اِن کا ہر لیڈر محمد ﷺ کو رسول تسلیم کرنے کے بجائے یہ چاہتا ہے کہ اُسے بھی رسول بنا کر اُس پر بھی صحیفے نازل کیے جائیں۔ ﴿بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً﴾ (آیت:52)۔

(3) اِن کا ہر لیڈر خوفِ آخرت سے بے نیاز ہے ﴿لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ﴾ (آیت:53)۔

آخر میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ قریش کے لیڈر کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ کامیاب و کامران ہوں گے۔

ہرگز نہیں! یہ (قرآن) تو ایک ﴿تَذْكِرَه﴾ یعنی نصیحت ہے۔

اللہ نے لوگوں کو مذہبی آزادی (Freedom of Faith) دے رکھی ہے۔

اب جس کا جی چاہے، اس سے سبق حاصل کر لے۔

اللہ اس کا اہل اور حق دار ہے کہ اُس سے تقویٰ کیا جائے اور اللہ اس کا اہل اور قادر ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو بخش دے۔ اللہ کی توفیق سے آخرت کا خوف رکھنے والے نیک لوگ ہی مغفرت کے مستحق ہوں گے۔

﴿هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ (آیت 56)

مرکزی مضمون

﴿قُمْ فَاَنْذِرْ﴾ اٹھیے! اور ڈرایئے! قریش کے سرداروں پر واضح کر دیجیے کہ قرآن ایک ﴿تَذْكِرَه﴾ نصیحت ہے۔ یہ نہ تو جادو ہے اور نہ انسانی کلام۔ ﴿اَصْحَابُ الْيَمِيْن﴾ جنت میں جائیں گے اور اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے والے متکبر ﴿مُجْرِمِيْن﴾ دوزخ میں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

75- سُورَةُ الْقِيَامَةِ

آیات : 40 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 7

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

سورت ﴿ القیامہ ﴾ مکی دور کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی ، یہ وہی زمانہ تھا ، جب سورت ﴿ الدھر ﴾ اور سورت ﴿ النبا ﴾ نازل ہوئیں۔ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورت ﴿ القیامہ ﴾ کا پہلا اور آخری حصہ اعلانِ عام کے بعد 4 نبوی میں نازل ہوا اور درمیانی حصہ آغازِ نبوت کے وقت۔

1۔ آیات 1 تا 15، اعلانِ عام کے بعد نازل ہوئیں، جب قریش کے لیڈر قیامت کا انکار کرتے ہوئے بطورِ استہزاء قیامت کا وقت پوچھ رہے تھے۔ ﴿يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴾ (آیت:6)

2۔ آیات 16 تا 19، آغازِ نبوت کے زمانے ہی میں نازل ہوئیں، جب رسول اللہ ﷺ پر وحی کا پہلا پہلا تجربہ ہو رہا تھا۔

3۔ آیات 20 تا 40، اعلانِ عام کے بعد نازل ہوئیں۔

4۔ آیات: 31 تا 35، ابوجہل کے بارے میں ہیں، جس نے ﴿ تصدیق ﴾ کے بجائے ﴿ تکذیب ﴾ سے کام لیا۔

سورۃ القیامۃ کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿ المدّثر ﴾ میں، ولید بن مغیرہ جیسے سردارانِ قریش کو آخرت اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ یہاں اس سورت ﴿ القیامۃ ﴾ میں ، ابوجہل جیسے سرداروں کو تکذیب کی روش چھوڑ کر، ضمیر کی آواز پر توجہ دینے کی دعوت دی گئی ہے۔امکانِ آخرت کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔

2۔ پچھلی سورت ﴿ المدّثر ﴾ میں، اِن لیڈروں کے انکار کا سبب بتایا گیا کہ یہ خوفِ آخرت سے بے نیاز ہیں ﴿ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴾ (آیت:53) اور یہاں اس سورت ﴿ القیامۃ ﴾ میں اس مرض کی تشخیص ﴿ بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ٥ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴾ کے الفاظ سے کی گئی۔ یہ ﴿ عاجلہ ﴾ یعنی نقدِ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ (آیت:20،21)

3۔ اگلی سورت ﴿ الدھر ﴾ میں اِن ﴿ آثم ﴾ یعنی گنہگار اور ﴿ کفور ﴾ یعنی ناشکری قیادت کی اطاعت کرنے سے روک دیا گیا۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿ النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ ﴾ ملامت کرنے والا نفس یعنی ضمیر (آیت:2)۔ یہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے اندر موجود ایک ایسی قوت ہے، جو انسان کو برے کام کرنے پر ملامت کرتی رہتی ہے، لیکن جب انسان ضمیر کی اس آواز

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کو دبا کر پوری طرح کچل دیتا ہے تو پھر یہ قوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اُس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ بُرا کام کر رہا ہے۔

2- ﴿ اَوْلٰی ﴾ یہ لفظ چار (4) مرتبہ ابوجہل کے نامناسب رویوں کے بارے میں افسوس اور رنج کے ساتھ بطورِ تبصرہ استعمال کیا گیا ہے۔ ﴿ اَوْلٰی لَكَ فَاَوْلٰی ﴾ (آیت:34)۔ ﴿ثُمَّ اَوْلٰی لَكَ فَاَوْلٰی ﴾ (آیت:35)۔

3- سورت کا اختتام کئی سوالوں پر کیا گیا ہے، تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لے کر، اپنے ضمیر کو ٹٹولیں اور آخرت کے قائل ہو جائیں۔ ﴿ اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ ؟ اَلَیْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓی اَنْ یُّحْیِـۧ الْمَوْتٰی ؟ ﴾ (آیت:40)

سورۃ القیامۃ کا نظمِ جلی

سورۃ القیامۃ سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 5 : ابتدائی پانچ آیات پر مشتمل پہلے پیراگراف میں امکانِ قیامت کے لیے ایک ﴿ نفسی دلیل ﴾ پیش کی گئی ہے

(a) سب سے پہلے ملامت کرنے والے نفس کی گواہی یعنی ضمیر کی شہادت پیش کی گئی ہے۔ دنیا کا ہر انسان خیر و شر، نیکی بدی اور صحیح و غلط کا قائل ہے۔ وہ لوگ جو کسی مذہب اور کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی جزاء و سزا کے قائل ہیں۔ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چور کو چوری کی سزا ملنی چاہیے۔ ملک میں پولیس اور عدالتوں کا نظام ہونا چاہیے۔ مجرموں کو جیل میں ڈالا جانا چاہیے۔ غرض جب انسانی نفس نیکی اور بدی اور اُن کی جزا اور سزا دونوں کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اُسے آخرت کی جزا اور سزا کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ ﴿وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾

(b) اس کے بعد اس حقیقت کو کھولا گیا ہے کہ ایک منکرِ قیامت، آخرت کی جزاء و سزا کو ناممکن اور محال سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کو سمجھایا گیا ہے کہ خالقِ کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے، جو نہ صرف ہڈیوں کو بلکہ انگلیوں کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ ﴿بَلٰی قٰدِرِیْنَ عَلٰٓی اَنْ نُّسَوِّیَ بَنَانَهٗ﴾۔

(c) تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اِنکارِ قیامت کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان اپنی بدعملی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگر وہ آخرت کی سزا کو تسلیم کرلے گا تو لازماً اسے گناہوں سے اور فسق و فجور سے پرہیز کرنا ہوگا۔ چونکہ وہ انہیں ترک کرنا نہیں چاہتا اس لیے وہ اپنی ضمیر کی آواز پر پردہ ڈال کر آخرت کا انکار کر دیتا ہے۔

﴿بَلْ یُرِیْدُ الْاِنْسَانُ لِیَفْجُرَ اَمَامَهٗ﴾

2- آیات 6 تا 15 : دوسرے پیراگراف میں اس منکرِ قیامت کے رویے پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو فسق و فجور کو ترک کرنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ وہ دعوت کو مسترد کرنے کے لیے الٹا یہ سوال کر دیتا ہے کہ یہ تو بتاؤ آخر یہ قیامت کب آئے گی؟

(a) صحیح بات یہ ہے کہ خوفِ قیامت رکھنے والا شخص قیامت کی تیاری کرتا ہے اور خوفِ قیامت سے بے نیاز آدمی محض

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ٹالنے کے لیے بے سروپا سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کو خبردار کیا گیا ہے کہ یہ وہی دن ہوگا۔ جب دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ یعنی کائنات کا موجودہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

اُس وقت انسان فریاد کرے گا کہ میرے لیے فرار کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اُسے اپنے رب کے آگے ٹھہرنا ہوگا۔ اُس دن اُس کو اُس کے سارے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔

(b) اس کے بعد ایک اہم نفسیاتی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ انسان اپنے نفس کے آگے شرمندہ ہوتا رہتا ہے، اگرچہ وہ لوگوں کے سامنے بہانے تراشتا ہے۔ وہ اپنے نفس اور ضمیر کے آگے مجرم ہی رہتا ہے۔

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ٥ وَّلَوْ اَلْقٰی مَعَاذِيْرَهٗ﴾ (آیت: 14، 15)

3- آیات 16 تا 19 : تیسرا پیراگراف دراصل ایک ﴿جملہ معترضہ﴾ پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی ہے۔

(a) آپؐ نبوت کے ابتدائی ایام میں وحی کو یاد کرنے کے لیے وحی سن کر تیزی سے زبان کو حرکت دیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپؐ کا کام محض ایک مرتبہ سن لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اُسے آپ کے قلبِ مبارک پر محفوظ کر دے گا۔ البتہ اس کا اتباع کرنا آپ ﷺ کی ذمہ داری ہے۔

(b) دو (2) اہم باتوں کی طرف نشاندہی کی گئی۔ اولاً یہ کہ جمعِ قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ﴿اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ﴾ ثانیاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف قرآن کے الفاظ کے نزول کی تکمیل کرے گا، بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت اور احادیثِ صحیحہ و ثابتہ کی صورت میں اس قرآن کی وضاحت اور تشریح کو بھی یقینی بنائے گا۔ ﴿ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ﴾

4- آیات 20 تا 25: چوتھے پیراگراف میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے کہ ﴿مؤمنینِ قیامت﴾ اور دنیادار ﴿منکرینِ قیامت﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔

(a) سب سے پہلے آخرت کا انکار کرنے والے بدکردار اور نفس و ضمیر کی آواز کو دبانے والے لوگوں کی غلط فہمی کو ﴿كَلَّا﴾ کے لفظ سے دور کیا گیا کہ وہ ہرگز ہرگز اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ کامران و کامیاب ہوں گے۔ وہ اس غلط فہمی میں بھی نہ رہیں کہ وہ دین دار اور خدا پرست ہیں، بلکہ وہ نقدِ دنیا کی محبت میں گرفتار ایسے لوگ ہیں، جو آخرت کی جزا و سزا سے بے نیاز ہو کر من مانی بے لگام زندگی گذار رہے ہیں۔

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ٥ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ﴾ (آیت: 20، 21)

(b) ﴿اللہ کا دیدار﴾ اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تروتازہ ہوں گے اور وہ اپنے پروردگار کے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دیدار سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس کے برخلاف کچھ دوسرے چہرے اداس ہوں گے۔ اُنہیں یقین ہو جائے گا کہ اب اُن کے ساتھ نہایت برا سلوک ہونے والا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آخرت کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آخرت کے خوف کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرنے والوں کا انجام بدکردار فاسق و فاجر افراد کی طرح ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔

5- آیات 26 تا 30: پانچویں پیراگراف میں ﴿آخرت کے سفر کے مناظر﴾ سے انسان کو ڈرایا گیا ہے۔

﴿عالمِ نزع﴾ کی منظر کشی کی گئی، جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ ﴿کَلَّا﴾ کے لفظ سے اس غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہے گا۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اُسے یہ سوچنا چاہیے کہ اُس وقت اُس کا کیا ہوگا؟ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور آدمی جھاڑ پھونک کی کوشش کرے گا۔ انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس فانی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آگیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی گھڑی آپہنچی ہے۔

6- آیات 31 تا 35: چھٹے پیراگراف میں انسان کے ضمیر سے پوچھا گیا ہے کہ ﴿کیا وہ ابوجہل کی طرح﴾ اسلام کی تصدیق کے بغیر اور نیک اعمال کیے بغیر دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے؟

﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰی﴾ کے الفاظ سے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ آخرت کے اِن پُرزور اور محکم دلائل کے باوجود ابوجہل نے نہ تو اسلام کی ﴿تصدیق﴾ کی اور نہ نماز پڑھی۔ بلکہ اُس نے ﴿تکذیب﴾ کی۔ جھٹلایا اور رعونت سے منہ موڑ کر اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑا۔ اس پر تبصرہ کیا گیا کہ بدقسمتی اور بدنصیبی کی یہ ادا اِسی کو زیب دیتی ہے۔ نہایت افسوس سے یہ جملہ چار (4) مرتبہ دہرایا گیا۔ ﴿اَوْلٰی لَكَ فَاَوْلٰی ۝ ثُمَّ اَوْلٰی لَكَ فَاَوْلٰی﴾ 'ہاں! یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے!'' (آیت 35)

7- آیات 36 تا 40: آخری پیراگراف میں چند سوالوں پر مشتمل اِمکانِ قیامت کی ﴿عقلی و نفسی دلیلیں﴾ ہیں۔

(a) سب سے پہلے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟

﴿اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُّتْرَكَ سُدًی﴾ (آیت 36)

اُس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ گناہوں پر باز پرس نہیں ہوگی؟

(b) پھر ﴿انفسی دلیل﴾ ہے۔ اپنے نفس میں جھانک کر سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہیں تھا؟ جو رحمِ مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر کیا اللہ تعالیٰ نے اُسے ایک لوتھڑا بنا کر ایک بھرپور آدمی میں تبدیل نہیں کیا؟ پھر کیا اس کی نسل سے لڑکے اور لڑکیاں نہیں پیدا کیے؟

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c) آخر میں ﴿عقلی دلیل﴾ پر مشتمل یہ سوال کیا گیا کہ حقیر نطفے سے ایک بھرپور انسان کو پیدا کرنے والا خالق اللہ، کیا مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ﴿اَلَیۡسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤی اَنۡ یُّحۡیِۦَ الۡمَوۡتٰی؟﴾ (آیت 40)۔ یہ اثباتِ قیامت کی دلیل ہے۔

مرکزی مضمون

قیامت برحق ہے، قیامت کی دلیل خود انسانی نفس وضمیر یعنی ﴿نفسِ لوّامۃ﴾ کی شکل میں موجود ہے۔ عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ فسق وفجور میں مبتلا لوگ، دنیا کی نقد آسائشوں میں کھو کر اور اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر آخرت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اہلِ ضمیر ﴿عاجلہ﴾ کی محبت سے بچتے ہوئے آخرت پر ایمان لا کر، اپنے عملِ صالح سے قیامت کی تیاری کرتے ہیں۔ قائلینِ قیامت اور منکرینِ قیامت کا انجام مختلف ہوگا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

76- سُوْرَةُ الدَّهْرِ

آیات : 31 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 5



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زمانۂ نزول

1۔ سورۃُ ﴿الدَّھر﴾ کی، ابتدائی بائیس (22) آیات آپ ﷺ پر قیامِ مکہ کے پہلے دور (0 تا 3 نبوی) میں نازل ہوئیں، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جاری تھی۔ یہ وہی دور تھا جب سُورۃُ ﴿القِیامَة﴾ اور سُورۃُ ﴿النَّبا﴾ کا نزول ہوا۔

2۔ سورۃ الدھر کی آخری نو (9) آیات اعلانِ عام کے بعد غالباً چار (4) نبوی میں نازل ہوئیں۔ قریشی قیادت پر فردِ جرم عائد کی گئی کہ یہ ﴿آثِم﴾ اور ﴿کَفُوْر﴾ ہیں۔ ان لیڈروں کی اطاعت سے منع کر دیا گیا ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا﴾ (آیت:24)۔

ان لیڈروں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ﴿عَاجِلَة﴾ یعنی نقد کی محبت میں گرفتار ہیں اور روزِ قیامت کی ہولناکی سے غافل ہیں۔ ﴿اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا﴾ (آیت:27)

خصوصیت

1۔ سورۃ الدھر میں، کفر کے انجام کو اجمالی طور پر تین لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، جب کہ شکر گذاری کے انعامات کا ذکر تفصیلاً موجود ہے۔

2۔ اس سورت میں نیک اور بدکردار قیادت کا موازنہ بھی ہے۔ نیک قیادت اللہ کی محبت اور خوفِ آخرت کے ماتحت مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہے، جب کہ بدکردار فاسق و فاجر قیادت (Leadership) خود پرست، دنیادار اور آخرت فراموش ہوتی ہے۔

سُورۃُ الدَّھر کی فضیلت

رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سُورۃُ السَّجدَة اور ﴿هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ﴾ پڑھا کرتے تھے۔

(صحیح مسلم: کتاب الجمعة، حدیث 2,068، عن عبداللہ بن عباسؓ)

سُورۃُ الدَّھر کا کتابی ربط

1۔ سورت ﴿المُدَّثِّر﴾ میں ولید بن مغیرہ کے منفی رویوں کا ذکر تھا۔ اس کے بعد سورت ﴿القِیامَة﴾ میں ابوجہل کی تکذیب کا حوالہ تھا۔ یہاں سورۃ ﴿الدَّھر﴾ میں ان بدکردار فاسق و فاجر گناہ گار ﴿آثِم﴾ اور ناشکرے ﴿کَفُوْر﴾ لیڈروں کی اطاعت سے اجتناب کا حکم ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2۔ پچھلی سورت ﴿القیامۃ﴾ میں ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۝ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ﴾ (آیات: 21،22) کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔

یہاں سورۃ ﴿الدھر﴾ میں ﴿اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا﴾ (آیت: 27) کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ دونوں سورتوں میں ان کی دنیا پرستی اور آخرت کی جواب دہی سے بے نیازی کی تصویر کھینچی گئی ہے۔

3۔ اگلی سورت ﴿المرسلات﴾ میں دنیادار مادّہ پرست منکرینِ قیامت لیڈروں کو، امکانِ آخرت کے آفاقی، انفسی اور تاریخی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اسلام کا صحیح راستہ ﴿سبیل﴾:

سورۃ الدھر میں ﴿سبیل﴾ کا لفظ ابتداء میں بھی آیا ہے اور آخر میں بھی ﴿السَّبِيْلَ، سَبِيْلًا﴾ (آیات 3، 29)

انسان کو مذہب کی آزادی کا بنیادی حق (Freedom of Faith) دیا گیا ہے۔

(a) انسان سے کہا گیا کہ اب اُس کو مذہبی آزادی حاصل ہے، چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے یا پھر ناشکرا بن کر۔

﴿اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا﴾ (آیت: 3)

(b) اسی بات کو آخر میں بھی دہرایا گیا ہے۔ یہی اس سورت کا مرکزی مضمون ہے اور یہ قرآن مجید کا خاص اُسلوب ہے۔

﴿اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا﴾ (آیت: 29)

2- سورۃ الدھر میں نیک لوگوں کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

جیسے: شکر گذار ﴿شَاكِر﴾ (آیت 3)، نیک اور باوفا ﴿اَبْرَار﴾، اللہ کے خاص نیک اور باعمل بندے ﴿عِبَادُ اللّٰه﴾

3- اس سورت میں بدکار لوگوں کے لیے بھی بہت سے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔

جیسے: ناشکرے ﴿كَافِر﴾ اسمِ فاعل (آیت 3)، ﴿كَفُوْر﴾ اسمِ صفت (آیت 24) اور ﴿ظَالِمِيْن﴾ (آیت 31).

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سُوْرَۃُ الدَّھر کا نظمِ جلی

سُوْرَۃُ الدَّھر پانچ (5) پیرگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 4 : پہلے پیراگراف میں انسان کی حیثیت اوراس کے اختیارِ خیر وشر کا بیان ہے۔

وہ ﴿ شَاکِر ﴾ بھی بن سکتا ہے اور ﴿ کَافِر ﴾ یعنی ناشکرا بھی۔

انسان کا عرصۂ دراز تک کوئی نام ونشان تک نہ تھا، وہ ایک شیء غیر مذکور تھا۔ (آیت:1)

اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اسے دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں عطا فرمائیں۔(آیت:2)

پھر اسے راہِ ہدایت (السَّبِیــــل) دکھائی تاکہ اسے آزما کر دیکھے کہ وہ 'کفر' کا راستہ اختیار کرتا ہے یا 'شکر' کا۔ اسے آزادیٔ اختیار سے نوازا گیا ہے۔ (آیت:3) صحیح استعمال کی وضاحت آیت:29 میں بھی کی گئی ہے۔

ناشکری اور کفر کرنے والوں کا انجام:

﴿ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْکٰفِرِیْنَ سَلٰسِلَا وَاَغْلٰلًا وَّسَعِیْرًا ﴾ (آیت:4)

جو ناشکری اور کفر کرے گا، اس کے لیے طوق، سلاسل اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ (آیت:4)

2- آیات 5 تا 22: دوسرے پیراگراف میں شاکرین اَبرار کی دس (10) خصوصیات اور پندرہ (15) انعامات کا ذکر ہے۔

شاکرین ﴿اَبرار﴾ کی دس (10) خصوصیات:

1- اَبرار ، شاکر (شکرگزار) ہوتے ہیں۔ (آیت:5)

2- اَبرار ، ﴿عِبَادُ اللّٰہِ﴾ ہوتے ہیں۔ (آیت:6)

3- اَبرار ، اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں۔ ﴿ یُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ ﴾ (آیت:7)

4- اَبرار ، قیامت کی ہمہ گیر ہولناکی سے ڈرتے ہیں۔ ﴿وَیَخَافُوْنَ یَوْمًا کَانَ شَرُّہٗ مُسْتَطِیْرًا ﴾ (آیت:7)

5- اَبرار ، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

﴿وَیُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّہٖ مِسْکِیْنًا وَّیَتِیْمًا وَّاَسِیْرًا ﴾ (آیت:8)

6- اَبرار ، صرف اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کھلاتے ہیں۔ ﴿اِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْہِ اللّٰہِ ﴾ (آیت:9)

7- اَبرار ، نیکی کرنے کے بعد، بدلے کی توقع نہیں رکھتے۔

﴿ لَا نُرِیْدُ مِنْکُمْ جَزَآءً وَّلَا شُکُوْرًا ﴾ (آیت:9)

8- اَبرار کا نفس، نیکی کرنے کے بعد شکریے کا طالب بھی نہیں ہوتا۔ (آیت:9)

9- اَبرار ، قیامت کے دن کی ترشی اور اکھڑپن سے ڈرتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ویخافون یَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِیْرًا﴾ (آیت:10)

10- اَبرار، صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔

﴿وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِیْرًا﴾ (آیت:12)

شاکرینِ اَبرار کے پندرہ (15) انعامات:

1- اَبرار، ایسی شراب پئیں گے، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ (آیت:7)

2- وہ جدھر چاہیں گے، شراب کے چشموں سے شاخ نکال لیں گے۔ ﴿یُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِیْرًا﴾ (آیت:6)

3- اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کی آفت سے بچالے گا۔

﴿فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْیَوْمِ﴾ (آیت:11)

4 اللہ تعالیٰ انہیں تازگی اور سرور سے نوازے گا۔ ﴿وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا﴾ (آیت:11)

5- اللہ تعالیٰ انہیں باغ اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ ﴿وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِیْرًا﴾ (آیت:12)

6- جنت میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ﴿مُّتَّكِـِٕیْنَ فِیْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ﴾ (آیت:13)

7- جنت میں، موسم خوشگوار اور معتدل ہوگا، نہ گرمی اور نہ سردی۔

﴿لَا یَرَوْنَ فِیْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِیْرًا﴾ (آیت:13)

8- جنت کے میوے، اَبرار کی دسترس میں ہوں گے۔

﴿وَدَانِیَةً عَلَیْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِیْلًا﴾ (آیت:14)

9- ان کے لیے چاندی اور شیشے کے پیالے گردش میں ہوں گے۔

﴿وَیُطَافُ عَلَیْهِمْ بِاٰنِیَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ﴾ (آیت:15)

10- ایک چشمے ﴿سَلْسَبِیْل﴾ سے شراب پلائی جائے گی، جس میں ﴿زنجبیل﴾ (ادرک) کی آمیزش ہوگی۔

﴿وَیُسْقَوْنَ فِیْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِیْلًا﴾ (آیت:17)

11- موتی جیسے، ہمیشہ جوان رہنے والے تجربہ کار اور مستعد لڑکے گردش میں ہوں گے۔

﴿وَیَطُوْفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ﴾ (آیت:19)

12- ہر طرف عظیم نعمت اور عظیم بادشاہت نظر آئے گی۔

﴿وَاِذَا رَاَیْتَ ثَمَّ رَاَیْتَ نَعِیْمًا وَّمُلْكًا كَبِیْرًا﴾ (آیت:20)

13- سبز سندس اور استبرق کا بالائی لباس ہوگا، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔

﴿وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ (آیت:21)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

14- پروردگار، پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ﴿وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا﴾ (آیت:21)

15- اَبْرار (شکرگزاروں) کی سرگرمیاں اور ثابت قدمی مقبول ہوگی، اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔

﴿وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا﴾ (آیت:22)

3- آیات 23 تا 26: تیسرے پیراگراف میں رسول اللہ ﷺ کے لیے ہدایات ہیں۔

صبر، نماز اور صبح وشام تسبیح کا حکم دیا گیا اور آثِم (گناہ گار) اور ﴿کَفُور﴾ یعنی ناشکری قیادت کی بات نہ ماننے کا حکم بھی دیا گیا۔

رسول اللہ ﷺ کو مناسب وقت تک انتظار اور صبر کرنے کی ہدایت دی گئی۔ (آیت 23)

قریش کی بدکار قیادت کے آگے نہ جھکنے کا حکم دیا گیا۔ ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا﴾ (آیت:24)

4- آیات 27 تا 28: چوتھے پیراگراف میں کافر ومنکر قیادت کی دنیا پرستی اور آخرت فراموشی کا بیان ہے۔

کافرین ومنکرین کے اِنکار کی بنیادی وجہ، نقد اور ﴿عَاجِلَة﴾ کی محبت ہے:

منکرین جلدی حاصل ہونے والی چیز عَاجِلَة (نقد دنیا) سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ (آیت نمبر 27)

منکرین کو دھمکی دی گئی کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے، وہی خدا ان کی شکلیں بگاڑ سکتا ہے۔

5- آیات 29 تا 31: آخری پیراگراف میں بتایا گیا کہ روزِ قیامت ﴿شَاكِرِين﴾ اور ﴿كَافِرِين﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔

یہ قرآن ایک کلمۂ نصیحت ﴿تذکرہ﴾ ہے، اب جس کا جی چاہے، اسے قبول کرکے اپنے رب کا راستہ ﴿السَّبِيل﴾ اختیار کر لے۔ ﴿اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا﴾ (آیت:29)

یہاں آیت نمبر 3 کے لفظ ﴿السَّبِيل﴾ کی مزید وضاحت کی گئی ہے، انسان کو خیر وشر کی آزادی کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

آخر میں ظالموں اور ناشکروں کو دھمکی دی گئی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔

مرکزی مضمون

انسان کو آزادیٔ خیر وشر حاصل ہے، اُس کو ﴿شکرگذار﴾ بن کر آزادی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اسلام کا صحیح راستہ ﴿السَّبِيل﴾ اختیار کرنا چاہیے۔ انعامات ملیں گے۔ بدکردار ناشکری قیادت کی اطاعت سے بچنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

77- سُوْرَةُ الْمُرْسَلاتِ

آیات : 50 ...... مَکِّیَّة" ...... پیراگراف : 5



زمانۂ نزول:

سورت ﴿المُرسَلات﴾ قیامِ مکہ کے پہلے دور (0 تا 3 نبوی) میں آپ ﷺ پر نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ یہ منیٰ کے غار میں نازل ہوئی۔ (صحیح بخاری)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ المرسلات کے فضائل

یہ اُن سورتوں میں سے ایک ہے، جس نے رسول اللہ ﷺ کو بوڑھا کر دیا تھا۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾

''سورۃ ھود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبأ اور سورۃ التکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔''

(جامع ترمذی: کتاب التفسیر، باب سورۃ الواقعہ، حدیث 3,297، صحیح)

سورۃ المرسلات کا کتابی ربط

1- پچھلی سورۃ ﴿الدھر﴾ میں ﴿آثم و کفور﴾ یعنی گنہگار اور ناشکری قیادت کی دنیا پرستی اور آخرت فراموشی کا نقشہ ﴿إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾ سے کھینچا گیا تھا۔ یہاں ﴿سورۃ المرسلات﴾ میں، ایک طرزِ اسلوب سے یہی بات دہرائی گئی کہ آخرت کو نہ ماننے والی یہ قیادت بدکردار اور ﴿مجرم﴾ ہے۔ ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ﴾ (آیت:46)

2- سورۃ المرسلات میں ﴿مؤمنین ومحسنین ومتقین﴾ کے مقابلے میں ﴿مکذبین ومجرمین﴾ کے درمیان موازنہ ہے، جب کہ اگلی سورت النبا میں ﴿متقین﴾ اور منکرِ آخرت ﴿طاغین﴾ کے درمیان تقابل ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں ایک آیت دس (10) مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ ''تباہی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔''

یہ آیتِ ترجیع ہے۔ منکرینِ آخرت کو اس تکرار کے ذریعے یہ سمجھایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی دعوت کی ﴿تصدیق﴾ کرنے ہی میں ان کی بھلائی ہے اور اس کی ﴿تکذیب﴾ ان کی تباہی، ہلاکت اور بربادی میں اضافے کا سبب بنے گی۔

2- اس سورت کا اختتام ایک سوالیہ آیت پر ہوا ہے۔ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ؟﴾ (آیت:50) آفاقی، تاریخی، انفسی دلائل کے ذریعے ان لیڈروں پر اتمامِ حجت کر کے پوچھا گیا ہے کہ اب قرآن جیسے معجزانہ کلام کے بعد کون سا ایسا کلام ہو سکتا ہے، جس سے متاثر ہو کر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ المرسلات کا نظمِ جلی

سُورَۃُ المُرسَلات پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 7: پہلے پیراگراف میں ہواؤں کی آفاقی دلیل سے جزاء وسزا اور امکانِ آخرت پر استدلال کیا گیا ہے۔

اس میں ایک تاریخی دلیل بھی پوشیدہ ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں سے کئی قوموں کو ہلاک کیا۔ جیسے ہودؑ کی قومِ عاد۔ ہواؤں کی شہادت اور گواہی ہے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پے در پے ہوائیں بھیجتا ہے، جو طوفانی رفتار سے چلتے ہوئے گرد وغبار اڑاتی ہیں۔ بادلوں کو پھیلاتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب یا ثواب نازل ہوتا ہے۔ ہواؤں کے دو پہلو ہیں۔ جزا کا پہلو اور سزا کا پہلو۔ ہوائیں لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ انہیں ڈراتی ہیں۔ متنبہ اور خبردار کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تم سے جو وعدہ کیا جارہا ہے، وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ یعنی قیامت۔ ﴿اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ﴾ (آیت:7)

2- آیات 8 تا 15: دوسرے پیراگراف میں قیامت کی ہولناکی کی تصویر دکھا کر، منکرینِ قیامت کی تخویف کی گئی ہے۔

جب ستارے ماند پڑجائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آپہنچے گا تو یہی دن ﴿یومُ الفصل﴾ ہوگا۔ فیصلے کا دن۔ اُس دن رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو جھٹلانے والوں کی شامت آئے گی۔

3- آیات 16 تا 28: تیسرے پیراگراف میں ﴿تاریخی دلیلیں﴾ بھی ہیں، ﴿آفاقی دلیلیں﴾ بھی ہیں اور ﴿ربوبیت کی دلیلیں﴾ بھی ہیں۔

تینوں قسم کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت کرتے ہوئے امکانِ قیامت پر استدلال کیا گیا ہے۔

اس کے تین ذیلی پیراگراف ہیں۔

(a) ﴿تاریخِ ہلاکتِ اَقوام سے قیامت پر استدلال﴾

تاریخ سے استدلال کیا گیا کہ کیا اللہ نے مجرم قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ اسی طرح وہ مستقبل میں بھی مجرم قوموں کو ہلاک کرتا رہے گا اور بالآخران مجرم اور جھٹلانے والوں کی ہلاکت ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد وہی آیتِ ترجیع ہے۔

﴿وَیْلٌ" یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُکَذِّبِیْنَ﴾ تباہی ہے! اُس دن، جھٹلانے والوں کے لیے! (آیت 19)

(b) ﴿دلائلِ انفس سے قیامت پر استدلال﴾

پھر انسان کو اپنے نفس میں جھانک کر اپنے ماضی پر غور کرتے ہوئے، اپنے مستقبل پر یعنی آخرت پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اللہ کی قدرت اور حکمت ثابت کی گئی کہ اس نے ایک حقیر نطفے سے ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرایا۔ ایسی عظیم الشان قدرت رکھنے والی ہستی قیامت کو برپا کرنے کی پوری قوت وقدرت رکھتی ہے۔ لوگوں کو آخرت کی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

زندگی پر ایمان لا کر صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ورنہ آخرت کو جھٹلانے والوں کی تباہی لازمی ہے۔ اس کے بعد وہی آیتِ ترجیع ہے۔

(c) ﴿اسبابِ ربوبیت اور آفاقی دلائل سے قیامت پر استدلال﴾

تاریخی اور انفسی دلائل کے بعد ربوبیت کے دلائل رکھے گئے۔ انسانی ضمیر سے پوچھا گیا کہ اُنھیں زمین پر، بلند و بالا پہاڑوں پر اور میٹھے پانی کی نعمت پر غور کر کے کیا اللہ کی قدرت اور طاقت کو تسلیم نہیں کر لینا چاہیے؟ اور اُس کی نعمتوں پر شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ ورنہ قیامت کے دن ناشکروں کی ہلاکت ہو کر رہے گی۔ پھر اس کے بعد وہی آیتِ ترجیع دہرائی گئی ہے۔

4- آیات 29 تا 40 :چوتھے پیراگراف میں، دوزخ کے عذاب کی نوعیت سے، روزِ قیامت مُکَذِّبین کی بے بسی کی تصویر سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت وطاقت سے منکرینِ قیامت کی تخویف کی گئی ہے۔ اس کے بھی تین ذیلی پیراگراف ہیں۔

- دوزخ کے عذاب کی نوعیت سے تخویف:

سب سے پہلے دوزخ کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس کے سائے بھی تکلیف دے ہوں گے۔ نہ وہ ٹھنڈک پہنچائیں گے اور نہ آگ کی لپٹ سے بچائیں گے۔ دوزخ کی آگ کے بلند شعلوں کو اونچے محل سے تشبیہ دی گئی۔ اچھلتے ہوئے شعلوں کو زرد اونٹوں سے تشبیہ دی گئی۔ وہ دوزخ جس کا فیصلہ روزِ قیامت اُس کے جھٹلانے والوں کے حق میں ہوگا۔ پھر اُس کے بعد وہی آیتِ ترجیع دہرائی گئی ہے۔ اس دن قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کی شامت آئے گی اور وہ دوزخ میں داخل ہو کر رہیں گے۔

- روزِ قیامت مُکَذِّبین کی بے بسی سے تخویف:

اگلے ذیلی پیراگراف میں دوزخ کا نقشہ کھینچنے کے بعد جھٹلانے والوں کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ روزِ قیامت جھٹلانے والے نہ تو بول سکیں گے اور نہ انہیں معذرت کا موقع دیا جائے گا۔ کوئی عذر اور بہانہ بھی تراش نہیں سکیں گے۔ ﴿هٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُوْنَ o وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ﴾ (آیات:35، 36) پھر وہی آیتِ ترجیع ہے۔

یہ دن جھٹلانے والوں کی ہلاکت و بربادی کا ہوگا۔ ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ﴾ (آیت 37)

- روزِ قیامت اللہ کی قدرت سے تخویف:

آخری ذیلی پیراگراف میں اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ وہ فیصلے کے دن تمام اگلوں اور پچھلوں کو جمع کر کے رہے گا۔ تمام انسان بے بس ہوں گے۔ انسانوں کو چیلنج کیا گیا کہ اگر وہ اللہ کے خلاف کوئی چال چل سکتے ہوں تو اس کی کوشش کر دیکھیں وہ نہ تو قیامت کو روک سکتے ہیں اور نہ ٹال سکتے ہیں۔ اس دن منکرینِ قیامت کی شامت آ کر رہے گی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

5- آیات 41 تا 50 :آخری پیراگراف میں روزِ قیامت سے ڈر ڈر کر زندگی گذارنے والے ﴿متقین﴾ اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے ﴿مُحسِنِین﴾ کے اجروثواب کی تفصیل بیان کر کے، منکرینِ قیامت بدکردار ﴿مُجرمین﴾ کو ڈرایا گیا ہے۔

﴿متقین﴾ کے لیے ایسے باغات ہوں گے، جن میں سائے، چشمے اور مختلف قسم کے پھل ہوں گے۔ اُن سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے جنت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ایک اہم قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی ہمیشہ نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتا ہے اور جھٹلانے والوں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔

﴿اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ﴾ (آیت:44) ﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ﴾ (آیت:45)

- دعوت کو مسترد کرنے والے رویوں کی تصویر سے مُکَذِّبِین کی تخویف:

متقین کی نعمتوں کے ذکر کے بعد ﴿مجرمین﴾ سے طنزیہ خطاب کیا گیا کہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں خوب کھا پی لیں۔ عیش کر لیں لیکن قیامت کے دن انہیں ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا۔

پھر قیامت کو جھٹلانے والے ان ﴿مجرم﴾ لوگوں کے باطنی خبث کی نشاندہی کی گئی کہ یہ ﴿متکبر﴾ ہیں۔ جب ان سے اللہ کے آگے جھکنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ نہیں جھکتے۔ ان کی تباہی یقینی ہے۔

- آخری آیت میں ایک چبھتا اور دردمندانہ سوال کیا گیا کہ یہ جھٹلانے والے اب کون سے کلام پر ایمان لائیں گے؟ ﴿فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ؟﴾ (آیت:50)۔ اِن کا تکبر، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی، قرآن جیسے بلند پایا کلام اور اُس کے ہمہ پہلو مسکت دلائل کے بعد بھلا کس چیز سے مطمئن و قائل ہو کر ایمان کی راہ پا سکتی ہے؟

مرکزی مضمون

قرآنِ مجید، قیامت کی عقلی، آفاقی، انفسی اور تاریخی دلیلیں فراہم کر رہا ہے۔ قیامت، واقع ہو کر رہے گی اور مُکَذِّبِین (یعنی قیامت کو جھٹلانے والے متکبر، ضدی اور ہٹ دھرم) تباہ و برباد ہو کر رہیں گے، اس کے برخلاف مؤمنین، مُصَدِّقِین، مُحسِنِین اور مُتَّقِین اجروثواب سے فیض یاب ہوں گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

78- سُورَةُ النَّبَأِ

آیات : 40 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 6



زمانۂ نزول:

سورت ﴿ النَّبَأ ﴾ قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) میں اعلانِ عام کے بعد آپ ﷺ پر نازل ہوئی، جب قیامت کے بارے میں اختلاف برپا ہو چکا تھا اور جب قیامت اور امکانِ آخرت کے عقیدے کو پختہ کیا جا رہا تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ النبأ کے فضائل

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿ شَيَّبَتْنِي هُود" والواقِعَةُ وَالمُرسَلاتُ وَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾

"سورۃ ھود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات ، سورۃ النبأ اور سورۃ التکویر نے مجھے بوڑھا کردیا۔" (جامع ترمذی : کتاب التفسیر ؛ باب سورۃ الواقعہ ، حدیث 3,297 ، صحیح)

سورۃ النبأ کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿المُرسَلات﴾ میں بار بار بتایا گیا تھا کہ قیامت کو جھٹلانے والے ﴿ مُكَذِّبِين ﴾ کی تباہی اور بربادی ہوگی، یہاں سورت ﴿النَّبا ﴾ میں یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کو نہ ماننے والے ﴿طَاغِين ﴾ بن کر ،سرکش اور متمرد دوزخی ہو جاتے ہیں۔اس کے برخلاف قیامت کو مان کر، حدود وقیود کے ساتھ زندگی گزارنے والے ﴿مُتَّقِين ﴾ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- آیت نمبر 3 میں قیامت کے بارے میں اختلاف نقل کیا گیا تھا ﴿ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُوْنَ ﴾،اس کا جواب آیت نمبر 39 میں ﴿ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ﴾'یہ دن برحق ہے' کے الفاظ سے دیا گیا۔

2- آیت نمبر 7 میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں کھونٹوں کی طرح گاڑ کر مضبوط اور مستحکم کر دیا ہے ﴿وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴾، لیکن آیت نمبر 20 میں بتایا گیا کہ روزِ قیامت یہی پہاڑ سراب ہو جائیں گے اور حرکت کرنے لگیں گے۔﴿وَ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾

3- آیت نمبر 12 میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سات مضبوط اور محکم آسمان بنائے ہیں ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ ،جن میں کوئی شگاف یا دراڑ نہیں ہے، لیکن آیت نمبر 19 میں بتایا گیا کہ روزِ قیامت یہی آسمان کھول دیے جائیں گے اور ان میں دروازے ہی دروازے ہوں گے۔

﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴾

4- اس سورت میں ﴿ مُتَّقِين ﴾ اور ﴿طَاغِين ﴾ کے درمیان موازنہ ہے۔ان دونوں کا انجام بھی مختلف ہوگا۔ خوفِ قیامت کے ساتھ زندگی گزارنے والے ﴿ متقی ﴾ ہوتے ہیں اور خوفِ قیامت کے بغیر زندگی گزارنے والے سرکش ﴿ طاغی ﴾ ہوجاتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سُورَةُ النّبا کا نظمِ جلی

سُورَةُ النّبا چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 5: پہلے پیراگراف میں قیامت ﴿نَبَأٌ عظیم﴾ پر اختلاف کرنے والوں کو، ان کے شک اور ان کی حیرت انگیزی پر تنبیہ کی گئی ہے۔ قیامت جس کے بارے میں، یہ چہ میگوئیاں کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی خبر ہے۔

امکانِ قیامت کے بارے میں اختلاف غلط ہے، یہ ہو کر رہے گی۔ (آیت نمبر 39)

﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴾ (1) یہ لوگ کس، چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟

﴿عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ﴾ (2) کیا اس بڑی خبر کے بارے میں !

﴿الَّذِیْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ﴾ (3) جس کے متعلق یہ مختلف چہ میگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

﴿كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴾ (4) ہرگز نہیں! عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔

﴿ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴾ (5) ہاں! ہرگز نہیں! عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔

2- آیات 6 تا 16: دوسرے پیراگراف میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، ربوبیت اور حکمت سے آخرت پر استدلال ہے۔

اس میں اسبابِ ربوبیت سے، امکانِ آخرت پر دلیل قائم کی گئی ہے۔

﴿اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ﴾ (6) کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش (گہوارہ) بنایا؟

﴿وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴾ (7) اور (کیا نہیں) پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟

﴿وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴾ (8) اور (کیا نہیں) ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا؟

﴿وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ (9) اور (کیا نہیں) ہم نے تمہاری نیند کو باعثِ سکون بنایا؟

﴿وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ﴾ (10) اور (کیا نہیں) رات کو پردہ پوش بنایا؟

﴿وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ (11) اور (کیا نہیں) ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا؟

﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ (12) اور تمہارے اوپر سات مضبوط (آسمان) قائم کیے؟

﴿وَّ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴾ (13) اور ہم نے، ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا؟

﴿وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴾ (14) اور (کیا نہیں) ہم نے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی؟

﴿لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًا ﴾ (15) تاکہ اس کے ذریعہ سے، غلہ اور سبزی اُگائے؟

﴿وَّ جَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴾ (16) اور گھنے باغ بھی (اگائے)؟

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3- آیات 17 تا 20 : تیسرے پیراگراف میں، قیامت کے مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔

﴿اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِیْقَاتًا ﴾(17) بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔

﴿ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴾(18) جس روز ،صور میں پھونک ماردی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔

﴿وَفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴾(19) آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔

﴿ وَ سُیِّرَتِ الْجِبَالُ ، فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾(20) اور پہاڑ چلائے جائیں گے ، یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔

4- آیات 21 تا 30 : چوتھے پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے طاغی ہوتے ہیں ،ان سرکشوں ﴿طاغِینَ﴾ کے لیے دوزخ کی آگ، کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھوون ہے۔

﴿اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴾(21) یقیناً جہنم ، گھات میں ہوگی۔

﴿ لِّلطّٰغِیْنَ مَاٰبًا ﴾ (22) جو طاغین (سرکشوں) کا ٹھکانا ہے۔

﴿ لّٰبِثِیْنَ فِیْهَآ اَحْقَابًا ﴾ (23) اِس (دوزخ) میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔

﴿ لَا یَذُوْقُوْنَ فِیْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا ﴾(24) اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل، کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے۔

﴿ اِلَّا حَمِیْمًا وَّ غَسَّاقًا ﴾ (25) کچھ ملے گا تو بس گرم پانی! اور زخموں کا دھوون (پیپ) !

﴿ جَزَآءً وِّفَاقًا ﴾ (26) ان کے (کرتوتوں کا) بھرپور بدلہ۔

﴿اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا یَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴾ (27) یہ (دوزخی) کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے۔

﴿ وَّكَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا كِذَّابًا ﴾ (28) اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا۔

﴿ وَكُلَّ شَیْءٍ اَحْصَیْنٰهُ كِتٰبًا ﴾ (29) اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔

﴿فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِیْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴾(30) اب چکھو مزہ ! ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا، کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔

5- آیات 31 تا 37 : پانچویں پیراگراف میں بتایا گیا۔ ہے کہ ﴿طاغین﴾ کے بالمقابل، ﴿مُتَّقِین﴾ کا انجام جنت ہوگا

کامیابی ﴿مُتَّقِین﴾ کا مقدر ہوگی، ان کے لیے باغات، بیویاں اور شراب وغیرہ کا انعام ہوگا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا ﴾(31)	یقیناً متقیوں کے لیے، کامرانی کا ایک مقام ہے۔
﴿حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا ﴾ (32)	باغ اور انگور۔
﴿وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴾(33)	اورنوخیز (اٹھتی جوانیاں) ، ہم سن لڑکیاں۔
﴿وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴾(34)	اور چھلکتے جام۔
﴿لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴾(35)	وہاں وہ کوئی لغو اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔
﴿جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴾(36)	جزاء اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے۔ (ان کے عمل کے حساب سے صلہ)
﴿رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے
وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ	اور ان کے درمیان کی چیزوں کا بھی، مہربان رب
لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ (37)	جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارا نہیں۔

6- آیات 38 تا 40 : چھٹے اور آخری پیراگراف میں، اللہ کے اختیار کی وضاحت ہے اور شفاعتِ باطلہ کی تردید ہے۔

﴿يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا	یہ وہ دن ہوگا جب جبریلؑ اور فرشتے صف بستہ ہوں گے
لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ	کوئی بلا اجازت زبان تک نہ کھول سکے گا،
اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ	سوائے اس کے، جس کو رحمٰن اجازت دے گا
وَقَالَ صَوَابًا ﴾ (38)	اور وہ بالکل ٹھیک بات کہے گا۔
﴿ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ	وہ دن برحق ہے ، (یہ دن ہونی شدنی ہے)
فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا (39)	اب جس کا جی چاہے، اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کرلے۔
﴿اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا	ہم نے لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہے
يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ	جس روز آدمی سب کچھ دیکھ لے گا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے
وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴾(40)	اور کافر پکار اٹھے گا: کاش ! میں خاک ہوتا !

اس پیراگراف میں عدالتِ خداوندی کا منظر ہے۔ سارے شفیع بے اختیار ہوں گے ﴿لَا يَمْلِكُوْن﴾ ﴿لَا يَتَكَلَّمُوْن﴾ قیامت کے دن کلی اختیارات، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، ﴿شفیع﴾ یعنی سفارش کرنے والا بھی، اللہ کی اجازت کے بغیر منہ نہ کھول سکے گا اور اس کی زبان سے، کسی غلط سفارش کے الفاظ نہیں نکل سکیں گے، اس کے لبوں پر قولِ صواب (قولِ عدل) ہی ہوگا ﴿وَقَالَ صَوَابًا﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

امکانِ قیامت کے بارے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ دن برحق ہے۔

قیامت کے دن، خوفِ آخرت سے بے نیاز ﴿طٰـغِينَ﴾ اور خوفِ آخرت کے تحت زندگی گزارنے والے ﴿مُتَّقِينَ﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔

شفاعتِ باطلہ کے عقیدے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سرکشی ﴿طـغـوٰی﴾ سے بچتے ہوئے، خوفِ قیامت کے سائے میں زندگی گزارتے ہوئے، ﴿متقی﴾ بن کر جنت کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

79- سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ

آیات : 46 ...... مَکِّیَّۃٌ ...... پیراگراف : 6



زمانہ نزول:

سورت ﴿النّٰزِعٰت﴾ بھی، سورت ﴿النباء﴾ کے بعد قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) میں اعلانِ عام کے بعد آپ ﷺ پر نازل ہوئی، جب قیامت کے بارے میں اختلاف برپا ہو چکا تھا اور مشرکینِ مکہ کے سرکش رویے، ﴿فرعون﴾ کی طرح طاغوتی ہو رہے تھے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ النّٰزِعات کا کتابی ربط

پچھلی سورت النّبا میں ﴿طاغین اور متّقین﴾ کے درمیان تقابل تھا، یہاں اس سورت ﴿النّٰزِعات﴾ میں ﴿طاغین﴾ اور ﴿اہلِ خشیت﴾ کے درمیان موازنہ ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں خاشِیین (اہلِ خشیت)، خاشِعین اور خائفین کا تقابل، ﴿طاغین﴾ سے کیا گیا ہے۔

2- اس سورت میں تین (3) مرتبہ ﴿خشیت﴾ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ (آیات: 19، 26، 45)

(a) حضرت موسیٰ نے ، فرعون کو تزکیۂ نفس کی دعوت دی ، تاکہ اس کے قلب کے اندر اللہ کی ﴿خشیت﴾ پیدا ہو۔ (آیت: 19)

(b) قومِ فرعون کی ہلاکت میں ہر اُس شخص کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ﴿خشیت﴾ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ (آیت: 26)

(c) رسول اللہ ﷺ کو صاف صاف بتادیا گیا کہ آپ صرف ﴿منذِر﴾ یعنی خبردار کرنے والے ہیں، آپ کا ﴿اِنذار﴾ صرف اُس شخص کے لیے مفید ثابت ہوسکتا ہے، جو آخرت کی ﴿خشیت﴾ اختیار کرنا چاہتا ہے۔

3- جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا ، جو ﴿طغویٰ﴾، ﴿حُبِ دنیا﴾ اور خواہشاتِ نفس سے بچ کر ، روزِ قیامت اللہ کے حضور قیام اور جواب دہی کے تصور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ (آیت: 40)

4- ﴿طغیٰ﴾ کا لفظ اس سورت میں دو (2) مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ (آیات: 17 اور 37)

(a) اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ فرعون کے پاس جاکر دعوتِ اسلام دیں، کیونکہ وہ ﴿طاغِی﴾ یعنی سرکش ہوچکا تھا (آیت: 17)

(b) ہر اُس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے کر ﴿طاغِی﴾ یعنی سرکش بن جاتا ہے۔ (آیات: 37 تا 39)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سُورَةُ النّٰزِعات کا نظمِ جلی

سُورَةُ النّٰزِعات چھ(6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 7 : پہلے پیراگراف میں، امکانِ آخرت پر ہواؤں، بادلوں اور فرشتوں سے استدلال کیا گیا ہے۔

﴿وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا﴾ (1) قسم ہے ان (فرشتوں) کی! جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔

﴿وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا﴾ (2) اور (قسم ہے جو) آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں۔

﴿وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا﴾ (3) اور قسم ہے! (ان فرشتوں کی جو کائنات میں) تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔

﴿فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا﴾ (4) پھر (حکم بجالانے میں) سبقت کرتے ہیں۔

﴿فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا﴾ (5) پھر (احکامِ الٰہی کے مطابق) معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ (6) جس روز ہلا مارے گا، زلزلے کا جھٹکا۔ (اس دن سے ڈرو!)

﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ (7) اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔

ہوائیں، قانونِ جزا و سزا (Law of Reward & Punishment) کا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ ہواؤں اور بادلوں کے نظام پر اللہ تعالیٰ کا مکمل کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے ان کو رحمت بنا دے اور جس کے لیے چاہے عذاب بنا دے۔ ﴿نازِعَات﴾ یعنی کھینچنے والیوں سے مراد، اللہ کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور ہوائیں بھی جو تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔

2- آیات 8 تا 14 : دوسرے پیراگراف میں، قدرتِ الٰہی اور انسانی بے بسی سے آخرت پر استدلال کیا گیا ہے۔

﴿قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ﴾ (8) کچھ دل ہوں گے، جو اس روز کانپ رہے ہوں گے۔ (دھڑکتے ہوں گے)

﴿اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾ (9) نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ (پست ہوں گی)

﴿يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ﴾ (10) یہ لوگ پوچھتے ہیں "کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟

﴿ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً﴾ (11) کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ (کھنکھناتی ہڈیاں)

﴿قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ (12) کہنے لگے: یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی۔

﴿فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ﴾ (13) حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی۔

﴿فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ (14) اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔

3- آیات 15 تا 26 : تیسرے پیراگراف میں، امکانِ آخرت پر ہلاکتِ فرعون سے استدلال کیا گیا ہے۔

﴿هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى﴾ (15) کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾(16) جب اِن کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا

﴿اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴾(17) فرعون کے پاس جاؤ !وہ سرکش (طاغی) ہوگیا ہے۔

﴿فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ﴾(18) اس سے کہنا! کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے!

﴿وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴾(19) اور میں تیرے رب کی طرف ، تیری رہنمائی کروں تو (تیرے اندر) خوف پیدا ہو؟

﴿فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴾ (20) پھر موسیٰ نے (فرعون کے پاس جا کر) اس کو بڑی نشانی دکھائی۔

﴿فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴾ (21) مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا ،

﴿ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴾(22) پھر چالبازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔

﴿فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴾ (23) اور لوگوں کو جمع کر کے پکارا۔(اعلان کیا)

﴿فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴾(24) پھر اس نے کہا: ”میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔

﴿فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴾ (25) آخرکار ! اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔“

﴿اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً ﴾(26) درحقیقت اس میں بڑی عبرت ہے،

﴿لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴾ ہر اس شخص کے لیے جو خشیت اختیار کرے ڈرے۔

تاریخ کے اس واقعے سے قانونِ جزا و سزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور طاغی فرعون کا قصہ مختصراً بیان کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنا تزکیہ کرلو! خشیت اختیار کرو! رسول کو جھٹلانے اور اس کی ہدایت و رہنمائی کو رد کرنے اور چالبازیوں سے اس کو شکست دینے کی کوشش کا جو انجام، فرعون دیکھ چکا ہے، اُس سے عبرت حاصل کر کے، اس روش سے باز آجاؤ! ورنہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ ﴿اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴾۔

4- آیات 27 تا 33: چوتھے پیراگراف میں، امکانِ آخرت پر اللہ تعالیٰ کی قدرت و ربوبیت سے استدلال کیا گیا ہے۔

آخرت کی عقلی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں۔

﴿ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ﴾ ”کیا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ دشوار کام ہے یا آسمان کا“ (آیت:27)۔

﴿رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴾ (28) اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی (گنبد بلند کیا) پھر اس کا توازن قائم کیا۔

﴿وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴾(29) اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا (دن کو بے نقاب کیا)

﴿وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا﴾ (30) اس کے بعد ، زمین کو اس نے بچھایا۔ (ہموار کیا)۔

﴿اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴾ (31) اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔

﴿وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴾ (32) اور پہاڑ اس میں گاڑ دیئے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴾ (33) سامانِ زیست کے طور پر، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔

5- آیات 34 تا 41 : پانچویں پیراگراف میں، روزِ قیامت سے ڈرنے، اس پر ایمان لانے کی دعوت کے ساتھ، ﴿طاغین ﴾ اور ﴿خائفین﴾ کے مختلف انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔

انسان کی سَعْی (کوشش) اچھی بھی ہوسکتی ہے اور بری بھی۔ انسان کو قیامت کے محاسبے سے ڈر کر، اعمالِ صالحہ کی کوشش کرنی چاہیے۔

﴿ فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴾ (34) پھر جب وہ ہنگامۂ عظیم برپا ہوگا۔ (تو یہ سب کچھ درہم برہم ہوجائے گا)

﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴾ (35) جس روز انسان اپنا کیا دھرا (اعمال) یاد کرے گا۔

﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴾ (36) اور ہر دیکھنے والے کے سامنے، دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ (بے نقاب کردی جائے گی، جن کو اس سے دوچار ہونا ہے)

﴿ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴾ (37) "تو جس نے سرکشی کی تھی (طغوٰی اختیار کیا تھا)

﴿ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴾ (38) (اور آخرت کے بالمقابل) اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی،

﴿ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴾ (39) دوزخ ہی اس کا ٹھکانا ہوگی۔"

﴿ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴾ (40) اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا،

﴿ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴾ (41) پھر یقیناً جنت اس کا ٹھکانا ہوگی۔

6- آیات 42 تا 46 : چھٹے اور آخری پیراگراف میں، مُنذِر ﷺ کے اِنذار (Warning) سے فائدہ اٹھا کر، ﴿خشیت﴾ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ﴿اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا﴾ (آیت:45)

﴿ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ "یہ لوگ آپؐ سے پوچھتے ہیں کہ

اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴾ (42) "آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی۔" (کب کھڑی ہوگی؟)

﴿ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ﴾ (43) "تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتائیں؟ (تم اس بحث میں کہاں پڑے ہو؟)

﴿ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴾ (44) اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔" (یہ معاملہ تو آپؐ کے رب کے حوالے ہے)

﴿ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ﴾ (45) "آپؐ صرف خبردار کرنے والے ہیں، ہر اس شخص کو، جو اس دن کی خشیت اختیار کرے۔"

﴿ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ

لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ﴾ (46) (دنیا میں یا حالتِ موت میں) بس ایک دن کے پچھلے پہر، یا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔(ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ وقفہ نہیں گزرا)۔
دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر اور آخرت کی زندگی لازوال ہے۔ کفار سوال کیا کرتے تھے، قیامت کب آئے گی؟ انہیں جواب دیا گیا ہے کہ اے محمد ﷺ! آپ ﷺ کا کام قیامت کا وقت بتانا نہیں ہے، بلکہ خبردار کرنا ہے۔
﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ (آیت:43)۔
قیامت کب آئے گی، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔قیامت کا وقت نہ پوچھو! قیامت کی تیاری کرو!

مرکزی مضمون

فرعونیت اور ﴿طغوٰی﴾ چھوڑ کر ﴿خشیت﴾ اختیار کرنا چاہیے۔آفاقی، انفسی، تاریخی اور عقلی دلیلوں کی روشنی میں انسان کو قرآن کے عقیدۂ آخرت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

80- سُورَةُ عَبَسَ

آیات : 42 ...... مَکِّیَّة ...... پیراگراف : 7



زمانۂ نزول:

سورت ﴿عَبَسَ﴾ بھی، رسول اللہ ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) میں اعلانِ عام کے بعد نازل ہوئی، جب کفار کی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتومؓ سے بے اعتنائی ہوئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ عَبَس کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿النّٰزِعات﴾ میں ﴿طاغین﴾ اور ﴿اهلِ خشیت﴾ کے درمیان تقابل تھا۔
یہاں اس سورت ﴿عَبَس﴾ میں ﴿مؤمنینِ صالحین﴾ اور ﴿الکفرة الفجرة﴾ یعنی بدکردار منکرین کے درمیان موازنہ ہے۔

2۔ پچھلی سورت ﴿النّٰزِعات﴾ میں حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ فرعون کو تزکیۂ نفس کی دعوت دیں۔
یہاں سورت ﴿عبس﴾ میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر قریش کے سردار آپ کی دعوتِ تزکیہ کو مسترد کردیتے ہیں تو آپ ﷺ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی (آیت:7) لیکن عین ممکن ہے کہ ایک نابینا آدمی میں اِس دعوتِ تزکیہ کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔(آیت:3)

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿اِستِغناء﴾ (بے پروائی): اس سورت میں ﴿مَنِ اسْتَغْنٰى﴾ کے الفاظ سے قریش کے سرداروں کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی دعوت کے بارے میں بے پرواہی کا مظاہرہ کررہے ہیں۔(آیت:5)

2- ﴿یَتَزَکّٰی﴾: ہر انسان تزکیہ کا حاجت مند ہے، چاہے وہ فرعون جیسا آمر حکمران ہو یا حضرت ابن امِ مکتومؓ جیسے نابینا صحابی۔

سورۃ عَبَس کا نظمِ جلی

سورۃ عبس سات (7) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 10: پہلے پیراگراف میں، آدابِ دعوت بیان کیے گیے۔

﴿عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى﴾(1) ”ترش رو ہوئے (تیوری چڑھائی) اور بے رخی برتی (منہ پھیرا) (محمد ﷺ نے)

﴿اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى﴾(2) اس بات پر کہ وہ اندھا ان کے پاس آ گیا۔(حضرت عبداللہؓ ابن ام مکتوم)

﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى﴾(3) تمہیں کیا خبر؟ شاید وہ سدھر جائے۔(شاید وہ اپنی اصلاح کرتا)

﴿اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى﴾(4) یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو؟

﴿اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى﴾(5) جو شخص بے پروائی برتتا ہے، (جو قرآن سے اِستِغناء اختیار کرتا ہے)

﴿فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى﴾(6) اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں، (پیچھے پڑتے ہیں)

﴿وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى﴾(7) حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے، تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟

﴿وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى﴾(8) اور جو خود آپ کے پاس دوڑتا آتا ہے، (جو شوق سے آتا ہے)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَهُوَ يَخْشٰى ﴾ (9) اور وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے، (خشیت کی کیفیات کے ساتھ)

﴿ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴾ (10) اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں۔

محمد ﷺ اور امتِ مسلمہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والے افراد اور قرآن کی دعوت کو مُسْتَرَدّ کرنے والے افراد کے ساتھ، ایک داعی اور مبلغ کا رویہ مختلف ہونا چاہیے۔ دعوت قبول کرنے والا ہر شخص اہم ہوتا ہے، دعوت مُسْتَرَدّ کرنے والا ہر شخص، چاہے وہ کتنا ہی امیر اور بااثر کیوں نہ ہو، داعی کے لیے غیر اہم ہونا چاہیے۔

اس حصے میں منکرینِ اسلام کی بے جا ناز برداری کی ممانعت کی گئی ہے ، جو لوگ کبر و غرور اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، اور آپ ﷺ کی تعلیم و تذکیر سے مستغنی ہیں، ان متکبر سرداروں کے پیچھے پڑنے کے بجائے، ان لوگوں کی طرف توجہ دینا چاہیے، جو طالبِ حق ہیں اور اپنی اصلاح کے خواہشمند ہیں۔

2- آیات 11 تا 16: دوسرے پیراگراف میں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یاددہانی ﴿تذکرۃ﴾ ہے۔

اس پر غور کر کے ایمان لانا چاہیے۔ ﴿ اِستغناء ﴾ یعنی بے پروائی کا رویہ ترک کر دینا چاہیے۔ قرآن کاہنوں اور جادوگروں کا کلام نہیں ہے۔ ﴿ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ معزز، باوفا، پاک فرشتوں کے ذریعے محمد ﷺ پر اِلقاء کیا گیا ہے۔

﴿ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴾ (11) ہرگز نہیں! یہ (قرآن) تو ایک نصیحت ہے۔

﴿ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴾ (12) جس کا جی چاہے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ (اسے قبول کرے)

﴿ فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴾ (13) یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے، جو مُکرّم (لائقِ تعظیم) ہیں۔

﴿ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴾ (14) جو بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ (صحیفے) ہیں۔

﴿ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ﴾ (15) ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں،

﴿ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ (16) جو مُعزّز ہیں اور نیک (باوفا) ہیں۔

3- آیات 17 تا 21: تیسرے پیراگراف میں، آخرت کے انفسی دلائل پیش کیے گئے۔ ﴿ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴾ ''انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر بنائی''۔

﴿ قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴾ (17) لعنت ہو انسان پر! کیا سخت منکرِ حق ہے؟ (کتنا ناشکرا ہے؟)

﴿ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴾ (18) کس چیز سے، اللہ نے اُسے پیدا کیا ہے؟

﴿ مِنْ نُّطْفَةٍ ، خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴾ (19) نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اُسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی

﴿ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴾ (20) پھر اُس کے لیے، زندگی کی راہ آسان کی،

﴿ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴾ (21) پھر اُسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

انسان کو اپنی ذات میں ڈوب کر، معرفتِ نفس کے ساتھ معرفتِ رب حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور اپنے پروردگار کی ناشکری کا رویہ ترک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

4- آیات 22 تا 23 :چوتھے پیراگراف میں، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی۔

﴿ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ﴾ (22) پھر اُسے اللہ، جب چاہے، اٹھا کھڑا کرے گا۔ (آخرت کو مان لے!)

﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ﴾ (23) ہرگز نہیں ! اس نے وہ فرض (اب تک) ادا نہیں کیا، جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔

یعنی ابھی تک اس نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع نہیں کیا۔ بظاہر یہاں انسان کو اس کی مختلف منزلوں سے آگاہ کیا جارہا ہے ،لیکن دراصل اس سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ وہ آخرت کو مان کر قرآن کی دعوت پر ایمان لے آئے اور اللہ کے اَوامر و احکامات پر فوراً عمل کرنا شروع کردے۔

5- آیات 24 تا 32 :پانچویں پیراگراف میں ، دلائلِ ربوبیت سے آخرت پر استدلال کیا گیا۔

﴿فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ﴾ (24) پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے! (اپنی غذا پر دھیان کرے)

﴿اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا﴾ (25) کہ ہم نے خوب پانی لنڈھایا،

﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا﴾ (26) پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، (اچھی طرح پھاڑا)

﴿فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا﴾ (27) پھر اس کے اندر غلے اگائے،

﴿وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا﴾ (28) انگور اور ترکاریاں (اگائیں)،

﴿وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا﴾ (29) زیتون اور کھجوریں (اگائیں)،

﴿وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا﴾ (30) اور گھنے باغ (پیدا کیے)

﴿وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا﴾ (31) پھل اور چارہ (سبزہ) پیدا کیا،

﴿مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ﴾ (32) تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، سامانِ زیست کے طور پر۔

غذا، پانی، غلہ، سبزیاں، پھل وغیرہ جیسے انعاماتِ ربوبیت کا ذکر کرکے، انسان کو اپنے رب پر ایمان لاکر، آخرت کی جزا وسزا کو تسلیم کرلینے کی ہدایت کی گئی ہے۔

6- آیات 33 تا 37 :چھٹے پیراگراف میں، قیامت کی ہولناکی کی تصویر کھینچ کر، نفسانفسی کا عالم بیان کیا گیا ہے۔

قیامت کے دن، ہر شخص پر نفسانفسی کی حالت طاری ہوگی ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ﴾۔ کوئی رشتے دار (بھائی ،ماں، باپ، بیوی، بیٹا وغیرہ) کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا انسان کو اس دن کے لیے خود نیک اعمال کرلینے چاہییں۔

﴿فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ﴾ (33) آخرکار! جب وہ کان بہرے کردینے والی آواز بلند ہوگی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴾(34) اُس روز آدمی، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔

﴿ وَاُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ ﴾ (35) (اس روز آدمی)، اپنی ماں اور اپنے باپ سے (بھاگے گا۔)

﴿ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ ﴾(36) (اس روز آدمی) اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے (بھاگے گا۔)

﴿ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ" يُّغْنِيْهِ ﴾(37) (اُس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی) اِن میں سے ہر شخص پر اُس دن، ایسا وقت آپڑے گا کہ اُسے اپنے سوا، کسی کا ہوش نہ ہوگا"

7- آیات 38 تا 42 :ساتویں اور آخری پیراگراف میں بتایا گیا کہ صالح مومنین اور فاجر (بدکردار) کافرین ﴿ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔

﴿ وُجُوْهٌ" يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ" ﴾(38) " کچھ چہرے، اس روز دمک رہے ہوں گے۔"

﴿ ضَاحِكَةٌ" مُّسْتَبْشِرَةٌ" ﴾(39) "ہشاش بشاش اور خوش وخرم ہوں گے۔"

﴿ وَوُجُوْهٌ" يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ" ﴾(40) اور کچھ چہروں پر اس روز، خاک اڑ رہی ہوگی۔"

﴿ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ" ﴾ (41) کلونس (سیاہی) چھائی ہوئی ہوگی۔

﴿ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾(42) یہی کافر وفاجر (نابکار) لوگ ہوں گے۔"

مرکزی مضمون

﴿ اِسْتِغْنَاء ﴾ یعنی بے پروائی کا مظاہرہ کرنے والے بدکردار کافروں کو، قرآن کی دعوتِ آخرت پر ایمان لاکر عملِ صالح کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشۂ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

81- سُوْرَۃُ التَّکْوِیْرِ

آیات : 29 ...... مَکِّیَّۃ"...... پیراگراف : 5



زمانۂ نزول:

1۔ سورت ﴿التَّکْوِیْر﴾ کی ابتدائی 14 آیات، قیامِ مکہ کے پہلے دور (0 تا 3 نبوی) میں آپ ﷺ پر نازل ہوئیں، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی۔

2۔ آخری 15 آیات، اعلانِ عام کے بعد الزامات کے دور میں نازل ہوئیں، جب آپ کو ﴿مَجْنُوْن﴾ کہا جا رہا تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ التّکوِیر کے فضائل

1- یہ سورت، سورت ہود کی طرح اُن سورتوں میں سے ایک ہے، جس نے رسول اللہ ﷺ کو بوڑھا کر دیا تھا۔

شَيَّبَتْنِي هُود" والواقِعَةُ والمُرسَلاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

"سورۃ ھود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبأ اور سورۃ التکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔"

(جامع ترمذی : کتاب التفسیر ، باب سورۃ الواقعہ ، حدیث 3,297 ، صحیح)

2- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾

"جو شخص مناظرِ قیامت دیکھنا چاہتا ہے، اُسے سورت ﴿التکویر﴾ ﴿اِنفطار﴾ اور ﴿اِنشقاق﴾ کا مطالعہ کرنا چاہیے"۔ (ترمذی :کتاب التفسیر ، باب سورۃ التکویر3,333، صحیح)

سورۃُ التّکوِیر کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿عبس﴾ میں بتایا گیا تھا کہ قرآن ایک نصیحت ہے ،مکرم صحیفوں میں درج ہے ،معزز اور نیک کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہاں سورت ﴿التکویر﴾ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ﴿رسول کریم﴾ یعنی حضرت جبریلؑ کا قول ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔قرآن ،پاگلوں کی گفتگو اور ﴿مَجنُون﴾ کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالقِ کائنات کا اعلیٰ اور ارفع کلام ہے۔﴿ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِين﴾ ہے یعنی تمام دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- قرآن ﴿ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِين﴾ ہے (آیت:27)۔قرآن قول جبریل ہے۔﴿قَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (آیت:19)۔

قرآن قول شیطان رجیم نہیں ہے ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾ (آیت:25)۔کسی مجنون کا کلام بھی نہیں ہے۔ ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾۔

2- اس سورت میں ہر انسان کو دعوتِ فکر دی گئی ہے کہ وہ غور کرے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا کچھ کمایا ہے اور کیا کچھ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔انسان کو ﴿مَا أَحْضَرَتْ﴾ کی تیاری کی فکر کرنا چاہیے (آیت:14)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ التکویر کا نظمِ جلی

سورۃ التکویر پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 6 : پہلے پیراگراف میں، قیامت کے پہلے مرحلے کی تصویر کشی ہے۔

﴿اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (1) جب سورج، بے نور ہو جائے گا (جب سورج کی بساط پلٹ دی جائے گی)
﴿وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ﴾ (2) جب ستارے، بکھر جائیں گے۔ (بے نور ہو جائیں گے)
﴿وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ (3) جب پہاڑ، چلائے جائیں گے۔
﴿وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ (4) جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔
﴿وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ﴾ (5) جب جنگلی (وحشی) جانور، سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔
﴿وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ (6) جب سمندر، بھڑکا دیے جائیں گے۔ (ابل پڑیں گے)

سورج لپیٹ دیا جائے گا ، ستاروں کی رونق باقی نہ رہے گی۔ مستحکم اور مضبوط پہاڑ حرکت کرنے لگیں گے ، حاملہ اپنے حمل سے بے نیاز ہوگی اور جنگلی جانوروں پر بدحواسی کا وہ عالم ہوگا کہ وہ اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔

2- آیات 7 تا 14 : دوسرے پیراگراف میں، قیامت کے دوسرے مرحلے کی تصویر کشی ہے۔

﴿وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ﴾ (7) اور جب جانیں ، جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔
﴿وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ﴾ (8) جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔
﴿بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ﴾ (9) وہ کس قصور میں ماری گئی؟
﴿وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ (10) اور جب اعمال نامے، کھولے جائیں گے۔
﴿وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ﴾ (11) اور جب آسمان کا پردہ، ہٹا دیا جائے گا (کھال کھینچ لی جائے گی)
﴿وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ﴾ (12) اور جب جہنم، دہکائی جائے گی (بھڑکا دی جائے گی)
﴿وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ﴾ (13) اور جب جنت، قریب لے آئی جائے گی۔
﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ" مَّاۤ اَحْضَرَتْ﴾ (14) اس وقت، ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا، کہ وہ کیا لے کر آیا ہے؟

روح کو جسم سے جوڑ دیا جائے گا۔ ﴿وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ﴾ جرائم کی باز پرس ہوگی۔ نامۂ اعمال کھولے جائیں گے، ہر شخص کو اپنے نتیجے (Result) کا علم ہو جائے گا اور عدالت کے فیصلے کے بعد جنت اور دوزخ میں داخلے کی تمام تیاریاں مکمل ہوں گی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

انسان جان لے گا کہ وہ اللہ کے حضور کس قسم کے اعمال لے کر حاضر ہوا ہے ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ﴾۔

3- آیات 15 تا 21 : تیسرے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ قرآن شیطانی اِلقاء نہیں ہے۔

﴿ فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴾ (15) پس نہیں! میں قسم کھاتا ہوں، پلٹنے والے (پیچھے ہٹنے والے) (تاروں کی)

﴿ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾ (16) (چلنے والے اور) چھپ جانے والے (تاروں کی)

﴿ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴾ (17) اور میں قسم کھاتا ہوں، رات کی! جب کہ وہ رخصت ہوئی (جانے لگتی ہے)

﴿ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴾ (18) اور میں قسم کھاتا ہوں، صبح کی! جب کہ اس نے سانس لیا (سانس لیتی ہے)

﴿ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴾ (19) یہ (قرآن) واقعی ایک بزرگ (باعزت) پیغام بر (جبریلؑ) کا قول ہے

﴿ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴾ (20) جو بڑی توانائی رکھتے ہیں، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہیں۔

﴿ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴾ (21) وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتبار ہیں۔

قیامت کے دن کی تیاری کے لیے، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس قرآن کی صحیح قدر و قیمت پہچاننا ضروری ہے۔ اس کے مضامین پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ نہ صرف ستاروں، بلکہ رات اور دن کی بھی قسم یعنی گواہی ہے کہ یہ قرآن، کاہنوں اور عاملوں کی خرافات سے بالکل مختلف چیز ہے، اسے شیاطین اور جنات لے کر نہیں آئے، بلکہ حضرتِ جبریلؑ لے کر آئے ہیں۔ حضرت جبریلؑ، ﴿رسول کریم ﴾ ہیں، یعنی قابلِ احترام، بزرگ پیغام رساں ہیں۔ صاحبِ قوت ہیں، اللہ رب العرش کے ہاں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ امین اور دیانت دار ہیں۔ قرآن میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرتے۔ اللہ کے کلام کو، جوں کا توں محمد ﷺ کے قلب پر نازل کرتے ہیں۔

4- آیات 22 تا 25 : چوتھے پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ رسول ﷺ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔

حضرتِ جبریلؑ کو انہوں نے کھلے آسمان کے افق پر، دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رسول ﷺ بھی قرآن جوں کا توں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس معاملے میں یہ بخیل نہیں ہیں۔ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ رسول ﷺ کی ذات اور کردار پر غور کریں۔ پھر ان کے لائے ہوئے قرآن پر غور کریں۔ یہ شیطانی القاء نہیں ہے، جنون اور جنات کے اثرات قبول کرنے والوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتیں۔

﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴾ (22) تمہارے رفیق (محمد ﷺ) مجنون نہیں ہیں (خبطی نہیں ہیں)

﴿ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴾ (23) انہوں نے اُس پیغامبر (حضرت جبریلؑ) کو روشن افق پر دیکھا ہے۔

﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴾ (24) اور وہ، غیب کے اس علم کو، لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہیں۔

﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴾ (25) اور یہ (قرآن) کسی شیطانِ مردود کا قول نہیں ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

5- آیات 26تا29 : پانچویں اور آخری پیراگراف میں انسان سے سوال کیا گیا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾

قرآن ﴿ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ساری کائنات کے لیے نصیحت ہے، لہٰذا اس پر ایمان لانا چاہیے۔

﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾(26) پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ (تو تم کہاں کھوئے جاتے ہو؟)

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾(27) یہ (قرآن) تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔

﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾(28) تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ، جو راہِ راست پر چلنا چاہتا ہو۔

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا،

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾(29) جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔

لوگوں کے ضمیر سے پوچھا گیا ہے کہ تم خود اپنے طرزِ عمل پر غور کرو! تمہارا یہ طرزِ عمل کیسا ہے؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ ترکِ قرآن کی یہ راہ کیسی ہے؟ ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ؟ ﴾ غور کرو! ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن، خالق کائنات، ﴿ اللہ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ کا کلام ہے۔ انسانوں کو اس قرآن کو قبول کرنے، اور مسترد کرنے کی آزادی (Freedom of choice) حاصل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسان اس آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط!

مرکزی مضمون

قرآن مجید میں غور وفکر کر کے انسان کو روزِ قیامت پر ایمان لانا چاہیے اور اسے روزِ قیامت پیش کیے جانے والے اعمال ﴿ مَا أَحْضَرَتْ ﴾ کی تیاری کرنی چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

82- سُوْرَةُ الاِنْفِطَارِ

آیات : 19...... مَكِّيَّة"...... پیراگراف : 5



زمانہ نزول:

سورت ﴿الانفطار﴾، قیامِ مکہ کے پہلے دور (0 ـ 3 نبوی) میں آپ ﷺ پر نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جارہی تھی اور جب مناظرِ قیامت سے نومسلم نوجوانوں کی اذہان سازی کی جارہی تھی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الانفِطار کے فضائل

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَاْىَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَاْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ﴾

(ترمذی :كتاب التفسير ، باب سورة التكوير ،3,333، صحيح)

"جو شخص مناظرِ قیامت دیکھنا چاہتا ہے، اُسے سورت ﴿التکویر﴾ ﴿انفطار﴾ اور ﴿انشقاق﴾ کا مطالعہ کرنا چاہیے"۔

سورۃ الانفِطار کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿التکویر﴾ میں، قریشِ مکہ کو اللہ تعالیٰ کے بلند پایا کلام قرآن اور ﴿مجنون﴾ یعنی پاگل آدمی کی باتوں کے درمیان غوروفکر کرنے اور تقابل کرنے کی دعوت تھی۔ یہاں سورت ﴿الانفطار﴾ میں نیک لوگوں ﴿الاَبْرار﴾ اور بدکردار لوگوں ﴿الفُجّار﴾ کے درمیان موازنہ ہے۔

دونوں سورتوں میں قیامت کے مناظر کی تفصیل بیان کر کے تخویف کی گئی ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں ﴿اَبرار﴾ کا موازنہ ﴿فُجّار﴾ سے ہے۔ روزِ قیامت ﴿اَبرار﴾ اور ﴿فُجّار﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔

2- اس سورت میں تخلیق کے پانچ مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ (1) تخلیق ﴿خَلَقَ﴾ منصوبہ بندی (2) تَسوِیة ﴿سَوّٰك﴾ نوک پلک سنوارنا (3) تعدیل ﴿فَعَدَلَك﴾ متناسب اور موزوں بنانا (4) تصویر ﴿صورة﴾ (5) ترکیب ﴿رَكَّبَك﴾

3- ﴿مَا غَرَّكَ؟﴾ کے الفاظ سے انسانی ضمیر سے پوچھا گیا ہے کہ اپنے ربِّ کریم سے غفلت کی وجہ کیا ہے؟ جزاوسزا کا انکار کیوں ہے؟

4- ﴿كِرَامًا كَاتِبِيْنَ﴾ یعنی اللہ کے معزز فرشتے، انسان کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اسے ایمان لا کر نیک عمل کرنا چاہیے۔

5- قیامت کے دن شفاعتِ باطلہ کا عقیدہ کام نہ آئے گا۔ دوسرا شخص انسان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ کُلّی اختیارات صرف اور

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

صرف اللہ کے پاس ہوں گے۔

سورۃ الانفطار کا نظمِ جلی

سورۃ الانفطار پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 5: پہلے پیراگراف میں، قیامت کے دونوں مراحل کی تصویر کشی کی گئی ہے۔

﴿اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ﴾ (1) جب آسمان، پھٹ جائے گا۔

﴿وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ (2) اور جب تارے، بکھر جائیں گے۔

﴿وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ (3) اور جب سمندر، پھاڑ دیئے جائیں گے۔ (پھٹ پڑیں گے)

﴿وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ﴾ (4) اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔

﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ﴾ (5) اس وقت ہر شخص کو، اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔

آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر پھٹ پڑیں گے اور قبریں اگلوائی جائیں گی۔ اس وقت انسان کو اس کے اگلے اور پچھلے اعمال دکھائے جائیں گے۔

2- آیات 6 تا 8: دوسرے پیراگراف میں، تخلیق کے پانچ مراحل سے اور ربوبیت سے آخرت پر استدلال کر کے بتایا گیا کہ انسان کو اپنے رب سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

﴿یٰۤاَیُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیْمِ﴾ (آیت 6)

اے انسان! کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟

﴿الَّذِیْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ﴾ (7)

جس نے تجھے پیدا کیا (جس نے تیرا خاکہ بنایا) تجھے نِک سِک سے درست کیا، (پھر تیرے نوک پلک سنوارے) تجھے متناسب بنایا۔ (اور تجھے بالکل موزوں کیا)

﴿فِیْۤ اَیِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ﴾ (8) اور جس صورت میں چاہا، تجھ کو جوڑ کر تیار کیا

3- آیات 9 تا 12: تیسرے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ انسان کی غفلت کا اصل سبب، آخرت کا انکار ہے۔

﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّیْنِ﴾ (9) ہرگز نہیں، بلکہ (اصل بات یہ ہے کہ) تم لوگ جزا وسزا کو جھٹلاتے ہو۔

﴿وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ﴾ (10) حالانکہ تم پر نگران (فرشتے) مقرر ہیں۔

﴿كِرَامًا كَاتِبِیْنَ﴾ (11) ایسے مُعزّز کاتب (فرشتے)، (دبیرانِ گرامی)

﴿یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ﴾ (12) جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

دراصل انسان، ﴿الدِّينُ﴾ یعنی قیامت کی جزا وسزا کا عقیدہ نہیں رکھتا، بلکہ اسے جھٹلاتا ہے۔ انسان کو خبردار کیا گیا ہے، کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ اس کا پورا نامۂ اعمال تیار کیا جا رہا ہے، اور نہایت معتبر کاتب (فرشتے) ہر وقت اس کی تمام حرکات وسکنات نوٹ کر رہے ہیں۔

4- آیات 13 تا 16: چوتھے پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کے بنائے گئے ریکارڈ کے مطابق، یا تو جزا دی جائے گی یا سزا

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ (13) یقیناً ابرار (نیک لوگ)، مزے (عیش) میں ہوں گے۔

﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ (14) اور بے شک فُجّار (بدکار) لوگ جہنم میں جائیں گے۔

﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ (15) جزا کے دن، وہ اس میں داخل ہوں گے۔

﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ (16) اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے (اوجھل ہونے والے نہیں)

﴿ابرار﴾ اور ﴿فُجّار﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔ ﴿ابرار﴾ نعمتوں میں اور ﴿فُجّار﴾ دوزخ میں ہوں گے۔

5- آیات 17 تا 19: پانچویں اور آخری پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو دوسرے لوگوں کی شفاعت پر بھروسہ کرنے کے بجائے، اپنے ذاتی اعمال پر توجہ دینی چاہیے۔

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ (17) اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟

﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ (18) ہاں! (بولو) تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ﴾ (19)

"یہ وہ دن ہے، جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی دوسرے شخص کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن، بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔"

سب سے پہلے دو مرتبہ سوال کر کے ﴿یوم الدّین﴾ کی اہمیت اور نوعیت کی سنجیدگی کا انکشاف کیا گیا ہے۔ پھر شفاعتِ باطلہ کی تردید کی گئی ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا﴾۔ قیامت کا دن عام دنوں کی طرح نہ ہوگا۔ یہ نفسا نفسی کا دن ہوگا۔ پیشی کے دن، کسی دوسرے کے بس میں کچھ نہ ہوگا، بلکہ سارے اختیارات صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ﴾ یہ توحیدِ اختیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

اللہ تعالیٰ مختار ہے، مجبور نہیں، دوسروں کے دباؤ میں نہیں آتا۔ اس لیے دوسروں پر اور دوسروں کی شفاعت پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ذاتی نیک اعمال سے اپنی ذات کو سنوارنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جانا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

انسان کو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے خالق و رب سے غفلت کا رویہ ترک کر دینا چاہیے۔ ایمان لا کر، نیک عمل کرنا چاہیے۔ دوسروں کی شفاعت پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے عمل اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بن کر ﴿ اَبرار ﴾ کو دی جانے والی نعمتوں کو حاصل کرنے اور ﴿ فُجّار ﴾ کے انجامِ دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشۂ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

83- سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

آیات : 36...... مَکِّیَّة"...... پیراگراف : 4



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الـمُـطَـفِّـفِـيـن﴾ ، اِعلانِ عام کے بعد قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) میں نازل ہوئی، جب آپ ﷺ کے خلاف توہین وتذلیل اور استہزا کا بازار گرم تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سُورَةُ المُطَفِّفِين کا کتابی ربط

اس سورت میں بھی پچھلی سورت ﴿ الانفطار ﴾ کی طرح ﴿ اَبرار ﴾ اور ﴿ فُجّار ﴾ کے درمیان موازنہ ہے ، لیکن ﴿ فُجّار ﴾ کے لیے اُن کے کرتوتوں کے مطابق کچھ نئے نام بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ جیسے: ﴿ مُعتَد ﴾ یعنی حد سے گزر جانے والے بدعمل، ﴿ مُطَفِّفِينَ ﴾ یعنی ڈنڈی مارنے والے ﴿ اَثِيم ﴾ یعنی حق تلفی کرنے والے گناہ گار ﴿ مُكَذِّبِين ﴾ یعنی جھٹلانے والے ﴿ اَلَّذِينَ اَجْرَمُوْا ﴾ یعنی مجرم ﴿ كُفَّار ﴾ یعنی انکار کرنے والے وغیرہ۔ ﴿ اَبرار ﴾ اور ﴿ فُجّار ﴾ کے اعمال نامے دو مختلف دفتروں میں درج کیے جا رہے ہیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں ﴿ فُجّار ﴾ کے لیے دیگر استعمال شدہ الفاظ مندرجہ ذیل ہیں :

﴿ مُطَفِّفِين ﴾ (آیت:1) ﴿ مُكَذِّبِين ﴾ (آیت:10) ﴿ مُعتَد ﴾ (آیت:13) ﴿ اَثِيم ﴾ (آیت:13) ﴿ اَلَّذِين اَجرَمُوا ﴾ (آیت:29) ﴿ كُفَّار ﴾ (آیت:36)

2- اس سورت میں ، اہلِ ایمان ﴿ اَبرار ﴾ کے لیے ﴿ فُجّار ﴾ کے مقابلے میں کچھ الفاظ محذوف ہیں :

﴿ مُطَفِّفِين ﴾ کے مقابلے میں ﴿ مُسَوِّفِين ﴾ محذوف ہے۔ ﴿ مُكَذِّبِين ﴾ کے مقابلے میں ﴿ مُصَدِّقِين ﴾ محذوف ہے۔

﴿ اَلَّذِين اَجرَمُوا ﴾ کے مقابلے میں ﴿ صَالِحِين ﴾ محذوف ہے۔ ﴿ كُفَّار ﴾ کے مقابلے میں ﴿ مُسلِمِين ﴾ محذوف ہے۔

3- اس سورت میں، دوہرے معیار (Double Standards) اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ انسان اپنے لیے بھی وہی اصول اور ضوابط اختیار کرے ، جو وہ دوسروں کے لیے اختیار کرتا ہے۔ بدکردار لوگوں کو اپنے مالی معاملات کو شفاف بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

4- یہاں قریشِ مکہ کی بدکردار قیادت کو صاف صاف بتایا گیا ہے کہ ان کے مجرمانہ افعال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن کی دعوت آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ ﴿ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴾ (آیت:14)

5- اس سورت میں ﴿ فُجّار ﴾ کو بتایا گیا کہ ان کے اعمال نامے ﴿ سِجِّين ﴾ کے دفتر میں محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ انہیں برے اعمال سے بچنا چاہیے ، ورنہ یہ نہ صرف جسمانی عذاب سے دوچار ہوں گے، بلکہ اللہ کے دیدار کی عظیم روحانی سعادت سے بھی محروم رکھے جائیں گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴾ (آیت:15)

6- اس سورت میں انسان کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور ﴿ اَبْرَار ﴾ میں شامل ہو جائے اور ﴿ اَبْرَار ﴾ کے لیے تیار کیے گئے اعمال ناموں کے دفتر ﴿ عِلِّيُّوْن ﴾ کی کتاب میں اپنی جگہ بنالے۔ ﴿ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ﴾ (آیت:18)

7- اس سورت میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے ﴿ اَبْرَار ﴾ کو یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ ان کی جنت میں ایسی خوشبودار شراب سے تواضع کی جائے گی ، جو سربند ہوگی اور جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴾ (آیت:25)

اس شراب کو حاصل کرنے کے لیے انہیں نیک اعمال کے ذریعے، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ﴿ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴾

سورۃ المُطَفِّفِين کا نظمِ جلی

سورۃ المُطَفِّفِين چار (4) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 6 : پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ منکرینِ آخرت، مالی معاملات میں دوہرا معیار رکھتے ہیں۔

﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴾ (1) تباہی ہے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔

﴿ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴾ جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں، تو پورا پورا لیتے ہیں۔

﴿ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴾ اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں، تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔

﴿ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴾ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ (ایک بڑے دن) یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟

﴿ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴾ (5) ایک بڑے دن (اٹھا کر لائے جانے والے ہیں)!

﴿ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾ (6) اس دن، جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

کاروباری معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری کی بنیادی وجہ، آخرت کی جوابدہی کے احساس سے محرومی ہے۔

دوسروں سے تو پورا ناپ کر اور تول کر لینا، مگر دوسروں کو ناپ تول میں گھاٹا دینا، دوہرے معیار (Double Standards) اور آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ آخرت پر یقینِ کامل کے بغیر ، مالی معاملات میں، کامل راست بازی اور شفافیت (Transparency) اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- آیات 7 تا 17 : دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ منکرِ آخرت ﴿ فُجَّار ﴾ کے اعمال ﴿ سِجِّین ﴾ میں درج کیے جاتے ہیں۔

﴿ كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ﴾(7)

ہرگز نہیں، یقیناً! بدکاروں (فُجّار) کا نامۂ اعمال، قید خانے کے دفتر میں ہے۔

﴿وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ" ﴾(8) اور تمھیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ سِجّین قید خانے کا دفتر؟

﴿ كِتٰبٌ" مَّرْقُوْمٌ" ﴾(9) وہ ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی۔ (لکھا ہوا دفتر)

﴿ وَيْلٌ" يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴾(10) تباہی ہے! اس روز، جھٹلانے والوں کے لیے۔

﴿ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ (11) جو روزِ جزا کو جھٹلاتے ہیں۔

﴿وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴾ اور اسے نہیں جھٹلاتا، مگر ہر وہ شخص، جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔

﴿اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴾ (13)

اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے، یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴾ (14)

ہرگز نہیں ! بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔

﴿ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴾ (15)

ہرگز نہیں ! بالیقین اُس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے

﴿ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴾ (16) پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔

﴿ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴾ (17)

پھر ان سے کہا جائے گا : یہ وہی چیز ہے ، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔

جن لوگوں نے جزاء اور سزا کے دن کو جھٹلایا اور اپنی زندگی ، حرام خوری، ﴿ تَطْفِيْف ﴾ اور اللہ کی نافرمانی میں گذاری، ان کے نامۂ اعمال، جرائم پیشہ لوگوں کے رجسٹر (Black List) میں درج ہو رہے ہیں اور مرنے کے بعد ایک خاص ریکارڈ آفس ﴿ سِجِّین ﴾ (Criminal Record Book) میں رکھے گئے ہیں، جو مجرمین ﴿ فُجَّار ﴾ کے لیے مخصوص ہے۔ قیامت کے دن ، اس ریکارڈ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اور اُس روز، اُن کا انجام، بڑا ہی حسرتناک ہوگا یہ بدنصیب، دیدارِ الٰہی سے بھی محروم رکھے جائیں گے۔

پیراگراف کا آغاز، ﴿ كَلَّآ ﴾ سے ہوا ہے، جس سے پہلے کچھ محذوف ہے۔ یعنی منکرینِ قیامت کی خوش فہمیاں غلط ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3- آیات 18 تا 28 : تیسرے پیراگراف میں ،﴿ اَبرار﴾ یعنی نیک لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے

ان کے اعمال نامے، بلند پایہ لوگوں کے رجسٹر ﴿ عِلِّیُّوْنَ﴾ (Talent Record Book) میں درج ہو رہے ہیں، جس پر مقرب فرشتے مامور ہیں۔ (یہ وہ لوگ ہیں، جو راست باز ہیں، جو دوہرے معیار نہیں رکھتے۔ حرام مال نہیں کھاتے۔ ڈنڈی نہیں مارتے، آخرت کی جواب دہی سے ڈرتے ہیں، مالی معاملات میں شفافیت اختیار کرتے ہیں)۔ انہیں ﴿رَحِیْقٍ مَّخْتُوْمٍ﴾ پلائی جائے گی۔ ان ﴿مُقَرَّبُوْن﴾ کو ﴿تَسْنِیْم﴾ کے چشمے کا آمیزہ پلایا جائے گا۔ لوگوں کو اس کے حصول کے لیے، بازی لے جانے کی ترغیب دی گئی ہے۔

یہاں بھی ﴿کَلَّا﴾ ہرگز نہیں، کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ،یعنی سب کا انجام ایک جیسا نہ ہوگا)

﴿ کَلَّآ اِنَّ کِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِیْ عِلِّیِّیْنَ ﴾(18)

ہرگز نہیں! بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال، بلند پایہ لوگوں کے دفتر میں ہے۔

﴿ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّیُّوْنَ ﴾(19) اور تمہیں کیا خبر! کہ کیا ہے وہ (عِلِّیِّیْن) بلند پایہ لوگوں کا دفتر؟

﴿ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴾(20) ایک لکھی ہوئی کتاب (لکھا ہوا دفتر)۔

﴿ یَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴾ (21) جس کی نگہداشت، مقرب (فرشتے) کرتے ہیں۔

﴿اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ﴾ (22) اَبرار ،اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوں گے۔ (عیش میں ہوں گے)

عَلَى الْاَرَآئِكِ یَنْظُرُوْنَ ﴾ (23) تختوں (اونچی مسندوں) پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔

﴿تَعْرِفُ فِیْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیْمِ ﴾ (24) اَبرار کے چہروں پر خوشحالی کی رونق محسوس ہوگی۔

﴿ یُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِیْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴾(25) اَبرار کو نفیس سر بند شراب (رحیقِ مختوم) پلائی جائے گی۔

﴿ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ﴾ (26) جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔

﴿ وَفِیْ ذٰلِكَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴾(26)

بازی لے جانے والے، رحیقِ مختوم کو حاصل کرنے کے لیے بازی لے جانے کی کوشش کریں!

﴿ وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِیْمٍ ﴾(27) اس شراب میں، تسنیم کی آمیزش ہوگی۔

﴿عَیْنًا یَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴾(28) یہ ایک چشمہ ہے، جس کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔

4- آیات 29 تا 36: چوتھے اور آخری پیراگراف میں ، آخرت کی سزا کے اسباب بیان کیے گیے۔

﴿اِنَّ الَّذِیْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَضْحَكُوْنَ ﴾(29)

مجرم لوگ، دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ (30)

جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر، ان کی طرف اشارے کرتے تھے۔

﴿ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾(31)

اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے۔

﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴾(32) اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے: یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔

﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴾ (33) حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔

﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾(34)

ہاں! آج (قیامت کے دن) اہلِ ایمان کافروں کے حال پر ہنس رہے ہیں

﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ ، يَنْظُرُونَ ﴾(35) مسندوں (تختوں) پر بیٹھے ہوئے، ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔

﴿ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾(36) مل گیا نا! کافروں کو، ان حرکتوں کا ثواب، جو وہ کیا کرتے تھے؟

﴿ فُجّار ﴾ کے جرائم کا ذکر کیا گیا ہے، ﴿ فُجّار ﴾ کو ﴿ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ یعنی مجرم کا نام دیا گیا ہے۔ ان کے اخلاقی کردار پر گرفت کی گئی ہے، یہ لوگ اہلِ ایمان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں ﴿ يَضْحَكُون ﴾ ہدایت یافتہ لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، چنانچہ ان کی بے پروائی، بے فکری اور تکبر کا نقشہ کھینچ کر، روزِ قیامت ان کے روحانی عذاب کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور اہلِ ایمان کو تسلی دی گئی ہے۔

مرکزی مضمون

﴿ یوم الدّین ﴾ یعنی قیامت کی تکذیب کرنے والے مُطَفِّفِین، مُکَذِّبِین، مُعتَد، اَثِیم، مُجرم اور کُفّار و فُجّار بن جاتے ہیں۔ ﴿ اَبرار ﴾ اور ﴿ فُجّار ﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔ دونوں کے اعمال دو مختلف قسم کے دفتروں میں درج کیے جا رہے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

84- سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ

آیات : 25...... مَکِّیَّۃ‘‘...... پیراگراف : 4



زمانۂ نزول:

سورت ﴿ الانشقاق ﴾ بھی اعلانِ عام کے بعد قیامت مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) میں نازل ہوئی، جب آپ ﷺ کے خلاف توہین و تذلیل اور استہزا کا بازار گرم تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سُورَةُ الانشِقاق کے فضائل

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَاْىَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَاْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ﴾ ''جو شخص مناظرِ قیامت دیکھنا چاہتا ہے، اُسے سورت ﴿التکویر﴾ ﴿الفطار﴾ اور ﴿انشقاق﴾ کا مطالعہ کرنا چاہیے''۔

(ترمذی :کتاب التفسیر ، باب سورۃ التکویر ، حدیث 3,333، صحیح)

سُورَةُ الانشِقاق کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿المُطَفِّفِين﴾ میں اعمال ناموں کا ذکر تھا۔﴿فُجّار﴾ کے اعمال ﴿سِجّين﴾ میں اور ﴿اَبرار﴾ کے اعمال ﴿عِلِّيُّون﴾ میں درج کیے جارہے ہیں۔

یہاں سورت ﴿الانشِقاق﴾ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اعمال نامے خوش نصیبوں کو سیدھے ہاتھ میں اور بدنصیبوں کو پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں انسان پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ وہ بڑی محنت اور مشقت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے ،لیکن اسے یہ احساس نہیں کہ موت کے بعد اسے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔﴿اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ﴾ (آیت:6)

یہی بات آیت:19 میں بھی ایک دوسرے انداز میں دہرائی گئی۔﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾

2- قیامت کے دن جو خوش نصیب سیدھے ہاتھ میں نامۂ اعمال وصول کرے گا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا﴾ (آیت:8) رسول اللہ ﷺ نے وضاحت کی ہے کہ ﴿حِسَابًا يَّسِيْرًا﴾ یعنی آسان حساب سے مراد، جنت میں بلاحساب داخلہ ہے۔

3- زمین اور آسمان بھی ، اپنی اگلی منزلیں طے کرتے ہیں۔

4- شفق، رات اور چاند کی طرح، انسان کی بھی منزلیں ہیں۔ (پیدائش، بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، قبر، پھر قیامت کا حساب کتاب، اور آخرکار جنت یا دوزخ)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الانشقاق کا نظمِ جلی

سورۃ الانشقاق چار (4) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 6 : پہلے پیراگراف میں، مناظرِ قیامت کی روشنی میں، آسمان اور زمین کے آفاقی دلائل دے کر بتایا گیا کہ انسان بھی، اپنے رب سے ملاقات کے لیے اپنی اگلی منزلیں اسی طرح طے کر رہا ہے۔ جیسے آسمان، زمین، چاند وغیرہ۔

﴿ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴾ (1) جب آسمان، پھٹ جائے گا۔

﴿ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ (2) اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے۔

﴿ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ (3) ﴾ اور جب زمین ، پھیلا دی جائے گی۔

﴿ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ﴾ (4) اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔

﴿ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ (5) اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے حق یہی ہے۔

﴿ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اے انسان ،تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے

اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ﴾ (6) اور اس سے ملنے والا ہے۔

آسمان ہوں یا زمین ، دونوں اللہ کے غلام ہیں، مطیع و فرماں بردار ہیں۔ قوتِ اختیار سے عاری ہیں۔ یہ دونوں اپنے اپنے تکوینی دائرے میں سمع و طاعت پر مجبور ہیں۔ قیامت کا پہلا مرحلہ ہو یا دوسرا مرحلہ ، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی طے ہوگا۔ اس کے برخلاف انسان کو کچھ عمل کی آزادی کا اختیار حاصل ہے ،لیکن وہ کلی طور پر خودمختار نہیں۔ وہ چاہے نہ چاہے، طوعًا یا کرھًا اپنے رب سے ملاقات کے لیے، اپنی مقررہ منزلوں کو طے کر رہا ہے۔

2- آیات 7 تا 15 : دوسرے پیراگراف میں، خوش نصیبوں کے اعمال ناموں ﴿ کتاب ﴾ کا ذکر ہے ، جو ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ ہلکے حساب کی وضاحت ، حدیثِ نبوی ﷺ میں بلاحساب دُخولِ جنت سے کی گئی ہے۔

﴿ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ﴾ (7) پھر جس شخص کا نامۂ اعمال، اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا۔

﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴾ (8) اُس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔

﴿ وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴾ (9) اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش (شادمند) پلٹے گا۔

﴿ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴾ (10) رہا وہ شخص ،جس کا اعمال نامہ ،اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا

﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴾ (11) تو وہ موت کو پکارے گا۔ (تو وہ موت کی دہائی دے گا)

﴿ وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًا ﴾ (12) اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿اِنَّهٗ كَانَ فِیْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴾(13) وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔

﴿اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ یَّحُوْرَ ﴾(14) اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔

﴿بَلٰۤى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِیْرًا ﴾(15) ہاں! (پلٹنا کیسے نہ تھا!) اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا

خوش نصیب مومنینِ آخرت کے برخلاف ، بدنصیب منکرینِ آخرت ، آگ میں جلیں گے۔ان کا نامۂ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔

خوش نصیبوں اور بدنصیبوں کے درمیان ، ایک واضح فرق یہ ہوگا کہ بدنصیب منکرینِ آخرت ، اس دنیا میں اپنے بیوی بچوں میں مگن تھے ، ﴿ان کی خوشی کے لیے حرام کماتے تھے ، رشوت لیا کرتے تھے وغیرہ﴾۔

اس کے برخلاف خوش نصیب ﴿مُتَّقِیْن﴾، اس دنیا میں پرہیزگاری کی زندگی گذارتے تھے ، زندگی کی پُر پیچ راہوں میں بچ بچا کر چلتے تھے۔وہ آخرت میں اپنے اہل وعیال کی طرف خوش خوش پلٹیں گے۔

3- آیات 16 تا 19 :تیسرے پیراگراف میں ،شفق، چاند،اور رات کے آفاقی دلائل پیش کرکے بتایا گیا کہ:

اسی طرح انسان کی بھی منزلیں ہیں۔ایک اور زاویے سے انسان کی اگلی منزلوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ جس طرح چاند کی منزلیں ہیں، رات کی گردش ہے، شفق کی نمود اور غیوب ہے، اسی طرح انسان کو بھی، لازماً اگلی منزلوں سے دوچار ہونا ہے ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾، لہذا اُسے قرآن پر ایمان لاکر نیک عمل کرنا چاہیے۔﴿اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ﴾ سے نوازا جائے گا ، ورنہ دوزخی ہوگا۔

﴿فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾(16) پس نہیں ! میں قسم کھاتا ہوں ، شفق کی !

﴿وَالَّیْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾(17) اور رات کی قسم ! اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے۔

﴿وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴾(18) اور چاند کی قسم ! جبکہ وہ ماہِ کامل ہوجاتا ہے۔

﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾(19) تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلے جانا ہے

4- آیات 20 تا 25 :چوتھے اور آخری پیراگراف میں،عذابِ الیم سے بچنے کے لیے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے

﴿فَمَا لَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴾(20) پھر ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ؟

﴿وَاِذَا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا یَسْجُدُوْنَ ﴾(21) اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے؟

﴿بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا یُكَذِّبُوْنَ ﴾(22) بلکہ ، یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں۔

﴿وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا یُوْعُوْنَ ﴾(23) حالانکہ اللہ سے خوب جانتا ہے جو کچھ یہ (اپنے نامۂ اعمال میں) جمع کررہے ہیں۔

﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ﴾(24) لہذا !ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ (25)

"البتہ جو ایمان لا چکے ہیں، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔" (دائمی انعام ہے)

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ انسان کی منزلیں ہیں تو پھر وہ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اُس قرآن پر، جو اگلی منزلوں کے بارے میں واضح معلومات فراہم کر رہا ہے۔ روزِ قیامت ﴿ مُكَذِّبِينِ قرآن ﴾ اور ﴿ مؤمنينِ قرآن ﴾ کا انجام مختلف ہوگا۔ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ایمان نہ لانے والوں، ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ سجدہ نہ کرنے والوں، ﴿ يُكَذِّبُونَ ﴾ جھٹلانے والوں، اور ﴿ يُوعُونَ ﴾ مال جمع کرنے والوں کا انجام ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ایمان لانے والوں ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ نیک عمل کرنے والوں سے مختلف ہوگا۔

مرکزی مضمون

انسان کو اپنی اگلی منزلوں کا تصور کر کے، قرآن پر ایمان لانا چاہیے۔ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر بلا حساب جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

85- سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ

آیات : 22 ...... مَكِّيَّة"...... پیراگراف : 4



زمانۂ نزول:

سورت ﴿البُرُوج﴾ رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) میں نازل ہوئی، جب عقیدۂ توحید اختیار کرنے کے جرم میں، ﴿اَصحابُ الاُخدُود﴾ کی طرح، مکے کے مشرک سردار مسلمانوں پر شدت کے ساتھ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔

قریشِ مکہ کو فرعون اور ثمود کے لشکروں کے انجام سے ڈرایا گیا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ البُرُوج کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿ الانشقاق ﴾ کے آخر میں ﴿ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یُکَذِّبُوْنَ ﴾ کے الفاظ سے اہلِ تکذیب کی صفات بیان کر کے، ان کے مقابلے میں اہلِ ایمان کا تذکرہ کیا گیا تھا اور انہیں ﴿ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ ﴾ کی بشارت دی گئی تھی۔ یہاں اس سورت ﴿ البُرُوج ﴾ میں بھی کافروں کی تکذیب کا ذکر ہے۔ ﴿ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ تَکْذِیْبٍ ﴾۔ کافروں کو ﴿ تکذیبِ قرآن ﴾ کے بجائے ﴿ تَصدیقِ قرآن ﴾ کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس سورت ﴿ البُرُوج ﴾ میں قرآن کو ﴿ مَجِید ﴾ یعنی بلند پایہ کلام کہا گیا۔

اگلی سورت ﴿ الطَّارِق ﴾ میں قرآن کو ایک فیصلہ کن کلام ﴿ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴾ کہا گیا۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں ﴿ اَصحابُ الاُخدُود ﴾ (گڑھے والوں) کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو ایک بڑے جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا۔ لڑکا جادو سیکھنے کے بجائے ایک راہب کی صحبت میں رہ کر حضرت عیسیٰ ؑ کی سچی تعلیماتِ توحید کا پیروکار بن گیا۔ لوگ اس لڑکے کی تعلیمات پر ایمان لانے لگے۔ بادشاہ نے ایک گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلائی۔ عقیدۂ توحید پر ایمان لانے والے ہر شخص کو آگ سے بھرے اس گڑھے میں پھکوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو ﴿ عَذَابُ الحَرِیق ﴾ یعنی آگ کی سزا اور ایمان لانے والے مظلوموں کو جنت میں ﴿ الفوز الکبیر ﴾ کی بشارت دی ہے۔

قریشِ مکہ کے سرداروں پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کے رویے بھی اسی ظالم بادشاہ کی طرح ہیں۔ اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی دوزخ کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے دوچار کرے گا۔

2- ﴿ مَجِید ﴾: اس سورت میں یہ لفظ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، ﴿ اللہ ﴾ کے لیے بھی اور ﴿ قرآن ﴾ کے لیے بھی۔

سورۃ البُرُوج کا نظمِ جلی

سورۃ البروج چار (4) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 11 : پہلے پیراگراف میں، برجوں والے آسمان اور روزِ قیامت کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ

ظلم وستم کا بدلہ مل کر رہے گا، اہلِ ایمان پر تشدد کرنے والے تباہ ہو کر رہیں گے۔ اس مضمون کے دو پہلو ہیں۔ اس میں ظالموں کے لیے اِنذار (Warning) ہے، اور مظلوموں کے لیے تسلی اور خوشخبری ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اہلِ ایمان کو لازماً سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ظالموں کے لیے دوزخ کا عذاب اور ﴿عَذَابُ الْحَرِيْقِ﴾ ہو گا۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے ﴿اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرُ﴾ کی خوشخبری دی گئی۔

﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ﴾ (1) قسم ہے! مضبوط قلعوں والے، آسمان کی!

﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ﴾ (2) اور اس دن کی! جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

﴿وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ﴾ (3) دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی!

﴿قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ﴾ (4) مارے گئے! گڑھے والے

﴿النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ﴾ (5) (اس گڑھے والے) جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔

﴿اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ﴾ (6) جبکہ وہ لوگ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔

﴿وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ﴾ (7)
اور جو کچھ وہ لوگ، ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے، وہ اسے دیکھ رہے تھے۔

﴿وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ﴾ (8) اور ان اہلِ ایمان سے، ان (اَصْحَابُ الْاُخْدُوْد) کی دشمنی کی اس کے سوا کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ 'اللّٰه' پر ایمان لے آئے تھے، اُس اللہ پر، جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔

﴿الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (وہ اللہ)، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے

﴿وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ﴾ (9) اور وہ اللہ، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ﴾ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ستم توڑا ہے

﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا﴾ اور پھر اس سے تائب نہیں ہوئے،

﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ﴾ (10)
یقیناً، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلائے جانے کی سزا ہے۔

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴾ جو لوگ (پختہ) ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔

﴿لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ﴾ یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی

﴿ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ﴾ (11) یہ ہے بڑی کامیابی۔ (بڑی کامیابی دراصل یہ ہے)

2- آیات 12 تا 16: دوسرے پیراگراف میں، اللہ تعالیٰ کی جلالی اور جمالی صفات کے ذریعے، قیامت کی جزا و سزا پر دلیل قائم کی گئی ہے۔

﴿اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ﴾ (12) درحقیقت! تمہارے رب کی پکڑ، بڑی سخت ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ ﴾(13) وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔

﴿ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴾(14) وہ بخشنے والا ہے ، محبت کرنے والا ہے۔

﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴾ (15) عرش کا مالک ہے ، بزرگ و برتر ہے۔

﴿ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴾(16) اور جو کچھ چاہے ، کر ڈالنے والا ہے۔

اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے﴿اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ﴾، لیکن وہ غفور و ودود بھی ہے﴿ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴾ظلم ڈھانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ظالموں کو ظلم سے فوراً باز آجانا چاہیے ،اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہیں توبہ کرنا چاہیے ، ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں سے انتقام لے کر رہے گا اور مظلوموں کی فریادرسی ہو کر رہے گی۔ مظلوم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں اور ہمیشہ انہیں مستحضر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ، غفور بھی اور وَدُود بھی ہے۔ وہ مہلت اور ڈھیل دیتا ہے۔ توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن صاحبِ اقتدار ہے۔ بااختیار ہے۔ عرش کا مالک ہے۔ (بے بس اور مجبور نہیں) ، جو چاہے کر ڈالتا ہے۔﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴾ ہے۔

3- آیات 17 تا 18 : تیسرے پیراگراف میں، اللہ تعالیٰ کے قانونِ جزا وسزا کی تاریخی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں۔

تاریخ میں عسکری قوتوں کی ہلاکت کا (یعنی فرعون کے لشکروں اور ثمود کے جنود کی ہلاکت کا) درس موجود ہے۔

﴿ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴾(17) کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟

﴿ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ ﴾ (18) فرعون اور ثمود (کے لشکروں) کی؟

مسلمانوں پر ظلم وستم کرنے والوں کو، تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

فرعون، بنی اسرائیل پر ظلم وستم ڈھایا کرتا تھا۔ اور قومِ ثمود کے نو (9) لیڈروں نے، حضرت صالح کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی۔

4- آیات 19 تا 22 : چوتھے اور آخری پیراگراف میں، قیامت کے منکرین کو قرآن مجید کی عظمت پر غوروفکر کر کے قرآن اور اس کی دعوتِ آخرت پر ایمان لانے کا مشورہ دیا گیا۔

﴿ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴾(19) مگر جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔

﴿ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآىِٕهِمْ مُّحِيْطٌ ﴾(20) حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔

﴿ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴾ (21) (یہ جھٹلانے کی چیز نہیں) بلکہ یہ قرآن ، بلند پایہ ہے۔

﴿ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴾ (22) اس لوح میں (نقش ہے) جو محفوظ ہے۔

یہاں دو مرتبہ﴿بَلْ﴾ استعمال ہوا ہے، جس سے پہلے کچھ محذوف ہے، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ظالم طاغی اور

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

فسادی لوگوں کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ وہ مسلمانوں پر ظلم وستم سے باز آجاتے، قرآن اور محمد ﷺ پر ایمان لے آتے، فرعون اور قوم ثمود کے لشکروں کے انجام سے سبق لیتے۔ لیکن اس کے بجائے، وہ قرآن اور محمد ﷺ کی تکذیب میں مصروف اور منہمک ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی نگرانی کر رہا ہے، بلکہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے ﴿وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ﴾۔ ایک مناسب وقت ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ قرآن جنات اور شیطان کا کلام نہیں ہے، بلکہ لوحِ محفوظ کا بلند پایہ ﴿مَّجِيْدٌ﴾ کلام ہے۔

مرکزی مضمون

عقیدۂ توحید پر ایمان لانے کے بعد، لازمی طور پر آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں پر ظلم وستم ڈھانے والی طاغوتی اور عسکری قوتیں، اللہ کے انتقام سے نہیں بچ سکتیں۔ اللہ تعالیٰ کی جلالی اور جمالی صفات کا جائزہ لے کر، اس کے بلند پایہ ﴿مَّجِيْدٌ﴾ قرآن پر ایمان لا کر، صبر واستقامت کی تاریخ رقم کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

86- سُوْرَةُ الطَّارِقِ

آیات : 17 ...... مَکِّیَّۃ"...... پیراگراف : 4



زمانہ نزول:

سورت ﴿ الطَّارِق ﴾ رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6تا10نبوی) میں نازل ہوئی، جب قریش آپ ﷺ کے خلاف گہری سازشوں ﴿ کَید ﴾ سے کام لے رہے تھے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ الطَّارِق کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿ البُرُوج ﴾ میں قریشِ مکہ کی تکذیب کا ذکر تھا﴿ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْب ﴾۔ انہیں قرآن کی تکذیب نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ یہاں اس سورت ﴿ الطَّارِق ﴾ میں بتایا گیا ہے کہ قرآن ایک سنجیدہ کلام ہے ، ہنسی دل لگی نہیں ہے۔

﴿ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾۔اس سورت میں کافروں کی تکذیب کے علاوہ ،مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں﴿ كَيد ﴾ کا ذکر ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت﴿ الطَّارِق ﴾ میں اَنفُس اور آفاق کی دلیلوں پر غور کر کے آخرت کی زندگی کو تسلیم کر لینے کی دعوت دی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔

2- منکرینِ آخرت کو اہلِ ایمان کے خلاف سازشیں کرنے کے بجائے ، قرآن کی سنجیدہ باتوں پر غور وفکر کر کے آخرت کو تسلیم کر لینے کی دعوت دی گئی ہے۔

سورۃ الطارق کا نظمِ جلی

سورۃ الطارق چار(4) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 4 : پہلے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ ہر انسان پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے۔

آسمان اور تاروں کی آفاقی شہادت ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، ہر نفس پر ایک محافظ ہے﴿اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾۔آسمان اور ستاروں کے نظام،دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز اور کوئی جان ایسی نہیں ، جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر، اپنی جگہ پر قائم رہ سکتی ہو۔اس نگرانی کا تقاضا ہے کہ ہر شخص سے اس کی کارکردگی کا ایک روز حساب لیا جائے۔

﴿ وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴾ (1)	قسم ہے،آسمان کی!اور رات کو نمودار ہونے والے کی !
﴿ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ﴾ (2)	اور آپ کیا جانیں وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟
﴿ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾ (3)	وہ چمکتا ہوا تارا ہے۔ (دمکتے ستارے)
﴿ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾(4)	کوئی جان ایسی نہیں،جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- آیات 5 تا 10: دوسرے پیراگراف میں، انفس سے اِمکانِ آخرت کی دلیل پیش کی گئی۔ یہ توحید قدرت کا مضمون ہے

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾(5) پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے! وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟

﴿ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴾ (6) وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔

﴿يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ﴾ (7) جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔

﴿اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴾(8) یقیناً وہ (خالق) اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔

﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴾(9) جس روز ، پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔

﴿فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴾(10) تو اس وقت انسان کے پاس، نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔

انسان کو اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح نطفے کی ایک بوند سے، اس کو وجود میں لایا گیا ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴾۔ جس اللہ نے، اس طرح انسان کو وجود بخشا ہے، وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے ﴿اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴾ اور یہ دوبارہ پیدائش، اس غرض کے لیے ہوگی کہ انسان کے ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴾، جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس وقت اپنے اَعمال کے نتائج بھگتنے سے، انسان نہ تو خود اپنے بل بوتے پر بچ سکے گا، اور نہ کوئی دوسرا اس کی مدد کو آسکے گا۔ شفاعتِ باطلہ کے تصور کی تردید کی گئی ہے۔ ﴿ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴾

3- آیات 11 تا 14 : تیسرے پیراگراف میں دو (2) آفاقی دلیلیں ہیں۔ بارش والے آسمان کی اور پھٹنے والی زمین کی

﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴾(11)
قسم ہے ! بارش برسانے والے آسمان کی۔ (شاہد ہے آسمان! پُر از باراں)

﴿ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴾ (12)
قسم ہے! (نباتات اگتے وقت) پھٹ جانے والی زمین کی (شاہد ہے زمین پُر شگاف)

﴿اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴾(13) یہ (قرآن) ایک نپی تلی بات ہے۔ (دوٹوک بات ہے)

﴿ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾(14) ہنسی مذاق نہیں ہے۔

قرآن قول فیصل ہے، یعنی فیصلہ کن کلام ہے، سنجیدہ کلام ہے، خیرِ کثیر ہے، ہنسی دل لگی نہیں ہے آسمان کو ﴿ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴾ لوٹانے والا کہا گیا ہے۔ اس آیت سے اُس سائنسی نظریے کو تقویت حاصل ہوتی ہے، جسے H2O Cycle کہتے ہیں۔ بارش کے فیض سے، زمین پھٹ کر لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح قرآن کے فیض سے بھی، انسانی روحیں سیراب

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہو کر رہیں گی۔

4- آیات 15 تا 17 : چوتھے اور آخری پیراگراف میں ،رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی اور قریشِ مکہ کو دھمکی دی گئی ہے کہ ان کی سازشیں قرآن کی دعوت کو ناکام نہیں کر سکتیں۔

﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾(15) (یقیناً) یہ لوگ (یعنی کافرین) کچھ چالیں چل رہے ہیں۔

﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾(16) اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔

﴿ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾(17)

پس چھوڑ دیجیے (مہلت دیجیے)! اے نبی ﷺ! ان کافروں کو ذرا کی ذرا! ان کے حال پر چھوڑ دیجیے!

آپ ﷺ ذرا صبر سے کام لیں اور کچھ مدت کفار کو اپنی سی کر لینے دیں، زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی چالیں قرآن کو زک دیتی ہیں، یا قرآن اسی جگہ غالب آ کر رہتا ہے، جہاں یہ اسے شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کافروں کی اپنی چالیں ہیں! اللہ کے اپنے منصوبے ہیں ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾۔ کافروں کو ڈھیل اور مہلت دی جا رہی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ قیامت کے دن انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس دن نیتوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ قرآن مجید قولِ فیصل ہے، قرآن کے فیض سے روحیں سیراب ہو کر رہیں گی اور کافروں کی چالیں ناکام ہو جائیں گی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط — نظمِ جلی

87- سُ وْ رَ ةُ اُ لَا عْ لٰ ی

آیات : 19 ...... مَکِّیَّۃ'' ...... پیراگراف : 5



زمانۂ نزول:

1۔ سورت ﴿الاعلیٰ﴾ قیامِ مکہ کے پہلے دور (0 تا 3 نبوی) میں آپ ﷺ پر نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جارہی تھی اور جب ابتدائی ایام میں آپ وحی کو سن کر یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى﴾

2۔ اس سورت کا کچھ حصہ غالباً اعلانِ عام کے بعد دوسرے دور کے زمانۂ تذکیر میں نازل ہوا ﴿فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ الاَعلیٰ کے فضائل

1۔ رسول اللہ ﷺ جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورت ﴿ الاعلیٰ ﴾ اور دوسری رکعت میں سورت ﴿ الغاشية ﴾ پڑھا کرتے تھے۔

(صحیح مسلم: کتاب الجمعة، باب ما یقرأ فی صلوة الجمعة، حدیث 2,065، عن نعمان بن بشیرؓ)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی تمنا تھی کہ یہ ہر خاص وعام کو زبانی یاد ہو جائے اور اس کا مضمون ذہن نشین ہو جائے۔

2۔ وتر کی پہلی رکعت میں بھی آپ ﷺ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ﴿ الاعلیٰ ﴾ پڑھتے تھے۔

(ابو داود: کتاب الوتر، باب ما یقرأ فی الوتر، حدیث 1,465، عن ابی بن کعبؓ، صحیح)

سورۃُ الاَعلیٰ کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿الطَّارِق﴾ میں قرآن کی بارش سے دلوں کی کھیتیوں میں ایمان کی فصل اُگانے کی ترغیب تھی۔
یہاں سورت ﴿الاعلیٰ﴾ میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی نصیحت کو قلب میں اتارنے کے لیے دل کی خشیت درکار ہوتی ہے۔﴿ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴾۔

سورت ﴿الاعلیٰ﴾ اور اگلی سورت ﴿الغَاشِيَة﴾ دونوں میں ﴿فَذَكِّرْ﴾ کے الفاظ سے نصیحت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- سورت ﴿الاعلیٰ﴾ کی پہلی آیت ہی میں ﴿سَبِّحِ﴾ کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کا اعتراف کرتے ہوئے خالص توحید اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

2- اس سورت میں رسول اللہ ﷺ کو ﴿ فَذَكِّرْ ﴾ کے الفاظ سے قرآن کے ذریعے سے مستقل نصیحت کرتے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔(آیت:9)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ الاَعلیٰ کا نظمِ جلی

سورۃُ الاَعلیٰ پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 5: پہلے پیراگراف میں، انسان کو اپنے ربِّ برتر ﴿الاعلیٰ﴾ کی تخلیق پر غور کر کے تخلیق کے مختلف مراحل کا جائزہ لینے کے بعد صحیح عقیدۂ توحید اختیار کرنے اور اللہ کی بے عیبی کو تسلیم کر لینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

﴿تسبیح﴾ کے بغیر توحید کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ہر چیز کی پیدائش کے چار مراحل ہیں (1) تخلیق (2) تسویہ، (3) تقدیر اور (4) ہدایت۔ ہر چیز کو ڈیزائن کیا گیا، اسے وجود میں لایا گیا، اس کی صلاحیتوں کے دائرۂ کار کا تعین کیا گیا اور پھر ہر چیز کو اپنے دائرۂ کار میں کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وہ زمین میں نباتات کو پیدا کرتا ہے اور پھر انہیں خس و خاشاک بھی بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ایسی کائنات کے خالق کی صناعی اور کاری گری پر غور و فکر سے کام لے کر اس کی بے عیبی کا اعتراف کرنے یعنی تسبیح کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى﴾ (1) (اے نبی ﷺ) اپنے ربِّ برتر کے نام کی تسبیح کیجیے!

﴿الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى﴾ (2) جس نے پیدا کیا اور (جس نے خاکہ بنایا) تناسب قائم کیا۔

﴿وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى﴾ (3) جس نے تقدیر بنائی، (جس نے مقدر کیا) پھر راہ دکھائی۔

﴿وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى﴾ (4) جس نے نباتات اُگائیں۔

﴿فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى﴾ (5) پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ (پھر ان کو گھنی سرسبز و شاداب بنایا)

2- آیات 6 تا 8: دوسرا پیراگراف، ایک جملۂ معترضہ پر مشتمل ہے۔

﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى﴾ (6) ہم آپؐ کو پڑھوا دیں گے، پھر آپؐ نہیں بھولیں گے۔

﴿اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ﴾ سوائے اس کے جو اللہ چاہے،

﴿اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى﴾ (7) یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔

﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى﴾ (8) اور آپؐ کو آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو بتایا گیا کہ قرآن پڑھوانا اور اسے یاد کرانا اللہ کے ذمے ہے۔ محمد ﷺ کے حافظے میں، وحی کو محفوظ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔

3- آیات 9 تا 13: تیسرے پیراگراف میں رسول اللہ ﷺ کو ﴿تذکیر بالقرآن﴾ کا حکم دیا گیا۔

﴿فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى﴾ (9) لہٰذا! آپؐ نصیحت کیجیے! اگر نصیحت (یاد دہانی) نافع ہو۔

﴿سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى﴾ (10) جو شخص ڈرتا ہے، وہ نصیحت قبول کر لے گا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَ يَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴾(11) اور اس نعمت سے گریز کرے گا، وہ انتہائی بدبخت۔(اَشقٰی)

﴿ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴾ (12) جو بڑی آگ میں جائے گا۔

﴿ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴾ (13) پھر، نہ اس میں مرے گا، نہ جیئے گا۔

قرآن کی تذکیر سے، صرف ﴿اهلِ خَشْيَت ﴾ ہی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس پیراگراف میں ﴿مَنْ يَّخْشٰى ﴾ اور ﴿اَشْقٰى ﴾ کا موازنہ ہے۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ کی ﴿خشیت﴾ ہوگی، وہ قرآن کی نصیحت وتذکیر سے فیض یاب ہوں گے ۔لیکن شقی اور بدبخت اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ ﴿وَ يَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴾

4- آیات 14 تا 15: چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کہ انسانوں کے تزکیے کے لیے ذکر اور نماز دو (2) اہم اور ضروری شرائط ہیں

﴿ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴾(14) فلاح پا گیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی۔

﴿ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴾(15) اور اپنے رب کا نام یاد کیا ، پھر نماز پڑھی۔

تزکیۂ نفس کا پروگرام دیا گیا۔ یہ پروگرام ان کے لیے ہے، جو قرآن کی تذکیر سے فائدہ اٹھا کر فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ''یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا ،جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کرلیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا، چنانچہ نماز پڑھتا رہا''

یہاں چار (4) باتوں کی ترتیب اور ان کے باہمی ربط پر غور کیجیے۔

(a) کامیابی ﴿فلاح﴾ کے لیے، محنت درکار ہوتی ہے۔

(b) کامیابی کے لیے، ﴿نفس کا تزکیہ﴾ ضروری ہے۔

(c) تزکیے کے لیے ، ﴿ذکرِ الٰہی﴾ کا اہتمام لازمی ہے۔

(d) ﴿ذکرِ الٰہی﴾ کے لیے ، ﴿نماز﴾ کا التزام ضروری ہے۔ کاش ہماری نماز ذکر والی نماز بن جائے ،اللہ کی یاد والی نماز بن جائے۔

5- آیات 16 تا 19: پانچویں اور آخری پیراگراف میں، بتایا گیا کہ اہلِ خشیت اور اہلِ تزکیہ کی راہ میں دنیا رکاوٹ نہیں ہوسکتی۔

﴿ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴾ (16) مگر تم لوگ ، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔

﴿ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴾ (17) حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے (پائیدار ہے)

﴿ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴾(18) یہی بات ، پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی۔

﴿ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴾ (19) حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کے صحیفوں میں۔

یہ پیراگراف ﴿بَلْ﴾ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ مضمون محذوف ہے۔ مطلب ہے: ''لیکن تم کیوں نماز'

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پڑھو گے؟ کیوں 'ذکر' کرو گے؟ کیوں 'تزکیہ' اختیار کرو گے! تم تو دنیا کی زندگی پر مرے جاتے ہو! تم ایک عارضی چیز (دنیا) کے خواہاں ہو! تمہیں آخرت سے کیا دلچسپی ہے؟ تم اہلِ خشیت میں سے نہیں ہو، اس لیے قرآن کی تذکیر سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔'' اوپر اہلِ خشیت کے لیے، تذکیر بالقرآن کے بعد، تزکیۂ نفس کا جو پروگرام دیا گیا تھا، اس پر عمل درآمد کی راہ میں، دنیا اور دنیا کی محبت حائل ہے۔

دنیا کی محبت سے بچ کر، نماز اور ذکر کے ذریعے نفس کی پاکیزگی اختیار کرنے کا آسمانی نسخہ پہلی مرتبہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، بلکہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کے صحیفوں میں بھی تزکیۂ نفس کا یہی پروگرام درج تھا۔

مرکزی مضمون

﴿تسبیح﴾ اور ﴿تذکیر بالقرآن﴾ جاری رہنا چاہیے۔ اہلِ خشیت قرآن کی دعوتِ تذکیر سے فائدہ اٹھا کر تزکیۂ نفس کے پروگرام پر عمل کریں گے، دنیا ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکے گی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

88- سُوْرَةُ الغَاشِيَة

آیات : 26 ...... مَکِّیَّۃ" ...... پیراگراف : 4



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الغاشیۃ﴾ کی پہلی آیت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعلانِ عام کے بعد رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) کے زمانۂ تذکیر میں نازل ہوئی۔

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ﴾ "نصیحت و تذکیر کیجیے ! آپ ﷺ تذکیر کرنے والے ہی تو ہیں"۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس سورت کے فضائل

رسول اللہ ﷺ نمازِ جمعہ اور نمازِ عیدین کی پہلی رکعت میں سورت ﴿الاعلیٰ﴾ اور دوسری رکعت میں سورت ﴿الغَاشِيَة﴾ پڑھا کرتے تھے۔

(صحیح مسلم: کتاب الجمعة ، باب ما یقرأ فی صلاة الجمعة ، حدیث 2,065)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے ، جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی تمنا تھی کہ یہ ہر خاص وعام کو زبانی یاد ہو جائے اور اس کے مضامین سب کو ذہن نشین ہو جائیں۔

سورۃُ الغَاشِيَةِ کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿الاعلیٰ﴾ کی طرح یہاں بھی سورت ﴿الغَاشِيَة﴾ میں ﴿فَذَكِّر﴾ کے الفاظ سے رسول اللہ ﷺ کو نصیحت و تذکیر کی ہدایت موجود ہے۔

2- پچھلی سورت ﴿الاعلیٰ﴾ میں جسے ﴿نَارُ الكُبرىٰ﴾ کہا گیا تھا، اُسے یہاں ﴿عذابُ الاکبر﴾ کہا گیا ہے۔ (آیت:24)

3- سورت ﴿الغاشية﴾ میں اہلِ جنت اور اہلِ دوزخ کے احوال کو ﴿وُجُوْهٌ" يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَة"﴾ اور ﴿وُجُوْهٌ" يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَة"﴾ کے الفاظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اگلی سورت ﴿الفجر﴾ میں ﴿نفوسِ مطمئنہ﴾ اور ﴿نفوسِ غیر مطمئنہ﴾ کا موازنہ ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

رسول اللہ ﷺ کو واضح طور بتا دیا گیا کہ آپ صرف ﴿مُذَكِّر﴾ ہیں ، وعظ ونصیحت سے کام لے سکتے ہیں، ﴿مُصيطِر﴾ (داروغہ) نہیں ہیں۔ زبردستی توحید اور اسلام کا اقرار کرانا مطلوب نہیں ہے۔ یہ انسان کے مذہبی اختیار (Freedem of Faith) کا مضمون ہے۔ اخلاص اور محبت کے ساتھ دلائل کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر دین کی دعوت دینی چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ الغَاشِیَۃ کا نظمِ جلی

سورۃُ الغَاشِیَۃ چار (4) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 7 : پہلے پیراگراف میں قیامت کو جھٹلانے والوں کا اُخروی انجام بیان کیا گیا۔

﴿هَلْ أَتٰـكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (1) کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟

﴿وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾ (2) کچھ چہرے اس روز، خوفزدہ ہوں گے۔(اترے ہوئے)

﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾ (3) سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے۔

﴿تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً﴾ (4) شدید آگ میں ، جھلس رہے ہوں گے۔

﴿تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ﴾ (5) کھولتے ہوئے چشمے کا پانی، انہیں پینے کو دیا جائے گا۔

﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ﴾ (6) خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا، ان کے لیے نہ ہوگا۔

﴿لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ (7) جو نہ موٹا کرے ، نہ بھوک مٹائے۔

آغاز ،ایک سوال سے کیا گیا ہے ﴿هَلْ أَتٰـكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ؟﴾ ،اس کے فوراً بعد ، قیامت کو جھٹلانے والوں کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ان کے چہروں پر رسوائی ہوگی ، تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے ، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور کھانے کے لیے کانٹے دار جھاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔

2- آیات 8 تا 16 : دوسرے پیراگراف میں، قیامت پر ایمان لانے والوں کا اُخروی انجام بیان کیا گیا،

جو اللہ کے حضور، جوابدہی کے تصور کے تحت، زندگی گزارتے ہیں، اُن کے چہرے تروتازہ ہوں گے، اپنی کوششوں پر شاداں، بلند پایہ جنتوں میں، جہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ باغ میں ان کے لیے، بہتے ہوئے چشمے، اونچے تخت، قرینے سے رکھے ہوئے شراب کے پیالے اور نفیس قالینوں پر گاؤ تکیے سجے ہوں گے۔

﴿وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾ (8) کچھ چہرے اس روز ، بارونق (شگفتہ) ہوں گے۔

﴿لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ﴾ (9) اپنی کارگزاری پر خوش (شاد و مطمئن) ہوں گے۔

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ (10) عالی مقام جنت (اونچے باغ) میں ہوں گے۔

﴿لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً﴾ (11) کوئی بیہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے۔

﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ (12) اس میں چشمے رواں ہوں گے۔(چشمہ رواں ہوگا)

﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾ (13) اس کے اندر، اونچی مسندیں ہوں گی۔ (اونچے بچھے تخت)

﴿وَّأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ﴾ (14) ساغر رکھے ہوئے ہوں گے۔(آب خورے، قرینے سے دھرے)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴾(15) گاؤتکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی۔(غالیچے ترتیب سے لگے)

﴿ وَّ زَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴾ (16) اور نفیس فرش ، بچھے ہوئے ہوں گے۔(اور تکیے ہر طرف پڑے)

3- آیات 17 تا 20 : تیسرے پیراگراف میں، قیامت کا انکار کرنے والوں کو، آفاق کی چار نشانیوں اور قدرتِ الٰہی سے استدلال کر کے غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور قیامت کو تسلیم کر لینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

﴿ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾(17) کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے ! کیسے بنائے گئے ہیں؟

﴿وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ (18) آسمان کو نہیں دیکھتے ! کیسے اٹھایا گیا ہے؟

﴿وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴾(19) پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ! کیسے جمائے گئے ہیں؟

﴿وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾(20) اور زمین کو نہیں دیکھتے ! کیسے بچھائی گئی؟

اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر دلالت کرنے والی چار (4) آفاقی دلیلیں:

(1) اونٹ کی تخلیق پر (جس پر عربوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی کا انحصار ہے) غور کرنا چاہیے!

(2) آسمان کی بلندی کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کو بلند کرنے والی ہستی کتنی عظیم ہو سکتی ہے؟

(3) پہاڑوں کی تنصیب پر تدبر کرنا چاہیے کہ ان کو گاڑنے والی ہستی کس قدر قدرت و طاقت کی مالک ہو سکتی ہے؟

اور (4) زمین کو ہموار کرنے والی ہستی کس قدر صاحبِ اختیار ہو گی؟

ان چار دلیلوں کی روشنی میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا اِن سب کا خالق، مردوں کو زندہ کر کے عدالت قائم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ لوگوں کو جزاء اور سزا نہیں دے سکتا؟

4- آیات 21 تا 26 : چوتھے اور آخری پیراگراف میں رسول ﷺ کو ﴿تذکیر بالقرآن﴾ یعنی قرآن کے ذریعے نصیحت کا حکم ہے اور آپ کے لیے تسلی آمیز کلمات ہیں۔

نبی ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ ﷺ کا کام صرف یاد دہانی اور نصیحت کرنا ہے۔حق کو زبردستی منوانے کی ذمہ داری آپ ﷺ پر نہیں ڈالی گئی ہے ﴿اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ○ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾، لہٰذا جو لوگ آپ ﷺ کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا معاملہ، اللہ کے حوالے ہے۔آخر کار ! ان کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت وہ ان سے حساب لے لے گا۔﴿اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ○ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾

﴿فَذَكِّرْ ! اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (21)

اچھا تو (اے نبی ﷺ) نصیحت کیے جایئے ! آپ نصیحت ہی کرنے والے ہیں۔

﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾(22) کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔(داروغہ نہیں)

﴿اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴾(23) البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا ،

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴾(24) اللہ تعالیٰ اس کو بھاری سزا دے گا ،

﴿ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ﴾ (25) (یقیناً) اِن لوگوں کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔

﴿ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾(26) پھر اِن لوگوں کا حساب لینا ، ہمارے ہی ذمہ ہے۔

مرکزی مضمون

مسلسل ﴿ تَذكِير بِالقُرآن ﴾ کرتے رہنا چاہیے۔قرآن کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے ، قیامت کا انکار کرنے والے اور منہ موڑنے والے دوزخ کے بڑے عذاب ﴿ العَذابُ الاکبَر ﴾ سے دوچار ہوں گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط — نظمِ جلی

89- سُوْرَةُ الْفَجْرِ

آیات : 30 ...... مَکِّیَّة" ...... پیراگراف : 6



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الفجر﴾، رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) میں نازل ہوئی، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تھی۔ قریش کو عاد و ثمود و فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ گھات میں ہے ﴿اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾۔

سورت ﴿الفجر﴾ اِس اعتبار سے سورت ﴿البُرُوج﴾ سے مشابہت رکھتی ہے، جہاں کہا گیا تھا ﴿اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الفجر کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿الغاشیۃ﴾ میں قیامت کا نقشہ کھینچ کر دو (2) قسم کے کرداروں کے مختلف انجام کو﴿وُجُوْہٌ یَّوْمَئِذٍ خَاشِعَۃٌ﴾اور﴿وُجُوْہٌ یَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَۃٌ﴾کے الفاظ سے ظاہر کیا گیا۔

یہاں سورت ﴿الفجر﴾ میں ﴿نفسِ مطمئنہ﴾ اور ﴿نفسِ غیر مطمئنہ﴾ کی صفات بیان کر کے دونوں کے مختلف انجام کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔

2- اس سورت اور اگلی سورت ﴿البلد﴾ دونوں میں عدلِ اجتماعی کی ترغیب ہے۔ قیامت کے انکار کی وجہ سے ہی انسان مال کی شدید محبت میں گرفتار ہو کر یتیموں اور مسکینوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور میراث کا مال کھا جاتا ہے۔

سورۃ الفجر کا نظمِ جلی

سورۃ الفجر چھ (6) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 5: پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ آفاقی دلائل کی روشنی میں عقل مند ﴿ذِی حِجر﴾ انسان، آخرت کی جزا وسزا پر ایمان لے آتے ہیں۔

﴿ وَالْفَجْرِ﴾(1) قسم ہے فجر کی ! (شاہد ہے ! فجر)

﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾(2) اور دس (10) راتوں کی ! (اور دس راتیں)

﴿ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ (3) اور جفت اور طاق کی !

﴿وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ﴾(4) اور رات کی ! جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔

﴿هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ "لِّذِيْ حِجْرٍ﴾(5) کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟

2- آیات 6 تا 14: دوسرے پیراگراف میں، تاریخ سے سزا اور جزا اور امکانِ آخرت پر، ذی حجر (عقل مند) افراد کے لیے استدلال ہے۔

﴿اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾(6) تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا، عاد کے ساتھ؟

﴿اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ (7) اونچے ستونوں والے، عادِ ارم کے ساتھ

﴿ الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴾(8) جن کے مانند کوئی قوم، دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی؟

﴿ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾(9) اور ثمود، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں؟

﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ﴾(10) اور میخوں والے، فرعون کے ساتھ؟

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴾ (11) یہ وہ لوگ تھے، جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں، بڑی سرکشی کی تھی۔

﴿ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ﴾(12) اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔

﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾(13) آخرکار! تمہارے رب نے، ان پر عذاب کا کوڑا برسادیا۔

﴿ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾(14) یقیناً! تمہارا رب، گھات لگائے ہوئے ہے۔

انسانی تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے تین طاغوتی اور فسادی قوتوں، ﴿عاد﴾، ﴿ثمود﴾ اور ﴿فرعون﴾ کے انجام کو پیش کیا گیا ہے، جب وہ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہوں نے بہت فساد مچایا تو ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسایا گیا۔

3- آیات 15 تا 16: تیسرے پیراگراف میں، ﴿نفوسِ غیر مطمئنہ﴾ کا عمل بتایا گیا کہ وہ دکھ اور سکھ دونوں حالتوں میں صابر وشاکر نہیں ہوتے۔

﴿ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ ، فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ﴾ (15)

مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب، جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے: میرے رب نے، مجھے عزت دار بنایا ہے۔ (میری شان بڑھائی ہے)

﴿ وَ اَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ، فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ﴾(16)

اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے: میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اس میں انسان کی اس نفسیاتی ناشکری سے بحث کی گئی ہے، جس میں وہ اپنے رویے بدل لیتا ہے۔ دکھ میں کچھ اور ہوتا ہے، سکھ میں کچھ اور۔ یہ بے وفا سکھ میں ﴿ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ﴾ کی صدا لگاتا ہے اور دکھ میں ﴿ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ﴾ کی آواز۔ اس کے برخلاف، عقیدۂ آخرت کو تسلیم کرنے والا، ﴿نفسِ مطمئن﴾ ہر حال میں صابر وشاکر ہوتا ہے، باوفا ہوتا ہے۔ دولت، اقتدار اور اعلیٰ مناصب انسان کے لیے معیارِ عزت نہیں۔ اسی طرح غریبی اور کسمپرسی معیارِ ذلت نہیں، بلکہ امیری اور غریبی، خوش حالی اور بدحالی، حاکمیت اور محکومی، دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔

4- آیات 17 تا 20: چوتھے پیراگراف میں، ﴿نفسِ مجرمہ﴾ کے جرائم بیان کیے گئے کہ وہ انکارِ آخرت کے سبب، یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے حقوق غصب کرنے والا بن جاتا ہے۔ عدلِ اجتماعی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔

﴿ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴾(17) ہرگز نہیں! بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے

﴿ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴾(18) اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے

﴿ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴾(19) اور میراث کا سارا مال، سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔

﴿ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ (20) اور مال کی محبت میں، بری طرح گرفتار ہو۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اس پیراگراف میں مضمون کا رُخ یکایک بدل جاتا ہے ۔اس کی ابتداء ﴿ کَلَّا ﴾ سے ہوئی ہے۔اس سے پہلے کا مضمون محذوف ہے۔(دکھ اور سکھ کے امتحان میں، ناشکری کا مظاہرہ کرنے والو! تم آخرت پر ایمان نہیں لاتے ،اس لیے تمہارے معاشی اور سماجی رویے سراسر ظلم اور نا انصافی پر مبنی ہیں) یہ سارا پیراگراف سماجی عدل و انصاف (Socio-Economic Justice) سے متعلق ہے۔

عقیدۂ آخرت کو نہ ماننے والے ﴿طاغین﴾، سماجی اور معاشی عدل کی پروا نہیں کرتے۔یتیموں کی قدر نہیں کرتے ، مسکینوں کی امداد کے کلچر کو فروغ نہیں دیتے۔زر پرست اور بخیل ہوتے ہیں۔کمزور طبقات کا استحصال کرتے ہیں۔ میراث کا مال چٹ کر جاتے ہیں۔مال اور دولت کی بے پناہ محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ایسے لوگوں کا ضرور بہ ضرور محاسبہ ہو کر رہے گا۔ جو کمزوروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، انہیں عذاب ضرور ملے گا۔

5- آیات 21 تا 26: پانچویں پیراگراف میں بتایا گیا کہ روزِ قیامت ﴿نفسِ مجرمہ﴾ نادم ہوگا اور اُسے سخت عذاب دیا جائے گا۔

﴿كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴾ (21)

ہرگز نہیں ! جب زمین پے درپے کوٹ کوٹ کر ، ریگزار بنادی جائے گی۔

﴿ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾(22)

اور تمہارا رب جلوہ فرما (نمودار) ہوگا ، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔

﴿ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴾(23)

اور جہنم اس روز، سامنے لائی جائے گی ،اس دن انسان کو سمجھ آئے گی (مگر) اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟

﴿يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴾ (24)

وہ کہے گا: کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے ، کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا !

﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴾(25) پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ، ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں۔

﴿ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴾(26) اور اللہ ، جیسا باندھے گا ، ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔

یہ پیراگراف بھی ﴿کَلَّا﴾ سے شروع ہوتا ہے۔اس سے پہلے کا مضمون بھی محذوف ہے۔(یعنی یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ آخرت نہیں آئے گی، اور تمہیں سزا نہیں ملے گی) اس میں یکایک قیامت کے منظر کی تصویر کشی کی گئی ہے۔عقیدۂ آخرت کو تسلیم نہ کرنے والے بخیل نفسِ مجرمہ ﴿نفسِ غیر مطمئنہ﴾ کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔روزِ قیامت اُس کا 'مکالمۂ معذرت' نقل کیا گیا ہے۔اللہ کے عذاب سے تخویف کی گئی ہے۔خالق کا عذاب مخلوق کی طرح نہ ہوگا۔خالق کی پکڑ اور گرفت مخلوق کی طرح نہ ہوگی ، بلکہ نہایت شدید تر ہوگی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

6- آیات 27 تا 30: چھٹے اور آخری پیراگراف میں ﴿نفس مجرمہ﴾ کے انجام کا موازنہ، ﴿نفسِ مطمئنہ﴾ کے مختلف اُخروی انجام سے کیا گیا ہے۔

﴿ يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ (27) (دوسری طرف ارشاد ہوگا) اے نفسِ مطمئن!

﴿ ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾ (28)

چل اپنے رب کی طرف! اس حال میں کہ تو (اپنے انجامِ نیک سے) خوش (اور اپنے رب کے نزدیک) پسندیدہ ہے۔ (تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی)

﴿ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴾ (29) شامل ہو جا! میرے (نیک) بندوں میں۔

﴿ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴾ (30) اور داخل ہو جا! میری جنت میں۔

﴿نفسِ مطمئنہ﴾، اللہ کی مرضی ﴿مرضات اللہ﴾ کے مطابق عمل کر کے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

﴿نفسِ مطمئنہ﴾، عقیدۂ توحید و آخرت پر نہ صرف ایمان لاتا ہے، بلکہ معاشرے میں سماجی اور معاشی عدل (Socio-economic Justice) کے قیام کی کوشش کرتا ہے۔ اسے استحصال سے بچاتا ہے، میراث کی صحیح تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ دکھ اور سکھ میں صابر و شاکر ہوتا ہے۔ ذِی حِجْر (عقل مند) ہوتا ہے۔ طاغی اور فسادی نہیں ہوتا۔ یتیم دوست اور مسکین دوست ہوتا ہے۔ مال کی محبت سے محفوظ ہوتا ہے۔ عذابِ آخرت سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرتا ہے۔

یہ ﴿رَاضِيَةً﴾ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام و اوامر پر پوری طرح مطمئن اور راضی۔ یہ ﴿مَرْضِيَّةً﴾ بھی ہوتا ہے، اس کے اِخلاص، حسنِ عمل اور حسنِ نیت کا اللہ بھی قدردان ہوتا ہے۔ ﴿نفسِ مطمئنہ﴾ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اُس کی روح، اللہ کے خاص نیک بندوں (انبیاء، صدیقین اور صالحین) کی اَرواح کے ساتھ، اللہ کی خاص جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ تقربِ الٰہی اور ولایت کا مقام ہے۔

تقابلی جائزہ

سورۃ ﴿الفجر﴾ کے چھ (6) پیراگرافوں کے نظمِ جلی کو سمجھنے کے لیے ﴿نفسِ مطمئنہ﴾ اور ﴿نفسِ غیر مطمئنہ﴾ کے اوصاف پر مشتمل مندرجہ ذیل تقابلی جدول کا جائزہ لیجیے۔ سورت میں بعض باتیں مذکور ہیں اور بعض باتیں غیر مذکور یعنی محذوف ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

پیرا گراف	عنوان	نفسِ مجرمہ (غیر مطمئنہ) کے اوصاف	نفسِ مطمئنہ کے اوصاف
1	قیامت کے آفاقی دلائل	﴿ذِی حِجر﴾ یعنی عقل مند نہیں ہوتے۔ آفاقی دلائل سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ جزا اور سزا اور آخرت کو نہیں مانتے۔	﴿ذِی حِجر﴾ یعنی عقل مند ہوتے ہیں۔ آفاقی دلائل سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ جزا اور سزا اور آخرت کو مان لیتے ہیں۔
2	قیامت کے تاریخی دلائل	عاد ، ثمود اور فرعون جیسی طاغی اور فسادی طاقتوں کی ہلاکت پر مشتمل تاریخی دلیلوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔	عاد ، ثمود اور فرعون جیسی طاغی اور فسادی طاقتوں کی ہلاکت پر مشتمل تاریخی دلیلوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔
3	قیامت کے انفسی دلائل	بے وفا ہوتے ہیں۔ عنایات الٰہی پر خوش ہوتے ہیں اور آزمائشوں پر اللہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔	ہر حالت میں اللہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ عنایاتِ الٰہی پر شکر ادا کرتے ہیں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔
4	عدلِ اجتماعی Socio-Economic Juestice	جزا و سزا یعنی آخرت کی عدالت کے منکر ہوتے ہیں اس لیے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں ۔ مال کی شدید محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔	جزا و سزا یعنی آخرت کی عدالت کے قائل ہوتے ہیں اس لیے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرتے ہیں ۔ میراث کا مال ہڑپ نہیں کرتے ۔ مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے۔
5	منکرینِ قیامت کا انجام	قیامت کے دن پچھتائیں گے ۔ سخت عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔	قیامت کے دن رسوائی ، ندامت اور عذاب سے محفوظ رہیں گے۔
6	نفسِ مطمئنہ کا انجام	اللہ کی مشیت اور شریعت پر راضی نہیں رہتے ۔ نہ ان کا عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے اور نہ ان کی نیت صحیح ہوتی ہے۔	اللہ کی شریعت اور مشیت پر راضی رہتے ہیں۔ ان کی نیت اور حسن عمل سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے ۔ اللہ کی خاص جنت میں نیک بندوں کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

قرآن کی دعوتِ توحید و آخرت قبول کرکے، ﴿عدلِ اجتماعی﴾ قائم کرنے والے ﴿نُفُوسِ مُطمَئِنَّہ﴾ ہی اللہ تعالیٰ کا تَقَرُّب حاصل کرسکیں گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

90- سُوْرَۃُ الْبَلَدِ

آیات : 20 ...... مَکِّیَّۃ"...... پیراگراف : 4



زمانۂ نزول

سورت ﴿ الـبَـلَـد ﴾، رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے تیسرے دور (6 تا 10 نبوی) میں نازل ہوئی، جب مکہ جیسے پرامن شہر میں، جسے ﴿البَـلَـد الامِین﴾ کا نام دیا گیا تھا، رسول اللہ ﷺ پر ہر قسم کا ظلم وستم حلال کرلیا گیا تھا ﴿وَاَنْتَ حِلٌّ" بِھٰذَا الْبَلَد﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ البَلَد کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿الفجر﴾ میں نفوسِ غیر مطمئنہ کے اوصاف بتائے گئے تھے کہ وہ اِنکارِ آخرت کے سبب ، عدلِ اجتماعی کے قائل نہیں ہوتے۔اسی لیے وہ مال کی محبت میں گرفتار ہ کر یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے اور میراث کا مال کھا جاتے ہیں۔یہاں سورت ﴿البَلَد﴾ میں عدلِ اجتماعی کو ایک دشوار گزار راستہ ﴿اَلعَقَبَةُ﴾ کہا گیا ہے۔آخرت پر پختہ یقین رکھنے والے خوش نصیب اہلِ جنت ﴿اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ﴾ ہی اس گھاٹی کو پار کر سکتے ہیں۔

2- سورت ﴿البَلَد﴾ اور اگلی سورت ﴿الشَّمس﴾ دونوں میں انسان کی آزادئ اختیار (Freedom of Choice) کا ذکر ہے۔یہاں ﴿وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ﴾ کے الفاظ سے اور وہاں ﴿فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰهَا﴾ کے الفاظ سے یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان میں دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں۔ انسان اپنی اس آزادی کا صحیح استعمال کر کے جنت کا مستحق بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال سے دوزخ کا مستحق بھی۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں ﴿اَصحابُ المَيمَنَة﴾ اور ﴿اَصحابُ المَشئَمَة﴾ کے درمیان موازنہ ہے۔

2- سماجی انصاف اور معاشی عدل (Socio - Economic Justice) کو ایک دشوار گزار گھاٹی ﴿العَقَبَة﴾ کہا گیا ہے۔ ﴿اَصحابُ المَيمَنَةِ﴾ یعنی خوش نصیب اس گھاٹی کو پار کر لیتے ہیں اور ﴿تَوَاصِي بِالصَّبر﴾ اور ﴿تَوَاصِي بِالمَرحَمَة﴾ کی تہذیب کو پروان چڑھاتے ہیں۔

3- ﴿اَصحابُ المَشئَمَة﴾ یعنی بدبخت اور منحوس انسان، ایثار اور قربانی کی اِس بلندی ﴿العَقَبَة﴾ کو سر نہیں کر سکتے۔وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اور انہیں سزا دے سکتا ہے۔

سورۃُ البَلَد کا نظمِ جلی

سورۃُ البَلَد چار (4) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 4 : پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ دنیا محنت ومشقت کی جگہ ہے ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ﴾

توحید پر استقامت اور نیک اَعمال کی محنت اور مشقت کے ذریعے ہی انسان ﴿اَصحابُ المَيمَنَة﴾ خوش نصیبوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے۔رسول اللہ ﷺ اور ان پر ایمان لانے والے، مکہ جیسے پرامن شہر ﴿البَلَدُ الاَمِين﴾ میں

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مصائب وآلام کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن بالآخر یہی کامیاب ہوں گے۔

﴿لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ﴾(1) نہیں! میں قسم کھاتا ہوں، اس شہر (سرزمین) کی!

﴿وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ﴾ (2) اور حال یہ ہے کہ (اے نبی ﷺ) اس شہر میں آپؐ کو حلال کر لیا گیا ہے!

﴿وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ﴾(3) اور قسم کھاتا ہوں! باپ کی! اور اس اولاد کی ! جو اس سے پیدا ہوئی۔

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ كَبَدٍ﴾(4) درحقیقت ! ہم نے انسان کو ، مشقت میں پیدا کیا ہے۔

> 2- آیات 5 تا 10 :دوسرے پیراگراف میں بیان کیا گیا کہ انسان کو دونوں راستے ﴿النَّجْدَیْنِ﴾ دکھا دیے گئے ہیں وہ بخیل بھی بن سکتا ہے اور فیاض بھی۔

﴿اَیَحْسَبُ اَنْ لَّنْ یَّقْدِرَ عَلَیْهِ اَحَدٌ﴾ (5) کیا اس نے سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟

﴿یَقُوْلُ : اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا﴾ (6) کہتا ہے: میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔

﴿اَیَحْسَبُ اَنْ لَّمْ یَرَهٗۤ اَحَدٌ﴾ (7) کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟

﴿اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَیْنَیْنِ﴾(8) کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟

﴿وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَیْنِ﴾(9) اور کیا ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟

﴿وَ هَدَیْنٰهُ النَّجْدَیْنِ﴾ (10) اور کیا دونوں نمایاں راستے اسے (نہیں) دکھا دیے؟

یہ پیراگراف ایک سوال سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے انسان کی ذہنیت سامنے رکھ دی گئی ہے۔ وہ نہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ اس کے معاشی رویوں پر، کوئی اسے نہیں پکڑے گا ﴿اَیَحْسَبُ اَنْ لَّنْ یَّقْدِرَ عَلَیْهِ اَحَدٌ﴾، کوئی ہستی اس کی بخیلی اور کنجوسی پر گرفت نہیں کرے گی۔ کوئی طاقت اس کی فضول خرچیوں اور عیاشیوں کا احتساب نہیں کرے گی، بلکہ وہ اللہ کو بینا ﴿بَصِیْر﴾ ہی نہیں سمجھتا۔ ﴿اَیَحْسَبُ اَنْ لَّمْ یَرَهٗۤ اَحَدٌ﴾ اس کے برخلاف ایک بندۂ مومن، احساسِ تقویٰ کے ساتھ رزقِ حلال کماتا ہے اور احساسِ تقویٰ کے تحت، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ جبکہ ایمان سے عاری شخص، نہ صرف حرام کماتا ہے، بلکہ بے فائدہ چیزوں پر بے دریغ رقم خرچ کر دیتا ہے۔

﴿یَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا﴾

> 3- آیات 11تا18 : تیسرے پیراگراف میں واضح کیا گیا ہے کہ سماجی عدل وانصاف ایک دشوار گزار گھاٹی ﴿العَقَبَه﴾ ہے

﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾(11) مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔

﴿وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ (12) اور تم کیا جانو ! کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟

﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ (13) کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا ،

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ اَوْ اِطْعٰمٌ فِیْ یَوْمٍ ذِیْ مَسْغَبَةٍ ﴾(14) یا فاقے (بھوک) کے دن کھانا کھلانا ،

﴿ یَّتِیْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾(15) کسی قریبی یتیم کو (کھانا کھلاتا) ،

﴿ اَوْ مِسْكِیْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾(16) یا خاک نشین مسکین کو (کھانا کھلاتا) ،

﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا پھر اس کے ساتھ یہ کہ ان لوگوں میں شامل ہو ، جو ایمان لائے

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ (17) اور ایک دوسرے کو (خلقِ خدا پر) رحم کرنے کی تلقین کی۔

﴿ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَیْمَنَةِ ﴾ (18) یہ لوگ دائیں بازو والے (خوش بخت) ہیں۔

یہاں ﴿ اَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ ﴾ سیدھے بازو والے خوش نصیبوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ﴿ الْعَقَبَةَ ﴾ ایک دشوار گذار راستہ ہے۔ فضول خرچ آدمی نے یہ گھاٹی پار نہیں کی، لیکن ﴿ اَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ ﴾ اس گھاٹی کو پار کر لیتے ہیں۔

(1) ﴿ اَصحابُ المَیمَنَة ﴾ انسانوں کو غلامی سے آزاد کرتے ہیں ﴿ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾

(2) یہ قریبی یتیم رشتے دار کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں ﴿ اِطْعٰمٌ فِیْ یَوْمٍ ذِیْ مَسْغَبَةٍ یَتِیْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾

(3) خاک نشین مسکینوں کے حقوق ادا کرتے ہیں ﴿ مِسْكِیْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾

(4) صاحبِ ایمان ہوتے ہیں ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ﴾

(5) اپنے ہم مسلکوں کو مصیبتوں میں صبر کی باہمی نصیحت کرتے رہتے ہیں ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾

(6) اپنے ہم جنسوں کو خلقِ خدا پر رحم کی باہمی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾

4- آیات 19 تا 20 : چوتھے اور آخری پیراگراف میں، ﴿ اَصحابُ المَیمَنَة ﴾ یعنی دائیں ہاتھ والوں اور ﴿ اَصحابُ المَشْئَمَة ﴾ یعنی بائیں ہاتھ والوں کا انجام بیان کیا گیا۔

﴿ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِنَا هُمْ (19) اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ،

اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴾ وہ بائیں بازو والے (کم بخت) ہیں۔

﴿ عَلَیْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴾(20) (وہ آگ میں مونده ہوئے ہوں گے) ان پر آگ چھائی ہوگی۔

یہاں مختصر اً دو آیتوں میں ، ﴿ اصحابُ المَشْئَمَةِ ﴾ کا جرم اور ان کی سزا بیان کر دی گئی ہے کہ یہ آیاتِ الٰہی کا انکار کرنے والے ہیں اور یہ دوزخ میں جائیں گے۔

﴿ اَصحابُ المَشْئَمَة ﴾ کے اوصاف:

سورت کے آغاز سے اختتام تک ، تمام آیات پر غور کیا جائے تو ﴿ اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ ﴾ کی مندرجہ ذیل صفات معلوم ہوں گی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(1) یہ آزادیٔ اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں ،اپنے رب کی نعمتوں کے ناشکرے ہوتے ہیں۔

(2) یہ لوگ ﴿نَجْدَیْنِ﴾ یعنی دو راستوں میں سے ، غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔

(3) اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی گرفت میں نہیں لے گا ﴿اَیَحْسَبُ اَنْ لَّنْ یَّقْدِرَ عَلَیْهِ اَحَدٌ ؟﴾۔

(4) فضول خرچیوں اور عیاشیوں میں بے دریغ مال اڑا دیتے ہیں ﴿یَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا﴾۔

(5) اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی بھی رکھتے ہیں کہ وہ انہیں نہیں دیکھ رہا ہے ﴿اَیَحْسَبُ اَنْ لَّمْ یَرَهٗۤ اَحَدٌ" ؟﴾۔

(6) سماجی انصاف اور معاشی عدل کی ﴿الْعَقَبَةَ﴾ یعنی دشوار گذار گھاٹی کو پار کرنے کی، ہمت اور جرأت نہیں رکھتے۔ ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾

(7) معاشرے کے مظلوم طبقات کے حقوق کے بارے میں بے حس اور بے پروا ہوتے ہیں۔

مرکزی مضمون

انسان کو دو راستوں ﴿النَّجْدَیْنِ﴾ میں سے مشقت طلب گھاٹی ﴿الْعَقَبَةَ﴾ کا راستہ ،یعنی عدل اجتماعی کے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے، وہ ﴿أَصْحَابُ الْیَمِیْنِ﴾ میں شامل ہو سکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

91- سُوْرَةُ الشَّمْسِ

آیات : 15 ...... مَکِّیَّة ...... پیراگراف : 3



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الشمس﴾، اعلانِ عام کے بعد رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) کے آخر میں، پرزور مخالفت کے دور میں نازل ہوئی۔ سردارانِ قریش کے رویے قومِ ثمود کی طرح سرکش اور جابرانہ ہو گئے تھے۔ انہیں قومِ ثمود کی طرح عذاب کی دھمکی دی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الشّمس کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿البَـلَـد﴾ میں انسان کی آزادیٔ اختیار کو ﴿النَّـجْـدَ ین﴾ کے لفظ سے واضح کیا گیا تھا۔ یہاں
اس سورت ﴿الشمس﴾ میں انہی ﴿فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا﴾ کے الفاظ سے واضح کیا گیا ہے۔
اگلی سورت ﴿اللّیل﴾ میں یہی بات ﴿اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى﴾ کے الفاظ سے ادا کی گئی ہے۔

3- اس سورت میں ﴿اَشْقٰى﴾ کا لفظ قومِ ثمود کے ایک طاغی لیڈر کے لیے استعمال ہوا ہے۔
اگلی سورت ﴿اللّیل﴾ میں اس بدبخت ﴿اَشْقٰى﴾ کے اُخروی عذاب دوزخ کی وعید ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں ﴿تقوٰی﴾ کا موازنہ ﴿طغوٰی﴾ سے کیا گیا ہے۔ ﴿فسق وفجور﴾ کا موازنہ ﴿تزکیہ﴾ سے کیا گیا ہے۔

2- انسانی نفس کے اندر جہاں گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، وہیں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی عطا کی گئی ہے۔

سورۃ الشّمس کا نظمِ جلی

سورۃ الشّمس تین (3) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 8: پہلے پیراگراف میں چند چیزوں کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ انسانی نفس کو، فطری اِلہام کے ذریعے خیر وشر کا شعور عطا کر دیا گیا ہے۔ کسی خدا اور کسی مذہب کو نہ ماننے والا شخص بھی، کچھ نہ کچھ اچھے اور بُرے (Good & Evil) کا فطری احساس وادراک رکھتا ہے۔

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا﴾ (1) سورج اور اس کی دھوپ کی قسم! (شاہد ہے، آفتاب اور اس کا چڑھنا)
﴿وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا﴾ (2) چاند کی قسم! جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے
﴿وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا﴾ (3) دن کی قسم! جبکہ وہ (سورج کو) نمایاں کر دیتا ہے (چمکا دے)
﴿وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا﴾ (4) رات کی قسم! جبکہ وہ (سورج کو) ڈھانک لیتی ہے
﴿وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا﴾ (5) اور آسمان کی قسم! اور اس ذات کی قسم، جس نے اسے قائم کیا۔
﴿وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا﴾ (6) اور زمین کی قسم! اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا۔
﴿وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا﴾ (7) اور نفسِ انسانی کی قسم! اور اس ذات کی قسم! جس نے اسے ہموار کیا۔ (جیسا کچھ اس کو سنوارا)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا ﴾(8) پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیز گاری اس پر الہام کر دی

ان شہادتوں اور گواہیوں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر صاحب عقل آدمی یہ تسلیم کرتا ہے کہ سورج کی روشنی اور چاند کا تعاقب مختلف نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ آسمان اور اس کی بلندی ، زمین اور اس کا پھیلاؤ مختلف ہے، اسی طرح ہر صاحب عقل یہ بات بھی تسلیم کرے گا کہ انسان کے نفس میں، نیکی اور بدی کا شعور بھی موجود ہے۔ اللہ نے اسے ضمیر ﴿النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ﴾ عطا کیا ہے، جو برائی اور بدی پر ملامت کرتا ہے۔ یہی وہ ضمیر (Conscience) ہے، جو اچھے کام کر کے خوش بھی ہوتا ہے۔ انسان کو آزادیٔ اختیار (Freedom of Choice) عطا کی گئی ہے۔ انسان کے اندر گناہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی دونوں صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا ﴾۔ اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جزا و سزا ﴿الدِّينُ﴾ یعنی قیامت واقع ہو کر رہے گی۔

2- آیات 9 تا 10 : دوسرے پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانی نفس کو دونوں رجحانات کا شعور عطا کیا ہے تو جو شخص اپنے نفس کو پاک رکھے گا، وہ کامیاب ہوگا اور جو اس کو دبا دے گا، وہ نامراد ہو جائے گا۔

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ﴾ (9) یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص، جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ (پاک کیا)

﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ﴾ (10) اور نامراد ہوا وہ شخص، جس نے اسے دبا دیا۔ (آلودہ کیا)

”انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر، تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے رکھ دی ہیں، ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے، کس کو ابھارتا اور کس کو دباتا ہے؟“

اگر وہ اچھے رجحانات کو ابھارے اور برے رجحانات سے اپنے نفس کو پاک کرے تو فلاح پائے گا اور اس کے برعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دبائے اور برائی کو ابھارے تو نامراد ہوگا۔ آزادیٔ اختیار کا صحیح استعمال فائدہ بخش اور غلط استعمال نقصان دہ ہوگا۔

3- آیات 11 تا 15 : تیسرے اور آخری پیراگراف میں، نفس کو آلودہ کرنے والی ایک سرکش قوم اور ان کے ایک بد بخت ﴿أَشْقٰى﴾ انسان کی مثال پیش کی گئی ہے۔

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰهَا ﴾(11) قومِ ثمود نے، اپنی سرکشی (طغویٰ) کی بنا پر جھٹلایا۔

﴿ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقٰهَا ﴾ (12) جب اس قوم کا، سب سے بڑا شقی (بد بخت) آدمی، بھڑک اٹھا۔

﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ : تو اللہ کے رسول (صالحؑ) نے ان لوگوں سے کہا:

نَاقَةَ اللّٰهِ ! وَسُقْيٰهَا ! ﴾ (13) خبردار! اللہ کی اونٹنی! (ہاتھ نہ لگانا) اور خبردار! اس اونٹنی کا پانی پینا! (اس میں رکاوٹ نہ بننا)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا ﴾ (14) آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں، ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوندِ خاک کر دیا۔

﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴾ (15) اور اسے (اپنے اس فعل کے) برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے

اللہ کے نبی حضرت صالحؑ نے ،قومِ ثمود کو تزکیہ ٔ نفس کی دعوت دی ،لیکن انہوں نے اسے مُسترد کر دیا۔اُن کے نفس نے ﴿طَغْوٰی ﴾یعنی سرکشی اختیار کر کے ، بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔یہ اُن کی اپنے ضمیر سے جنگ تھی۔انہوں نے اپنے نفس کی آواز کو کچل دیا۔اس کا انجام، ان کی ہلاکت کی صورت میں ظاہر ہوا۔

مرکزی مضمون

انسانی ضمیر (Conscience)، انسانوں کو گناہوں پر ملامت کرتا رہتا ہے۔انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت ﴿تقوٰی ﴾موجود ہے، البتہ بے لگام ضمیر فروش ،قومِ ثمود کی طرح اپنے ضمیر کی آواز کو کچل کر سرکش ﴿طاغی ﴾اور باغی ہو جاتے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ ربط | نظمِ جلی

92- سُورَةُ الَّيل

آیات : 21 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 5

www.KitaboSunnat.com



زمانۂ نزول:

سورۃ ﴿ اللَّیل ﴾ سورۃ ﴿ الشَّمس ﴾ کے ساتھ اعلانِ عام کے بعد رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) کے دورِ مخالفت میں نازل ہوئی، جب مشرکینِ مکہ کو عذاب کی دھمکی دی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ اللّیل کا کتابی ربط

1- سورۃ ﴿ البَلَد ﴾ میں انسان کی آزادی اختیار کو ﴿ النَّجْدَیْن ﴾ کے لفظ سے واضح کیا گیا تھا۔ پچھلی سورۃ ﴿ الشَّمس ﴾ میں انہیں ﴿ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ﴾ کے الفاظ سے واضح کیا گیا ہے۔ یہاں سورۃ ﴿اللَّیل ﴾ میں ﴿ اِنَّ سَعْیَكُمْ لَشَتّٰی ﴾ کے الفاظ سے نمایاں کیا گیا ہے۔

2- اس سورت کا اختتام ﴿ وَلَسَوْفَ یَرْضٰی ﴾ کے الفاظ پر ہوا ہے۔ اگلی سورت ﴿ الضُّحٰی ﴾ میں رسول اللہ ﷺ کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس قدر دے گا کہ آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے ﴿ وَلَسَوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ﴾۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- سورۃ ﴿ البَلَد ﴾ میں فیاض اور زیادہ پرہیز گار ﴿ اَتقٰی ﴾ انسان کا موازنہ، بخیل، بے پرواہ، مستغنی اور بدنصیب ﴿ اَشقٰی ﴾ سے کیا گیا ہے۔

2- رسول اللہ ﷺ اور قرآن کی دعوت کی ﴿ تصدیق ﴾ کرنے والے لوگوں اور ﴿ تکذیب ﴾ کرنے والے لوگوں کی صفات مختلف ہوتی ہیں اور ان کا انجام بھی مختلف ہوگا۔

3- تزکیۂ نفس کے حصول کے لیے ﴿ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰی ﴾ یعنی محض اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے جذبے کے ساتھ انسان کو اپنا مال خرچ کرنا چاہیے ﴿ الَّذِیْ یُؤْتِیْ مَالَهٗ یَتَزَكّٰی ﴾۔

سورۃ اللّیل کا نظمِ جلی

سورۃُ اللّیل پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 4: پہلے پیراگراف میں، تین چیزوں کی گواہی پیش کی گئی ہے، دن کی، رات کی اور نر و مادہ کی پیدائش و افزائش کی

جس طرح دن سے رات مختلف ہے، نر سے مادہ مختلف ہے، اندھیرے سے روشنی مختلف ہے، بالکل اسی طرح انسانی سعی، انسانی کوششیں اور سرگرمیاں بھی بالکل مختلف ہیں ﴿ اِنَّ سَعْیَكُمْ لَشَتّٰی ﴾۔ انسانوں کی کمائی الگ الگ قسم کی ہے۔ کوئی فیاض اور سخی داتا ہے۔ کوئی کنجوس مکھی چوس ہے۔ کوئی ﴿ مُصَدِّق ﴾ ہے یعنی تصدیق کرتا ہے۔ کوئی ﴿ مُكَذِّب ﴾ ہے یعنی جھٹلا رہا ہے۔ کوئی نیکیاں کما رہا ہے، کوئی برائیاں سمیٹ رہا ہے۔

﴿ وَالَّیْلِ اِذَا یَغْشٰی ﴾ (1) قسم ہے رات کی! جبکہ وہ چھا جائے! (شاہد ہے رات، جب چھا جاتی ہے)

﴿ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰی ﴾ (2) قسم ہے دن کی! جب وہ روشن ہو، (اور دن، جب چمک اٹھتا ہے)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴾(3) اور اس ذات کی! جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، (اور شاہد ہے نر و مادہ کی افزائش)

﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾ (4) درحقیقت! تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔

2- آیات 5 تا 7 : دوسرے پیراگراف میں، اچھے لوگوں کی تین (3) صفات بیان کی گئی ہیں۔

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴾ (5) سو جس نے (راہِ خدا میں) مال دیا اور (اللہ کی نافرمانی سے) پرہیز کیا۔

﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾(6) اور بھلائی کو سچ مانا۔ (اور اچھے انجام کو مانا)

﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ (7) اس کو ہم ،آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔

اچھے لوگ انسان دوست بھی ہوتے ہیں اور خدا دوست بھی۔ یہ حق کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں۔ حق کو جھٹلاتے نہیں، بلکہ اس کی ﴿ تصدیق ﴾ کرتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ بخیل نہیں ہوتے بلکہ فیاض ہوتے ہیں۔ اِنفاق فی سبیل اللہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کرتا ہے۔ ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾

تین اچھی خصوصیات ، جو نیکی کی راہ ہموار کرتی ہیں:

(1) اِنفاق کرنا یعنی مال دینا (2) خدا ترسی اور پرہیزگاری اختیار کرنا (3) بھلائی کو بھلائی ماننا۔

جو شخص یا گروہ، ان خصوصیات کو اختیار کرے گا ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے صاف اور سیدھے راستے کو آسان کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے نیکی پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا (اور بدی پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا)۔

3- آیات 8 تا 11: تیسرے پیراگراف میں ، برے لوگوں کی تین (3) صفات بیان کی گئی ہیں۔

﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴾(8) اور جس نے بخل کیا اور (اپنے اللہ سے) بے نیازی برتی (بے پرواہوا)

﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ (9) اور بھلائی کو جھٹلایا۔

﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ (10) اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔

﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾(11) اور اس کا مال، آخر اس کے کس کام آئے گا، جبکہ وہ ہلاک ہو جائے؟

برے لوگ انسان دشمن بھی ہوتے ہیں، اور خدا دشمن بھی۔ یہ لوگ بھلائی کو جھٹلاتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں۔ بخل کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اپنے خالق رب سے نہ صرف غفلت، بلکہ ﴿ اِسْتِغْنَاء ﴾ یعنی بے پروائی کا رویہ اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مشکل راستے کی طرف ڈھیل دی جاتی ہے۔ ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾

آخر میں انسانی ضمیر سے ایک چبھتا سوال کیا گیا۔ انسان کا مال، اس کے کس کام کا؟ جب وہ اُسے دوزخ کے گڑھے میں لے جائے؟ ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾۔ یہ مال، رحمت نہیں، آفت ہے۔

تین بری خصوصیات، جو بدی کی راہ ہموار کرتی ہیں:

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(1) بخل کرنا (2) اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی کی فکر سے بے پروا ہو جانا (3) بھلی بات کو جھٹلا دینا۔ جو شخص بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کٹھن اور سخت راستے کو سہل کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے بدی آسان ہو جائے گی (اور نیکی کے کاموں پر عمل مشکل ہو جائے گا)۔

4- آیات 12 تا 13 : چوتھے پیراگراف میں ، چند بنیادی اُصولی باتیں بیان کی گئی ہیں۔

﴿ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴾ (12) بے شک راستہ بتانا ، ہمارے ذمے ہے ،

﴿ وَ اِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴾(13) اور درحقیقت، آخرت اور دنیا، دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔

(1) اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ اور قرآن کے ذریعے ﴿الهُدٰى﴾ ہدایت کا انتظام کیا ہے۔

(2) دنیا اور آخرت دونوں میں اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے ۔وہ ہدایت کو ٹھکرانے والوں کو سزا دے گا اور قبول کرنے والوں کو اجرِ عظیم۔ ﴿ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴾

انسان اگر دنیا مانگے گا تو وہ بھی اللہ ہی سے ملے گی اور آخرت مانگے گا تو اس کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟

(3) تیسری اُصولی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو بد بخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا ، جسے رسول اللہ ﷺ اور کتاب کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس سے منہ پھیرے گا ، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔

5- آیات 14 تا 21 : پانچویں اور آخری پیراگراف میں، ﴿الهُدٰى﴾ کو قبول کرنے والوں اور مُسترد کرنے والوں کی صفات اور ان کا انجام بتایا گیا ہے۔

﴿ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴾ (14) پس! میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے! بھڑکتی ہوئی آگ سے !

﴿ لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ﴾(15) اِس (آگ) میں نہیں جھلسے گا ، مگر وہ انتہائی بد بخت۔ (الْاَشْقَى)

﴿ الَّذِيْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴾(16) جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

﴿ وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴾(17) اور اس (آگ) سے دور رکھا جائے گا ، وہ نہایت پرہیزگار شخص۔

﴿ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴾ (18) جو پاکیزہ ہونے کی خاطر ، اپنا مال دیتا ہے۔

﴿وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ﴾ (19) اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، جس کا بدلہ اسے دینا ہو

﴿ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴾ (20) وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے، یہ کام کرتا ہے۔

﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴾(21) اور ضرور وہ (اس سے) خوش ہو گا۔

﴿الهُدٰى ﴾ کو مسترد کرنے والے بد بخت ﴿ الْاَشْقٰى ﴾ ہوتے ہیں۔ تکذیب کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں ،

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

انہیں دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اس کے برخلاف فیاض، سخی اور مخلص ﴿اَتْقٰی﴾ یعنی زیادہ پرہیزگار شخص کو دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔

جو خداترس آدمی، پوری بے غرضی کے ساتھ، محض اپنے رب کی رضا کی خاطر، اپنا مال راہِ خیر میں صرف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اسے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔

مرکزی مضمون

انسانی کوششیں اور سرگرمیاں اچھی بھی ہوسکتی ہیں اور بُری بھی۔ دونوں قسم کی کاوشوں کے نتائج بھی مختلف ہیں اور انجام بھی مختلف ہوگا۔ اِنفاق سے تزکیۂ نفس ہوسکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

93- سُوْرَةُ الضُّحٰی

آیات : 11 ...... مَکِّیَّۃٌ ...... پیراگراف : 3



زمانۂ نزول:

سورت ﴿ الضُّحٰی ﴾ قیامِ مکہ کے پہلے دور (0 تا 3 نبوی) میں آپ ﷺ پر نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جارہی تھی، اور جب مختصر وقفے ﴿ فَتْـرَةُ الْوَحـی ﴾ کے بعد دوبارہ نزول کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔ انقطاعِ وحی اور تعطل کا یہ دورانیہ 15، 20 دن کا تھا۔ اس اثناء میں آپ ﷺ پریشان ہوتے تو حضرت جبریلؑ آکر آپ ﷺ کو تسلی دیتے کہ آپ ﷺ رسولِ برحق ہیں۔

(صحیح بخاری : کتاب التعبیر ، باب 1، حدیث 6,581)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الضُّحیٰ کی خصوصیت

یہ سورت ہر انسان کو مشکل اور صبر آزما حالات میں تسکینِ دل وجان کا سامان فراہم کرتی ہے۔

سورۃ الضُّحیٰ کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿اللَّیل﴾ میں اللہ کی رضا جوئی کے خواہش مند، فیاض اہلِ ایمان کو رضوان کی بشارت دی گئی تھی اور پچھلی سورت کا اختتام ﴿وَلَسَوْفَ یَرْضٰی﴾ کے الفاظ پر ہوا تھا۔ اس سورت ﴿الضُّحٰی﴾ میں رسول اللہ ﷺ کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ اس قدر دے گا کہ آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے ﴿وَلَسَوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی﴾۔

2- اگلی سورت ﴿الانشراح﴾، اس سورت سے پوری طرح جڑی ہوئی ہے۔ دونوں کا مرکزی مضمون بھی ایک جیسا ہے۔

سورۃ الضُّحیٰ کا نظمِ جلی

سورۃ الضُّحیٰ تین (3) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 5: پہلے پیراگراف میں، محمد ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ وحی میں تعطل حکمت پر مبنی ہے۔

رات کے بعد دن کا آنا لازمی اور یقینی ہے۔ جس طرح رات انسان کو سکون فراہم کرتی ہے اور دن کی تھکاوٹ دور کر دیتی ہے، اسی طرح وحی کی آمد میں، یہ وقفہ آپ ﷺ کی دل جمعی کے لیے ہے۔ آپ ﷺ کا رب، آپ ﷺ سے ہرگز ناراض نہیں۔ ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی﴾ آپ ﷺ کا مستقبل شاندار ہوگا ﴿وَلَلْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰی﴾۔

﴿وَالضُّحٰی﴾ (آیت 1) قسم ہے! روزِ روشن کی! (شاہد ہے وقتِ چاشت)

﴿وَالَّیْلِ اِذَا سَجٰی﴾ (2) قسم ہے رات کی! جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔

﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی﴾ (3) (اے نبی ﷺ) آپ کے رب نے، آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا! اور نہ وہ ناراض ہوا!

﴿وَلَلْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰی﴾ (4) یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔

﴿وَلَسَوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی﴾ (5) اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے

2- آیات 6 تا 8: دوسرے پیراگراف میں، محمد ﷺ کے سامنے، خود ان کی زندگی کے ماضی کے واقعات رکھ کر، مستقبل کے لیے تسلی کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴾ (6) کیا اُس نے آپ ﷺ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟

﴿ وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴾ (7) اور آپ ﷺ کو ناواقفِ راہ (جویائے راہ) پایا اور پھر ہدایت بخشی؟

﴿ وَ وَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴾ (8) اور آپ ﷺ کو نادار (محتاج) پایا اور پھر مالدار کر دیا؟

یہ پیراگراف ﴿ اَلَمْ ﴾ کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ اگلی سورت بھی ﴿ اَلَمْ ﴾ کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سورت کی پہلی پانچ آیات دونوں سورتوں کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اس حصے میں ماضی کی تین حقیقتوں سے شاندار مستقبل پر استدلال ہے۔ (1) رسول اللہ ﷺ یتیم تھے۔ کیا اللہ نے آپ ﷺ کو ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ (2) رسول اللہ ﷺ ناواقفِ راہ تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی نعمت سے نہیں نوازا؟ (3) رسول اللہ ﷺ غریب اور نادار تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا نکاح حضرت خدیجہؓ سے کر کے مضاربت پر مبنی تجارت کے ذریعے آپ ﷺ کو امیر اور مالدار نہیں کیا؟ لہٰذا ماضی کے یہ حالات شہادت دے رہے ہیں کہ مستقبل بھی نہایت شاندار ہوگا۔

3- آیات 9 تا 11 : تیسرے پیراگراف میں ، رسول اللہ ﷺ کو تین (3) ہدایات دی گئی ہیں۔

﴿فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾(9) لہٰذا ! یتیم پر سختی نہ کیجیے ! (مت دبائیو!)

﴿وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾(10) اور سائل کو نہ جھڑکیے !

﴿وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾(11) اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے !

(1) یتیم کے ساتھ سختی نہ کی جائے ﴿ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾۔

(2) سائل یعنی مانگنے والے کو جھڑکا نہ جائے ﴿وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾۔

(3) تحدیثِ نعمت کی جائے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا مسلسل چرچا کیا جائے ﴿وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾۔

مطالبہ کیا گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ ﴿ تحدیث ﴾ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ، سماجی عدل و انصاف (Social Justice) کے قیام کے لیے ، کمزور طبقات کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا بدستور مظاہرہ کیا جائے۔

مرکزی مضمون

یہ سورت مایوس کن حالات میں تسکینِ قلب کا سامان ہے۔ انسان کو اپنے ماضی پر غور کر کے ، روشن اور تابناک مستقبل کے بارے میں پُر امید رہنا چاہیے اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ سماجی عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

94- سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ

آیات : 8 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 3



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الانشراح﴾، سورت ﴿الضُّحیٰ﴾ کے بعد قیامِ مکہ کے پہلے دور (0 تا 3 نبوی) میں آپ ﷺ پر نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جارہی تھی اور جب مختصر وقفہ تعطل ﴿فَتْرَةُ الْوَحی﴾ کے بعد دوبارہ نزول کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔ انقطاعِ وحی کا یہ دورانیہ 15، 20 دن کا تھا۔ اس اثناء میں آپ ﷺ پریشان ہوتے تو حضرت جبریلؑ آکر آپ ﷺ کو تسلی دیتے کہ آپ ﷺ رسول برحق ہیں۔

(صحیح بخاری : کتاب التعبیر ، باب 1، 6,581)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خصوصیات

1- سورۃُ ﴿الانشراح﴾ بھی سورۃ ﴿الضُّحٰی﴾ کی طرح، مایوس کن حالات میں ہمت اور حوصلہ فراہم کرتی ہے۔

سورۃُ الانشِراح کا کتابی ربط

1- پچھلی ﴿الضُّحٰی﴾ سورت سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ الفاظ مختلف ہیں، لیکن مضمون ایک ہی ہے۔ سورت ﴿الضُّحٰی﴾ میں ﴿وَلَلْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰی﴾ کے الفاظ سے مشکل اور صبر آزما حالات میں روشن مستقبل کی بشارت تھی، یہاں اسی مضمون کے لیے ﴿فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا﴾ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

2- سورۃ ﴿الضُّحٰی﴾ کی ابتدائی پانچ (5) آیات، گویا سورت ﴿الانشراح﴾ کے لیے بھی تمہید کی حیثیت رکھتی ہیں۔

3- دونوں سورتوں میں ماضی سے استدلال ہے اور روشن و تابناک مستقبل کی نوید ہے۔

4- دونوں سورتوں کے آخر میں ہدایات دی گئی ہیں۔

سورۃُ الانشِراح کا نظمِ جلی

سورۃُ ﴿الانشِراح﴾ تین (3) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 4: پہلے پیراگراف میں، محمد ﷺ کے ماضی سے استدلال کرتے ہوئے، شاندار مستقبل کی بشارت دی گئی ہے

﴿اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾(1) (اے نبی ﷺ) کیا ہم نے آپ کا سینہ، آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟

﴿وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾(2) (اور کیا) تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار (نہیں) دیا؟

﴿الَّذِیْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾(3) جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔

﴿وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾(4) اور (کیا) تمہاری خاطر، تمہارے ذکر کا آوازہ بلند (نہیں) کردیا؟

آپ ﷺ کی دل جمعی کے لیے آپ ﷺ کو بچی ناموری کی بشارت دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ماضی میں آپ ﷺ پر اس قدر عنایات کی ہیں تو آپ ﷺ مستقبل کے بارے میں بھی کامل تسلی رکھیے! مخالفتوں اور اَذیت رسانیوں کے بعد، ایک روشن اور درخشاں مستقبل، پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کا منتظر ہے۔

2- آیات 5 تا 6: دوسرے پیراگراف میں، یہ تسلی دی گئی ہے کہ ابتداء میں آپ ﷺ کو دعوتِ توحید کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بہت جلد اسے قبولِ عام حاصل ہو جائے گا۔

﴿فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا﴾(5) پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾(6) بے شک !تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔

﴿عُسْر﴾ کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی چیز ﴿يُسر﴾ ہے۔یہ بات دو (2) بار تکرار اور تاکید کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ہر طرح کی دل جمعی رکھیے۔اس مضمون میں غلبۂ اسلام کی بشارت بھی پوشیدہ ہے۔

3- آیات 7 تا 8 : تیسرے اور آخری پیراگراف میں ،یہ بات بتائی گئی ہے کہ دعوت وتبلیغ کے ساتھ ساتھ، تعلق باللہ اور رغبت اِلی اللہ کے لیے، لذّت آمیز عبادات کی مشقت لازمی اور ضروری ہے۔

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾(7) لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ !(کمر بستہ ہوجاؤ!)

﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾(8) اور اپنے رب ہی کی طرف راغب رہو۔(اور اپنے رب سے لو لگاؤ !)

رسول اللہ ﷺ کو ہدایت فرمائی گئی کہ عبادت ہی سے ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوگی۔

جب اپنے مشاغلِ دعوت وتبلیغ سے آپ ﷺ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت وریاضت میں لگ جائیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہوکر ،صرف اپنے رب سے لو لگائیں۔دوسرے لفظوں میں آپ ﷺ کو بتایا گیا ہے کہ توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے تعلق باللہ اور رغبت الی اللہ کی لذت آمیز مشقت لازمی اور ضروری ہے۔ پنجوقتہ نماز تو رجب بارہ (12) نبوی میں معراج کے موقع پر فرض ہوئی۔ابتدائی بارہ (12) سالوں میں تربیت اور تزکیۂ نفس کے لیے نمازِ تہجد کا طویل قیام مشروع تھا۔صحابہؓ اور رسول اللہ ﷺ طویل ﴿قِيَامُ اللَّيْلِ﴾ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کے پیروں پر ورم آجایا کرتا تھا۔

مرکزی مضمون

رسول اللہ ﷺ کو شاندار مستقبل، ناموری اور غلبۂ اسلام کی بشارت دی گئی ہے اور دعوت وتبلیغ کے ساتھ ساتھ، تعلق باللہ اور عبادت کی مشقت کی ہدایات دی گئیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART

ترتیبی نقشۂ ربط

MACRO-STRUCTURE

نظمِ جلی

95- سُوْرَةُ التِّيْنِ

آیات : 8 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 2



زمانۂ نزول:

سورۃ ﴿التّین﴾، قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) میں اعلانِ عام کے بعد دورِ تکذیب میں نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت کو جھٹلایا جا رہا تھا اور قریش کے دانشور قیامت اور جزا وسزا ﴿الدِّین﴾ کے بارے میں طرح طرح کے شکوک وشبہات عام کر رہے تھے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ التّین کا کتابی ربط

1- سورت ﴿ التّین ﴾ میں بھی پچھلی دو سورتوں ﴿ الضُّحٰی ﴾ اور ﴿ الانشراح ﴾ کی طرح ﴿ فَمَا یُکَذِّبُکَ ؟ ﴾ کے الفاظ میں نبی ٔ کریم ﷺ کے لیے تسلی کا سامان موجود ہے اور روشن و تابناک مستقبل کی بشارت ہے۔

2- اس سورت میں ایمان نہ لانے والے اور عملِ صالح نہ کرنے والوں کو ﴿ اَسْفَلَ سَافِلِین ﴾ کہا گیا ہے۔ اگلی سورت ﴿ العَلَق ﴾ میں اسلام کے ایک بڑے دشمن کے طاغوتی رویوں سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿ تِیـن ﴾ سے مراد، جبلِ تین یا جبلِ جُودی، جہاں حضرت نوح ؑ کی کشتی آ کر رکی تھی، یا وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم ؑ کی اولاد آباد ہوئی تھی، یا غالباً شام اور فلسطین کا وہ علاقہ ہے، جہاں بکثرت انبیاء مبعوث ہوئے۔

2- ﴿ زَیتُون ﴾ سے مراد، کوہِ زیتون ہے۔ یہ غالباً بیت المقدس کا پہاڑ ہے، جہاں حضرت عیسیٰ ؑ وعظ کیا کرتے تھے۔

3- ﴿ طُورِ سِینِین ﴾ سے مراد، وہ پہاڑ ہے، جہاں حضرت موسیٰ ؑ کو شریعت عطا کی گئی تھی۔

4- ﴿ البَلَد الاَمِین ﴾ سے مراد، مکہ ہے، جہاں رسول اللہ ﷺ کو قرآن کی وحی عطا کی گئی۔

5- تمام انبیاء کو دی جانے والی نقلی تعلیمات شہادت دے رہی ہیں کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ﴿ اَحسنِ تَقْوِیم ﴾ پر بدستور قائم و دائم رہتی ہے۔ دوسری قسم فطرت کی آواز کو مسترد کر کے ﴿ اَسفَلَ سَافِلِین ﴾ بن جاتی ہے۔

6- انسانوں کی پہلی قسم ﴿ خَیر ﴾ کو قبول کر لیتی ہے اور دوسری قسم ﴿ شَرّ ﴾ کو ترک کرنا نہیں چاہتی۔ خیر و شر کی یہ جنگ ازل سے جاری و ساری ہے۔

7- اہلِ خیر ایمان لا کر عملِ صالح کرتے ہیں۔ ان کے لیے ﴿ اَجر غَیر مَمنُون ﴾ ہوگا۔

8- اہلِ شر نہ ایمان لاتے ہیں اور نہ عملِ صالح کرتے ہیں۔ یہ ﴿ اَسفَل سافِلِین ﴾ بن جاتے ہیں۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

9- جب روزِ ازل سے خیر اور شر کی لڑائی جاری ہے اور تمام انبیاء کی نقلی تعلیمات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے تو اے محمد ﷺ ﴿ الدّین ﴾ یعنی قیامت کی جزا و سزا کی جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں، اُسے کون سا معقول آدمی مسترد کر سکتا ہے؟

9- عقل بھی ﴿ خیر و شر ﴾ کو تسلیم کرتی ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اہلِ خیر اور اہلِ شر کا انجام مختلف ہونا چاہیے۔

10- اللہ تعالیٰ نہ صرف حاکم ہے، بلکہ ﴿ احکم الحاکمین ﴾ ہے۔ تو کیا وہ اہلِ خیر اور اہلِ شر کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا؟ عقلِ سلیم بھی یہی کہتی ہے کہ ان دونوں قسم کے انسانوں کا انجام بھی مختلف ہونا چاہیے۔

11۔ قرآن مجید کی بعض سورتیں سوال سے شروع ہوتی ہیں اور بعض کا اختتام سوال پر ہوتا ہے۔ سورت ﴿ التّین ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کا اختتام دو (2) سوالات پر ہوا ہے۔ ان دو سوالات کے ذریعے انسانی عقل اور انسانی ضمیر کو بیدار کیا گیا ہے کہ وہ آخرت کی جزا و سزا کو تسلیم کر لے۔

سورۃ التّین کا نظمِ جلی

سورۃ ﴿التّین﴾ دو (2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلے میں امکانِ آخرت کے نقلی دلائل اور دوسرے میں عقلی دلائل ہیں۔

1- آیات 1 تا 6 : پہلے پیراگراف میں، امکانِ آخرت اور عدلِ آخرت کے نقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔

﴿وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ﴾ (1) قسم ہے! انجیر اور زیتون کی۔ (شاہد ہے جبلِ تین اور کوہِ زیتون)

﴿وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ﴾ (2) اور طورِ سینا کی۔ (اور طورِ سینین)

﴿وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ﴾ (3) اور اس پرامن شہر (مکہ) کی۔

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ﴾ (4) ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔

﴿ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ﴾ (5) پھر اسے الٹا پھیر کر، ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔

﴿اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے

فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ﴾ (6) کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ (دائمی صلہ ہے)

جبلِ تین، کوہِ زیتون، طورِ سینا اور بـلـدِ امین ﴿مکہ﴾ میں، مختلف انبیاء کو دی جانے والی نقلی تعلیمات کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ وہ بھی خیر و شر اور ان کی جزا و سزا کی مسلسل تعلیمات دیتی رہی ہیں۔

انسان دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ﴿اَعمالِ صالحۃ﴾ کر کے احسنِ تقویم پر قائم رہتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان احسنِ تقویم اور فطرتِ سلیمہ پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ لوگ ﴿اَجر غیر ممنون﴾ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں، جو انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا کر ﴿اَعمال سیئۃ﴾ میں بدستور مبتلا رہتے ہیں۔ یہ ﴿اَسفلَ سافلین﴾ بن جاتے ہیں۔

2- آیات 7 تا 8 : دوسرے اور آخری پیراگراف میں، امکانِ آخرت اور عدلِ آخرت کے عقلی دلائل دو سوالات پر مشتمل ہیں

﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ﴾ (7) پس (اے نبیؐ!) اس کے بعد کون سزا و جزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟

﴿اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ﴾ (8) کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟

دنیا میں نیک لوگوں کو پوری جزاء نہیں ملتی؛ اور بُرے لوگوں کو پوری سزا نہیں ملتی۔ مکمل انصاف روزِ قیامت ہی ممکن ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(1) پہلا سوال یہ رکھا گیا ہے کہ جب تمام انبیاء کی تعلیمات خیر وشر اوران کی جزا وسزا پر متفق ہیں تو اے محمد ﷺ ! آپ ﷺ کی دعوتِ جزا وسزا یعنی ﴿ الـدِّین ﴾ (Law of Reward & Punishment) کوکون جھٹلاسکتا ہے؟ ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ؟﴾ آپ ﷺ تو آخری پیغمبر ہیں اورآپ کی تعلیمات ، پچھلے انبیاء کی تعلیمات کا تسلسل ہیں۔

(2) دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ عقلِ انسانی بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے بھی بعض حکمران عادل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، اس لیے اسے تو بدرجۂ اولیٰ اور بدرجۂ اتم ﴿ اَحْكَمُ الحَاكِمِيْنَ ﴾ ہی ہونا چاہیے۔عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ایک دن ضرور ایسا ہونا چاہیے، جس میں کامل عدل وانصاف ہو۔دنیا میں کامل عدل وانصاف نہیں ملتا۔بڑے بڑے مجرم چھوٹ جاتے ہیں۔بے گناہوں کو سزا ملتی ہے۔لیکن بعض اوقات ، انسان بھی انصاف سے کام لیتا ہے تو پھر اپنے خالق اللہ سے بدگمانی کیوں ہے کہ وہ ناانصافی کرے گا؟ انصاف سے کام نہ لے گا۔ کیا وہ ﴿احکمُ الحاکمین ﴾ نہیں ہے؟﴿ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ؟ ﴾۔

مرکزی مضمون

تمام انبیاء کی نقلی تعلیمات میں امکانِ آخرت اور عدلِ آخرت کے دلائل موجود ہیں۔ عقل بھی امکانِ آخرت اور عدلِ آخرت کی حقانیت کو تسلیم کرتی ہے۔لہٰذا آخرت پر پختہ ایمان اور یقین ضروری ہے ، آخرت کے عقیدے کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط | نظمِ جلی

96- سُوْرَۃُ الْعَلَقِ

آیات : 19 ...... مَکِّیَّۃٌ ...... پیراگراف : 5



زمانۂ نزول:

1۔ سورۃ ﴿الْعَلَق﴾ کی ابتدائی پانچ (5) آیات سے رسول اللہ ﷺ پر وحی کا آغاز ہوا۔

(صحیح بخاری :کتاب التفسیر ، باب سورۃ العلق ، حدیث 4,670 ، عن عائشۃ ؓ)

یہ غالباً رمضان مطابق 10 اگست 610ء کا واقعہ ہے۔

2۔ اس سورت کی آخری چودہ (14) آیات ، دوسرے دور میں اعلانِ عام کے بعد غالباً 4 یا 5 نبوی میں ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئیں ، جب اس نے آپ ﷺ کو حرم میں نماز سے روکا تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خصوصیات

1- سورۃ ﴿ العلق ﴾ کی آخری آیت میں ایک سلبی حکم ﴿ لَا تُطِعۡهُ ﴾ ہے اور ایک ایجابی حکم ﴿ وَاسۡجُدۡ وَاقۡتَرِبۡ ﴾ ہے۔

2- یہ اُسی طرح کا اُسلوب ہے جو سورۃ النحل آیت:36 میں ﴿ اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَاجۡتَنِبُوا الطَّاغُوۡتَ ﴾ کے الفاظ سے استعمال ہوا ہے۔

3- اسلامی تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ﴿ طاغوت ﴾ کا مقابلہ کرنے کے لیے ، احسان پر مبنی عبادت اور طویل سجدوں کے ذریعے اپنے ربّ اور خالق سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔

سورۃ العَلَق کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿ التِّین ﴾ میں جن ﴿ اَسۡفَلَ سٰفِلِیۡنَ ﴾ کا ذکر تھا، یہاں سورت ﴿ العَلَق ﴾ میں اُس کی ایک مثال قریش کے ایک بڑے دشمنِ اسلام (ابوجہل) کے طاغوتی رویوں سے پیش کی گئی ہے۔

2- سورۃ ﴿ العَلَق ﴾ میں نبی کریم ﷺ پر کی جانی والی اولین وحی کا ذکر ہوا ہے۔ اگلی سورت ﴿ القدر ﴾ میں اُس رات کی اہمیت اُجاگر کی گئی ہے ، جس میں قرآن اُتارا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- سورت ﴿ التِّین ﴾ میں مؤمن قیادت اور طاغوتی قیادت کا فرق بتانے کے بعد، آخری آیت میں طاغوت کی اطاعت سے بچ کر، اللہ کی اطاعت و بندگی کر کے ، اُس کا تقرب حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

2- اس سورت میں مؤمن قیادت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔

(a)۔ وہ ہدایت پر ہوتی ہے ﴿ عَلَى الۡهُدٰۤى ﴾ (آیت:11)۔

(b)۔ مؤمن قیادت نماز کے ذریعے اپنے ربّ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرتی ہے۔
﴿ صَلّٰى ﴾ (آیت:10)۔

(c)۔ مؤمن قیادت پاکیزگی اور تقویٰ کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتی ہے ۔
﴿ اَمَرَ بِالتَّقۡوٰى ﴾ (آیت:12)

3- سورۃ ﴿ العَلَق ﴾ میں طاغوتی قیادت کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔

(a)۔ طاغوتی قیادت سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والی ہوتی ہے ﴿ لَيَطۡغٰۤى ﴾ (آیت:6)۔

(b)۔ طاغوتی قیادت اپنے آپ کو جوابِ دہی سے بے نیاز سمجھتی ہے ﴿ اسۡتَغۡنٰى ﴾ (آیت:7)۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

(c)۔طاغوتی قیادت اللہ کے نیک بندوں کونماز جیسی عبادت سے روکتی ہے۔

﴿ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ﴾ (آیات:9،10)

سورۃُ العَلَق کا نظمِ جلی

سورۃُ العَلَق پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 5 : پہلا پیراگراف، قرآن کی پہلی وحی پر مشتمل ہے۔اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔

﴿ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴾(1) پڑھیے! اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے پیدا کیا۔

﴿ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾(2) جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، انسان کی تخلیق کی۔

﴿ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴾ (3) پڑھیے! آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔

﴿ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ (4) جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔

﴿ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾(5) انسان کو وہ علم دیا، جسے وہ نہ جانتا تھا۔

اللہ تعالیٰ ﴿ رَبّ ﴾ ہے، اللہ تعالیٰ ﴿ خالِق ﴾ ہے، اللہ تعالیٰ ﴿ اَکرَم ﴾ ہے، اللہ تعالیٰ ﴿ مُعَلِّم ﴾ ہے۔

یہاں رسول اللہ ﷺ کو، اُس ﴿ ربّ ﴾ کا نام لے کر قرآن پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس نے ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز کو ﴿ تخلیق ﴾ کیا ہے۔کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ، خاص طور پر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ﴿ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾۔حقیر ترین حالت سے ، انسان کو پیدا کر کے صاحبِ علم بنایا ، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے۔صرف صاحبِ علم ہی نہیں بنایا، بلکہ اس کو ﴿ قلم ﴾ کے استعمال سے لکھنے کا فن بھی سکھایا۔اللہ تعالیٰ ﴿ مُعَلِّم ﴾ ہے۔انسان کو وہ علم دیا ، جسے وہ جانتا نہیں تھا ﴿ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾۔

2- آیات 6 تا 8: دوسرے پیراگراف میں سرکش اور بے نیاز طاغوتی صفات رکھنے والے انسان کے انکارِ آخرت کا بیان ہے

﴿ كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى ﴾(6) ہرگز نہیں ! (یقیناً) انسان سرکشی کرتا ہے۔(طاغی بنتا ہے)

﴿ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ﴾ (7) اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔(اپنے تئیں بے نیاز سمجھ کر)

﴿ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ﴾(8) (حالانکہ) پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔

اس پیراگراف کی ابتداء ﴿ كَلَّآ ﴾ سے ہوئی ہے۔یہاں کچھ محذوف ہے۔یعنی اللہ نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا ، بلکہ اُس نے انسان کی ہدایت کے لیے ، قرآن کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا ، اس کو وہ تمام باتیں بتائیں ، جو وہ نہیں جانتا تھا ، لیکن انسان ﴿ طغویٰ ﴾ یعنی سرکشی اختیار کرتا ہے ، ﴿ طاغی ﴾ بنتا ہے ﴿ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى ﴾، اپنے آپ کو جواب دہی سے بے نیاز اور ﴿ مُسْتَغْنِي ﴾ سمجھتا ہے ، آخرت اور جزاوسزا کا انکار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اسے مرنے کے بعد ، اللہ کے حضور پلٹنا نہیں ہے۔

3- آیات 9 تا 14 : تیسرے پیراگراف میں ، اُسی طاغی ، ﴿مُسْتَغْنِی﴾ اور منکرِ آخرت طاغی قیادت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔

﴿ اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ﴾ (9)	کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، جو منع کرتا ہے؟
﴿ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ﴾ (10)	ایک بندے کو ، جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟
﴿ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى ﴾ (11)	تمہارا کیا خیال ہے ، اگر وہ (بندہ) راہ راست پر ہو؟
﴿ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ﴾ (12)	یا وہ پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ (یا نیکی کی تلقین کرنے والا ہوا)
﴿ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴾ (13)	تمہارا کیا خیال ہے اگر (یہ منع کرنے والا شخص حق کو) جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ (بھلا دیکھو تو! اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا)
﴿ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴾ (14)	کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟

(1)۔ یہ طاغی شخص رسول اللہ ﷺ کو نماز سے روکتا ہے ﴿يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى﴾۔

(2)۔ یہ طاغی شخص تجزیاتی ذہن (Analytical mind) نہیں رکھتا ، نماز پڑھنے والی ہستی ﷺ کے بارے میں سنجیدگی اور اخلاص سے غور کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ یہ ہستی ہدایت پر بھی ہوسکتی ہے۔

﴿اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى﴾۔ یہ ہستی لوگوں کو نیکی اور پرہیزگاری کی دعوت دینے والی شخصیت بھی ہوسکتی ہے ﴿اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى﴾۔

(3)۔ یہ طاغی شخص حق کو جھٹلاتا ہے ﴿ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴾۔

(4)۔ یہ طاغی شخص حق سے منہ موڑتا ہے ﴿ وَ تَوَلّٰى ﴾۔

(5)۔ یہ طاغی شخص اللہ کو ناظر و بصیر نہیں سمجھتا کہ وہ ایک دن سزا دے سکتا ہے ﴿اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى﴾۔

4- آیات 15 تا 18 : چوتھے پیراگراف میں ، مندرجہ بالا صفات رکھنے والی طاغی قیادت کا انجام بتایا گیا ہے۔

﴿ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ،	ہرگز نہیں ! اگر وہ باز نہ آیا تو
لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ (15)	ہم اس کی پیشانی کے بال (چوٹی) پکڑ کر کھینچیں گے۔
﴿ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ (16)	اس پیشانی کو ، جو جھوٹی اور سخت خطار کار ہے۔
﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ﴾ (17)	وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو۔ (اپنی پارٹی کو)
﴿ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾ (18)	ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یہ پیراگراف بھی ﴿کَلَّا﴾ سے شروع ہوتا ہے۔یہاں بھی کچھ محذوف ہے۔مطلب ہے، یہ طاغی اور مستغنی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ یوں ہی اپنی باغی سرگرمیاں جاری رکھ سکے گا۔ہرگز نہیں ! بلکہ اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرے تو اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔نہایت ذلت سے اُسے داخلِ جہنم کردیا جائے گا۔اللہ کی قوت کے سامنے اُس کی جمعیت اُس کی پارٹی اور اُس کی جتھہ بندی بے بس ہوگی۔

5- آیت 19: پانچواں اور آخری پیراگراف آخری آیت پر مشتمل ہے۔اس میں ایک ایجابی اور ایک سلبی حکم ہے۔ یہ بھی ﴿کَلَّا﴾ سے شروع ہوتا ہے۔

﴿کَلَّا لَا تُطِعْهُ	ہرگز نہیں !اس کی بات نہ مانیے
وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾(19)	اور سجدہ کیجیے اور (اپنے رب کا) قرب حاصل کیجیے !

مطلب ہے،آپ ﷺ کو ایسے طاغی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں،وہ آپ ﷺ پر ہرگز غالب نہیں ہوسکے گا۔آپ ﷺ کو اس سے دبنے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔اس کی بات ماننے اور اس کی اطاعت کی کوئی حاجت نہیں۔آپ ﷺ کو دلجمعی سے اپنی نماز جاری رکھنا چاہیے۔سکون اور وقار سے سجدوں کو طوالت دیجیے۔سجدوں کی یہ طوالت ، قربتِ الٰہی کی ضامن ہے۔حالتِ سجدہ میں اللہ تعالیٰ بندے سے بہت قریب ہوتا ہے۔اس آخری آیت میں بیک وقت دو باتوں کا حکم ہے۔ایک ایجابی حکم ہے اور دوسرا سلبی حکم۔

(1) طاغی قیادت (Tyrant Leadership) کی اطاعت سے اجتناب لازمی اور ضروری ہے۔

(2) تعلق باللہ کے حصول میں،نماز کا کردار نہایت اہم ہے۔نماز میں اعتدال ،سکون اور طمانیت،قربِ الٰہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔سجدوں میں تقرب کی یہ حالت اپنی بلندی پر ہوتی ہے۔

مرکزی مضمون

اپنے ﴿رب﴾ اور ﴿خالق﴾ اللہ کی صفات کا اظہار کرنا چاہیے۔طاغی قیادت کی اطاعت سے بچتے ہوئے،اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرکے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

97- سُوْرَةُ الْقَدْرِ

آیات : 5 ...... مَكِّيَّة" ...... پیراگراف : 2



زمانۂ نزول:

سورة ﴿القدر﴾، غالباً قیام مکہ کے پہلے دور (0 تا 3 نبوی) میں نازل ہوئی ہوگی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جارہی تھی اور جب آپ ﷺ پر اعلیٰ ادبی اسلوب میں مختصر، محکم اور جامع سورتیں نازل کی جارہی تھیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ القدر کا کتابی ربط

1- پچھلی سورۃ ﴿العَلَق﴾ میں پہلی وحی کا ذکر تھا، اس سورت ﴿القدر﴾ میں وحی کے نزول کی رات کا ذکر ہے۔

2- اگلی سورۃ ﴿البَيِّنَة﴾ میں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد حضرت ابراہیمؑ کے خاندان کی دونوں شاخوں ﴿بنی اسرائیل﴾ یعنی اہلِ کتاب اور ﴿بنی اسماعیل﴾ یعنی مشرکین مکہ پر اتمامِ حجت ہوگئی ہے۔ اب وہ اسلام قبول کر کے ﴿خَيْرُ الْبَرِيَّة﴾ میں شامل ہو سکتے ہیں، یا اسلام کو مسترد کر کے ﴿شَرُّ الْبَرِيَّة﴾ میں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- رسول اللہ ﷺ نے اس بابرکت رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ﴿تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ﴾

(صحیح بخاری 1,913، عن عائشہؓ)

2- قرآن کا نزول، وہ عظیم الشان آسمانی فیصلہ ہے، جو قوموں کی تقدیر کو بدلنے والا اور انسانیت کی کایا پلٹ دینے والا ہے۔

3- قیامت تک ہر انسان کی نجات کا دارومدار، اِسی آخری کتاب ﴿قرآن﴾ پر موقوف ہے۔

سورۃ القدر کا نظمِ جلی

سورۃ القدر دو (2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 3 : پہلے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ ﴿ليلة القدر﴾ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (1) (یقیناً) ہم نے اس (قرآن) کو، شبِ قدر میں نازل کیا۔

﴿وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ (2) اور تم کیا جانو کہ شبِ قدر کیا ہے؟

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (3) شبِ قدر، ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔

جس طرح یومِ آزادی سے بڑی چیز خود آزادی ہوتی ہے، اسی طرح نزولِ قرآن کی رات سے زیادہ بڑی چیز خود قرآن ہے۔ ﴿لَيْلَةُ الْقَدر﴾ کو بھی قرآنِ مجید کی وجہ سے ہی چار چاند لگے ہیں اور یہ رات اسی وجہ سے ہزار مہینوں سے افضل ٹھیرائی گئی ہے۔ اب قیامت تک تمام انسانیت کی فلاح کا دارومدار اِسی کتاب پر موقوف ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- آیات 4 تا 5 :دوسرے اور آخری پیراگراف میں ﴿لیلۃُ القدر﴾ کے فضائل ہیں۔

﴿لیلۃُ القدر﴾ میں فرشتوں اور ان کے سردار حضرت جبریلؑ کا نزول ہوتا ہے اور طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے سلامتی کے احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں۔

﴿تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا	فرشتے اور روح (جبریل) اس میں اترتے ہیں
بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴾ (4)	اپنے رب کے اذن سے، ہر حکم لے کر
﴿سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾(5)	وہ رات، سراسر سلامتی ہے، طلوعِ فجر تک۔
	(وہ یکسر امان ہے، یہ صبح کے نمودار ہونے تک ہے)

مرکزی مضمون

نزولِ قرآن کی رات جب اس درجہ قدر و قیمت اور سلامتی والی ہے تو انسانوں کو اس سے قرآن کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ ربط | نظمِ جلی

98- سُورَةُ البَيِّنَة

آیات : 8...... مَـدَنِـيَّـة...... پیراگراف : 5



زمانۂ نزول:

سورت ﴿ البَـيِّـنَـة ﴾، اُن آخری دو (2) سورتوں میں سے ایک ہے، جو مدینہ منورہ میں وفات سے پہلے رسول اللہ ﷺ پر نازل کی گئیں۔ اس سورت کے بعد غالباً صرف سورت ﴿ الـنَّـصـر ﴾ اور چند متفرق آیات نازل ہوئیں۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ دس (10) ہجری کے آخر میں نازل ہوئی ہوگی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ البَیِّنَۃِ کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿القدر﴾ میں وحی کے نزول کی رات کا ذکر تھا، اس سورت ﴿البَـیِّـنَة﴾ میں آخری رسول محمد ﷺ پر آخری کتاب قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد حضرت ابراہیمؑ کے خاندان کی دونوں شاخوں ﴿بنی اسرائیل﴾ یعنی اہلِ کتاب اور ﴿بنی اسماعیل﴾ یعنی مشرکینِ مکہ پر دنیا میں اِتمامِ حجت ہوگئی ہے۔ اب وہ اسلام قبول کر کے ﴿خَیـرُ الـبَـرِیَّـة﴾ اور جنتی بن سکتے ہیں، یا اسلام کو مسترد کر کے ﴿شَرُّ الـبَـرِیَّـة﴾ اور جہنمی بن سکتے ہیں۔

2- اگلی سورت ﴿الـزِّلـزَال﴾ میں بتایا گیا ہے کہ روزِ قیامت انسان کو اُس کے اچھے اور برے اَعمال دکھا کر اِتمامِ حجت کردی جائے گی۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿البَـیِّـنَـه﴾ سے مراد، رسول اللہ ﷺ ہیں، جو قرآنی دعوت پیش کر رہے ہیں۔

2- ﴿صُـحُـف مُـطَـهَّـرَة﴾ سے مراد قرآنِ مجید ہے۔

3- آخری رسول محمد ﷺ اور آخری کتاب قرآن پر ایمان لا کر عملِ صالح کرنے والے، بہترین خلائق ﴿خَـیـرُ الـبَـرِیَّـة﴾ ہیں۔

4- آخری رسول محمد ﷺ اور آخری کتاب قرآن کو ٹھکرانے والے، بدترین خلائق ﴿شر البریّة﴾ ہیں۔

5- مشرکین (بنی اسمٰعیل) اور اہلِ کتاب (بنی اسرائیل) دونوں ابراہیمی شاخوں کی نجات (Salvation) کا انحصار، صرف آخری کتاب قرآن اور آخری رسول محمد ﷺ پر ایمان اور اَعمالِ صالحہ پر ہے۔

6- ﴿ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهٗ﴾ کے الفاظ کے ذریعے، یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بنی اسمٰعیل (مشرکین) ہوں یا بنی اسرائیل (اہلِ کتاب) دونوں کے اندر موجود صرف اہلِ خشیت ہی، آخری کتاب اور آخری رسول ﷺ پر ایمان لا کر، جنت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔

سورۃ البَیِّنه کا نظمِ جلی

سورۃ البیّنه پانچ (5) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 3: پہلے پیراگراف میں، ﴿البَیِّنَة﴾ یعنی رسول اللہ ﷺ اور قرآن کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی ہے

﴿لَمْ یَكُنِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اہلِ کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے،

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ (اپنے کفر سے) باز آنے والے نہ تھے ،

حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ (1) جب تک کہ ان کے پاس دلیلِ روشن، کھلی نشانی نہ آجائے۔

﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴾(2) (یعنی) اللہ کی طرف سے ایک رسول (محمد ﷺ) ، جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔(پاکیزہ اوراق پڑھتا ہوا)

﴿فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴾(3) جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔

آلِ ابراہیم کی دونوں شاخوں میں پھیلے ہوئے کفر کے انسداد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات کے آخری انتظام کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ آلِ ابراہیم کی پہلی شاخ کے بیشتر افراد، گمراہ ہوکر یہودی اور عیسائی بن گئے، جبکہ دوسری شاخ کے بیشتر افراد نے، اَصنام پرستی کے شرک میں مبتلا ہوکر، خانۂ کعبہ جیسی جگہ کو 360 بتوں سے آلودہ کر دیا۔ یہ مشرکینِ مکہ تھے۔ بنی اسرائیل اور بنی اسمٰعیل پر مشتمل ، ان دونوں شاخوں کی رشد و ہدایت کے لیے آخری حُجّت ، آخری دلیل اور کھلی نشانی ﴿الْبَيِّنَة﴾ کا آنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز ظالم نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو اتمامِ حُجّت کے بغیر، دوزخ میں نہیں ڈالتا۔ چنانچہ یہ ﴿الْبَيِّنَة﴾ ، شریعت وحکمت پر مشتمل قرآن کے پاکیزہ صحیفوں کے اَحکام سناتے ہوئے، آخری رسول محمد ﷺ کی صورت میں بھیجی گئی۔ چونکہ پچھلی کتابوں کی تعلیمات میں تحریف کردی گئی تھی، انہیں آلودہ کردیا گیا تھا، اس لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی، جو ﴿قَيِّم﴾ یعنی سیدھی سیدھی صاف بھی ہو، اور ﴿مُطَهَّر﴾ یعنی آلودگی اور آمیزش سے پاک بھی ہو۔ اس لیے آخری رسول محمد ﷺ پر، آخری کتاب قرآن نازل کی گئی۔

2- آیت 4 : دوسرے پیراگراف میں، اہلِ کتاب کی تحریف کی داستان رقم کردی گئی ہے۔

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ، ان میں تفرقہ برپا نہ ہوا ،

إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ (4) مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس (راہِ راست کا) بیانِ واضح آچکا تھا۔

اہلِ کتاب، یہودی اور عیسائی بن گئے، اپنے مذہب ﴿الاسلام﴾ اور اپنی اساس توحید کو فراموش کر کے اپنے انبیاء کے بارے میں غلو کا ارتکاب کرتے ہوئے، انہیں (یعنی حضرت عزیرؑ اور حضرت عیسیٰؑ) کو اللہ کا بیٹا بنالیا حالانکہ ان کے پاس بھی ﴿الْبَيِّنَة﴾ یعنی واضح تعلیمات اور کھلی نشانیاں آچکی تھیں۔

یہاں ایک اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ اہلِ کتاب کا یہ اختلاف وافتراق غلط فہمی کی بنیاد پر ہرگز نہیں تھا بلکہ ﴿بَيِّنَات﴾ کے آنے کے بعد رونما ہوا۔ تورات، انجیل اور زبور کی تعلیمات بھی بہت ہی واضح اور غیر مبہم تھیں، ان میں غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ دراصل اہلِ کتاب کا یہ اختلاف ﴿حَسَد﴾ کی بنیاد پر تھا (البقرۃ 109) اور اہلِ کتاب کا یہ اختلاف ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ باہمی ظلم وزیادتی اور استحصال (Exploitation) کی بنیاد پر تھا۔ (البقرۃ 213)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

3- آیت 5: تیسرے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہلِ کتاب کو بھی خالص توحید اور نماز و زکوۃ کا حکم دیا گیا تھا۔

﴿وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ	اوران کواس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں ،
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ، حُنَفَآءَ	اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر ،
وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ	نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں
وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ﴾ (5)	یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔

پچھلے رسولوں اور پچھلی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ حسبِ ذیل تھا۔

(1) اللہ ہی کی خالص عبادت ، اطاعت اور بندگی کی جائے۔﴿وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾

(2) یہ عبادت ﴿الدِّین﴾ یعنی اطاعت اور بندگی کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے کی جائے۔

﴿الدِّین﴾ کا مطلب ، اللہ کی حاکمیت ، بندوں کی محکومیت ، اور اللہ کی شریعت وقانون کے علاوہ جزا وسزا کا عقیدہ ہے۔

﴿خَالِص﴾ کا مطلب ، ملاوٹ اور آمیزش سے پاک عبادت واطاعت ہے۔ یعنی اللہ کی ذات ، صفات اور حاکمیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اپنی عبادت اور محکومیت میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کے قانون کے علاوہ ، کسی اور کی شریعت پر عمل نہ کیا جائے اور یہ سارے کام ، عقیدۂ آخرت اور عقیدۂ جزا وسزا کے ماتحت کیے جائیں۔

(3) یہ بندگی ، ﴿حَنِيف﴾ (یکسو Upright) بن کر کی جائے۔ اللہ اور اس کے احکام کے علاوہ کسی اور پر توجہ نہ ہو۔

(4) اہلِ کتاب کو بھی ، نماز اور زکوۃ کا حکم دیا گیا تھا ، نماز انہوں ضائع کر دی ﴿اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ﴾ (مریم 59) اور زکوۃ کو اپنے بخل اور دنیا پرستی کی وجہ سے مٹا دیا۔

(5) آخر میں بتایا گیا کہ توحید ، اِخلاص (Purity) ، دین کے جامع تصور ، ﴿حَنِيفِيَّت﴾ (Uprightness) نماز اور زکوۃ پر مبنی راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اہلِ کتاب کے بگاڑ کو اب درست کر دیا گیا ہے ، اب انہیں بھی اسی سیدھے راستے پر چلنا چاہیے۔ اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ یہی سچا اور سیدھا دین ہے۔

4- آیات 6 تا 7: چوتھے پیراگراف میں ، صاف صاف بتا دیا گیا کہ آخری رسول محمد ﷺ اور آخری کتاب قرآن کا انکار کرنے والا ، چاہے وہ بنی اسرائیل کے اہلِ کتاب میں سے ہو ، یا بنی اسمٰعیل کا مشرک ہو (یا دنیا کا کوئی اور مشرک ہو) ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ، اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ (6)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اہلِ کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔

﴿اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ ﴾ (7)
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔

یہاں دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ آخری ہدایت سے محرومی ، انسان کو ﴿ شَرُّ الْبَرِیَّةِ ﴾ یعنی بدترین خلائق بنا دیتی ہے، پھر وہ آسمانی وحی کی نعمت سے استفادہ کرنے کا کوئی اور موقع نہ پائے گا۔ نتیجۃً وہ نہ صرف اعتقاد اعتبار بلکہ معاش و اقتصاد میں بھی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اس کے برخلاف، آخری رسول ﷺ اور آخری کتاب پر ایمان لانے والا ہر شخص، آسمانی وحی کے سائے میں زندگی بسر کر کے، ﴿خَیْرُ الْبَرِیَّةِ ﴾ یعنی بہترین خلائق میں شامل ہوسکتا ہے ، چاہے وہ نسلی اعتبار سے یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، برہمن ہو ،شودر ہو۔ بس دو (2) ہی شرطیں ہیں ایمان لائے اور پھر اس کے مطابق نیک اعمال پر مشتمل زندگی گزارے۔

5- آیت 8 : پانچویں اور آخری پیراگراف میں، اہلِ کتاب اور مشرکین دونوں کی نجات کی کلید ﴿خشیت﴾ بیان کی گئی ہے

﴿ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَآ اَبَدًا ،رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهٗ ﴾ (8)

ان کی جزا ،ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں (ہیشگی کے باغ ہیں) جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ (یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا)

ان سے پوچھا گیا: تمہارے دلوں میں خشیت موجود بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ آخری رسول اور آخری کتاب پر ایمان لانے کی سعادت، صرف اہلِ خشیت ہی حاصل کرسکتے ہیں۔ ﴿ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهٗ ﴾

ایمان اور اعمالِ صالحہ کا انعام ، جنت کی صورت میں ملے گا ، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا ، جب بندے اللہ سے راضی ہوجائیں گے اور اللہ ان کی نیتوں اور ان کی بدعت سے پاک عبادت سے راضی ہوجائے گا۔ شریعت اسلامی پر پوری طرح یکسو ہوکر، اللہ کی کامل رضا حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ، صرف اُسی صورت میں حاصل ہوسکتی ہے ، جب اللہ کا بندہ ،اللہ کی وحی ، اللہ کے رسول ﷺ ،اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت سے راضی ہوجائے۔ یہ یک طرفہ استحقاق نہیں ہے ، بلکہ ایک دوطرفہ معاملہ ہے ،دوطرفہ رضا مندی مطلوب ہے۔ ﴿ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

بعثتِ محمدی ﷺ اور نزولِ قرآن کے بعد، نہ صرف بنی اسرائیل (اہلِ کتاب) اور بنی اسمٰعیل (مشرکینِ مکہ) بلکہ ساری دنیا پر اتمامِ حجت ہوگئی ہے۔ اب وہ جنتی ہوں گے یا جہنمی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

99- سُوْرَۃُ الزِّلْزَالِ

آیات : 8 ...... مَکِّیَّۃ" ...... پیراگراف : 2



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الزِّلزَال﴾ ، غالبًا قیامِ مکہ کے پہلے دور (0 تا 3 نبوی) میں نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جارہی تھی، اور جب آپ ﷺ پر اعلیٰ ادبی اسلوب میں مختصر، محکم اور جامع سورتیں نازل کی جارہی تھیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الزِّلزَال کا کتابی ربط

1- پچھلی سورۃ ﴿البَیِّنَة﴾ میں آخری رسول محمد ﷺ کا اقرار اور انکار کرنے والوں کو ﴿خَیْرُ الْبَرِیَّة﴾ اور ﴿شَرُّ الْبَرِیَّة﴾ کہا گیا تھا اور انہیں دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ یہاں سورۃ ﴿الزِّلزال﴾ میں دوزخ کے عذاب سے پہلے کے مرحلۂ حساب و کتاب کا ذکر ہے، جب اقرار اور انکار کرنے والے سب انسان اپنی ہر نیکی اور ہر برائی کو اپنے نامۂ اعمال میں دیکھ لیں گے۔

2- پچھلی سورت ﴿البَیِّنَة﴾ میں اہلِ کتاب اور مشرکین پر دنیا کے اندر 'اِتمامِ حجت' کردی گئی تھی۔ یہاں سورۃ ﴿الزلزال﴾ میں بتایا گیا ہے کہ جزا و سزا سے پہلے انسانوں کو ان کے اعمال نامے دکھا کر روزِ قیامت بھی 'اِتمامِ حجت' کردی جائے گی۔

www.KitaboSunnat.com

- **اہم کلیدی الفاظ اور مضامین:**

1- ﴿اَشْتَاتًا﴾: اشتات کے لفظ سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ انسان روزِ قیامت خیر و شر پر مبنی مختلف اور متفرق عقیدے اور اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ (آیت:6)

2- اس سورت میں قیامت کے مناظر کی تصویر کشی کرکے بتایا گیا ہے کہ اُس دن اعمال ناموں میں انسانوں کو اُن کے اچھے اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ چنانچہ ﴿لِیُرَوْا اَعْمَالَهُمْ﴾ (آیت:6) اور ﴿یَرَهٗ﴾ (آیات:7،8) کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

سورۃ الزِّلزَال کا نظمِ جلی

سورۃ الزِّلزَال دو (2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 3: پہلے پیراگراف میں، روزِ قیامت کے دونوں مرحلوں کی تصویر کشی ہے۔

﴿اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (1) جب زمین، اپنی پوری شدت کے ساتھ، ہلا ڈالی جائے گی۔

﴿وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا﴾ (2) اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ، نکال کر باہر ڈال دے گی۔

﴿وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا﴾ (3) اور انسان کہے گا (پکار اٹھے گا) کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟

پہلے مرحلے میں زلزلہ پورے کرۂ ارض کو اپنی گرفت میں لے لے گا اور دوسرے مرحلے میں زمین پھٹ جائے گی اور اس میں سے تمام مرے ہوئے لوگ برآمد کیے جائیں گے۔ زمین گزرے ہوئے حالات سنائے گی۔ اس موقع پر انسان کی حیرت، تعجب، خوف اور سراسیمگی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- آیات 4 تا 8: دوسرے پیراگراف میں، حساب کتاب سے پہلے انسانوں کو اپنے اپنے اعمال ناموں کے دکھائے جانے کا تذکرہ ہے۔

﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ﴾ (4) اُس روز، وہ اپنے (اوپر گزرے ہوئے) حالات بیان کرے گی۔

﴿ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ﴾ (5) کیونکہ تیرے رب نے اسے (ایسا کرنے کا) حکم دیا ہوگا"

﴿ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ، اُس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے

لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ﴾ (6) تا کہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔

﴿ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴾ (7) پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، وہ اس کو دیکھ لے گا۔

﴿ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴾ (8) اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی، وہ اس کو دیکھ لے گا۔

اللہ کی طرف سے زمین کو زبان عطا کی جائے گی اور وہ گزرے ہوئے سچے واقعات بیان کرے گی۔

لوگ متفرق حالات میں اپنے اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اپنے اپنے نامۂ اعمال میں اپنی نیکیاں اور برائیاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے ، تا کہ اِتمامِ حجت ہو جائے۔

مرکزی مضمون

روز قیامت، (جنت اور دوزخ کے فیصلے سے پہلے) اِتمامِ حجت کے لیے، انسان کو اس کی تمام نیکیاں اور برائیاں دکھائی جائیں گی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشۂ ربط | نظمِ جلی

100- سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ

آیات : 11 ...... مَکِّیَّۃ" ...... پیراگراف : 2



زمانۂ نزول

سورت ﴿العادیات﴾، قیامِ مکہ کے پہلے دور (0 تا 3 نبوی) میں نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جارہی تھی، اور جب آپ ﷺ پر اعلیٰ ادبی اسلوب میں مختصر، محکم اور جامع سورتیں نازل کی جارہی تھیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ العَادِیَات کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿الزِّلزال﴾ میں روزِ قیامت اچھے اور بُرے اعمال کے دکھائے جانے کا تذکرہ تھا۔ یہاں اس سورت ﴿العادِیات﴾ میں بتایا گیا ہے کہ انسان ﴿کَنُود﴾ یعنی ناشکرا نہ ہو تو اُس سے اچھے اعمال کا صدور بھی ممکن ہے اور بخل ، مال کی حرص اور دنیا پرستی سے اجتناب بھی ممکن ہے۔

2- اگلی سورت ﴿القَارِعَة﴾ میں اچھے اعمال کی کثرت کی ترغیب دی گئی ہے ، تاکہ ترازو میں برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ پائی جائیں۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿عادِیات﴾: تیز دوڑنے والیاں

2- ﴿ضَبۡح﴾ سانس کی آواز۔

3- ﴿مُورِیات﴾: آگ نکالنے والیاں۔ چنگاریاں اُڑانے والیاں

4- ﴿قَدحَة﴾: چقماق سے آگ نکالنا۔

5- ﴿مُغِیرات﴾: حملہ کرنے والیاں

6- ﴿نَقع﴾: چمکتا ہوا غبار ﴿فَاَثَرۡنَ بِهٖ نَقۡعًا﴾ یہاں ﴿بِهٖ﴾ سے مراد ﴿بِعَدۡوٍ﴾ ہے۔ یعنی تیز رفتاری کی وجہ سے گرد و غبار اڑاتی ہیں۔

﴿فَوَسَطۡنَ بِهٖ جَمۡعًا﴾ یہاں ﴿بِهٖ﴾ سے مراد ﴿بِنَقۡعٍ﴾ ہے۔ یعنی غبار کے ساتھ مجمع میں گھس جاتی ہیں۔

7- ﴿کَنُود﴾: ناشکرا۔ 8- ﴿خَیر﴾ مال و دولت

سورۃ العَادِیَات کا نظمِ جلی

سورۃ العَادِیَات دو (2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

﴿وَالۡعٰدِیٰتِ ضَبۡحًا﴾ (1)	قسم ہے ! ان (گھوڑوں) کی ، جو پھنکارے مارتے ہیں۔
﴿فَالۡمُوۡرِیٰتِ قَدۡحًا﴾ (2)	پھر (اپنی ٹاپوں سے) چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔
﴿فَالۡمُغِیۡرٰتِ صُبۡحًا﴾ (3)	پھر صبح سویرے چھاپہ مارتے ہیں۔
﴿فَاَثَرۡنَ بِهٖ نَقۡعًا﴾ (4)	پھر اس موقع پر ، گرد و غبار اڑاتے ہیں۔
﴿فَوَسَطۡنَ بِهٖ جَمۡعًا﴾ (5)	پھر اسی حالت میں ، کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ﴾ (6) حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا (کَنُوْد) ہے۔

﴿وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ﴾ (7) اور یقیناً وہ خود اس پر گواہ ہے۔

وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ﴾ (8) وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔

1- آیات 1 تا 8: پہلے پیراگراف میں تیز رفتار گھوڑوں کی شہادت پیش کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انسان کے ناشکرے پن پر گواہ ہیں۔

کیونکہ انسان مال کی شدید محبت میں مبتلا ہے ﴿اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ﴾۔ گھوڑا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور انسان بھی ایک مخلوق۔ گھوڑا انسان کا شکرگزار اور وفادار ہوتا ہے۔ اپنے مالک کی مرضی اور خوشنودی کے حصول کے لیے چنگاریاں جھاڑتے ہوئے، جان کی بازی لگا کر دشمن کی صف میں گھس جاتا ہے، دوسری طرف انسان مال کی شدید محبت کی وجہ سے، اپنے مالکِ حقیقی اور خالق رب کا ناشکرا بن جاتا ہے ﴿اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ﴾۔

2- آیات 9 تا 11: دوسرے پیراگراف میں، قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ کر مردہ انسانی ضمیر کی بیداری کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔

﴿اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ﴾ (9) تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا؟ جب قبروں میں جو کچھ (مدفون) ہے، اسے نکال لیا جائے گا۔

﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ﴾ (10) اور سینوں میں جو کچھ (مخفی) ہے، اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟

﴿اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ﴾ (11) یقیناً ان کا رب، اُس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔

بتایا گیا ہے کہ اگر انسان عقیدۂ آخرت پر پختہ یقین رکھے اور مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھے، اللہ کی صفات پر ایمان لے آئے کہ وہ علیم و خبیر ہستی ہے ﴿اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ﴾، جو نہ صرف انسان کے تمام اَفعال و اَعمال کا علم رکھتی ہے، بلکہ انسان کے ارادوں اور اس کی نیتوں سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ علاوہ ازیں یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ، قدرت بھی رکھتا ہے کہ سینوں کے اندر چھپے رازوں اور بھیدوں کو نکال باہر کر کے اس کا حساب لے گا ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ﴾، تبھی یہ عین ممکن ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر، ایک شکرگزار بندے کی حیثیت سے زندگی گزارے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

مخلوق، مخلوق کی وفادار ہے، لیکن انسان اپنے خالق کا ناشکرا ﴿كَنُوْد﴾ ہے۔ انسانوں کو مال کی محبت ﴿حُبُّ الْخَيْرِ﴾ سے بچتے ہوئے آخرت پر ایمان لاکر، شکرگزار بندہ بن جانا چاہیے۔ عقیدۂ توحید کہ اللہ تعالیٰ ﴿خَبِير﴾ ہے اور نیتوں کو بھی جان لیتا ہے اور عقیدۂ آخرت کہ مرنے کے بعد قبروں سے اُٹھایا جائے گا، ان دونوں چیزوں پر کامل ایمان اور ایقان کے نتیجے ہی میں انسان ناشکری سے بچ کر شاکرانہ زندگی گزار سکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ ربط — نظمِ جلی

101- سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

آیات : 11...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 2



زمانۂ نزول:

سورت ﴿القارِعَة﴾، قیامِ مکہ کے پہلے دور (0تا3 نبوی) میں نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جارہی تھی، اور جب آپ ﷺ پر اعلیٰ ادبی اسلوب میں مختصر، محکم اور جامع سورتیں نازل کی جارہی تھیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ القارِعَة کا کتابی ربط

1- سورت ﴿ الزّلزال ﴾ میں اعمال کے دکھائے جانے کا ذکر تھا۔ پچھلی سورۃ ﴿العادِیات﴾ میں ناشکری ﴿کَنُود﴾ سے بچنے کی ہدایت تھی، کیونکہ شکر سے اچھے اعمال کا صدور اور بخل اور دنیا پرستی سے بُرے اعمال کا صدور ہوتا ہے، یہاں سورۃ ﴿ القارِعَة ﴾ میں اچھے اعمال کی کثرت کی ترغیب ہے، تاکہ ترازو میں یہ بُرے اعمال کے مقابلے میں وزنی ہوں۔

2- اگلی سورت ﴿ التّکاثُر﴾ میں مادّہ پرستی کی دوڑ سے الگ تھلگ رہ کر آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔

3- سورت ﴿ العادِیات ﴾ میں انسان کی مادّہ پرستی کا نقشہ ﴿ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴾ کے الفاظ سے کھینچا گیا تھا، اگلی سورت ﴿التّکاثُر﴾ میں اسے ﴿اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- روزِ قیامت انسان پروانوں کی طرح اور پہاڑ دُھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔

﴿ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ﴾

یہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہے، جب ہر چیز تباہ و برباد کر دی جائے گی۔

2- ﴿هَاوِيَةٌ﴾: گہری کھائی۔

3- ﴿ مَا هِيَهْ ﴾: دراصل ﴿ مَا هِيَ ﴾ ہے۔

سورۃ القارِعَة کا نظمِ جلی

سورۃ القارِعَة دو (2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 5: پہلے پیراگراف میں، قیامت کے پہلے مرحلے کی تصویر کشی ہے، جب دنیا تباہ و برباد کر دی جائے گی۔

﴿ اَلْقَارِعَةُ ﴾ (1) — عظیم حادثہ ! (کھٹکھٹانے والی)

﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ (2) — کیا ہے وہ عظیم حادثہ ؟ (کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟)

﴿ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ (3) — تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟

﴿يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ﴾ (4) — وہ دن، جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے

﴿وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ﴾ (5) — اور پہاڑ، رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔

ثابت اور محکم پہاڑ، دھنکے ہوئے اون کی طرح ہلکے اور خفیف ہو کر رواں دواں ہوں گے۔ انسان پروانوں کی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

طرح منتشر ہوں گے۔

2- آیات 6 تا 11: دوسرے پیراگراف میں، قیامت کے دوسرے مرحلے کی تصویر کشی ہے، جب اعمال تولے جائیں گے۔

﴿ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴾(6)	پھر جس کے پلڑے ، بھاری ہوں گے
﴿ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾(7)	وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔"
﴿ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴾ (8)	اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔
﴿ فَاُمُّهٗ "هَاوِيَةٌ" ﴾ (9)	اس کی جائے قرار ، گہری کھائی ہوگی۔
وَمَآ اَدْرٰكَ مَا هِيَهْ ﴾(10)	اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟
﴿ نَارٌ" حَامِيَةٌ" ﴾ (11)	بھڑکتی ہوئی آگ۔ (دہکتی ہوئی آگ)

اعمال کی ترازو میں، (برائیوں کے مقابلے میں) جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ دل پسند عیش میں ہوں گے ﴿فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ اور جن لوگوں کی نیکیاں کم ہوں گی (اور گناہ زیادہ ہوں گے) وہ دوزخ کے گڑھے میں گر جائیں گے ، جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی ﴿ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ" ﴾۔

اِن آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گناہ پر سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ بحیثیتِ مجموعی یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہیں ، یا برائیاں۔ جنت میں داخلے اور دوزخ کی آگ سے نجات (Salvation) کے لیے شرک سے پاک عقیدۂ توحید اور نیک اعمال کی کثرت دو (2) بنیادی شرائط ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت ہے ، جس کے بغیر نجات کا تصور محال ہے۔

مرکزی مضمون

روزِ قیامت، اعمال کی ترازو میں نیکیوں کی کثرت، دخولِ جنت کا سبب بنے گی اور نیکیوں کی قلت، دخولِ جہنم کا سبب۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنی ترازو کو وزنی کر لینا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ ربط | نظمِ جلی

102- سُورَۃُ التَّکَاثُرِ

آیات : 8 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 2



زمانۂ نزول:

سورت ﴿التّکاثر﴾، غالباً قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) میں اعلانِ عام کے بعد نازل ہوئی ، جب قریش کی مادہ پرست قیادت کی دنیاداری پر سخت گرفت کی گئی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ التکاثر کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿القَارِعَة﴾ میں اچھے اور برے اعمال کے تولے جانے کا ذکر تھا، یہاں سورت ﴿التّکاثُر﴾ میں اچھے اعمال اور بُرے اعمال کی وضاحت کی گئی ہے، جن کی روشنی میں، انسان دوزخ سے بچ کر جنت حاصل کر سکتا ہے۔

2- اگلی سورت ﴿العَصر﴾ میں چار (4) باتوں پر جلد سے جلد عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ انسان خسارے سے بچ سکے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿ اَلْهٰی ، يُلْهِي ، اِلْهاء﴾ : غافل کر دیا، بھلا دیا، توجہ ہٹا دی۔

2- ﴿ تَکَاثُر ﴾ بابِ تفاعُل سے ہے، طلبِ مال کی مسابقت، ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ

3- ﴿ عِلْمُ الْيَقِين ﴾ : یقین کا علم، شک وشبہ سے بالاتر علم۔ یقین کا علم، اہلِ خشیت کو حاصل ہوتا ہے۔
﴿ عِلْمُ الْيَقِين ﴾ کا یہ علم، قرآنی دلائل اور آفاق اور انفس کی نشانیوں پر غور وفکر اور تدبّر سے حاصل ہوتا ہے۔

4- ﴿عَيْنُ الْيَقِين ﴾ : یقین کی آنکھ، وہ حقیقت جس کو دیکھا جا سکے، قابلِ مشاہدہ حقیقت۔
﴿عَيْنُ الْيَقِين ﴾ کا یہ علم، روزِ قیامت مشاہدے کے بعد ہی حاصل ہوگا۔

5- لوگ ﴿تَکَاثُر﴾ کی دھن میں اپنی اگلی زندگی سے غافل ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ آخرت کی جزا وسزا پر عدم ایمان ہے۔

6- لوگ جہنم کو یقینی علم کی حیثیت ﴿عِلْمُ الْيَقِين ﴾ سے جان لیں تو ﴿تَکَاثُر ﴾ کی اس غفلت میں مبتلا نہ ہوں۔

7- مرنے کے بعد نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی اور جہنم کو یقینی آنکھ ﴿ عَيْنُ الْيَقِين ﴾ سے دیکھا جا سکے گا۔

سورۃ التکاثر کا نظمِ جلی

سورۃ التکاثر دو (2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 5 : پہلے پیراگراف میں، انسان کے بارے میں دو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔

ایک یہ کہ وہ ﴿تَکَاثُر﴾ کی دھن میں اپنے ربّ سے غافل ہے۔ دوسری یہ کہ وہ مال ودولت کے حصول کی اسی دوڑ میں، اپنی غفلت کے سبب موت سے ہمکنار ہونے کے بعد قبر تک پہنچ جاتا ہے ﴿حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾۔

﴿ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ (1) تم لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دُھن نے، غفلت میں ڈال رکھا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿حَتّٰی زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ ﴾(2) یہاں تک کہ (اسی فکر میں) تم لب گور تک پہنچ جاتے ہو۔

﴿کَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ﴾(3) ہرگز نہیں ! عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔

﴿ثُمَّ کَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ﴾(4) پھر (سن لو کہ) ہرگز نہیں! عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔

﴿کَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عِلۡمَ الۡیَقِیۡنِ ﴾(5) ہرگز نہیں ! اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے (اس روش کے انجام کو) جانتے ہوتے (تو تمہارا یہ طرزِ عمل نہ ہوتا)۔

تیسری آیت بھی "کَلَّا" (ہرگز نہیں) سے شروع ہوتی ہے۔ رب سے غفلت اور دنیا پرستی کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان آخرت کا پختہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ جزاوسزا اور جنت ودوزخ پر محکم ایمان نہیں رکھتا۔ انسان کی غلط فہمی ہے کہ اس طرزِ عمل پر اُسے دوزخ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن کچھ مدت بعد ﴿ سَوۡفَ ﴾ یہ جان لے گا۔

2- آیات 6 تا 8 :دوسرے پیراگراف میں، غفلت کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

﴿لَتَرَوُنَّ الۡجَحِیۡمَ ﴾(6) تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ (کہ دوزخ سے ضرور دوچار ہو گے)

﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیۡنَ الۡیَقِیۡنِ ﴾(7) پھر (سن لو کہ) تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔

﴿ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ یَوۡمَئِذٍ عَنِ النَّعِیۡمِ ﴾(8) پھر ضرور اس روز، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔

اگر انسان پختہ یقین کے ساتھ جانتا ہوتا کہ وہ دوزخ کو دیکھے گا اور اسے دوزخ سے دوچار ہونا ہے تو وہ موت اور قبر کے مراحل سے غافل نہ ہوتا۔ اس طرح غفلت ﴿اِلۡـھَـاء"﴾ کی زندگی نہ گذارتا۔ اُسے معلوم ہونا چاہیے کہ روزِ قیامت اُس سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی ﴿ لَتُسۡـَٔلُنَّ یَوۡمَئِذٍ عَنِ النَّعِیۡمِ ﴾۔

مرکزی مضمون

انسان کو دنیا پرستی اور ﴿ تَکَاثُر ﴾ کی دوڑ سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ دوزخ میں جا سکتا ہے۔ اُسے قبر کی تیاری کرنی چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ روزِ قیامت اُسے اپنے رب کی تمام نعمتوں کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

103- سُوْرَةُ الْعَصْرِ

آیات : 3 ...... مَكِّيَّة" ...... پیرا گراف : 2



زمانۂ نزول:

سورت ﴿العصر﴾، قیامِ مکہ کے پہلے دور (0 تا 3 نبوی) میں نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی اور جب آپ ﷺ پر اعلیٰ ادبی اسلوب میں مختصر، محکم اور جامع سورتیں نازل کی جا رہی تھیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ العصر کے فضائل

امام شافعیؒ نے اس سورت کی جامعیت کے بارے میں فرمایا: ﴿لَوْ لَمْ يُنْزَلْ غَيْرُ هٰذِهِ السُّوْرَةَ لَكَفَتِ النَّاسَ﴾۔ (تفسیر روح المعانی : ج30، ص227)

"اگر اللہ تعالیٰ اس سورت کے علاوہ کچھ نازل نہ کرتا، تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی سورت کافی تھی"۔

سورۃ العصر کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿التکاثر﴾ میں اچھے اعمال (نعمتوں پر شکر، آخرت پر پختہ یقین، قناعت اور احساسِ جوابدہی) اور بُرے اعمال (تکاثر، غفلت، شک اور جواب دہی کے عدم احساس) کی وضاحت تھی۔

یہاں سورت ﴿العصر﴾ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھے اعمال سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان لانے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿عصر﴾: زمانہ۔ گزرتا ہوا زمانہ۔

2- قسم اور جوابِ قسم: ﴿عصر﴾ مقسم بہ ہے اور ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ مقسم علیہ ہے۔ مُقسَم بِہ اور مُقسَم عَلَیہ میں گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ قسم کا مطلب شہادت اور گواہی ہے۔ قسم کا مقصد دلیل فراہم کرنا ہوتا ہے۔ گزرتے ہوئے وقت کا ہر لمحہ یہ گواہی اور شہادت دے رہا ہے کہ اگر انسان ایمان اور عملِ صالح کے بغیر مر جائے تو خسارے اور نقصان میں رہے گا۔ انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی۔ لہٰذا اسے ہر لمحے کی قدر کرتے ہوئے اپنے خالق اور اپنے رب کی بندگی کے راستے پر جلد از جلد گامزن ہو جانا چاہیے۔

3- ﴿تَوَاصَوْا﴾: باب ﴿تفاعل﴾ سے فعل ماضی جمع ہے۔ ﴿تَوَاصَى يَتَوَاصَى، مُتَوَاص، تَوَاصَ، تَوَاصٍ﴾ یعنی جن لوگوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی۔

4- ﴿الْحَقّ﴾: حقیقت، اللہ کا نام، باطل کی ضد، سچی بات، توحید، استحقاق

5- ﴿صَبر﴾: پختہ عزم و ارادہ، استقامت، ثابت قدمی، مداومت، استمرار، اپنے آپ کو تھامنا، عجلت پسندی سے بچنا، مناسب وقت کا انتظار کرنا، جزع فزع اور ماتم نہ کرنا، بے چین اور بے قرار نہ ہونا، ڈٹ جانا، جہاد کرنا وغیرہ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ العَصر کا نظمِ جلی

سورۃُ العَصر دو(2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 2 : پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ وقتِ گریزاں اور عمرِ گریزاں پر غور کر کے انسان کو جلد از جلد اسلام قبول کر لینا چاہیے، ورنہ وہ آخرت کے خسارے سے دوچار ہو سکتا ہے۔

﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ (1) ”زمانے کی قسم ! (زمانہ شاہد ہے)

﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ (2) انسان درحقیقت خسارے میں ہے۔

2- آیت 3 : دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ چار(4) چیزیں انسان کو خسارے سے بچا سکتی ہیں۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان لوگوں کے، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾(3) اور (ایک دوسرے کو) صبر کی تلقین کرتے رہے۔

(1) ایمان، (2) عملِ صالح، (3) ﴿ تَوَاصِی بِالحَقّ ﴾ اور (4) ﴿ تَوَاصِی بِالصَّبر ﴾ ۔

صرف ﴿ ایمان ﴾ انسان کی نجات کی کلید نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد ﴿ اعمالِ صالحہ ﴾ لازمی اور ضروری ہیں۔

اسلام کے نزدیک انسان کا خود ﴿ حَق ﴾ پر ہونا ، ﴿ صالِح ﴾ یعنی نیک ہونا کفایت نہیں کرتا ، بلکہ اسے دوسروں کو بھی ﴿ حَقّ ﴾ کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔

﴿ تَوَاصِی بِالحَقِّ ﴾ میں توحید اور اسلام کی دعوت و تبلیغ ، تذکیر ، وعظ و نصیحت، ﴿ اَمر بِالمَعرُوف ﴾ یعنی نیکیوں کا حکم دینا ، ﴿ نَہی عَنِ المُنکَر ﴾ یعنی برائیوں سے روکنا وغیرہ جیسے تمام اعمال شامل ہیں۔

﴿ تَوَاصِی بِالحَقِّ ﴾ کے نتیجے میں مخالفین کی طرف سے ایک صاحبِ ایمان شخص کو مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ توحید کی دعوت پر انبیاء ، صدیقین اور صالحین کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جاتے ، بلکہ انہیں اذیتوں سے دوچار کیا جاتا رہا۔ یہی تاریخ کا دائمی سبق ہے۔

مخالفتوں کے اس ماحول میں نیک آدمی جھک سکتا ہے، دب سکتا ہے ، یا پھر خاموشی اختیار کر سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں اسے ﴿ تَوَاصِی بِالصَّبر ﴾ کا حکم دیا گیا۔ تمام نیک لوگوں کو چاہیے کہ ان مشکل حالات میں ایک دوسرے کی ہمت بندھائیں۔ ایک دوسرے کو ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ یہی فلاح کا راستہ ہے ، جو خسارے سے بچا سکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مضمون

آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے انسان کو جلد از جلد اسلام کے راستے پر گامزن ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے چار نکاتی فارمولے پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ایمان، عملِ صالح، ﴿ تَوَاصِي بِالْحَقِّ ﴾ اور ﴿ تَوَاصِي بِالصَّبْرِ ﴾۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

104- سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ

آیات : 9 ...... مَکِّیَّۃ" ...... پیرا گراف : 2



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الھُـمَـزَۃ﴾ ، اعلانِ عام کے بعد قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) کے آغاز میں نازل ہوئی، جب اُمیہ بن خلف جیسی قریشی قیادت کے اخلاقی اور معاشی رویے زیرِ بحث تھے، جن کا بنیادی سبب آخرت فراموشی تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ الھُمَزَۃ کا کتابی ربط

پچھلی سورت ﴿العصر﴾ میں ایمان لا کر عملِ صالح نہ کرنے والے کافروں کو نقصان اور خسارے کی وعید سنائی گئی تھی۔ یہاں سورت ﴿الھُمَزَۃ﴾ میں خسارہ اُٹھانے والوں میں سے ، ایک بداخلاق اور بخیل لیڈر کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿ ھَامِز" ﴾ : عیب گر ، نکتہ چیں ، عیب چیں۔

2- ﴿ ھُمَزَۃ" ﴾ :اسمِ مُبَالَغہ ہے۔بڑا عیب گر، بڑا عیب چین ، زیادہ غیبت کرنے والا ، بڑا چغل خور حرکات وسکنات سے لوگوں کا مذاق اڑانے والا۔

3- ﴿ لُمَزَۃ" ﴾ یہ بھی اسمِ مبالغہ ہے۔(زبان سے)لوگوں کے منہ پر ان کی برائی کرنے والا ، عیب ، ہجواور مذمت کرنے والا۔

4- ﴿ عَمَدٍ ﴾:عَمُود کی جمع۔ستون، کھمبے۔

سورۃُ الھُمَزَۃ کا نظمِ جلی

سورۃُ الھُمَزَۃ دو(2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 5 : پہلے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ زر پرست، بداَخلاق اور بخیل لیڈر اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ان کے مال نے انہیں دوام بخش دیا ہے۔

﴿ وَيْلٌ" لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ (1) "تباہی ہے ، ہر اس شخص کے لیے ، جو(منہ در منہ)لوگوں پر طعن اور(پیٹھ پیچھے) برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔(ہلاکت ہو ہر اشارہ باز ، عیب جو کے لیے)

﴿ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ﴾ (2) جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔

﴿ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ﴾ (3) وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال، ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔

﴿ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ﴾(4) ہر گز نہیں! وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں، پھینک دیا جائے گا"

﴿ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴾(5) اور تم کیا جانو کہ کیا ہے، وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

آخرت فراموشی کے سبب انسان کے اندر دو (2) قسم کے اخلاقی عیب پیدا ہو جاتے ہیں۔

(1) وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر گردانتا ہے۔ چنانچہ نہ صرف زبان سے، بلکہ اپنی حرکات و سکنات سے عیب چین بن کر لعن طعن کرنے لگتا ہے ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾۔

(2) مال کی شدید محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بخیل بن کر مال کو گن گن کر اور سینت سینت کر جمع کرتا ہے ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهُ﴾ اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اُس کے مال نے اُس کو دوام بخش دیا ہے۔ ﴿يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ﴾۔

2- آیات 6 تا 9 :دوسرے پیراگراف میں، بداخلاق، عیب چین، بخیل زر پرست لیڈر کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔

﴿نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ﴾(6) اللہ کی آگ، خوب بھڑکائی ہوئی۔

﴿الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ﴾ (7) جو دلوں تک پہنچے گی۔ (جو دل تک جا چڑھے گی)

﴿اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ﴾(8) وہ ان پر ڈھانک کر، بند کردی جائے گی۔

﴿فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾(9) (اس حالت میں کہ وہ) اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ (لمبے ستونوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے)

وہ ﴿الْحُطَمَةِ﴾ میں جھونک دیا جائے گا۔ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ دوزخ ایک ایسی جگہ ہے، جہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا۔ اس کے ستون بہت ہی بلند ہیں۔ دنیا کی جیلوں کے برعکس، وہاں کوئی شخص دوزخ سے فرار نہیں ہو سکتا اس پر سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ دوزخ کی چھت کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا۔

مرکزی مضمون

دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے انسان کو تکبر اور عیب چینی جیسی بُری اخلاقی صفات سے اور دنیا پرستی اور مادہ پرستی سے بچنا چاہیے، یہ چیزیں اُسے بخیل بنا دیتی ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

105- سُوْرَةُ الْفِيْل

آیات : 5 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 2



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الفیل﴾ غالباً آپ ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور میں اعلانِ عام کے بعد 4 ہجری میں نازل ہوئی ہوگی۔ ﴿اَلَمْ تَرَ﴾ کے سوالیہ اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قریش کے لیے تنبیہ بھی ہے اور دعوتِ غور وفکر بھی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ الفِیل کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿الهُمَزَة﴾ میں قریش کی بداخلاق اور زر پرست بخیل قیادت کا ذکر تھا، یہاں سورت ﴿الفِيل﴾ میں خانۂ کعبہ کے متولی (Custodians) سردارانِ مکہ پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ قریش نے تعمیر کعبہ کے مقاصد کو فراموش کر کے اُسے بتوں سے آلودہ کر دیا ہے۔ اس گھر کی حفاظت اور اس کی تعمیر کے مقاصد کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔

2- اگلی سورت ﴿قُرَيش﴾ میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں صرف اِس گھر کے ﴿رَبّ﴾ ہی کی عبادت کرنی چاہیے ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ﴾۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿اَبَابِيل﴾ : غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ (اسم جمع ہے، جس کا واحد نہیں)۔

2- ﴿عَصْف﴾: کھیتی کے پتے۔ مویشیوں کا بھوسا، کھائے ہوئے پھل کا چھلکا۔

3- رسول اللہ ﷺ کی ولادت سے صرف 50 یا 55 دن پہلے یمن کے عیسائی حکمران ﴿اَبرہہ﴾ نے فروری 571ء میں 60 ہزار فوج اور کئی ہاتھیوں سے مکہ پر حملہ کیا۔

مزدلفہ اور منیٰ کے درمیان، وادیٔ مُحَصَّب کے قریب مُحَسِّر میں، ﴿اَبرہہ﴾ اور اُس کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ انہیں پرندوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔

سورۃُ الفِیل کا نظمِ جلی

سورۃُ الفِیل دو (2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 2 : پہلے پیراگراف میں، سردارانِ مکہ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف قریش کی چالیں ناکام ہوں گی

﴿اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ﴾ (1) "کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟"

﴿اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ﴾ (2) "کیا اُس نے ان کی چالوں کو ناکام نہیں کیا؟"

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- آیات 3 تا 5 :دوسرے پیراگراف میں قریش کو ، خانہ کعبہ کے دشمنوں کے انجام سے خبردار کیا گیا۔

﴿ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴾ (3) ”اور (کیا نہیں) ان پر پرندوں (چڑیوں) کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے۔

﴿ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴾ (4) ”جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔“

﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴾ (5) ”پھر ان کا یہ حال کر دیا (جیسے جانوروں کا) کھایا ہوا بھوسا۔“

اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، جو اُن پر مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے، جس کے نتیجے میں ﴿ ابرہہ ﴾ کا لشکر جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا گیا۔

قریش مکہ کو بت پرستی چھوڑ کر رسول کریم ﷺ کی دعوتِ توحید کو قبول کرنے، خانہ کعبہ کو اَصنام سے پاک کرنے اور اَبرہہ کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ، ورنہ قریش کی شامت بھی آ سکتی ہے۔

مرکزی مضمون

خانۂ کعبہ کے متولیوں کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد کو پیشِ نظر رکھنا چاہیے۔ یہ عمارت توحید کی علامت ہے۔ اسے بتوں سے پاک ہونا چاہیے ، ورنہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

106- سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

آیات : 4 ...... مَكِّيَّة ...... پیراگراف : 2



زمانۂ نزول:

سورت ﴿قریش﴾، غالباً سورۃُ الفیل کے بعد آپ ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی ہوگی، جب علانیہ دعوت کے ابتدائی مرحلے میں، قریش کو نمک حرامی چھوڑ کر احسان شناسی کا سبق سکھایا جا رہا تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ قُریش کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿الفِیل﴾ میں خانۂ کعبہ اور مقاصدِ تعمیرِ کعبہ کی حفاظت کا ذکر تھا۔ یہاں اس سورت ﴿قُرَیش﴾ میں قریش کے سردارانِ مکہ کی احسان فراموشی کا ذکر ہے کہ یہ خانۂ کعبہ کے متولی ہونے، حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسمٰعیلؑ کی اولاد ہونے کے باوجود، ﴿بلدِ امین﴾ کی وجہ سے قائم ہونے والے امن و امان سے فیض یاب ہوتے ہوئے، تمام معاشی اور تجارتی فوائد سے لطف اندوز ہونے کے باوجود، توحید سے انحراف کر کے شرک میں مبتلا ہیں۔

2- اگلی سورت ﴿المَـاعُـون﴾ میں قریش کے خلاف مزید فردِ جرم ہے۔ خانۂ کعبہ کے ان نام نہاد متولیوں (Custodians) سے نہ تو اللہ کے حقوق پورے ہوتے ہیں اور نہ بندوں کے حقوق۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿اِیلٰف﴾: مانوسیت، وابستگی

2- ﴿رِحلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیف﴾: سردیوں اور گرمیوں کا تجارتی سفر۔ سردیوں میں یمن کی جانب جنوبی سفر اور گرمیوں میں شام کی طرف شمالی سفر۔

3- مکہ ایک بے آب و گیاہ وادی تھی۔ نہ یہاں زراعت ہوتی تھی اور نہ کوئی صنعت تھی۔ اہلِ مکہ کی معیشت کا سارا دارو مدار تجارت پر موقوف تھا۔ حضرت ابراہیمؑ نے ان کے رزق کے لیے دعا کی تھی۔ اسی گھر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور فاقہ کشی سے محفوظ رکھا اور صحرائے عرب کے غیر محفوظ ماحول میں امن و امان عطا کیا۔

4- قریشِ مکہ کی ساری فضیلت، تجارتی ساکھ اور دنیاوی خوش حالی خانۂ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے تھی۔ اللہ کا قریش پر یہ احسان تھا کہ اُس نے سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کے تجارتی سفر سے انہیں مانوس کر دیا۔ لوگ اِسی فضیلت کی وجہ سے ان سے لین دین کیا کرتے تھے۔ خانۂ کعبہ ہی کی وجہ سے قریش بھوک اور قحط سے محفوظ تھے، ان کے تجارتی راستے محفوظ تھے۔ قریش کو احسان فراموشی اور بت پرستی چھوڑ کر، خانۂ کعبہ کے ربِ واحد ہی کی بندگی اور اطاعت کرنا چاہیے۔

سورۃ قُریش کا نظمِ جلی

سورۃ قُرَیش دو (2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

1- آیات 1 تا 2 : پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ قریش کے تجارتی دوروں کی برکت، خانۂ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ہے

﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ﴾ (1) چونکہ قریش مانوس ہوگئے۔

﴿إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ﴾ (2) (یعنی) جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس۔

اللہ تعالیٰ نے قریش کو خانۂ کعبہ کا متولی بنا کر، مکے کی وادیٔ غیر ذی زرع کو نہ صرف ایک پُرامن مقام، بلکہ ایک اہم تجارتی مرکز بنادیا۔ اب وہ موسم گرما میں شمال کے سرد علاقے شام اور سردیوں میں جنوب کے گرم علاقے یمن کے تجارتی سفر بسہولت کر لیتے ہیں۔ قریش کے معاشی استحکام کا انحصار، صرف اور صرف خانۂ کعبہ کی وجہ سے تھا، یمن اور شام کے لوگ انہیں متولیٔ کعبہ سمجھ کر ہی احترام کے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن یہ احسان فراموش اللہ کی بندگی چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنے لگے۔

2- آیات 3 تا 4 : دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ قریش کو بت پرستی چھوڑ کر ربِّ کعبہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ﴾ (3) لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔

﴿ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ جس نے انہیں بھوک (قحط) سے بچا کر کھانے کو دیا

وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ﴾ (4) اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔

احسان شناسی کا تقاضا یہی ہے کہ قریش شرک کو چھوڑ کر، توحید اختیار کریں اور اس گھر کے ربّ (اللہ) ہی کی خالص بندگی کریں، جس نے انہیں رزق فراہم کیا اور اَمن واَمان کی دولت عطا کی۔

مرکزی مضمون

قریش کو اللہ تعالیٰ کا احسان شناس بن کر، شرک سے بچتے ہوئے صرف خانۂ کعبہ کے رب ہی کی عبادت کرنا چاہیے، جس نے ان کے تجارتی دوروں کے ذریعے انہیں رزق فراہم کیا اور امن امان کی زندگی نصیب کی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

107- سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

آیات : 7 ...... مَکِّیَّۃ ...... پیراگراف : 2



زمانۂ نزول:

سورت ﴿الـمَــاعُـون﴾ ، اعلان عام کے بعد غالباً 4 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں سردارانِ مکہ کے خلاف فردِ جرم ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ المَاعُون کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿قُریش﴾ میں قریش کی احسان فراموشی کا ذکر تھا۔ یہاں سورت ﴿المَاعُون﴾ میں اُن کی مذہبی منافقت کا تذکرہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے برہمن اور متولی ہوتے ہوئے ، آخرت فراموشی کے نتیجے میں ، نہ صحیح طور پر انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور نہ اللہ کے حقوق۔ قریش دکھاوے اور ریاء کاری کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الانفال کی آیت:35 میں ان کی نمازوں کا پول کھولا گیا ہے ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً﴾ یہ نماز میں سیٹیاں بجاتے تھے اور تالی پیٹتے تھے۔

2- اگلی سورت ﴿الکَوثَر﴾ میں نبی کریم ﷺ کو خالص اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنے اور اللہ ہی کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿يَدُعُّ : دَعَّ ، يَدُعُّ﴾۔ دھکے دیتا ہے۔

2- ﴿لَا يَحُضُّ : حَضَّ ، يَحُضُّ﴾۔ ابھارتا نہیں ہے، اُکساتا نہیں ہے۔

3- ﴿سَاهُوْن﴾: غفلت برتنے والے، بے پروا ، بے خبر۔

4- ﴿المَاعُون﴾: گھریلو استعمال کے برتن ، ضرورت کی چھوٹی چیزیں۔

سورۃُ الماعُون کا نظمِ جلی

سورۃُ الماعُون دو(2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 3 : پہلے پیراگراف میں، بتایا گیا ہے کہ آخرت کو جھٹلانے والا شخص، عدلِ اجتماعی پر مشتمل نظام قائم نہیں کرسکتا

﴿اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ﴾(1) "تم نے دیکھا اس شخص کو ، جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟

﴿فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ﴾ (2) وہی تو ہے ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔

﴿وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ﴾(3) اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔"

منکرِ آخرت نہ تو یتیم کو احترام کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے اور نہ مسکینوں کے حقوق کے لیے کوئی کوشش کرسکتا ہے۔ ایسا شخص غریب پروری کے کلچر کو فروغ نہیں دے سکتا۔ انکارِ آخرت کے سبب انسان اخلاقی طور پر اس قدر ذلیل اور پست ہوجاتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دے کر دھتکارتا ہے ﴿فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ﴾۔ یہ قریش کی منکرِ آخرت قیادت کی اَخلاقی حالت تھی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

2- آیات 4 تا 7 : دوسرے پیراگراف میں، یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق اِخلاص کے ساتھ ادا نہیں کرتا، وہ بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرسکتا۔

﴿ فَوَیْلٌ " لِّلْمُصَلِّیْنَ ﴾ (4) "پھر تباہی ہے ، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ،

﴿ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴾ (5) جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں (بے خبر ہیں)

﴿ الَّذِیْنَ هُمْ یُرَآءُوْنَ ﴾ (6) جو ریاکاری کرتے ہیں ،

﴿ وَ یَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴾ (7) اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں۔

ریاکار نمازیوں کی تباہی اور بربادی کی وعید سنائی گئی، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں ﴿ الَّذِیْنَ هُمْ یُرَآءُوْنَ ﴾، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں ، جو ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کیا کرتے ہیں ﴿ وَ یَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴾۔ آخرت کی زندگی پر یقینِ کامل ، انسان کو اللہ تعالیٰ کی خالص پاک، بے ریا عبادت کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایسی نماز اور عبادت جو ذکر سے معمور ہو ، خشوع و خضوع پر مشتمل ہو اور جو اللہ سے راز و نیاز اور گفتگو کی آئینہ دار ہو۔ آخرت کی زندگی پر یقینِ کامل ، انسان کو مظلوم اور پسِ ماندہ طبقات کے حقوق ادا کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ آخرت پر ایمان محکم سے ہی غریب پروری اور مسکین دوستی کے کلچر کو فروغ دیا جاسکتا ہے۔

مرکزی مضمون

قریشی لیڈر، منکرینِ قیامت ہوگئے ہیں، جس کی وجہ سے، نہ اللہ کا حق ان سے صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے اور نہ بندوں کا حق۔ ان کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔

آخرت پر پختہ ایمان رکھنے والا شخص ہی اللہ کے حقوق بھی ادا کرسکتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART

ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE

نظمِ جلی

108- سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

آیات : 3 ...... مَكِّيَّةٌ



زمانۂ نزول:

سورۃ ﴿الکوثر﴾، قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) میں اعلانِ عام کے بعد نازل ہوئی۔ یہ سورت انتہائی دل شکن حالات میں نازل ہوئی، جب آپ ﷺ کے صاحبزادے حضرت قاسمؓ کے انتقال پر قریش کے سردار عاص بن وائل سہمی نے ﴿اَبتَر﴾ کہا تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃ الکوثر کا کتابی ربط

1- پچھلی سورۃ ﴿الماعون﴾ میں قریش کے لیڈروں کے خلاف فردِ جرم تھا کہ وہ آخرت کے انکار کے سبب اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں ، یہاں سورت ﴿الکوثر﴾ میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے یہ تمام دشمن ہلاک ہو جائیں گے اور آپ ﷺ کے ذریعے انسانیت اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لائق ہو جائے گی۔

2- پچھلی سورۃ ﴿الماعون میں قریش کے لیڈروں کے خلاف فردِ جرم تھا کہ وہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے ، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یہاں سورت ﴿الکوثر﴾ میں رسول اللہ ﷺ کی قیادت کو نمونہ اور مثال بنا دیا گیا کہ وہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز ادا کریں اور اُسی کی رضا کے لیے قربانی دیں۔

3- اگلی سورت ﴿الکافِرُون﴾ میں رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ قریش کے ان ریا کار اور مشرک لیڈروں سے مکمل طور پر عملی قطع تعلق کر لیں۔ عقیدۂ توحید کے معاملے میں کسی سیاسی لین دین کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿الکوثر﴾ : کثیر سے اسم مبالغہ ہے : یہ ایک جامع لفظ ہے ، جس میں ہر قسم کی نعمتیں اور خیرِ کثیر شامل ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر کا بھی نام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ سے پوچھا۔ ﴿ اَتَدْرُوْنَ مَا الْکَوْثَرُ ؟ کیا تم جانتے ہو ﴿الکوثر﴾ کیا ہے؟

قُلْنَا : اَللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَمُ ، انہوں نے جواب دیا : اللہ اور اُس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔

قَالَ : فَاِنَّہٗ نَھْرٌ وَعَدَنِیْہِ رَبِّیْ عَزَّ وَجَلَّ فِیْہِ خَیْرٌ کَثِیْرٌ ﴾۔

فرمایا: یہ ایک نہر ہے اور میرے ربّ عَزَّ وَجَلَّ نے مجھے یہ نہر عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں خیرِ کثیر ہے۔

(صحیح مسلم : کتاب الصلوۃ ، حدیث 921 ، عن انسؓ)

2- ﴿ شَانِیءَ ﴾ شَنَأ ، یَشْنَأُ (ف) سے اسم فاعل ہے۔ بدخواہ اور کینہ پرور دشمن

3- ﴿ اَبْتَر ﴾۔ دُم کٹا۔ مقطوع۔ لاولد

سورۃ الکوثر کا نظمِ جلی

سورۃ الکوثر تین (3) آیات پر مشتمل ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

1- آیت 1 : پہلی آیت میں، رسول اللہ ﷺ کو ﴿الکوثر﴾ کی خوش خبری سنائی گئی۔

﴿اِنَّآ اَعۡطَیۡنٰکَ الۡکَوۡثَرَ﴾ (1) ”(اے نبی ﷺ!) یقیناً ہم نے آپؐ کو کوثر عطا کر دیا۔“

مکی دور کے آغاز ہی میں یہ بشارت دی گئی کہ ﴿خَیۡرِ کَثِیۡر﴾ یعنی دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ ﷺ کو عطا کی جائیں گی۔ آپ ﷺ کے ذکر کو بلند کیا جائے گا۔ آپ ﷺ کے اہلِ بیت صالحین میں سے ہوں گے۔ جنت میں نہرِ کوثر عطا کی جائے گی۔ آپ ﷺ کی امت آخری امت ہونے کے باوجود تعداد میں تمام امتوں سے فائق ہو گی۔ مکے کی مظلومانہ زندگی کے بعد مدینۂ منورہ میں قوت اور اقتدار سونپا جائے گا۔ فتوحات کا آغاز ہوگا اور ہجرت کے بعد مکے کی زمین میں، جو آپ ﷺ کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، آپ ﷺ دوبارہ فاتحانہ داخل ہوں گے۔ دنیا کے ہر براعظم میں آپ ﷺ پر درود و سلام بھیجا جائے گا۔

2- آیت 2 : دوسری آیت میں، رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ نعمتِ کوثر پر اللہ کا شکر ادا کریں۔

﴿فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانۡحَرۡ﴾ (2) ”پس آپؐ اپنے رب ہی کے لیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے!“

اُسی کی رضا جوئی کے لیے نماز پڑھیں۔ اپنے پالنے والے ربّ کی خاطر ہی قربانی کریں۔ مکی زندگی ہی میں یہ پیشگوئی کر دی گئی کہ نماز اور قربانی کا مرکز و محور اور مسلمانوں کا قبلہ خانۂ کعبہ ہی ہوگا۔ اسی خانۂ کعبہ کے پاس محض اللہ کی خاطر قربانی ادا کی جائے گی۔

3- آیت 3 : تیسری آیت میں پیش گوئی کی گئی کہ آپ ﷺ کے تمام دشمنوں کا قلع قمع کر دیا جائے گا۔

﴿اِنَّ شَانِئَکَ ہُوَ الۡاَبۡتَرُ﴾ (3) یقیناً آپ ﷺ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔“

رمضان دو (2) ہجری میں یہ پیشگوئی میدانِ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی ہلاکت کی صورت میں پوری ہوئی اور غزوۂ بدر کے چھ (6) سال بعد، رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

مرکزی مضمون

رسول اللہ ﷺ کو نہ صرف جنت کی نہر ﴿الکوثر﴾، بلکہ خانۂ کعبہ کی فتح ایک عظیم الشان حکومت اور دین اور دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ آپ ﷺ کے تمام دشمنوں کا قلع قمع کر دیا جائے گا۔ لہٰذا تمام مالی اور بدنی عبادتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کی جانی چاہییں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

109- سُوْرَۃُ الْکَافِرُوْنَ

آیات : 6 ...... مَکِّیَّۃٌ ...... پیراگراف : 3



زمانۂ نزول:

سورۃ ﴿الکافِرُوْنَ﴾، اعلانِ عام کے بعد، قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4تا5نبوی) میں نازل ہوئی، جب قریش کے سرداروں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک وفد کی صورت میں آ کر مصالحانہ پیش کش کی کہ ایک سال بتوں کی پوجا کی جائے اور ایک سال اللہ کی۔ انہیں صاف صاف کہہ دیا گیا ﴿لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ﴾ ''تم لوگوں کے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین''۔ اس طرح واضح طور پر کفر سے عملی بے تعلقی کا اعلان کر دیا گیا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ الکافِرُون کے فضائل

1- آپ ﷺ نے طواف کے بعد کی سنتوں میں اور فجر کی سنتوں میں سورۃ ﴿الکافرون﴾ اور سورۃ الاخلاص پڑھی ہے۔ (صحیح مسلم:726)

2- تین رکعات والی وتر میں آپ ﷺ نے سُورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ ﴿الکافرون﴾ اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی۔

(ابن ماجہ: 1,171، نسائی: کتاب قیام اللیل، حدیث 1,684)

سورۃُ الکافِرُونَ کا کتابی ربط

1- پچھلی سورت ﴿الـکـوثـر﴾ میں رسول اللہ ﷺ کے دشمنوں کی ہلاکت کی پیش گوئی تھی۔ یہاں سورۃ ﴿الکـافـرون﴾ میں رسول اللہ ﷺ کو اُن کافر دشمنوں کی سیاسی مصالحانہ پیشکش کو مسترد کردینے اور اُن سے قطع تعلق کا حکم دیا گیا ہے کہ عقیدۂ توحید کے معاملے میں کسی قسم کی سودے بازی اور سیاسی لین دین نہیں ہوسکتا۔

2- اگلی سورت ﴿النَّصر﴾ میں اس پیش گوئی کی تصدیق ہے، جو سورت ﴿الکوثر﴾ میں کی گئی تھی۔ دشمن ﴿ابتر﴾ ہوگئے۔ اللہ کی مدد آگئی اور مسلمان فتح سے ہمکنار ہوگئے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- اس سورت میں مشرکانہ دین سے، عملی بیزاری اور بے تعلقی کا اعلان اور مطالبہ ہے۔

- اس سورت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے اور عبادات میں مصالحت (Compromise) نہیں ہوسکتی (اجتہاد بھی نہیں ہوسکتا)۔ اور توحید کے معاملے میں، کسی قسم کی مداہنت اختیار نہیں کی جاسکتی۔
- اس سورت میں خوش خبری کا مفہوم بھی پوشیدہ ہے، توحید پر سختی سے کاربند ہونے کے نتیجے ہی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوسکتی ہے۔

سورۃُ الکافِرون کا نظمِ جلی

سورۃُ الکافِرُون تین (3) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 3: پہلے پیراگراف میں، رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرکینِ مکہ کی پیش کش کو مسترد کردیں۔

﴿قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ (1) کہیے کہ اے کافرو!

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

﴿ لَآ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴾ (2) "میں ان کی عبادت نہیں کرتا، جن کی عبادت تم کرتے ہو۔"

﴿وَلَآ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ﴾(3) نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔"

نہ تو رسول اللہ ﷺ غیر خالص عبادت کر رہے ہیں اور نہ مشرکینِ مکہ اللہ کی خالص عبادت کے لیے تیار ہیں۔

2- آیات 4تا5 :دوسرے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ دونوں فریق اپنے اپنے مؤقف پر مستقبل میں بھی سختی سے قائم رہیں گے۔

﴿وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ﴾ (4) اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں، جن کی عبادت تم نے کی ہے

﴿ وَلَآ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ﴾ (5) اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کروں گا۔

3- آیت 6 :تیسرے پیراگراف میں، صاف کہہ دیا گیا کہ آپ لوگوں کو آپ کا دین مبارک ہو، اور مجھے میرا دین۔

﴿لَکُمۡ دِیۡنُکُمۡ وَلِیَ دِیۡنِ ﴾ (6) تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔

توحید کا معاملہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔اس میں کسی قسم کی سودے بازی کی گنجائش نہیں۔

عواقب اور نتائج سے بے نیاز ہو کر ہم اللہ کی خالص اور آمیزش سے پاک اِطاعت وعبادت جاری رکھیں گے۔

مرکزی مضمون

ہر مسلمان کو توحید کے معاملے میں کامل یکسوئی کے ساتھ ، ﴿غیر اللہ﴾ کی پرستش سے بیزاری کا اقرار اور اِعلان کر دینا چاہیے اور کفار کے دین سے قطعی عملی بے تعلقی کا اظہار واعلان بھی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

110- سُوْرَةُ النَّصْر

آیات : 3 ...... مَدَنِيَّة



زمانۂ نزول

یہ سورت چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے مدنی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ میں نازل ہوئی۔

سورۃ ﴿النّصر﴾، آخری مکمل سورت ہے، جو رسول اللہ ﷺ پر وفات سے پہلے 10 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل کی گئی (صحیح مسلم: کتاب التفسیر، حدیث 7,731)۔ غالباً اس کے بعد بعض چند متفرق آیات ہی نازل ہوئیں۔ اس سورت میں آپ ﷺ کو بتا دیا گیا کہ آپ ﷺ کا مشن مکمل ہو گیا ہے اور بہت جلد آپ ﷺ کو رختِ سفر باندھنا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ النّصر کا کتابی ربط

1- سورۃُ ﴿الکوثر﴾ میں رسول اللہ ﷺ کے دشمنوں کی ہلاکت کی پیش گوئی تھی اور سورۃ ﴿الکافرون﴾ میں اُن سے ترکِ تعلق کا حکم تھا۔ یہاں سورۃ ﴿النصر﴾ میں اُس پیش گوئی کی تصدیق ہے، جو فتح کی صورت میں ترکِ تعلق کے نتیجے میں ظاہر ہوئی۔ کافروں سے ترکِ تعلق کا یہ حکم فتح کے لیے وسیلے کی حیثیت رکھتا ہے۔

2- اگلی سورت ﴿اللھب﴾ میں ایک بڑے دشمن کا نام لے کر اس کی اور اُس کی بیوی کی ہلاکت کی پیش گوئی ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿نَصْرُ اللهِ﴾: فتح یعنی کامیابی، اللہ کی نُصرت (مدد) ہی سے نصیب ہوتی ہے، انسان کو بے جا غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔

2- فتحِ مکہ (رمضان 8ھ) میں ہوئی۔ اگلے سال 9 ہجری میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ 9 ہجری کو ﴿عَامُ الوُفُود﴾ (Year of Delegations) کہا جاتا ہے، اس سال مختلف قبائل کے وفود، مدینہ آ کر رسول ﷺ سے بیعت کرتے رہے۔ اس طرح (20) بیس سال پہلے، مکۃ المکرمۃ میں کی گئی پیش گوئی، المدینۃ المنورۃ میں پوری ہوئی۔ ﴿کوثر﴾ عطا ہوا۔ تمام دشمنوں کا قلع قمع ہوگیا۔

3- اس سورت میں نبیٔ اکرم ﷺ کو خبر دی گئی ہے کہ ان کا مشن پایۂ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ بہت جلد انہیں اس دنیا سے سفر کرنا ہوگا۔ اسی لیے اس سورت کو سورۃ ﴿التَّودِیع﴾ یعنی وداعی سورت بھی کہا جاتا ہے۔

سورۃُ النّصر کا نظمِ جلی

سورۃُ ﴿النّصر﴾ تین (3) آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کے اِحسان کا ذکر ہے۔ دوسری آیت میں اِحسان کی وضاحت ہے۔ تیسری آیت میں اِحسان شناسی کا مطالبہ ہے، جو حمد، تسبیح اور استغفار پر مشتمل ہے۔

1- آیت 1: پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اِحسان کا تذکرہ ہے۔ ﴿اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾

﴿اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾ (1) ”جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔“

اللہ کی مدد کے نتیجے ہی میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور ہوگی۔

2- آیت 2: دوسری آیت میں اس احسان کی وضاحت ہے۔

﴿وَرَاَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللهِ اَفْوَاجًا﴾ (2)

”اور (اے نبی ﷺ) آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔“

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

تمام بلادِ عرب کا مُشرف بہ اسلام ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ممکن ہوا۔
نو(9) ہجری میں جسے ﴿عَامُ الوُفُود﴾ کہتے ہیں، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔

3- آیت 3 : تیسری آیت میں ، احسان شناسی کا مطالبہ ہے۔

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ	"لٰہذا اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اس کی تسبیح بھی کیجیے
وَاسْتَغْفِرْهُ ،	اور اسی سے مغفرت طلب کیجیے،
إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾(3)	بلاشبہ وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے۔"

چنانچہ ربّ کی ﴿حمد﴾ کے ساتھ ﴿تسبیح﴾ بیان کرنے اور اُس سے ﴿مغفرت﴾ طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔
فتح و نصرت کے بعد انسان کو پھولنا نہیں چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکسار اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تین(3) باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔(1) تسبیح (2) حمد اور (3) استغفار

(1) ﴿حمد﴾: حمد اللہ کی ذات سے ، مثبت صفات کو منسوب کرنے کا نام ہے۔ جیسے : السَّمیع ، البَصِیر ، العَلِیم وغیرہ

(2) ﴿تسبیح﴾: اللہ کی ذات سے منسوب کردہ ، غلط اور منفی صفات سے براءت کا اظہار ہے۔ جیسے: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ﴾، ﴿وَلَا يَؤُدُهُ﴾، ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾، ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ﴾ ﴿لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ ، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ ، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ وغیرہ

(3) ﴿اِستِغفَار﴾ : مغفرت کی درخواست ہے۔ گذارشِ عفو و درگذر ، درخواستِ عدمِ محاسبہ و پردہ پوشی ہے۔

مرکزی مضمون

فتح و نصرت کے بعد، اِنسان کو اللہ کی زیادہ سے زیادہ حَمْد کے ساتھ تَسْبِیح اور اِسْتِغْفار بھی کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

111- سُورَةُ اللَّهَب

آیات : 5 ...... مَکِّیَّة" ...... پیراگراف : 2



زمانۂ نزول

سورۃ ﴿ابی لھب﴾ غالباً رسول ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور میں اعلانیہ تبلیغ کے بعد 4 ہجری میں نازل ہوئی، جب آپ نے کوہِ صفا پر چڑھ کر اعلانیہ تبلیغ کی۔ جس پر ابولہب نے آپ کے لیے ﴿تَبًّا لَكَ﴾ کے الفاظ استعمال کیے۔(صحیح بخاری:4,687)

یا پھر ہوسکتا ہے، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی، جب آپ ﷺ کو شعب ابی طالب میں تین (3) سال کے لئے (7تا10 نبوی) نظر بند کر دیا گیا تھا اور جب ابولہب نے خود اپنے خاندان بنی ہاشم کو چھوڑ کر کافروں کا ساتھ دیا تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ اَبِی اللَّھَب کا کتابی ربط

سورت ﴿الکوثر﴾ میں دشمن کی ابتری کی پیش گوئی تھی۔اور سورت ﴿النصر﴾ میں فتح ونصرت کا مژدہ سنایا گیا۔

یہاں سورت ﴿ابی لہب﴾ میں اللہ اور رسول اللہ ﷺ ، توحید اور اسلام کے ایک بڑے دشمن کا نام لے کر اُس کی اور اُس کی بیوی کی ہلاکت کی پیش گوئی کی گئی۔اگلی سورت ﴿الاخلاص﴾ میں خالص توحیدِ ذات کے عقیدے ہی کی وضاحت ہے،جس پر ابولہب سیخ پا ہوا تھا۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1- ﴿ابولہب﴾ دشمنِ اسلام اور دشمنِ نبی، رسول ﷺ کا چچا،عبد العُزّٰی بن عبد المُطّلب (کنیت ابولہب) اور اس کی بیوی اَرْوٰی بِنتِ حَرب (اُخت ابی سفیان،کنیت اُمّ جمیل) کے برے انجام کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے۔

2۔ ابولہب وہ واحد دشمن ہے،جس کا نام لے کر قرآن میں مذمت کی گئی ہے،حالانکہ وہ رسول ﷺ کا چچا تھا اور بنی ہاشم سے تھا۔

3۔ اسلام میں نسب اور خاندان کے بجائے،ایمان اور عملِ صالح کو اہمیت حاصل ہے۔

سورۃُ اَبِی لَھَب کا نظمِ جلی

سورۃُ اَبِی لَھَب دو(2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 3 :پہلے پیراگراف میں،ابولہب کے بُرے انجام کی پیش گوئی کی گئی۔

ابولہب کا مال اور اس کی کمائی اس کے کسی کام نہ آئی۔وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔

﴿تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝	ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔
مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ۝	نہ اُس کا مال اُس کے کام آیا اور نہ اُس کی کمائی۔
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾	وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔

2- آیات 4 تا 5 :دوسرے پیراگراف میں، ابولہب کی بیوی اُم جمیل کے عبرتناک انجام کی پیش گوئی کی گئی۔

ابولہب کی بیوی بھی برے انجام سے دوچار ہوگی ،جو رسول کریم ﷺ کے لیے کانٹے چنا کرتی تھی۔

﴿وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝	اُس کی بیوی بھی،ایندھن اُٹھاتے ہوئے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿ اُس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔

مرکزی مضمون

اسلام میں نجات کا دارومدار نسب اور خاندان پر نہیں ہے، بلکہ ایمان اور حسنِ عمل پر ہے۔ رسول کریم ﷺ کا سگا چچا اور اس کی بیوی تک، اپنے کفر اور اپنی بداعمالیوں کے سبب دوزخ میں جائیں گے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

112- سُوْرَةُ الْاِخْلَاص

آیات : 4 ...... مَكِّيَّة ...... پیرا گراف : 2



زمانۂ نزول

1- اعلانِ عام کے فوراً بعد، غالباً 4 نبوی میں نازل ہوئی، جب نومسلم صحابہؓ کے لئے مخالفین کے شر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسی سورت کے ایک لفظ ﴿اَحَد﴾ کی بازگشت، دورِ ستم کے آغاز کے بعد، حضرت بلالؓ کے ہونٹوں پر رہتی تھی جب قریش کا سردار اُمیّہ بن خلف انہیں تپتی دھوپ پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا۔

2- ﴿ قُلْ ﴾ کے ابتدائی لفظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت غالباً اعلانِ عام کے بعد نازل ہوئی ہوگی۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورت کے فضائل

1- یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (صحیح بخاری: 4,726)

2- سورت ﴿الاخلاص﴾ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، رات میں سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ (صحیح مسلم: 1,922)۔

www.KitaboSunnat.com

3- رسول اللہ ﷺ سنتِ فجر کی دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم: 1,723)

4- سورت الاخلاص کی محبت، انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ (سنن ترمذی: 2,901، حسن صحیح)

5- وتر کی آخری رکعت میں بھی یہ سورت پڑھنا مسنون ہے۔ (سنن ابی داوٗد: 1,426، صحیح)۔

6- طواف کے بعد پڑھی جانے والی سنتوں کی دوسری رکعت میں بھی یہ سورت پڑھنا مسنون ہے۔ (سنن ترمذی: 869، صحیح)

7- دس (10) مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ (مسند احمد: 15,648، ضعیف)

سورۃ الاخلاص کا کتابی ربط

1- پچھلی سورتوں میں مشرکینِ مکہ اور قریشی قیادت کے کافرانہ اور مشرکانہ رویوں کا ذکر تھا، جو آپ ﷺ کی دعوتِ توحید کے نتیجے میں ظاہر ہو رہے تھے۔ یہاں سورت ﴿الاخلاص﴾ میں خالص ﴿توحیدِ ذات﴾ بیان کی گئی ہے۔

2- اگلی دو سورتوں میں ﴿توحیدِ ربوبیت﴾ کا ذکر ہے اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے، اسی بزرگ و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

اِس سورت سے توحیدِ ذات کے بارے میں مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

1- اللہ تعالیٰ ﴿ اَحَد ﴾ ہے۔ یعنی وہ نرالا ہے، یکتا (Unique) ہے، یگانہ ہے، اُس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ وہ ایسا خالق (Creator) ہے، جس کی نظیر اور مثال، اُس کی کسی مخلوق (Creation) میں نہیں ہو سکتی۔

2- اللہ تعالیٰ ﴿ الصَّمَد ﴾ ہے۔ نہ اُس کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ اُس کے اندر کوئی چیز داخل ہوئی ہے۔ وہ ایسا سردار اور ایسی بلند ہستی ہے، جس کے آگے ساری مخلوق محتاج ہے۔ وہ خود کسی کا محتاج نہیں۔

3- اللہ تعالیٰ ﴿لَمْ یَلِدْ﴾ ہے، اُس نے کسی کو نہیں جنا۔ یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اُس کے اندر سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ اُس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے۔ اولاد ماں باپ کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی جزو یا حصہ (Part) نہیں ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4- اللہ تعالیٰ ﴿وَلَمْ يُوْلَدْ﴾ ہے۔وہ خود کسی کے اندر سے برآمد نہیں ہوا۔اُس کا کوئی باپ نہیں ہے۔اُس کی کوئی ماں نہیں ہے۔اُس نے کوئی چیز میراث میں نہیں پائی۔

یعنی اُس کے نسب کا سلسلہ ، نہ تو نیچے ہے اور نہ اُوپر۔یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے اور نہ اللہ کے اندر سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے۔نہ وہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے۔پھر بتایا گیا ہے کہ

5- اُس کا کوئی ﴿كُفُو﴾ بھی نہیں ہے ، یعنی اُس جیسا کوئی نہیں۔اُس کا نظیر کوئی نہیں۔اُس کا ہمسر اور اُس کے برابر بھی کوئی نہیں۔اُس کے ہم پلہ اور ہم رتبہ کوئی نہیں۔پہلے بتایا گیا تھا کہ اُس کا نسب اُوپر کی طرف بھی کوئی نہیں اور اُس کا نسب نیچے کی طرف بھی کوئی نہیں ہے۔اب بتایا جارہا ہے کہ اُس کا نسب اُس کے متوازی بھی کوئی نہیں ہے۔یعنی اُس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔

سورۃُ الاخلاص کا نظمِ جلی

سورۃُ الاخلاص دو(2) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 2 : پہلے پیراگراف میں، ﴿ اَحَد ﴾ اور ﴿ الصَّمَد ﴾ کی دو(2) مثبت صفات سے ﴿توحیدِ ذات﴾ کی وضاحت کی گئی ہے۔

﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ (1) "کہیے ! وہ اللہ ہے ، یکتا۔

﴿ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴾ (2) اللہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں۔"

2- آیات 3 تا 4 : دوسرے پیراگراف میں، ﴿توحیدِ تنزیہ﴾ کا مضمون ہے۔

﴿ لَمْ يَلِدْ ﴾، ﴿ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴾ اور ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴾ کی تین (3) منفی صفات سے براءت کا اظہار کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بے عیب ہستی کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں۔

﴿ لَمْ يَلِدْ ، وَلَمْ يُوْلَدْ ﴾ (3) نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد۔

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴾ (4) اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔"

مرکزی مضمون

انسان کو ﴿حمد﴾ اور ﴿ تنزیہ ﴾ کی صفات پر مشتمل، اللہ تعالیٰ کی خالص توحیدِ ذات کا صحیح عقیدہ اختیار کرنا چاہیے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART | **MACRO-STRUCTURE**

ترتیبی نقشہ ربط | نظمِ جلی

113- سُوْرَةُ الْفَلَق

آیات : 5 ...... مَكِّيَّة" ...... پیراگراف : 5



زمانۂ نزول

سورت ﴿الفلق﴾ اعلانِ عام کے بعد آپ ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ ﷺ اور نو مسلم صحابہ ؓ کے لئے مخالفین کے شر کا آغاز ہو چکا تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

آخری تین سورتوں اور مُعَوِّذَتَین کے فضائل

1۔ رسول اللہ ﷺ نے مرضِ موت میں ان دونوں سورتوں ﴿مُعَوِّذَتَین﴾ کو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا تھا۔
(صحیح بخاری: 4,175)

2۔ رسول اللہ ﷺ سونے سے پہلے ﴿سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، اور سورۃ الناس﴾ پڑھ کر پھونکتے اور اپنے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیر لیتے۔ (صحیح بخاری: 5,960)

3۔ آفاتِ سماوی میں سورت ﴿الفلق﴾ اور سورت ﴿الناس﴾ اپنے پڑھنے والے کو پناہ فراہم کرتی ہیں۔
(ابوداود: 1,465 ، صحیح)

4۔ آپ ﷺ نے ہر (فرض) نماز کے بعد ان دو سورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ (سنن نسائی: 1,259 ، صحیح)

سورۃ الفَلَق کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿الاخلاص﴾ میں خالص ﴿توحیدِ ذات﴾ کا ذکر تھا، یہاں سورۃ ﴿الفَلَق﴾ میں ، ﴿توحیدِ ربوبیت﴾ کے ساتھ چار (4) قسم کے شر سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

2۔ اگلی سورت ﴿الناس﴾ میں تین (3) چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اہم کلیدی الفاظ

1- ﴿عاذَ﴾، یَعُوذُ، عُذْ: کسی آفت سے بچنے کے لیے ، کسی دوسری بڑی اور طاقتور ہستی کی پناہ حاصل کرنا۔

2- ﴿غاسِق﴾: رات ، جب وہ شفق کی سرخی کو مٹا کر اپنی تاریکی کو مزید گہرا کر دے۔

3- ﴿وَقَبَ﴾، وَقُوب :غروب ہونا، چھپ جانا۔

4- ﴿نَفَّاث﴾ : اسمِ مبالغہ ، پھونکنے والا، جادوگر۔ ﴿نَفَّاث﴾ مؤنث پھونکنے والیاں

5- ﴿عُقَد﴾: ﴿عُقْدَة﴾ کی جمع، گرہیں ، گتھیاں۔

6- ﴿ربّ﴾: ﴿ربّ﴾ کا لفظ پانچ (5) مفہوموں پر مشتمل ہے۔ اس سورت اور اگلی سورت میں ربوبیت کا حوالہ ہے اور ﴿ربّ﴾ کے دامن میں پناہ لینے کی ہدایت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ﴿ربّ﴾ کے تمام مفاہیم پیشِ نظر ہوں۔

(1) پروردگار، نشوونما دینے والا، بڑھوتری کرنے والا، (Sustainer)(2) خبر گیری، دیکھ بھال اور اصلاح کرنے والا۔ (Maintainer) (3) بالادستی اور فوقیت رکھنے والا، سردار، حکم چلانے والا، تصرف

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

کرنے والا، جو پناہ دے سکے۔(4) سمیٹنے والا، جمع کرنے والا، فراہم کرنے والا
(Provider)۔(5) مالک (Owner)، آقا (Lord)

اہم مضامین

1- قرآن کی ان آخری دو سورتوں میں ، چند منفی قوتوں سے بچاؤ اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔

2- جب کوئی مسلمان قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت ساری منفی قوتیں اس کے حوصلے کو پست کرتی ہیں ، اسے پریشان کرتی ہیں اور اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اس لیے قرآن کے آخر میں حفاظت کا نسخہ تجویز کیا گیا ہے۔

سورۃُ الفَلَق کا نظمِ جلی

سورۃُ ﴿ الفَلَق ﴾ ، ایک استعاذۃ ہے اور پانچ (5) آیات پر مشتمل ہے۔

1- آیت 1 : پہلی آیت میں، شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے ﴿ربّ﴾ کے دامن میں پناہ کی ہدایت کی گئی۔

﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾(1) "کہیے : میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔" (نمودار کرنے والے کی)

﴿رَبُّ الفَلَق﴾ وہ ہستی ہے، جو صبح کو نمودار کر کے انسان کو خوف سے نجات دلاتی ہے۔

2- آیت 2: دوسری آیت میں، ہر قسم کی مخلوق ﴿مَا خَلَقَ﴾ کے شر سے حفاظت کے لیے خالق ﴿ربّ﴾ کے دامن میں پناہ کا حکم دیا گیا ہے۔

﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾(2) ہر مخلوق کے ہر فتنے اور شر سے (ہر اس چیز کے شر سے ، جو اس نے پیدا کی ہے)

مخلوق کے شر میں، تمام مخلوقات کا شر شامل ہے۔ جیسے انسان، جنّات، موذی جانور (شیر، چیتا، سانپ، بچھو) ، کیڑے مکوڑے (Insects) جراثیم، بیکٹیریا (Bacteria)، فنگس (Fungus)، وائرس (Virus) زہریلے مادے، بخارات (Gases) اور بے شمار وہ چیزیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے وغیرہ وغیرہ۔

3- آیت 3: تیسری آیت میں، رات کی گہری تاریکی کے شر سے حفاظت کے لیے خالق کے دامن میں پناہ کا حکم دیا گیا ہے۔

﴿ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴾(3) "اور رات کی تاریکی کے شر سے (جب وہ چھا جائے)۔

تمام چور اچکے، شیاطین جن وانس اور موذی کیڑے مکوڑے رات کی تاریکی ہی میں انسان کے لیے شر کا سبب بنتے ہیں۔

ان میں بعض مخلوقات (Nocturnal) ایسی ہیں، جو صرف رات کو دیکھ سکتی ہیں۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

4- آیت 4: چوتھی آیت میں جادو کے شر سے حفاظت کے لیے خالق ﴿رب﴾ کے دامن میں پناہ کا حکم دیا گیا ہے۔

﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴾(4) اور گرہوں میں پھونکنے والوں (یا والیوں) کے شر سے (جادو کے شر سے)

شریر جنات اور شریر انسانوں کی ایک مذموم کارستانی ہے، جس سے انسانوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایسا جادو، جو گرہوں پر پھونک کر کیا جاتا ہے۔

5- آیت 5: پانچویں اور آخری آیت میں، حاسدوں کے شر سے حفاظت کے لیے خالق ﴿رب﴾ کے دامن میں پناہ کا حکم دیا گیا ہے۔

•﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴾(5) اور حاسد کے شر سے، جب کہ وہ حسد کرے۔"

حاسد کا شر بھی ، بدخواہی کے جذبے ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

مرکزی مضمون

انسان کو چار (4) چیزوں (یعنی مخلوقات، رات، جادو اور حاسد) کے شر سے بچنے کے لیے، اپنے ﴿رب﴾ اللہ کے دامن میں پناہ لیتے ہوئے، توحیدِ ربوبیت اختیار کرنا چاہیے۔

﴿خالق﴾ ہی وہ عظیم اور برتر ہستی ہے، جو ﴿مخلوقات﴾ کے شر سے حفاظت عطا کر سکتی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

FLOW CHART — ترتیبی نقشہ ربط

MACRO-STRUCTURE — نظمِ جلی

114- سُوْرَةُ النَّاس

آیات : 6 ...... مَكِّيَّة" ...... پیراگراف : 3



زمانۂ نزول

سورت ﴿ النَّاس ﴾ بھی ، اعلانِ عام کے بعد آپ ﷺ کے قیامِ مکہ کے دوسرے دور (4 تا 5 نبوی) میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ ﷺ اور نومسلم صحابہؓ کے لئے مخالفین کے شر کا آغاز ہو چکا تھا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورۃُ النَّاس کا کتابی ربط

1۔ پچھلی سورت ﴿الفَلَق﴾ میں ﴿توحیدِ رُبُوبیت﴾ کا ذکر تھا۔ یہاں قرآن کی اس آخری سورت ﴿النَّاس﴾ میں، ﴿توحیدِ ربوبیت﴾ کے ساتھ ﴿توحیدِ اُلوھیت﴾ اور ﴿توحیدِ مُلُوکِیت﴾ یعنی توحیدِ حاکمیت کا ذکر بھی ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں اور جنات کے شر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔

2۔ قرآن کی پہلی سورت ﴿الفاتحہ﴾ کا آغاز بھی ﴿توحیدِ ربوبیت﴾ سے ہوا ہے۔ اللہ کی مکمل معرفت کے زینے کی پہلی سیڑھی اِحساسِ ربوبیت ہے۔

اہم کلیدی الفاظ اور مضامین

1۔ ﴿ربّ﴾: پروردگار، نشوونما دینے والا، خبر گیری، دیکھ بھال اور اصلاح کرنے والا، بالادستی اور فوقیت رکھنے والا، سردار، حکم چلانے والا، تصرف کرنے والا، جو پناہ دے سکے آقا۔

2۔ ﴿مَلِك﴾: بادشاہ، بااختیار حاکم، صاحبِ اقتدار، سب سے بڑی قوت، جو پناہ دے سکے۔

3۔ ﴿اِلٰه﴾: اِلٰہ" کا مطلب سات (7) مفاہیم پر مشتمل ہے۔ (1) پناہ دینے والا (2) سکون بخشنے والا (3) حاجت روائی کرنے والا (4) پُر اسرار (5) جس کو جاننے کے لیے لوگ متلاشی اور مشتاق ہوں، (6) بالاتر اور بالادست قوت، جو پناہ دے سکے (7) معبود، جس کی اِطاعت وعبادت کی جائے۔

4۔ ﴿وَسوَسَه﴾: پوشیدہ آواز، محسوس نہ ہونے والی حرکت۔

5۔ ﴿خَنَّاس﴾: چھپ چھپ کر، دبک کر بار بار حملہ کرنے والا۔

سورۃُ النَّاس کا نظمِ جلی

سورۃُ النَّاس بھی اِستِعاذہ ہے اور سورۃ الناس تین (3) پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔

1- آیات 1 تا 3: پہلے پیراگراف میں، بتایا گیا کہ ایسی طاقتور ہستی کی پناہ ضروری ہے، جو لوگوں کا ﴿رَبّ﴾ بھی ہو، جو بادشاہ ﴿مَلِك﴾ بھی ہو اور جو معبود ﴿اِلٰه﴾ بھی ہو۔ اللہ کی ہستی، ایسی ہی غیر معمولی اور عظیم الشان طاقت رکھنے والی ہستی ہے

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (آیت:1) — کہیے: میں پناہ مانگتا ہوں! انسانوں کے رب کی

﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ (آیت:2) — انسانوں کے بادشاہ کی !

﴿اِلٰهِ النَّاسِ﴾ (آیت:3) — انسانوں کے حقیقی معبود کی !

یہ سورت ﴿توحیدِ رُبُوبیت﴾، ﴿توحیدِ مُلُوکیت﴾ اور ﴿توحیدِ اُلُوھیت﴾ کی جامع ہے۔ یہاں انسانوں

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا ربّ، انسانوں کا ﴿مَلِكِ﴾ یعنی بادشاہ۔ اور انسانوں کا ﴿اِلٰـهِ﴾ تسلیم کرتے ہوئے، اس کی بڑائی، بزرگی اور طاقت پر ایمان لا کر، پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں اس کا دامن پکڑیں۔ اُسی کے حفظ و امان میں آئیں۔ انسانوں اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ ہی سے مدد طلب کریں۔

2- آیات 4 تا 5 : دوسرے پیراگراف میں، ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا حکم ہے۔

﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ، الْخَنَّاسِ﴾ (آیت:4) "اُس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔" (دبک جانے والے کی آفت سے)

﴿الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ﴾ (5) "جو لوگوں کے دلوں میں، وسوسے ڈالتا ہے۔"

وسوسوں کی جگہ انسان کا سینہ اور اس کا دل ہے۔ ﴿وسوسہ﴾ دراصل ابلیس کا طریقۂ واردات ہے، جس سے اس نے حضرت آدمؑ اور حضرت حوا ؑ کو گمراہ کر کے ممنوعہ درخت کا پھل کھانے پر اُکسایا، انہیں بے لباس کیا۔ ابلیس ہی فحاشی اور عریانی کا موجد ہے۔

3- آیت 6 : تیسرے اور آخری پیراگراف میں، جو آخری آیت پر مشتمل ہے، انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ کے دامن میں پناہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ (آیت:6) "خواہ وہ جنوں میں سے ہو، یا انسانوں میں سے۔"

مرکزی مضمون

وسوسوں کے علاوہ انسانوں اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ کے دامن میں پناہ لینا چاہیے، جو انسانوں کا ﴿ربّ﴾ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور ﴿اِلٰہ﴾ بھی ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خلیل الرحمٰن چشتی صاحب کی کتابوں کا مختصر تعارف

1۔ قواعدِ زبانِ قرآن (حصہ اوّل):

خلیل الرحمٰن چشتی صاحب کی قواعدِ زبانِ قرآن (اول و دوم) کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، نہایت ہی کم وقت میں اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے، جبکہ کتاب دو ضخیم جلدوں پر یعنی ہر جلد تقریباً آٹھ سو (800) صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں عربی کے قواعد بیان کرنے کے بعد، کثرت سے قرآنی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔

یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے تعلیم یافتہ افراد میں پایا جانے والا شوقِ بے پایاں ہے۔ نئی زبان کو سیکھنا آسان کام نہیں ہے۔ گرائمر یعنی قواعد ایک خشک موضوع ہے۔ اس کتاب کی ترتیب میں مرتب نے قواعد کی تمام پرانی کتابوں کو پیش نظر رکھا ہے اور ان سب سے استفادہ کیا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحیؒ کے شاگرد مولانا خالد مسعودؒ نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کی یہ خصوصیت بتائی ہے کہ مرتب نے طالب علم کی توجہ صرف اسی نکتے پر مرکوز رکھی ہے، جو وہ اسے پڑھانا چاہتا ہے۔ مرتب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ نکتہ، وہ قاعدہ اور وہ کلیہ پوری طرح گرفت میں آجائے۔ مثالوں کی کثرت سے اس میں بڑی مدد ملتی ہے۔ حافظِ قرآن کے لیے تو یہ کتاب اکسیر ہے۔ تھوڑی سی محنت کرلے تو وہ تمام قواعد پر دسترس حاصل کرسکتا ہے۔ مرتب کے پیشِ نظر جدید تعلیم یافتہ افراد اور بالغ مبتدی ہیں۔ یہ کتاب بنیادی طور پر انہی کے لیے مفید ہے، لیکن دینی مدارس کے طلبہ بھی اس سے بھرپور استفادہ کرسکتے ہیں۔

2۔ قواعدِ زبانِ قرآن (حصہ دوم)

قواعدِ زبانِ قرآن حصہ دوم میں، ثلاثی مزید کے بارہ (12) ابواب میں ہر باب کی سات سات قسمیں، کئی کئی قرآنی مثالوں کے ساتھ کھول دی گئی ہیں اور حروف پر بحث کی گئی ہے۔ اردو زبان میں ہماری معلومات کی حد تک یہ پہلی مفصل کوشش ہے۔

3۔ قرآنی سورتوں کا نظمِ جلی:

اس کتاب میں قرآن کی تمام ایک سو چودہ (114) سورتوں کا نظمِ جلی (Macro-Structure) بیان کیا گیا ہے۔ ہر سورۃ کے مضامین کو مختلف پیراگرافوں میں تقسیم کرکے مرکزی مضمون کی وضاحت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے سورت کے زمانۂ نزول کا تعین صحیح احادیث اور خود قرآن کی داخلی شہادتوں کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں بعض

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

سورتوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ پچھلی سورت اور اگلی سورت سے کتابی ربط کی وضاحت کی گئی ہے۔ ہر سورت کے اہم اور کلیدی الفاظ اور مضامین کو کھولا گیا ہے۔ ہر پیراگراف کا مختصر خلاصہ پیش کر کے آخر میں سورت کے مرکزی مضمون پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

4۔ آسان اُصول تفسیر:

قرآن فہمی کے سلسلے میں بعض اساتذہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ کا مقدمہ پڑھاتے ہیں، دوسری طرف ﴿الفوز الکبیر﴾ میں بیان کردہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ کے اُصول کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، تیسری طرف بعض اساتذہ نظمِ قرآن کے حوالے سے مولانا حمید الدین فراہیؒ کے اسلوب کو پیش نظر رکھتے ہیں اور چوتھے مولانا سید ابوالاعلی مودودیؒ نے چار بنیادی اصطلاحوں اور تفہیم القرآن میں تفسیر کا جو نیا منہج اختیار کیا ہے، وہ بھی پیش نظر رکھتے ہیں، جس سے صحیح عقیدے اور اتباع سنت رسول اللہ ﷺ کے علاوہ، قرآن کا سماجی، سیاسی اور معاشی شعور بھی حاصل ہوتا ہے۔
مندرجہ بالا چار بزرگوں کے اُصولوں کو جمع کر کے یہ رسالہ ﴿آسان اُصولِ تفسیر﴾ مرتب کیا گیا ہے اور مثالیں دی گئی ہیں تاکہ قرآن کا طالب علم بڑی بڑی غلطیوں سے بچ سکے۔

5۔ درسِ قرآن کی تیاری کیسے؟

قرآن فہمی کے حوالے سے، ﴿قواعدِ زبانِ قرآن﴾ کے علاوہ، خلیل الرحمٰن چشتی صاحب کی دوسری اہم کتاب ﴿درسِ قرآن کی تیاری کیسے؟﴾ ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کو بھی عوامی مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ کسی مخصوص سورت کا درس دینا ہو، یا کسی موضوع پر قرآنی درس دینا ہو، دونوں صورتوں میں مدرس قرآن کے لیے یہ کتاب مفید ہے۔ چند مشہور اردو تفاسیر کا تعارف کرایا گیا ہے اور مدرس کے لیے معاون کتابوں کی رہنمائی بھی کی گئی ہے۔

6۔ سورۃ یٰس:

قرآنی سورتوں کے نظمِ جلی (Macro-Structure) اور نظمِ خفیف (Micro-Structure) کے تعارف کے لیے بطور مثال ﴿سورۃ یٰس﴾ کی تفسیر شائع کی گئی ہے، جو کورسز کے دوران میں پڑھائی جاتی ہے۔ چونسٹھ (64) صفحات پر مشتمل یہ کتابچہ، سورت کے مرکزی مضمون، سورت کی صوتیات، سورت کی جلالی فضا، سورت کے مضامین اور سورت کی بلاغت پر بحث کرتا ہے۔ عربی متن کے ساتھ ترجمہ بین السطور ہے، درمیان میں عنوانات دے دیے گئے ہیں، تاکہ طالب علم مضامین کو بھی ساتھ ساتھ ذہن نشین کرتا جائے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

7۔ قیادت اور ہلاکتِ اقوام:

فہم قرآن کے حوالے سے خلیل الرحمٰن چشتی صاحب کی ایک اور اہم کتاب ﴿قیادت اور ہلاکتِ اقوام﴾ ہے۔ جو لوگ توجہ سے اس کتاب کو پڑھیں گے، وہ قرآنِ مجید سے جدید دور کے مسائل کے سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنے کے فن سے ان شاء اللہ آشنا ہو جائیں گے۔

دوسو (200) صفحات پر مشتمل یہ کتاب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفاتِ عدل پر روشنی ڈالتی ہے، پھر مختلف قوموں کی ہلاکت کی تاریخ بیان کرتی ہے، پھر ہلاکت کے بیس (20) سے زیادہ اسباب پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہلاکت کے اصول، ہلاکت کے مقاصد اور ہلاکت کا طریقہ کار بیان کرنے کے بعد مسلم قیادت کو غور وفکر کی دعوت دیتی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں قیادت کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔

8۔ حدیث کی اہمیت اور ضرورت:

اُصول حدیث اور اصطلاحاتِ حدیث بھی ایک ادق مضمون ہے۔ صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حسن کسے کہتے ہیں؟ ضعیف کی کتنی قسمیں ہیں۔ موضوع (Fabricated) احادیث کیا ہوتی ہے؟ یہ کتاب ان سب کی وضاحت کرتی ہے۔ روایتِ احادیث کے سلاسل کو سمجھنا بھی ایک مبتدی کے لیے دشوار مرحلہ ہوتا ہے۔ اس فن کو بھی آسان کرنے کے لیے یہ کتاب ﴿حدیث کی اہمیت اور ضرورت﴾ مرتب کی گئی ہے۔

الحمد للہ اس کتاب کے بھی کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور کئی مدارس کے نصاب میں بھی یہ کتاب شامل کر لی گئی ہے ۔ انگریزی اور سندھی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ سلاسلِ احادیث کو سمجھنے کے لیے آسان چارٹ بنا دیے گئے ہیں، تا کہ کتب مشہورہ کے راویوں سے لے کر رسول اللہ ﷺ تک سند کے اتصال کو واضح کیا جائے۔ صحابہؓ تابعینؒ، تبع تابعینؒ اور تبع تابعینؒ اور دیگر مشہور محدثین کا اختصار سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ منکرینِ حدیث کے چند مشہور اور بنیادی اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ تین سو چوراسی (384) صفحات پر مشتمل دسواں ایڈیشن جدید اضافوں سے مزین ہے۔ مہران اکیڈمی شکار پور، سندھ نے اس کتاب کا سندھی ترجمہ بھی شائع کر دیا ہے۔ انگریزی ترجمہ امریکہ اور کینیڈا میں مقبول ہے۔

9۔ معارفِ نبوی ﷺ:

حفظ کے مقصد کے تحت پانچ سو (500) سے زائد مختصر احادیث کا مجموعہ ﴿معارف نبوی ﷺ﴾ کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ احادیث مختصر ہوں اور متنوع ہوں، تا کہ دین کا مجموعی نظام سامنے آجائے۔ اسلام، ایمان،

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

وحی، علم، دعوت و تبلیغ، ارکانِ اسلام، احسان، اذکار و اوراد، معاشرت، اخلاقیات، معاملات، اجتماعیت، سمع و طاعت، امیر اور مأمور کے فرائض، شورائیت اور جہاد کے موضوعات پر مبنی یہ کتاب تقریباً چار سو (400) صفحات پر مشتمل ہے۔ عربی متن کی کتابت کرائی گئی ہے۔ اردو کے علاوہ انگریزی ترجمہ بھی کتاب کی زینت ہے۔ عام مسلمانوں کے علاوہ اردو میڈیم اور انگریزی میڈیم کے طلباء دونوں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ احادیث کی تخریج کر کے مکمل حوالے دیے گئے ہیں۔

نوجوانوں کے لیے یہ کتاب نہایت مفید ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو زبانی یاد کر کے رسول ﷺ اور آپ کی سنتوں سے محبت قائم کر سکتے ہیں۔

10۔ توحید اور شرک کی مختلف قسمیں:

عقیدۂ توحید پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی۔ اسلام کے نزدیک یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے، جس کے بغیر کوئی انسان جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ اور شیخ محمد بن عبدالوہابؒ کی کتابیں دنیا میں بہت مشہور ہوئیں۔ دوسو (200) صفحات پر مشتمل یہ کتاب ﴿توحید اور شرک کی مختلف قسمیں﴾ اس لحاظ سے بہت ہی منفرد ہے کہ اس میں بنیادی طور پر قرآن مجید کی محکم آیات کی روشنی میں، توحیدِ ذات، توحیدِ اسماء و صفات، توحیدِ تنزیہہ، توحید صفتِ علم، توحیدِ صفتِ اختیار، توحیدِ اُلوہیت، توحیدِ ربوبیت، توحید دعاء، توحیدِ استغفار اور توحید تشریع یعنی توحیدِ حاکمیت پر مفصل بحث کر کے اس کے مقابل شرک کی مختلف قسموں کی وضاحت کی گئی ہے۔ جدید ایڈیشن میں مزید اضافے کیے گئے ہیں۔

11۔ رسالت اور منصب رسالت:

دین اسلام کو سمجھنے کے لیے عقیدۂ توحید، عقیدۂ رسالت اور عقیدۂ آخرت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ مختصر رسالہ، سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ شاعر، عابد، جوگی، فلسفی اور نبی و رسول میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ پھر رسولوں کے بارے میں قرآنی آیات کی روشنی میں وضاحت کرتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ دنیا میں کس لیے آتے ہیں؟ رسولوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ آخر میں نبی اخرالزمان حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذمہ داریوں اور اُن کی رسالت کی خصوصیات پر بحث کی گئی ہے۔

12۔ آخرت اور فکر آخرت:

اس رسالے کے اب تک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ رسالہ دنیا اور آخرت کی حقیقت بیان کرنے کے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

بعد آخرت کے مختلف مراحل سے بحث کرتا ہے۔ قبر کی زندگی، روز قیامت کی عدالت، جنت کی مادی اور روحانی نعمتیں، دوزخ کی مادی اور روحانی سزائیں اس کتاب کے اہم ترین موضوعات ہیں۔ قرآن مجید کی محکم آیات کی روشنی میں، اُن بڑے بڑے گناہوں کی وضاحت کی گئی ہے جو دوزخ کے عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔

13۔ اسلام میں نجات کا تصور اور عقیدۂ شفاعت:

اسلام میں نجات (Salvation) کی تین (3) بنیادیں ہیں۔ اولاً ایمان اور صحیح عقیدۂ توحید، ثانیاً آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی سنت کے مطابق اعمال، جنہیں قرآن ﴿الاعمال الصالحات﴾ کہتا ہے اور ثالثاً اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رسول اللہ ﷺ کی شفاعتِ عظمیٰ اور علماء، شہداء، صالحین وغیرہ کی شفاعت کیا مرتبہ اور مقام رکھتی ہے؟ یہ کتاب اس طرح کے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ قرآن مجید اور صحیح اور مستند احادیث کی روشنی میں شفاعت کی مختلف نوعیتوں کی وضاحت کی گئی ہے اور اُن اعمال پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جو قیامت کے دن ایک مسلمان کی سفارش اور شفاعت کریں گے۔

14۔ تزکیۂ نفس:

اصلاحِ ذات، فروغِ ذات اور تحسینِ ذات کے حوالے سے چشتی صاحب کی اہم ترین کتاب ﴿تزکیۂ نفس﴾ ہے

یہ کتاب تین مباحث پر مبنی ہے۔

(1) تزکیۂ نفس کا مفہوم اور ماہیت۔ (2) تزکیے کے اصول وقواعد

(3) تزکیۂ نفس کے بارہ (12) عملی تدبیریں

تصوف اور تزکیۂ نفس کے سلسلے میں افراط وتفریط عام ہے۔ دوسوتیس (230) صفحات پر مشتمل اس کتاب میں، قرآن مجید کے محکم دلائل اور مستند اور صحیح احادیث کی روشنی میں فروغِ ذات اور تحسینِ ذات کے خالص مسنون طریقوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔

15۔ نماز کی ظاہری ہیئت اور معنویت:

نماز کے موضوع پر دنیا میں کئی ہزار کتابیں لکھی گئیں ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، لیکن ایک سو اٹھارہ (118) صفحات پر مشتمل یہ کتاب، ایک منفرد چیز ہے۔ نہایت اختصار کے ساتھ نماز کے تمام ارکان کی ظاہری ہیئت کو صحیح اور مستند احادیث کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے۔ ہر رکن کی معنویت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کا بنیادی مقصد

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا اپنی نماز کے معیار (Quality) کو بہتر بنا سکے۔ جو شخص اس کتاب کی ساری مسنون دعاؤں کو یاد کرلے گا، ان کا ترجمہ ذہن نشین کرلے گا اور پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا ، وہ یقیناً دن بہ دن اپنی نماز کو بہتر بناتا جائے گا۔

16۔ انفاق فی سبیل اللہ:

توحید اور نماز کے بعد، انسان سے خالق کائنات کا تیسرا مطالبہ ﴿انفاق﴾ کا ہے۔ زکوۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ ایک سو بیالیس (142) صفحات پر مشتمل یہ کتاب إمساک، بخل، شحِ نفس وغیرہ کی تعریف کرکے عام انفاق اور انفاق فی سبیل اللہ کے فرق کو نمایاں کرتی ہے۔ انفاق کے بنیادی اصول بیان کرنے کے بعد، فضائل انفاق، فلسفۂ انفاق، آدابِ انفاق، ترتیب انفاق، مقاصدِ انفاق، اوقاتِ انفاق اور مقدار انفاق جیسے موضوعات پر تفصیلی بحث کے بعد عدم انفاق کے عواقب ونتائج پر روشنی ڈالتی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

17۔ نمازِ تہجد:

ساٹھ (60) صفحات پر مشتمل یہ مختصر رسالہ، نمازِ تہجد کی اہمیت، فضیلت اور احکام ومسائل پر مشتمل ہے۔ نمازِ تہجد ایک مسنون عبادت ہے۔ ایک وسیلۂ تقرب ہے۔ یہ سامان فروغ ذات اور ذریعۂ تحسین ذات ہے۔ ایک اعلیٰ جذبۂ تشکر اور احساسِ عبودیت ہے۔ اپنی بے بضاعتی پر ایک احساسِ ندامت ہے۔ اللہ کی بے عیبی کا اظہار واعتراف ہے۔ ایک وظیفۂ خواص وصالحین ہے۔ ایک نصابِ قیادت ہے۔ ایک مجلسِ تفقہ ہے۔ ایک محفلِ تدبر ہے۔ ایک علمی نشست ہے۔ ایک روحانی تربیت گاہ ہے۔

اسلامی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تزکیۂ نفس اور فہم قرآن میں اضافہ کے لیے اس اہم ترین نفل، لیکن ضروری عبادت کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کرے۔

18۔ اعتکاف:

اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ آخری عشرے کے اعتکاف کا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ چھتیس (36) صفحات پر مشتمل یہ مختصر رسالہ اعتکاف کی اہمیت اور اس کے فضائل واحکام پر بحث کرتا ہے۔ اُس کے فوائد کی روشنی میں اس اہم ترین نفل عبادت کی ترغیب دیتا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

خلیل الرحمٰن چشتی

کی مرتب کردہ تمام کتابیں

تحریکِ محنت پاکستان کے مندرجہ ذیل مکتبات سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

واہ کینٹ	مرکزی مکتبہ تحریکِ محنت بالمقابل نیوسٹی، جی ٹی روڈ، واہ کینٹ	051-453-5334
لاہور	5 عمر ٹاور، فرسٹ فلور، 31 حق اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور	0321-492-0998
کراچی	کمرہ نمبر 1، دوسری منزل، آمنہ پلازہ، ایم اے جناح روڈ، کراچی	0321-295-3721
پشاور	معرفت مکتبہ جماعت اسلامی، نشتر آباد چوک، محلہ اسلام آباد، پشاور	0301-981-5104
ملتان	اندرون پرانی بکرمنڈی، حضوری باغ روڈ، ملتان	061-458-6245
راولپنڈی	الاکرام بلڈنگ، مریڑ حسن چوک، راولپنڈی	0333-576-1766
فیصل آباد	کمرہ نمبر 23، تیسری منزل، جاوید سنٹر، کچہری بازار، فیصل آباد	0333-655-7598
اسلام آباد	مکان نمبر 1، گلی نمبر 38، سیکٹر G-6/2 اسلام آباد	051-227-3300
سوات	کمرہ نمبر 12، خان مارکیٹ، گلشن چوک، سوات	0300-574-6539

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ہماری آرزو

قرآن وسنت کی خالص، ٹھوس، مستند اور اساسی تعلیمات کو جدید طریقہ ہائے تدریس کے ذریعے، تعلیم یافتہ افراد تک پہنچانا ہماری آرزو ہے۔

قرآن فہمی اور حدیث فہمی کے لیے ایسی آسان اور عام فہم کتابیں مرتب کرنا ہمارا ہدف ہے، جن سے جدید تعلیم یافتہ ذہین افراد کم عرصے میں دینِ اسلام کو اس کے اصلی مصادر اور ماخذ تک رسائی کے ذریعے سمجھ سکیں اور دنیا کو سمجھا سکیں۔

ہمارا مقصد عربی کی ایسی استطاعت پیدا کرنا ہے کہ انسان قرآن وسنت کو اس کی اپنی اصلی زبان میں راست سمجھنے اور مختلف تفاسیر سے استفادہ کرنے کے قابل ہو جائے اور اُصولِ تفسیر، اُصولِ حدیث اور اُصولِ فقہ کا فہم حاصل کر کے غلطیوں سے محفوظ رہ سکے۔

www.KitaboSunnat.com

اُمید کی جاسکتی ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ مختلف کورسز کے ذریعے اپنی فکری اور عملی تربیت کر کے دعوت دین کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے گا اور اسلامی تعلیماتِ اخوت سے لسانی، نسلی، صوبائی اور دیگر گروہی تعصبات کا خاتمہ کر کے، باہمی اسلامی رواداری اور یکجہتی کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

MACRO STRUCTURE OF QURANIC CHAPTERS

ورہ قرآن
ین مفید و معاون

چشتی صاحب کا اسلوب جدید ہے، مگر اس کی حدود قرآن وسنت
کے بحرِ ذخار سے باہر جاتی کہیں بھی نظر نہیں آتیں۔

(حافظ محمد ادریس مدظلہ العالی)

قرآنی سورتوں کے مفاہیم کو ذہین نشین کرانے کا یہ ایک نیا تجربہ
ہے یہ کتاب اساتذہ اور تلامذہ کے لیے تدبر قرآن کا زریعہ بن سکتی
ہے۔

(ڈاکٹر سہیل حسن مدظلہ العالی)

ہر سورت کے مضامیں کو چارٹ کی شکل میں پیش کرنے کی غالباً یہ
پہلی کاوش ہے ایک تصویر ہزار تفسیری الفاظ پر بھاری ہوتی ہے۔ یہ
امیج ایک دیرپا نقش ہے۔

(ڈاکٹر توصیف الرحمن)

- Period of Revelation
- Chapter Linkage & Connexion
- key Words and Key Subjects
- Macro Structure
- Chapter Summary & Synopsis
- Chapter Theme

KHALEEL-UR-RAHMAN
CHISHTI

لاحسان

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ